ردِّ قادیانیت

رسائل

- جناب واجد علی خان صاحب
- جناب خواجہ عبدالحمید بٹ صاحب
- مولانا عبدالحلیم لیاقتی صاحب
- جناب اختر احسن صاحب
- جناب چوہدری محمد حسین ایم اے
- جناب عبدالقیوم پراچہ صاحب
- مولانا محمد اسحاق امرتسری صاحب
- جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد صاحب
- جناب ملک محمد صادق صاحب
- جناب محمد صادق قریشی قادیانی
- مولانا نور محمد خان آسی صاحب
- مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب
- جناب سعید قریشی صاحب
- مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب
- مولانا عبدالرزاق انقلابی صاحب
- مولانا قاضی عبدالصمد سرحدی صاحب
- جناب عبدالوہاب حجازی صاحب
- جناب غلام نبی جانباز مرزا صاحب

احتسابِ قادیانیت

جلد ۳۷

عالمی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوة
حضوری باغ روڈ، ملتان - فون : 061-4783486

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

عرض مرتب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ۰ اما بعد!

اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے احتساب قادیانیت کی سینتیسویں (۳۷) جلد پیش خدمت ہے۔ اس جلد میں پہلا رسالہ:

۱ فتنہ مرزائیت: جناب واجد علی خان کا شامل اشاعت ہے۔

۲/۱..... فرقہ احمدیہ کا ماضی و مستقبل: جناب خواجہ عبدالحمید بٹ کا اس جلد میں شامل ہے۔ خواجہ عبدالحمید بٹ قادیان کے رہائشی تھے۔ قادیانی تحریک کا بڑے قریب سے آپ نے مطالعہ کیا۔ عمر بھر قادیانیت کے خلاف نبرد آزما رہے۔ پاکستان بننے کے بعد لودھراں میں آ کر مقیم ہوئے۔ لودھراں کی مسجد کمیٹی کے ممبر بھی بنے۔ آپ کے قادیانیت کے رد میں دو رسائل ہمیں میسر آئے۔ جو اس جلد میں شامل کر رہے ہیں۔

۳/۲ قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم: یہ بھی خواجہ عبدالحمید بٹ آف قادیان کا مرتب کردہ ہے۔ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لودھراں کے ناظم اعلیٰ صوفی نور محمد ناہد مرحوم نے شائع کیا تھا۔ حق تعالیٰ مؤلف و ناشر کی مغفرت فرمائیں۔

۴..... آئینہ قادیانیت: ۱۶ نومبر ۱۹۶۳ء میں یادگیر گلبرگہ انڈیا سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا قادیانی کے عجیب و غریب انکشافات، اعتقادات، اجتہادات، اختراعات پر مشتمل ہے۔ مولانا عبدالحلیم الیاسی، چشتی، قادری، نقشبندی اس کے مرتب کرنے والے ہیں۔ آپ پروفیسر الیاس برنیؒ کے نامور شاگرد تھے۔ اس نسبت سے اپنے آپ کو الیاسی بھی لکھتے تھے۔ نصف صدی بعد اس کی اس جلد میں اشاعت محض اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے اور بس۔

۵..... حقیقت قادیانیت: اسلامی مشن سنت نگر لاہور کے جناب اختر احسن صاحب کی یہ کتاب مرتب کردہ ہے۔ اس جلد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب اختر احسن بٹالہ کے رہائشی تھے۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے قادیان کے دجالی گروہ قادیانیت کے اندرون خانہ کے حالات کا قریبی نظر سے آپ نے مطالعہ کیا۔ آپ نے بٹالہ میں ایک مرکز قائم کیا ہوا تھا۔ دیوبند کے فاضل مولانا سلطان محمود اس میں خدمات سرانجام دیتے تھے۔ اختر احسن حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کے والد گرامی کے ہمراہ بھی گورنمنٹ کے ایک تعلیمی ادارہ میں پڑھاتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد سنت نگر میں حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے گھر واقع سنت نگر لاہور کے جوار میں ان کا گھر تھا۔ اصلاً آپ کو

عیسائیت پر مکمل عبور تھا۔ قادیانیت پر بھی آپ کی یہ کتاب ریکارڈ کا ایک حصہ ہے۔

۶..... کاشف مغالطہ قادیانی فی رد نشان آسمانی: شاہ نعمت اللہ کرمانی ایران کے ایک نامور صوفی و شاعر گزرے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ مرزا قادیانی ملعون کے ہاتھ لگا۔ اس کی ترتیب الٹ پلٹ کر تحریف لفظی و معنوی کا ملغوبہ تیار کیا۔ جس میں اپنے مہدی و مسیح ہونے کے کئی جھوٹ تراشے۔ رسالہ کا نام مرزا قادیانی نے "نشان آسمانی" رکھا۔ اللہ رب العزت نے چوہدری محمد حسین صاحب ایم۔ اے کو توفیق دی۔ انہوں نے قصیدہ شاہ نعمت اللہ کرمانی کے تین مختلف نسخے حاصل کئے اور پھر مرزا قادیانی کے مکر و فریب کو دلائل کی دنیا میں ایسے طور پر تار تار کیا کہ دنیا عش عش کر اٹھی۔ یہ شاندار رسالہ انجمن تائید الاسلام لاہور کی اشاعت جولائی ۱۹۲۱ء میں چوہدری محمد حسین صاحب کا یہ رسالہ شائع ہوا۔ اس جلد میں نوے سال بعد (۱۹۲۱ئ۔ ۲۰۱۱ئ) میں شائع کرنے پر ہماری خوشی کے ٹھکانہ کی حد کو خوشیاں دینے والی ذات باری تعالیٰ ہی جان سکتی ہے۔ فالحمدللہ!

۷..... قادیانیوں کا اصل حقیقت سے فرار: جناب عبدالقیوم پراچہ سرگودھا کے رہائشی ہیں۔ قادیانیوں نے ایک رسالہ "احمدی مسلمان کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھیں" مرتب کیا۔ جو پراچہ صاحب کے مکان کی ڈیوڑھی میں پھینک گئے۔ آپ نے قادیانیوں کے رسالہ کا اس رسالہ کی شکل میں جواب دیا۔ اس جلد میں شائع کر [illegible] کیا جارہا ہے۔

۸/۱..... ابو طفیل مرزا: مرزا محمد اسحاق امرتسری، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ، مولانا حبیب اللہ امرتسریؒ کے حلقہ یاران کی ایک اہم کڑی تھے۔ آپ نے رد قادیانیت پر کئی رسائل لکھے۔ ہمیں صرف تین رسائل پر دسترس ہوئی۔ پہلا رسالہ: ابو طفیل مرزا ہے۔ ۲۴ رمضان ۱۳۵۳ھ کا مرتب کردہ ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کے جھوٹ جمع کئے گئے ہیں۔

۹/۲..... حالات مرزا یعنی مرزائی مذہب کی اصلیت: یہ رسالہ بھی مولانا محمد اسحاق امرتسری کا مرتب کردہ ہے۔ نومبر ۱۹۳۳ء میں آپ نے یہ شائع کیا۔ اب پون صدی بعد دوبارہ اس رسالہ کی توفیق پر اللہ رب العزت کے بے پایاں کرم پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔

۱۰/۳..... بطلان مرزا: مولانا محمد اسحاق امرتسری کا یہ رسالہ ۱۳۵۳ھ کا مرتب کردہ ہے۔ یہ بھی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اور رسالہ القول الصحیح فی تحقیق المہدی والمسیح بھی آخری مرحلہ پر میسر آیا۔ اسے ان شاء اللہ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ میں شائع کر دیں گے۔

۱۱..... قادیانی مذہب اور علامہ اقبال کا قول فیصل: جناب ڈاکٹر نذیر محمد صوفی سیالکوٹ کے باسی تھے۔ سیالکوٹ کی مسلم لیگ ضلع و شہر کے صدر بھی تھے۔ آپ نے علامہ اقبال مرحوم کے فرامین کی روشنی میں قادیانیت کے معتقدات کا تجزیہ کیا۔ ڈاکٹر نذیر صاحب نے

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک کی بھرپور اخلاقی مدد کی۔ یہ قادیانی فتنہ کی سرکوبی سے خوب آگاہ تھے اور ملکی قیادت کو اس فتنہ کے زہریلے عقائد و عزائم سے باخبر کرتے رہتے تھے۔ آپ کا یہ رسالہ جو [illegible] کیا جا رہا ہے۔

۱۲۔۔۔۔ آئینہ مرزائیت: ملک محمد صدیق صاحب اصلاً قادیانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو قادیانیت سے تائب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ جو اس جلد میں شائع کیا جا رہا ہے۔

۱۳۔ تاریخ محاسبہ قادیان: جناب محمد صدیق قریشی صاحب قادیانی تھے۔ آپ نے مرزا محمود خلیفہ قادیان کے دو عشرہ تک ذاتی خدمات سرانجام دیں۔ مرزا محمود کے قابل اعتماد کارکن ہونے کے حوالے سے سیاسی، جماعتی و ذاتی خدمات میں مرزا محمود کے ہر حکم کو بجا لاتے رہے۔ اس قرب نے مرزا محمود کی گھناؤنی زندگی کو ان پر منکشف کر دیا۔ جس سے یہ قادیان کے سربراہ مرزا محمود کی بیعت سے علیحدہ ہو گئے۔ فسخ بیعت کے نام پر آپ نے مرزا محمود پر جو چارج شیٹ لگائی۔ اس پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔

۱۴۔۔۔ ختم نبوت از روئے آیات قرآنی و احادیث رسول حقانی و تردید مرزا قادیانی: مولانا نور محمد جانی وجہ آنوالہ کے رہائشی تھے۔ اہل حدیث مکتب فکر کے نامور علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کا یہ رسالہ اس جلد میں شامل کیا گیا ہے۔

۱۵۔ تعمیر کی صورت میں تخریب، یعنی دیندار انجمن: حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی بانی جامعۃ الرشید کراچی و مؤلف احسن الفتاویٰ و احکام الجہاد نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ دیندار انجمن کے بانی صدیق حیدرآباد دکن کا ایک قادیانی تھا۔ بعد میں خود بھی مدعی نبوت و رسالت ہو کر چن بسویشور ہو گئے۔ یہ انجمن دراصل قادیانی جماعت ہی کی ایک شاخ ہے۔ کراچی میں اس انجمن کے کچھ مبلغین نے اس کو تقویت دینا چاہا۔ ان کی یہ یورش دیکھ کر حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ جو سب سے پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام حضرت مفتی صاحبؒ نے شائع کرائی۔ آج اس جلد میں شائع کرنے پر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحبؒ سے تعلق کی یہ نسبت آخرت میں ذریعہ نجات کا وسیلہ بن جائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز!

۱۶۔ مسلمانوں کی تکفیر: جناب سعید قریشی صاحب کراچی کے وکیل تھے۔ احرار سٹوڈنٹس یونین کی آپ نے قیادت کی اور اس کے سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ آپ نے یہ رسالہ مرتب کیا۔ جو اس جلد میں شامل کیا گیا ہے۔

۱۷۔۔ عقائد قادیانی منظوم: حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولیؒ بہت بڑے عالم دین اور درس نظامی کے ماہر ترین اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے درس نظامی کی

تدوین نو کی اور نصاب جدید مرتب کیا۔ اس میں کئی درسی کتابیں آپ کے رشحات قلم کی مرہون منت ہیں۔ جو آج بھی وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ آپ نے مرزا قادیانی کی کتب سے مرزا قادیانی کے عقائد کو مرتب کیا اور پھر ان کو نظم میں مرتب کیا۔ مکتبہ دارالتبلیغ دیوبند سے یہ کتابچہ ”عقائد قادیانی منظوم“ شائع ہوا۔ تقریباً پون صدی بعد اس کتابچہ کی اشاعت نو پر جتنی فقیر کو خوشی ہے۔ اے کاش! قارئین سے بھی کوئی دوست اس کی قدردانی فرمائیں۔

۱۸...... قتل دجال: مولانا عبدالرزاق صاحب انقلابی شجاع آباد کے علاقہ کے رہائشی اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ ایک بار فقیر مرتب کی مکہ مکرمہ میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تب آپ مکہ مکرمہ میں عبادت کی غرض سے قیام پذیر تھے۔ آپ کا ”قتل دجال“ کے نام سے یہ پمفلٹ دراصل ایک نظم ہے۔ جو آپ نے دجال قادیان کے متعلق تحریر کی۔ اس جلد میں شامل اشاعت ہے۔

۱۹... فتح مبین: مولانا قاضی عبدالصمد سربازی نامور عالم دین تھے۔ آپ بلوچستان قلات کے قاضی القضاۃ بھی رہے۔ آپ نے اس رسالہ میں فارسی نظم میں تحریک ختم نبوت کے راہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

۲۰...... مرزائیاں دے خلق دا شیشہ: سمندری ضلع فیصل آباد کے عبدالوہاب مجازی بدقسمتی سے قادیانی ہوگئے۔ پھر خوش قسمتی سے مسلمان ہوگئے۔ پنجابی نظم میں مرزائی اخلاق پر یہ رسالہ لکھا۔

۲۱/۱... مرزا غلام احمد کی تصویر کے دو رخ: مرزا غلام نبی جانباز المعروف جانباز مرزا۔ مجلس احرار اسلام کے نامور رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بڑے انقلابی شاعر حریت تھے۔ برصغیر کی آزادی کے لئے آپ نے گرانقدر قربانیاں دیں۔ آپ لاہور سے ماہنامہ تبصرہ بھی شائع کرتے رہے۔ سکول کی معمولی تعلیم تھی۔ لیکن اکابرین احرار کی معیت و تربیت نے آپ کو اپنے محقق بنادیا تھا۔ جس پر ان کا دور ناز کرتا ہے۔ آپ نے تحریری وہ کام کیا جو ایک انجمن بھی شاید نہ کر سکتی۔ آپ نے تن تنہا آٹھ جلدوں میں برصغیر کی آزادی کی تاریخ کو ”تاریخ احرار“ کے نام پر مرتب کیا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں تحریر فرمائیں۔ اے کاش کوئی اللہ کا بندہ ان کو دوبارہ ایک سیٹ کی شکل میں شائع کر دے تو بہتوں کا بھلا ہو جائے۔ ان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ کے ردقادیانیت پر چار رسائل ہمیں میسر آئے۔ جو اس جلد میں شائع کرنے کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔

۲۲/۲... جانباز پاکٹ بک:

۲۳/۳ .... سر ظفر اللہ اور دیگر مرزائیوں کے خطوط:

۲۳/۴ ..... ہدیہ بخاریہ:

یہ رسائل بھی علامہ نبی جانباز مرزا کے مرتب کردہ ہیں۔ آپ کے یہ چاروں رسائل اس جلد میں شامل اشاعت کر رہے ہیں۔

خلاصہ: احتساب قادیانیت کی جلد سینتیس (۳۷) میں:

۱	جناب واجد علی خان	کا	۱	رسالہ
۲	جناب خواجہ عبدالحمید بٹ	کے	۲	رسائل
۳	مولانا عبدالحکیم الیاسی	کا	۱	رسالہ
۴	جناب اختر احسن	کا	۱	رسالہ
۵	جناب چوہدری محمد حسین ایم اے	کا	۱	رسالہ
۶	جناب عبدالقیوم ہنجرہ	کا	۱	رسالہ
۷	حضرت مولانا محمد اسحاق امرتسری	کے	۳	رسائل
۸	جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد	کا	۱	رسالہ
۹	جناب ملک محمد صدیق سابق قادیانی	کا	۱	رسالہ
۱۰	جناب محمد صادق قریشی قادیانی	کا	۱	رسالہ
۱۱	مولانا نور محمد ربانی	کا	۱	رسالہ
۱۲	مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی	کا	۱	رسالہ
۱۳	جناب سعید قریشی	کا	۱	رسالہ
۱۴	مولانا مشتاق احمد چرتھاولی	کا	۱	رسالہ
۱۵	مولانا عبدالرزاق انقلابی	کا	۱	رسالہ
۱۶	مولانا قاضی عبدالصمد سربازی	کا	۱	رسالہ
۱۷	عبدالوہاب حجازی	کا	۱	رسالہ
۱۸	علامہ نبی جانباز مرزا	کے	۳	رسائل
		ٹوٹل	۲۳	رسائل

گویا ۱۸ حضرات کے ۲۳ رسائل پر مشتمل یہ جلد آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔

محتاج دعا:

فقیر اللہ وسایا!

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ بمطابق ۲۱ جنوری

۲۰۰۱ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست رسائل مشمولہ…… احتساب قادیانیت جلد ۳

	عرض مرتب		۳
۱	فتنہ مرزائیت	جناب واجد علی خان	۹
۲……	فرقہ احمدیہ کا ماضی و مستقبل	جناب خواجہ مجید محمد بٹ	۳۵
۳	قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم	" "	۸۵
۴ .	آئینہ قادیانیت	مولانا عبدالحلیم اناوی	۱۰۷
۵ …	حقیقت قادیانیت	جناب اختر احسن	۱۳۹
۶	کاشف منافقت قادیانی بزبان آسمانی	جناب چوہدری محمد حسین ایم اے	۲۲۵
۷	قادیانیوں کا اصل حقیقت سے انحراف	جناب عبدالحکیم پراچہ	۲۴۹
۸	ابطال مرزا	حضرت مولانا محمد عاشق امرتسری	۲۷۷
۹	حالات مرزا یعنی مرزائی مذہب کی اصلیت	" " "	۲۸۹
۱۰ .	بطلان مرزا	" " "	۳۳۱
۱۱	قادیانی مذہب اور علامہ اقبال کا قول فیصل	جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد	۳۳۹
۱۲ …	آئینہ مرزائیت	جناب منشی محمد صادق سابق قادیانی	۳۵۳
۱۳ ….	شرط بیعت خلیفہ قادیان	جناب محمد صادق قریشی قادیانی	۳۷۳
۱۴ …..	[illegible]	مولانا نور محمد ربانی	۳۸۳
۱۵	مجسٹری صورت میں مجسٹریٹ کی ریتداد انجمن	مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی	۴۰۹
۱۶ . .	سلطان الوری کی تنبیہ	جناب سعید قریشی	۴۷۹
۱۷	مقدمہ قادیانی مظلوم	مولانا مشتاق احمد چرتھاولی	۴۸۷

۱۹	شیخ تمن	مولانا مفتی عبدالصمد ریازی	۵۰۵
۲۰	مرزائیوں سے تحقیق راشدہ	جناب عبدالوہاب حجازی	۵۴۳
۲۱	مرزا غلام احمد کی تصویر کے دو رخ	غلام نبی جانباز مرزا	۵۴۹
۲۲	جانباز کی کٹ کیک	// //	۵۹۷
۲۳	سر ظفر اللہ اور دیگر مرزائیوں کے لطائف	// //	۶۲۷
۲۴	[illegible]	// //	۶۴۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نام کتاب : احتساب قادیانیت جلد سینتیس (۳۷)
مصنفین : جناب واجد علی خان صاحب
جناب خواجہ عبدالحمید بٹ صاحب
مولانا عبدالعلیم الہ آبادی صاحب
جناب اختر حسین صاحب
جناب چوہدری محمد حسین ایم اے
جناب عبدالقیوم پراچہ صاحب
مولانا محمد اسحاق امرتسری صاحب
جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد صاحب
جناب ملک محمد صادق صاحب
جناب محمد صادق قریشی قادیانی
مولانا نور محمد خزکی صاحب
مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب
جناب سعید قریشی صاحب
مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب
مولانا عبدالرزاق افغانی صاحب
مولانا مفتی عبدالصمد ریازی صاحب
جناب عبدالوہاب حجازی صاحب
جناب غلام نبی جانباز مرزا صاحب

صفحات : ۶۷۲
قیمت : ۳۰۰ روپے
مطبع : ناصر زین پریس لاہور
طبع اوّل : فروری ۲۰۱۱ء
ناشر : عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان
Ph: 061-4783486

احتساب جلد سینتیس (۳۷)

مجموعہ رسائل

مصنفین :
جناب واجد علی خان صاحب
جناب خواجہ عبدالحمید بٹ صاحب
مولانا عبدالکلیم الیاسی صاحب
جناب اختر احسن صاحب
جناب چوہدری محمد حسین ایم۔اے
جناب محمد قیوم پراچہ صاحب
مولانا محمد اسحاق امرتسری صاحب
جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد صاحب
جناب ملک محمد صادق صاحب
جناب محمد صادق قریشی قادیانی
مولانا نور محمد جاکی صاحب
مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب
جناب سعید قریشی صاحب
مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب
مولانا عبدالرزاق انقلابی صاحب
مولانا قاضی عبدالصمد سربازی صاحب
جناب عبدالوہاب حجازی صاحب

ٹیچی ٹلاء کی جانچ مرزا صاحب

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

فتنہ مرزائیت

جناب واجد علی خان

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین!

تاریخ اسلام اور ابتدائے فتنۂ قادیانیت

دنیا اسی کا نام ہے کہ آنسوؤں کی گود میں مسکراہٹیں پلتی ہیں۔ دنیا انقلاب کی بنا پر قائم ہے۔ جب آفتاب جہاں تاب اپنی تابانی سمیٹ کر پہاڑوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے تو مہتاب کی روشنی ایک نئے انقلاب کی نشاندہی کرتی ہے۔ مہتاب ستاروں کی فوج کے ہمراہ بھی اپنے اقتدار کو دائمی حیثیت نہیں دے سکا اور ہر صبح طلوع ہوتے وقت ایک نیا احساس لے کر آتی ہے۔ نسیم سحر انقلاب کی پیامبر ہوتی ہے۔ چمن سبزہ زاروں میں طائران خوش الحان چہکتے ہیں وہاں زہریلے ناگ بھی لہراتے ہیں۔ ہر بلندی کے بعد نشیب آتا ہے۔ اسی طرح آج سے چودہ سو سال قبل عرب کی سرزمین پر جو برائیوں کی آماجگاہ تھی۔ ظلم وتشدد جہاں کے لوگوں کا پیشہ تھا۔ عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک انقلاب عظیم رونما ہوا۔ یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا۔ یعنی یہ حضرت ختم المرسلین رحمۃ للعالمین ﷺ کی ولادت باسعادت تھی۔ یہ عرب کی ترقی وعروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی۔ یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا۔ اس میں صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی۔ بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہائی کی پیدائش تھی۔ یہ تمام کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا۔ یہ تمام نوع انسانی کے شرف واحترام کا قیام تھا۔ یہ انسانوں کی بادشاہتوں، ملتوں کی بڑائیوں اور قوموں کی فتوحات کا دن نہ تھا۔ بلکہ خدا کی ایک اور عالمگیر بادشاہت کے عرش جلال وجبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا۔ اسلامی تاریخ کی داغ بیل ڈالی جا چکی تھی۔ محمد ﷺ کی تبلیغ کی بنا پر پورا عرب اسلام کی روحانی گود میں سما چکا تھا۔ محمد ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے راشدینؓ نے ایک اعلیٰ نظام حکومت مرتب کیا۔ جس کی وجہ سے ایران وروم کی سرکش سلطنتوں کے جھنڈے سرنگوں ہو گئے۔ ظلم وستم کو اس عادلانہ نظام میں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ مل سکی۔ یہاں تک کہ بنوامیہ کے تاجدار ولید بن عبدالملک کے دور میں ہندوستان کی تاریخ نے بھی اچانک پلٹا کھایا۔ ایک نیا آفتاب پردۂ مسکن پر ابھر آیا۔ طائران خوش الحان نے نغمۂ توحید سنایا اور تاریخ عالم کے سب سے کم عمر جرنیل

محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یوں تو تاریخ عالم ہی ایک نمی کھائی ہوئی تحریر کی طرح ہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند کی تاریخ ایک جنگل کی طرح ہے جو خاردار جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہو۔ جہاں راستہ تلاش کرنا ناممکن ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی ایک بگولے کی طرح آیا اور آندھی کی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے بعد خاندان غلاماں نے برصغیر کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اسی طرح خلجی، تغلق، سید اور لودھی خاندان برسراقتدار رہنے کے بعد مٹ گئے اور برصغیر کی حکومت تاتاریوں کی مسلمان اولاد کے ہاتھ لگی جو مغلوں کے روپ میں نمودار ہوئے اور ظہیر الدین بابر نے ۱۵۲۶ء میں مغل حکومت کی بنیاد رکھی۔

مغلیہ حکومت اور تہذیب عالمگیر کے زمانے میں نقطۂ عروج پر پہنچی اور اس کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا جیسے حکمرانوں نے اس کے زوال میں بڑا کردار ادا کیا اور نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی نے مل کر مغلوں کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اس دوران مغربی قوموں نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلوں پر مورچے بنائے۔ کچھ عرصہ تک یہ قومیں باہمی اتحاد کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ لیکن بعد ازاں انہوں نے مقامی حکومتوں کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی جو ان کی باہمی جنگوں کا سبب بنی اور کرناٹک کی لڑائیوں کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے باہمی نفاق سے خوب ہاتھ رنگے اور وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہو گئے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ کرائے کے فوجی عام مل جاتے تھے اور غداروں کی بھی کمی نہ تھی۔ جس کی وجہ سے انہوں نے برصغیر پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے۔ سب سے پہلے بنگال انگریزوں کے جبر و استبداد کا نشانہ بنا اور میر جعفر اور میر قاسم کی غداری کی وجہ سے انگریز نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قابض ہو گئے اور یہاں کی دولت سے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ ہندوستان میں انگریزوں کے تسلط کے خلاف آواز بلند کرنے اور تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والا ریاست میسور کے حکمران حیدر علی کا بیدار مغز بیٹا سلطان ٹیپو تھا۔ جو مثل محمود پاؤں بڑھتا جاتا تھا۔ انگریزوں کے لئے سب سے مضبوط آہنی دیوار ثابت ہوا اور جام شہادت پیا۔ فرنگستان سے جو عظیم خطرہ (سوداگروں کے لباس میں) تیز رفتار جنگی جہازوں میں سوار ہو کر سات سمندر پار کر کے ہمارے ساحلوں پر پہنچا اور ان بحری قزاقوں نے ہمارے پانیوں میں ہمارا شکار کیا۔ اب یہ سوداگروں کا ٹولہ حکمران بن چکا تھا۔ جب انگریز برصغیر میں آئے۔ اس وقت مسلمان تو ان

کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور انہوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں ہی پر ڈھایا اور اپنے دور اقتدار میں بھی مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کی گئیں اور ہندوستان چھوڑتے وقت بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔

انگریزوں کو اپنے رنگ پر مان تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو کالا آدمی کہہ کر پکارتے۔ انہیں اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ انہیں بدتمیز، وحشی اور جنگلی کہہ کر پکارتے اور انہیں اپنا غلام سمجھتے۔ جب ان کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے اور مختلف مذاہب میں رخنہ اندازی شروع کر دی۔ عوام بدحالی کا شکار ہو گئے۔ ظلم و ناانصافی کا دور شروع ہو گیا۔ اخوت و محبت کی اصطلاحیں بے معنی ہو کر رہ گئیں۔ گورے حکمران اور کالے غلام بن گئے۔ جب حاکم و محکوم میں نفرت اپنی انتہاء کو پہنچی تو برصغیر کے عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت باہم مل کر مغلوں کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ۱۸۵۷ء میں آزادی کی جنگ لڑی جو بعض نامساعد حالات کی بناء پر ناکام ہوئی اور اس کا اصل مجرم مسلمانوں ہی کو ٹھہرا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو زندگی کے ہر پہلو سے بیگانہ کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر اپنے اقتدار کی بنیادوں میں انسانوں کا خون ہی نہیں اخلاقی اصولوں کا خون بہایا اور جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو خوف تھا کہ ایسی جنگ دوبارہ بھی لڑی جا سکتی ہے۔ اس لئے انہوں نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں میں جذبہ جہاد مفقود کرنے اور تحریک آزادی کو کچلنے کے لئے ایک سازش تیار کی۔ چونکہ مسلمان معاشی، سیاسی اور تعلیمی میدان میں تو پسماندہ کر دیئے گئے تھے۔ ان کو مذہب سے بھی بیگانہ کر کے اپنے اقتدار کو دوامی حیثیت دینے کی ترکیب سوچی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں کے بنیادی ایمانی جزو ختم نبوت کو بدلنے کی کوشش کی۔ تاکہ مسلمانوں کا ملی اسلامی اتحاد نہ رہے اور جذبہ جہاد بھی ختم ہو جائے۔ اس لئے انہوں نے ایک شخص (مرزا غلام احمد قادیانی) کو منصب نبوت پر فائز کیا۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک تو نبوت خدا کی طرف سے ملتی رہی۔ لیکن اب نبوت انگریزوں کی طرف سے ملنی شروع ہو گئی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل سے ظاہر ہوتا ہے۔

- ۱۸۷۰ء میں وائٹ ہال لندن میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں برطانوی کمیشن کے نمائندوں کے علاوہ ہندوستان میں متعین مشنری کے پادری بھی شریک ہوئے۔ کمیشن نے ایک

رپورٹ پیش کی۔ جو دی ارائیول آف برٹش ایمپائر ان انڈیا کے نام سے شائع ہوئی۔

"The Arival of British Empire in India."

جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ: "ہم (انگریز) دکن کے صادق، بنگال کے جعفر اور پنجاب کے مرزا غلام مرتضیٰ (والد مرزا غلام احمد قادیانی) جیسے غداروں کی مدد سے برصغیر کے چپے چپے پر قابض ہو چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہماری حکومت کے لئے کسی وقت بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے کوئی "نبوت" کا دعویٰ کرے جو اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہلائے اور مسلمانوں کو ہمارے (انگریزوں کے) خلاف جہاد کو حرام قرار دے اور اطاعت کو لازم کر دے۔" (مرزا غلام احمد انگریزوں کی خواہشات پر پورا اترا اور اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا اور انگریزوں کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دیا) یہ تھا اس رپورٹ کا اقتباس جو "دی ارائیول آف برٹش ایمپائر ان انڈیا" کے نام سے شائع ہوئی اور اس منصب کے لئے پنجاب کے جنگ آزادی کے مشہور غدار کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی کو خرید لیا گیا۔ (اس غداری کو مرزا غلام احمد قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے والد نے جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کو سپاہی اور گھوڑے مہیا کئے تھے) چونکہ جو ملک کا غدار ہوتا ہے وہ مذہب کا بھی غدار ہوتا ہے اور اس کے لئے ختم نبوت سے غداری کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ اس سازش کے تحت وقتی طور پر انگریزوں کو کچھ تقویت ملی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کے اس خود کاشتہ پودے کو دانستہ نظر انداز کر کے اس کے محرک (انگریزوں) ہی کو اس ملک سے نکالنے کے لئے اور زیادہ سرگرم ہو گئے اور آخر نکال کر ہی دم لیا۔ انگریز اس ملک کو چھوڑ تو گئے۔ لیکن ہمارے لیڈروں میں غلامانہ ذہنیت آج بھی باقی ہے۔ جس کے تحت ان سے آج بھی انگریز اپنے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف تو عرب کے مسلمانوں کے خواب غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسرائیل کو جنم دیا تو دوسری طرف اچنبھا نہ ہوگا۔ اگر انگریز پاکستان میں مرزائیت کے نام سے مرزائیوں کے ملک کو جنم دیں؟ چونکہ ہم بھی عربوں کی طرح خواب غفلت میں سرشار ہیں اور جیسا کہ حالات بھی مرزائیوں کے حق میں سازگار ہو رہے ہیں۔

مرزائی مرتد اور کافر ہیں

پچھلے صفحات میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ فتنہ مرزائیت کی ابتداء کیوں اور کس طرح ہوئی۔ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی کہانی ان کی اپنی زبانی بیان کرتا ہوں اور قرآن وحدیث کی رو سے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ مرزائی واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ خواہ وہ لاہوری ہوں یا قادیانی اور ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کہنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

مرزا قادیانی کی کہانی ان کی اپنی زبانی

ختم ہے قادیاں کے گل رخوں کی گلعذاری کی
غلام احمد کی الماری بھاری ہے عیاری کی

مرزا غلام احمد قادیانی نے پنجاب کے ایک قصبہ قادیان کے ایک غدار خاندان میں ۱۸۴۰ء میں جنم لیا۔ یہ ایک ایسے شخص کی پیدائش کا دن تھا جو بعد میں قوم وملت کا غدار ہی نہیں بلکہ دین اسلام کا غدار بھی ثابت ہوا اور جس نے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کی طرح ختم نبوت سے بھی غداری کی۔ جس نے انبیاء کی توہین کی۔ صحابہ پر کیچڑ اچھالا اور خاتون جنت فاطمہؓ بنت محمدؐ پر بہتان عائد کئے۔ جس نے فرنگیوں کے اقتدار کو تقویت پہنچائی۔ لیکن افسوس! لاکھوں باغیرت مسلمانوں میں کوئی بھی ناموس رسالت کا غازی علم الدین شہید جیسا پروانہ پیدا نہ ہوا۔ جو اسے موقع پر ٹھکانے لگا دیتا اور فرنگیوں کا لگایا ہوا یہ پودا باوجود ان کی پوری کوشش کے یوں پروان نہ چڑھتا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے باون سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی باون سالہ تعلیمات اسلام کے مسلمہ اصولوں پر مبنی ہیں۔ لیکن فرنگیوں کے اشارے پر دعویٰ نبوت کے بعد مرزا قادیانی اپنی باون سالہ زندگی کی تعلیمات سے منحرف ہو گیا۔ اول تو یہ بات ہی مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت سے مدرسین سے تعلیم حاصل کی اور یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی نبی انسانوں کے لئے رہبر بن کر آئے اور پھر ان سے تعلیم بھی حاصل کرے۔ نبیوں کو تو خدا کا دیا ہوا اتنا علم ہوتا ہے۔ جس سے وہ پوری دنیا کو منور کرتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف تو آپؐ امی تھے۔ لیکن دوسری طرف پوری دنیا مل کر بھی آپؐ کے علم کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا علم خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی ان نبیوں سے الگ ہٹ کر پیدا ہوئے۔ جو

آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ تک آئے۔ یہ ایک عقلی دلیل تھی۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نبیوں کی برادری سے خارج ہے۔ لیکن مرزائیوں کے لئے یہ واضح کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی خود اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا کر مرا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے دنیاوی شہرت اور فرنگیوں کے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لئے ہمیشہ کے لئے جہنم خریدی اور میں یہ بات مرزا قادیانی کے ارشادات سے ثابت کرتا ہوں اور مرزائیوں کے پاس آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”سیدنا ومولانا حضرت محمد ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کافر وکاذب جانتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہوگئی۔“ (مجموعہ اشتہارات ج۱ ص۲۳۰، ۲۳۱)

مرزا قادیانی ترجمہ (حمامۃ البشریٰ ص۷۹، خزائن ج۷ ص۲۹۷) میں رقمطراز ہیں:

”محمد ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

(حمامۃ البشریٰ ص۳۴، خزائن ج۷ ص۲۲۳) میں لکھتے ہیں: ”چونکہ محمد ﷺ نے اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا اور اللہ پاک نے آپ پر قرآن جیسی مکمل اور مدلل کتاب اتاری اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لئے آپ کے بعد کسی قسم کے ظلی یا بروزی نبی کی حاجت نہیں رہتی۔“

(حاشیہ انجام آتھم ص۲۷، خزائن ج۱۱ ص۲۷) میں لکھتے ہیں کہ: ”بدبخت ہے وہ شخص جو محمد ﷺ کے بعد رسالت اور نبوت کا دعویدار ہوا اور وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ آخری نبی تھے۔“

یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب میں تصویر کے دوسرے رخ کا جائزہ لیتا ہوں۔ جس میں خبیث مرزا قادیانی نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔

مرزا قادیانی ان کتابوں میں رقمطراز ہیں: ”سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں (مجھ مرزا غلام احمد قادیانی کو) اپنا رسول بھیجا۔“ (دافع البلاء ص۱۱، خزائن ج۱۸ ص۲۳۱)

"اور مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا۔"

(حقیقت الوحی ص ۷۲ خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

گویا اس میں مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ بلکہ اپنے آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فوقیت دی۔

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۳) میں لکھتے ہیں: "اللہ پاک نے مجھ سے معجزات وابستہ کئے اور اس قدر معجزات کا دریا رواں کیا کہ تمام انبیاء مل کر بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔" اس بات کو بھی مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: "قرآن میں خاتم النبیین کے لئے جو آیت موجود ہے وہ میرے لئے ہی لکھی گئی ہے اور میں آخری نبی ہوں۔"

مرزا قادیانی "اربعین" میں لکھتے ہیں: "میں صاحب شریعت نبی ہوں اور میں نے اپنا ایک قانون مقرر کیا ہے تو کیا اب بھی میری نبوت میں کوئی شک رہ گیا ہے۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵)

(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) ہی میں لکھتے ہیں۔ میں آنحضرت ﷺ سے افضل ہوں۔" چونکہ اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ میں محمدؐ سے افضل ہوں۔" اور مرزا قادیانی اپنے معجزات کی تعداد دس لاکھ بتاتے ہیں۔ جب کہ آنحضرت ﷺ کے معجزات کی تعداد تین ہزار لکھی گئی ہے۔

آپ خود فیصلہ کریں

میں نے مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے عبارتیں نقل کیں۔ جو ۱۸۷۶ء سے ۱۸۹۹ء تک مسلمانوں کے اجماعی عقائد اور دعویٰ نبوت سے پہلے کی تھیں اور ان کتابوں سے بھی نقل کیں جو دعویٰ نبوت کے بعد لکھی گئیں۔ جو اسلام کے بنیادی اصولوں ہی سے نہیں ٹکراتی۔ بلکہ مرزا قادیانی کی اپنی ابتدائی تعلیمات سے بھی متضاد ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک ایسا شخص جس کے اقوال میں اس قدر تضاد ہو۔ یعنی ختم نبوت بھی ہے۔ اجرائے نبوت بھی، حیات مسیح بھی ہے۔ وفات مسیح بھی، پر ایمان لایا جا سکتا ہے یا اسے رسالت کا درجہ سونپا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ نبی معاشرے کی اصلاح کے لئے آتے ہیں نہ کہ بربادی کے لئے۔ نبوت کا

منصب اسی کو عطاء کیا جا سکتا ہے جو اس کا اہل ہو۔ اس لئے آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکار کذاب، مفتری، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں ۔

آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے
صاحب کو اپنے حسن پہ کتنا غرور تھا

جعلی نبی مرزا غلام احمد قرآن وحدیث کی نظر میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئ علیما (الاحزاب: ۴۰)“ {(لوگو) محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔}

قرآن کریم محمد ﷺ پر آہستہ آہستہ نازل ہوا اور جس موقع پر جس آیت کی ضرورت محسوس فرمائی۔ اللہ پاک نے اسی موقع پر آیت نازل کی۔ اسی طرح مندرجہ بالا آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپؐ کے منہ بولے بیٹے حضرت زیدؓ کی بیوی حضرت زینبؓ سے آپ کا نکاح ہوا اور محمد ﷺ کے اس فعل مبارک پر اعتراضات کئے اور کہا کہ آپؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ جب کہ اس سے پہلے آپ شریعت محمدی میں بہو سے نکاح کو حرام قرار دے چکے تھے تو اس آیت کا مقصد ایک فتنہ کو مٹانا تھا اور اسی لئے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ: ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم“ {محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔} یعنی بتا دیا تھا کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا اور اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ محمد ﷺ کا سرے سے کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔

مخالفین نے دوسرا اعتراض یہ پیش کیا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے تو ٹھیک ہے۔ آخر نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے جواب میں اسی آیت میں ”ولکن رسول اللہ“ {مگر وہ اللہ کے رسول ہیں۔} یعنی یہ ضروری تھا کہ حلال چیز کو جس فرسودہ رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں تعصبات اور غلط فہمیاں ختم ہو

جائیں اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور پھر زوردار الفاظ میں تاکید فرمائی کہ "وخاتم النبیین" "وہ خاتم النبیین ہیں کہ آپ (ﷺ) کے بعد چونکہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے معاشرے میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہ جائے۔ اسی لئے آپ ؐ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کیا اور آپ کا یہ عمل آخری نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔

اس آیت سے یہ بات بغیر کسی پیچیدگی کے واضح ہو جاتی ہے کہ محمد ﷺ آخری نبی تھے اور اس آیت کی اس تشریح پر ہر زمانے میں مسلمان متفق رہے اور آج چودہ سو سال کے بعد اس باہمی نفاق کے زمانے میں بھی اس بات پر مکمل طور پر مسلمانوں میں اتحاد ہے کہ محمد ﷺ آخری نبی ہیں۔ اب مرزائیوں کی عیاری دیکھیں کہ وہ کس طرح سے قرآن سے منحرف ہوتے ہیں اور اس آیت سے مختلف قسم کے معانی نکال کر اپنے لئے راہ ہموار کرتے ہیں ۔

عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے

کیا مرزائی، حضرت محمد ﷺ اور ابوبکر صدیقؓ سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جب کہ آپ ؐ نے اپنی زندگی میں مدعی نبوت مسیلمہ کو کذاب قرار دیا اور اسود عنسی کو ایک آدمی کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ اگر آپ ؐ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ چونکہ آپ ؐ سے پہلے ایک ہی وقت اور ایک ہی علاقے میں ایک سے زائد نبی آتے رہے۔ اسی اثناء میں آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے فتنہ ارتداد کو مٹانے کی کوشش کی۔ اگر قرآن حکیم آنحضرت ﷺ کے آخری نبی ہونے کی گواہی نہ دیتا تو ابوبکر صدیقؓ کو انسانیت کا خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا ابوبکر صدیقؓ نے آنے والی نسلوں کے لئے راہ ہموار کی کہ فتنہ ارتداد جب بھی اور جہاں کہیں بھی سر اٹھائے، اس کو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی کچل دو اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزائی ختم نبوت کے ہی منکر نہیں ہیں۔ قرآن کے منکر بھی ہیں اور قرآن کا منکر خدا کا منکر ہوتا ہے اور اس کے کافر اور مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس سے پہلے کہ فتنہ ارتداد دوسرا اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہئے۔

اب میں حدیثوں کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا مسلمان ہونے کا دعویٰ محض دھوکہ اور فریب ہے اور مرزائیوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہر طرف

ہے۔ یہ بات بھی ان کی زبان پر آ ہی گئی ہے۔

۱۔ "قال رسول اللہ ﷺ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ج۲ ص۵۳، باب ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات)" {رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔}

۲۔ "قال رسول اللہ ﷺ لا نبی بعدی ولا امۃ بعد امتی (رواہ البیہقی فی کتاب الرؤیا)" {رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت (یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت) نہیں۔]

۳۔ "قال النبی ﷺ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (مشکوٰۃ ص۵۵۸)" {نبی ﷺ نے فرمایا: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔}

۴۔ "قال رسول اللہ ﷺ لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لیس نبی بعدی (بخاری ج ص۶۳۳، باب غزوہ تبوک فی غزوۃ العسرۃ ج۲ ص۲۷۸)" {رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ ہارون (علیہ السلام) کی تھی۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔]

۵۔ "قال النبی ﷺ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین (مسلم ج۲ ص۲۴۸، باب ذکر کونہ ﷺ خاتم النبیین)" {نبی ﷺ نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی۔ مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے۔ مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لئے کوئی نبی آئے۔]

۶... ''عن ثوبان قال رسول اللہ ﷺ... وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلھم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۴۵، باب لا تقوم الساعۃ حتیٰ یخرج کذابون)'' (ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور یہ کہ میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔)

مندرجہ بالا احادیث کے صحیح ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد ﷺ آخری نبی تھے۔ لیکن میں نے جو حدیث چھٹے نمبر پر تحریر کی۔ جس میں آپ نے فرمایا۔ میرے بعد تیس کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس بات کو ہمیشہ سے دوست و دشمن تسلیم کرتے رہے کہ نبی ﷺ کا ہر قول ہمیشہ سچا ثابت ہوا اور آپ نے جو تیس کذاب آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ وہ مرزا قادیانی جیسے نبوت کے دعویداروں نے پوری کی اور اس حدیث میں امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ ایسے چالبازوں اور کذابوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ آخری نبی تھے اور آدم صفی اللہ سے محمد ﷺ سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنے بعد نبی آنے کی نوید دی اور اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح اجرائے نبوت کی بشارت کرتے اور اس سے آپ کی شان اقدس میں کوئی فرق نہ آتا۔ لیکن چونکہ نظام قدرت ہے کہ جس چیز کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نبی اکرم ﷺ پر ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل مقدس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہوں گے اور انجیل برنباس میں آخری نبی ہونے کے ساتھ نام بھی درج ہے۔ اور اس پر چودہ سو سال سے لے کر آج تک علماء اور فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو محمد ﷺ کے کسی ایک کلمے کا دل سے بھی انکار کر دے۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اگر دیکھا جائے تو مرزائی اس حکم کے منکر ہیں۔ جس پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ مرزائی مرتد کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا جائزہ

یوں تو تمام غیب کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن بعض لوگ رفتارِ حالات کو ملحوظ رکھ کر تجربے کے اعتبار سے واقعات کی بنا پر قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے مقرب بندوں (یعنی نجومیوں) کو حالات کے مطابق وقت سے پہلے بتائی ہوئی بات بھی پوری کرتا ہے۔ اس بات کو مرزا قادیانی (حقیقۃ الوحی ص ۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵) میں تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "بعض نجومیوں کی پیش گوئیاں نکل جاتی ہیں۔" لیکن نجومیوں کی پیش گوئیاں پوری نہیں ہوتیں۔ اب چونکہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے اور اپنی حیثیت مستحکم کرنے کے لئے بہت سی پیش گوئیاں کیں اور اسی سلسلے میں (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸، خزائن ج ۵ ص ایضاً) میں لکھتے ہیں: "ہمارا صدق یا کذب جانچنے کو ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں۔" اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کا کذب و صدق معلوم کرنے کے لئے پہلا اور سب سے بڑا معیار ان کی پیش گوئیاں ہیں۔ اب ہم ان کی چند پیش گوئیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جن کو خاص طور پر مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا ہے۔

مرزا قادیانی کی جھوٹی پیش گوئی

احمد بیگ صاحب ہوشیارپوری مرزا قادیانی کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جو اپنی نوجوان لڑکی کے ہمراہ کسی کام سے قادیان گئے اور مرزا قادیانی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کام مرزا قادیانی کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ جس میں انہیں امداد اور قربانی کرنا پڑتی تھی۔ (جو ان کے ہاں مفقود ہے) آخر مرزا قادیانی نے وہ کام اس شرط پر منظور کیا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ (یعنی مرزا قادیانی سے) کریں۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کس بے حیائی کا ثبوت دیا اور کاروباری نقطۂ نظر سے کام کرنے کے عوض ان کی لڑکی کا رشتہ اسی وقت طلب کیا۔ جب کہ وہ خود اپنی آخری عمر میں تھے اور لڑکی سولہ سال کے لگ بھگ تھی۔ میرا خیال ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے حواری یعنی لڑکیوں کا بھی (شرم و شرافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے) اسی طرح کاروبار کرتے ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات کسی بھی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ مرزا قادیانی تو مدعی نبوت بھی تھے۔ کیا مرزائیوں کے نزدیک معیار نبوت یہی ہے۔

اب میں ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ جو مرزا قادیانی نے احمد بیگ کی بڑی لڑکی محمدی بیگم کی شادی مرزا قادیانی کے ساتھ ہونے پر کیں۔ مرزا قادیانی نے ایک خط مرزا احمد

بیگ کو لکھا جس کا اقتباس یہ ہے: "خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے مجھ پر ظاہر کیا کہ اگر آپ اپنی دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی دور کر دے گا اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لئے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا اور اس کا انجام درد و تکلیف اور موت ہوگی۔ یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق و کذب معلوم ہو سکتا ہے۔"

اس خلاف تہذیب اور بازاری غنڈوں کی زبان میں دھمکی آمیز تحریر سے ڈرنے کی بجائے مرزا احمد بیگ صاحب نے اس کو اخبارات میں شائع کروا دیا۔ جس سے مشتعل ہو کر مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل پیشن گوئیاں کیں۔

۱... مرزا احمد بیگ کا داماد سلطان محمد ڈھائی سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔

۲ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کے اندر فوت ہوگا۔

۳... میں (مرزا قادیانی) اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ جب تک محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آجائے گی۔

مرزا قادیانی نے یہ پیشن گوئیاں کر کے ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لئے ہر حربہ استعمال کیا۔ لیکن ہے

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

اور مرزا قادیانی امید و یاس کے دھندلکوں میں کھوئے ہوئے مصائب کا شکار ہو کر شکست کے مارے ہوئے مرض ہیضہ میں مبتلا ہو کر ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو لاہور میں انتقال کر گئے۔

(اس موقع پر مرزا قادیانی کی یہ پیشن گوئی کہ "میں مکہ یا مدینہ میں مروں گا" جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے) اور مرزا احمد بیگ صاحب پیشن گوئی سے اڑھائی سال بعد اپنی طبعی موت مر گئے۔ جب کہ مرزا قادیانی کے مطابق ان کو محمدی بیگم کی شادی مرزا قادیانی کے ساتھ نہ پاکر مرنا تھا اور محمدی بیگم اپنے خاوند مرزا سلطان محمد کے گھر تقریباً چالیس سال بخیر و خوبی آباد رہنے کے بعد ۱۹ نومبر ۱۹۶۶ء کو لاہور میں اپنے خوبرو جوان سال بیٹوں کے ہاں انتقال فرما گئیں۔

انا للہ وانا الیہ راجعون!

ان پیشن گوئیوں سے مرزا قادیانی کا جھوٹ عیاں ہوتا ہے۔ جب کہ ان کو مرزا قادیانی

نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ اسی طرح کی ہزاروں پیش گوئیاں جن کو مرزا قادیانی نے اپنے کذب و صدق کا معیار قرار دیا جھوٹی ثابت ہوگئیں۔ مرزا قادیانی (آئینہ کمالات اسلام) میں لکھتے ہیں: "جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو۔ اس کی پیش گوئیاں ہرگز پوری نہیں ہوتیں۔" اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں: "کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔"

(چشمہ معرفت ص ۲۲۲ خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) میں لکھتے ہیں: "جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔"

ہم نے مرزا قادیانی کی جھوٹی پیش گوئی کو دیکھا اور اس کو مرزا قادیانی کی تحریرات پر پرکھا۔ ان کی اپنی تحریرات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہو۔ اس کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ اس بات پر مرزائیوں کو غور کرنا چاہئے اور مرزا قادیانی کی اندھا دھند تقلید کر کے ان پر مزید جہنم کا بوجھ مسلط نہ کریں۔ بلکہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اس طرح ان کی اپنی آخرت بھی اچھی سنورے گی۔ بلکہ مرزا قادیانی کے لئے بھی سود مند ہوگی۔

مرزا قادیانی کی سچی پیش گوئی

جب فرنگیوں کے ایماء پر مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تو انہوں نے اپنے لگائے ہوئے اس پودے کو دولت کے بل بوتے پر پروان چڑھانے کی پوری کوشش کی اور مرزا قادیانی کو خوب دولت سے نوازا۔ مرزا قادیانی نے دولت کے سہارے ان لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنا شروع کیا جو دولت کے بھوکے تھے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونا جانتے تھے۔ لہٰذا مرزا قادیانی نے جب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے "ہر فرعونے را موسیٰ" والی سنت کو دہرا کر مرزا قادیانی اور ان کے حواریوں کا سر کچلنے کے لئے بہت سے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ انہی میں سے ایک مجاہد مسلک تاج ابو الوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری بھی تھے۔ آپ نے مرزا قادیانی کے جال کو تار تار کر دیا اور ہر میدان میں مرزا قادیانی اور ان کے حواریوں کو فاش شکستیں دیں اور مرزائیت کا خوب پوسٹ مارٹم کیا۔

جب مرزا قادیانی نے اپنی بے بنیاد عمارت کو گرتا، اپنے گلستان کو اجڑتا، اپنے گھر کو برباد اور اپنی جھوٹی پیشوائی کو تاخت و تاراج ہوتے دیکھا تو مرزا قادیانی نے اپنی روایتی عیاری اور بازیگری کے ہتھکنڈوں کا ثبوت دیتے ہوئے ثالث بالخیر بن کر مولوی ثناء اللہ صاحب سے مباہلے کا فیصلہ کیا۔ جس کے الفاظ یہ تھے: "اگر میں (یعنی مرزا قادیانی) کذاب اور مفتری ہوں، جیسا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تو میں مولوی صاحب کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور اگر میں سچا ہوا تو مولوی صاحب میری زندگی میں وفات پا جائیں گے۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے دکھاوے کے لئے ایک دعا شائع کی۔ "اے میرے آقا! اب میں تیرے تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما۔ اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں کسی مہلک بیماری (مرزا قادیانی اس سے مراد طاعون اور ہیضہ لیتے ہیں) میں مبتلا کر کے اٹھا لے۔ اے میرے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین!" (مجموعہ اشتہارات ج ۳)

دیکھا جائے تو کس قدر عاجزانہ اور پر خطر دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بناوٹی عاجزی کو مدنظر رکھ کر مرزا قادیانی کی دعا قبول کی اور ایک سال بعد مرزا قادیانی مولوی صاحب کے سامنے مہلک مرض ہیضہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے اور مولوی صاحب کئی سال بعد تک ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دعا کا مفید اور عمدہ نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کا پول کھل گیا وہ اپنے اقرار کے مطابق کاذب اور مفسد ٹھہرے۔ چونکہ مرزا قادیانی نے جو علامت مفسد اور کذاب کی مقرر کی تھی۔ آپ اس پر پورے اترے ۔

لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر
کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا

اب اگر کوئی راہ ہدایت پر آنا چاہے تو اس کے لئے مندرجہ بالا دو پیش گوئیاں ہی کافی ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے اپنے اقوال کے مطابق مرزا قادیانی اور ان کے حواری کاذب، فریبی، مکار، عیار، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

معیار نبوت

اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کو نبی مقرر کرتا ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لئے اور انسانوں کو ایک خدا کی اطاعت کا سبق دینے کے لئے آتے ہیں۔ وہ نفس کا غلام بننے کی بجائے اسے اپنا غلام بناتے ہیں اور ان کا نفس اطاعت خداوندی میں ہمیشہ ان کا مطیع رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے تو اللہ اپنی مخلوق کو ان کی بے چون و چرا اطاعت اور متابعت کا حکم نہ دیتا۔ انبیاء کی عقل دوسرے لوگوں کی عقلوں سے ارفع اور اکمل ہوتی ہے۔ ان کی رائے تمام لوگوں کی رائے سے وزنی، موثر اور قوی ہوتی ہے۔ فصاحت، بلاغت اور تاثیر سخن میں بھی انبیاء تمام اپنے عصر پر غالب رہتے ہیں۔

تاریخ عالم اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سلاطین عالم کا طریق بھی یہی ہے کہ ہر کس و ناکس کو اپنا وزیر یا سفیر نہیں بناتے۔ وزارت اور سفارت کے لئے ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں۔ جو عقل اور فہم میں یکتائے روزگار ہو۔ بادشاہ اور اس کی حکومت کا وفادار، اطاعت شعار، صادق اور راست باز ہو۔ جھوٹا اور مکار نہ ہو۔ جب شاہان دنیا کی مجازی اور فانی حکومت کی وزارت اور سفارت کے لئے اتنا بلند معیار ہے تو اس احکم الحاکمین اور شہنشاہ حقیقی کی نبوت اور خلافت کے لئے اس سے ہزار درجہ بڑھ کر اعلیٰ و ارفع معیار ہوگا۔

آج کل نبوت ایک تماشہ بن چکی ہے جس کا جی چاہتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ ایک تماشہ سمجھ کر کیا۔ اب ہم مرزا قادیانی کو مختصر طور پر اس معیار پر پرکھتے ہیں۔ جو نبوت کے لئے ضروری ہے اور دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔

۱...... اخلاق و کردار

نبی کے لئے اخلاق و کردار کا مجسمہ ہونا ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے ایک اعلیٰ اخلاقی معاشرے کو جنم دیں۔ جو انسانیت کی فلاح کے لئے بہتر ثابت ہو۔ مرزا قادیانی صرف بد اخلاق ہی نہ تھے۔ بلکہ آپ کا کردار انتہائی گرا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ آپ بڑھاپے کے عالم میں ایک سولہ سالہ دوشیزہ پر فریفتہ ہو کر بازاری ہتھکنڈوں پر اتر آئے۔ یہاں صرف چند واقعات نقل کرتا ہوں۔

(سیرت المہدی ج۳ ص۲۱۰، روایت نمبر ۷۸۰) میں یہ قصہ درج ہے کہ: ''ڈاکٹر میر محمد

اسماعیل جو مرزا قادیانی کے بہت بڑے معتقد تھے، کو مرزا قادیانی کی بیوی نے بتایا کہ حضرت صاحب کی ایک خادمہ بانو نامی عورت ایک رات جب کہ سردی زوروں پر تھی۔ حضور (مرزا قادیانی) کو دبا رہی تھی۔ چونکہ لحاف کے اوپر سے دبا رہی تھی۔ اس لئے یہ پتہ نہ لگ سکا کہ جس چیز کو وہ دبا رہی تھی۔ مرزا قادیانی کی ٹانگیں نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ مرزا صاحب نے کہا بانو آج بڑی سردی ہے۔ بانو نے کہا ہاں جی تدے تے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں نے۔"

(الفضل) مرزائیوں کا روزنامہ ہے۔ اس میں ۳۱ دسمبر ۱۹۳۸ء ص ۶ میں ایک مرزائی کا خط شائع ہوا۔ "حضرت مسیح موعود علیہ السلام (یعنی مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھار زنا کر لیتے ہیں۔ چونکہ حضرت مرزا صاحب ولی تھے۔ انہوں نے (یعنی مرزا قادیانی نے) کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا۔ ہمیں اعتراض مسیح موعود پر نہیں۔ کیونکہ وہ کبھی کبھار زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ (بشیر الدین محمود) پر ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔"

ان حوالوں سے مرزا قادیانی کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس کے ہر قول و فعل میں تضاد تھا اور نبوت کی آڑ میں نوجوان دوشیزاؤں کی عصمتوں کو اپنی شہوت کے تیروں سے چھلنی کرتے رہے۔ اس حقیقت کو پڑھ کر مرزائی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ اٹھیں گے اور زخم خوردہ ناگن کی طرح تڑپیں گے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اب بھی ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ اگر گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ مرزا قادیانی کو منصب نبوت پر فائز کرنا تو در کنار اس کے نام کے ساتھ لفظ نبوت بھی انبیاء کی توہین ہے۔

اب مرزا قادیانی کے بازاری اخلاق کے کچھ اور نمونے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱) میں لکھتے ہیں: "یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے۔"

مرزا قادیانی (نور القرآن حصہ دوم ص ۱۳، خزائن ج ۹ ص ۴۴۹) میں رقمطراز ہیں:

"آپ کے یسوع کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر روئیں۔ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس

سے مل کر عشق اور نہایت ناز و نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی۔ اگر یسوع کا دل بدخیالات سے پاک ہوتا تو وہ کسبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا۔ مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے۔"

مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ حاشیہ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) میں لکھتے ہیں: "تین دادیاں اور نانیاں آپ کی (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی) زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا ظہور ہوا۔"

بدتر از بد وہ ہے جو ہووے بدزباں
بدزباں کا قلب ہے بیت الخلاء

کیا کسی نبی کا اخلاق ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی تو کیا کسی شریف آدمی کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ چونکہ مرزا قادیانی خود زانی اور شرابی تھے۔ اس لئے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لئے دوسروں پر بہتان تراشی کرتے رہے۔ کیا ایسا قبیح اخلاق انسان نبی ہو سکتا ہے؟

۲.....تقویٰ

نبی کا مقصد بندوں کو صرف خدا تک پہنچانا ہوتا ہے اور اگر نبی میں یہ صفت نہ ہو تو وہ انسانوں کو خدا پرست بنانے کے بجائے شہوت پرست اور دنیا پرست بنا دیں۔ مرزا قادیانی میں بھی ذرہ بھر تقویٰ نہ تھا۔ جیسا کہ گزشتہ واقعات سے ظاہر ہو چکا ہے۔ آپ شہوت پرست، مطلب پرست، دنیا پرست تھے اور آپ نے اپنے مریدوں کو بھی یہی تعلیم دی۔

۳.....صادق و امین

نبی کے لئے ایسا صادق اور امین ہونا ضروری ہے۔ جسے دوست و دشمن سب تسلیم کریں۔ جیسے کفار مکہ آنحضرت ﷺ کے صادق و امین ہونے کی گواہی انتہائی دشمنی کے باوجود دیا کرتے تھے۔ لیکن مرزا قادیانی کے ہر قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جو بات ایک دفعہ کہتے ہیں۔ اس کی نفی ضرور کرتے ہیں۔ جو شان نبوت کے خلاف ہے۔ گویا صادق اور امین کے لفظ ہی سے آپ کو نفرت تھی۔

۴.....عقل وفہم

نبی کے لئے کامل العقل ہونا بھی ضروری ہے اور دنیا میں اس کی عقل و فہم کی نظیر نہ ہو اور نہ ہی کسی امتی کی عقل نبی کی عقل سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ اسی لئے نبی وحی الٰہی سمجھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ لیکن مرزا قادیانی کو اگر اس کسوٹی پر پرکھیں تو ان کو پاگلوں کے زمرے میں شمار کرنا چاہئے۔ ان کا وہ کون سا قول ہے جس کی انہوں نے تردید نہ کی ہو۔ اسی لئے ان کا مذہب (مرزائیت) مجموعہ اضداد ہے۔

۵…… قوی حافظہ

نبی کا حافظہ قوی ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ وحی نازل ہوتے ہی یاد ہو جائے۔ اگر نبی کا حافظہ خراب ہو تو وحی پوری طرح یاد نہ رہے گی اور ایک لفظ کی کمی بیشی سے حکم خداوندی میں زمین و آسمان کا فرق آجاتا ہے اور اگر اللہ کی وحی پوری پوری نہ پہنچے وہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا موجب بن جاتی ہے۔

مرزا قادیانی رسالہ (تشحیذ الاذہان) قادیان ماہ مئی ۱۹۰۶ء میں لکھتے ہیں: ''میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ حافظہ کی یہ ابتری (یعنی بدترین حالت) ہے کہ بیان نہیں کر سکتا اور مجھ کو ان دو بیماریوں ذیابیطس اور مراق نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔'' شدید حافظے کی خرابی کی وجہ ہی سے مرزا قادیانی اپنے عاید کئے ہوئے سابقہ حکموں کو بھول جاتے ہیں اور نئے حکم نافذ کرتے۔

مرزا قادیانی کی نبوت کو پرکھنے کے لئے جو چند پیمانے مقرر کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہ اتر سکے۔ اخلاق و کردار ایسا کہ شرم و حیا بھی اپنا منہ نوچ لے۔ مرزائیو! کیا معصوم دوشیزاؤں کی آہوں اور عزتوں سے کھیلنے والے اخلاق و کردار کے غازی بن سکتے ہیں؟ معلوم نہیں مرزا قادیانی نے کتنی ماؤں کی معصوم مسرتوں کا خون کیا۔ ان سے مسکراہٹ کی آسودگیاں چھینیں۔ یعنی ایک شیطان پیغمبری کا معصوم لبادہ اوڑھ کر ہوس کی پر آیا۔ جس کے تقویٰ کا بھرم بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ صداقت و امانت میں کسی عیار اور سود خور بنئے سے کم نہیں اور عقل و فہم میں پاگلوں سے بھی بڑھ کر۔ حافظہ دیوانے بچوں سے بھی زیادہ تیز۔ کیا مرزائیوں کے نزدیک معیار نبوت یہی ہے؟ جو وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسے عاقبت نااندیش کو نبی مانتے ہیں۔ جس نے بری خواہشات کا رستہ تن پسندی سے بھر دیا۔ جس نے مشغلہ شراب میں زندگی گزارتے ہوئے انجام فراموش بن کر شرفاء کی عزت سے کر

لی۔ جس کی آنکھ ہر وقت حسن بے مثال کی تماشائی بنی رہتی۔ جس نے اپنی تعلیمات کو اقوام کے حقیقت کے خوف سے آزاد مردانہ وار پیش کیا۔ اگر مرزائیوں کو اپنی جانیں عزیز ہیں اور وہ ڈوب کر حرام موت نہیں مرنا چاہتے تو ان کے لئے پھولوں بھرا راستہ یہ ہے کہ نشئے شریعت پلا کر لوگوں کو اپنے شبستان میں کھینچ لانے والے، بوسے گل اور نغمۂ شیریں سنا کر گمراہی کے راستے پر ڈالنے والے کا دامن چھوڑ کر اس ہستی مرتبت کے گلستان میں پناہ لیں۔ جس کے دامن میں ظلم و ستم کی کوئی جگہ نہیں۔ جس نے انسانوں کو اخوت و محبت کا پیکر بنایا۔ جس کے ارادوں میں تسلسل تھا۔ ترتیب تھی۔ استقلال تھا۔ جس کی کلیاں آج بھی اسی محبوب صادق کا کلمہ پڑھتی ہوئی بیدار ہوتی ہیں اور آفتاب اسی کا نام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ اگر اس بات کی گواہی لینی ہو تو جاؤ عراق عجم کے کوہساروں سے پوچھو۔ شام و مصر کے میدانوں سے پوچھو۔ ایشیا کے دریاؤں اور صحراؤں سے پوچھو۔ افریقہ کے دشت و جبل سے پوچھو۔ بلاشبہ سنگ و خشت، خار و گل، قطرہ و صدف اس کی سچائی کی داستانیں سنائیں گے۔ اس آفتاب نے آج سے چودہ سو برس پیشتر آمنہؓ کی گود سے جنم لیا۔ جس کا نام محمد (ﷺ) تھا۔ جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مرزائیو! اسی کے دامن میں پناہ لو۔ یہی تمہاری دنیا و آخرت کے لئے بہتر ہے۔ اسی دامن میں رہ کر جنت ملے گی۔ سکون ملے گا۔ اطمینان ملے گا۔ ہدایت ملے گی۔ اگر تم نے ان کے دامن رحمت میں پناہ نہ لی تو سوائے ندامت، رسوائی اور پریشانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

مرزائیت اور اسلام میں فرق

یوں تو مرزائیت اور اسلام میں اتنا فرق ہے۔ جتنا زمین اور آسمان میں، دن اور رات میں، شمع اور آفتاب میں، صحرا اور گلستان میں۔ لیکن بہت سے لوگ کم علمی کی وجہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مرزائیت مذہب اسلام ہی کی ایک شاخ ہے۔ نہ کہ ایک علیحدہ مذہب۔ یہ عقیدہ غلط فہمی اور مرزائی اصول و اسلام سے لاعلمی اور بے خبری پر مبنی ہے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت اور بدقسمتی کی انتہا ہے کہ انہیں اسلام اور کفر میں فرق تک معلوم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی اور فرض ناشناسی جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہیں۔

ہر ملت اور مذہب کے اپنے کچھ اصول، اپنے عقائد اور اپنی روایات ہوتی ہیں اور یہ عقائد اور اصول ہی کسی مذہب کا حقیقی حسن ہوتے ہیں۔ جس کی بناء پر دوسرے تمام مذاہب عالم

سے دوسرا مذہب جدا اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے بھی چند بنیادی اصول اور عقائد ہیں اور مرزائیت کے بھی، اور یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے متضاد حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً:

۱ مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں اور مرزائی اجرائے نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی لئے مرزائی حضور ﷺ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔

۲..... ختم نبوت کی طرح مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے زندہ اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ آنحضرت ﷺ کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن مرزائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام وفات پاچکے ہیں۔

۳..... مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو حضور پرنور ﷺ نے فرمائی۔ لیکن مرزائیوں کے نزدیک قرآن کی وہ تفسیر صحیح ہے جو مرزا قادیانی نے بیان کی۔ چاہے وہ محمد ﷺ کی تفسیر کے الٹ ہو۔

۴... مسلمانوں کے نزدیک حضور ﷺ کی حدیثوں کو ماننا ضروری ہے اور حدیثوں کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن مرزائیوں کے نزدیک حدیثوں کو ماننا کوئی ضروری نہیں۔

۵..... اسلام ظلم وستم کے خلاف جہاد کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن مرزائیت کے نزدیک ظلم وستم کے خلاف جہاد حرام ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے فرنگیوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا۔

اس کے علاوہ مرزائیت اور اسلام میں اور بھی بہت سے فرق بیان کئے جا سکتے ہیں۔ یعنی مرزائیت کی بنیاد قرآن وحدیث سے ہٹ کر ہے اور مرزائیت کے تمام عقائد اسلام سے متضاد حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے مرزائیت اور اسلام دو الگ الگ نظریے ہیں۔

اسلام اور مرزائیت کے عقائد کے مقابلے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام سے مرزائیت کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد سے مرزائی منحرف ہو چکے ہیں اور مرزائیت کی بنیاد قرآن وحدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزائیت اسلام کی ایک شاخ نہیں بلکہ کفر کی ایک یلغار ہے۔

آخری دعوت اور فیصلہ

مرزائیت کی ابتداء کی وجوہات اور اس کے بعد مرزا قادیانی کے اقوال سے ان کی

نبوت کا جائزہ لیا۔ جس سے وہ اپنے فیصلے کے مطابق جھوٹا ٹھہرا۔ اس موقع پر مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا اور آپ نبوت کے کسی بھی معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ جس سے مرزائیت اور اسلام کا فرق واضح ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس (مرزا قادیانی) نے کس طرح عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے خدا کے حکموں اور محمد ﷺ کی شان کو پس پشت ڈال دیا۔ مرزائیو! راہ ہدایت پر آ جاؤ اور اس میں تمہاری فلاح ہے۔ کیونکہ گھوڑے پر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے سے آدمی شہسوار نہیں بن جاتا۔ اسی طرح جھوٹا دعویٰ نبوت سچا نبی نہیں بن جاتا اور جس طرح تند اور پرشور پہاڑی ندی بلندیوں سے بستیوں کی طرف گرتے وقت اپنے دامن میں کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ اسی طرح زخموں سے رستے والا خون چھپانا بھی ناممکن سی بات ہے۔ مرزا قادیانی نے اگرچہ مختلف قسم کے جھوٹ اس طرح بولے جیسے خوش ذائقہ شربت کا ایک گھونٹ۔ لیکن پھر بھی وہ ننھی مکھی کی طرح مکڑی کے جالے میں الجھ گئے اور وہ اپنے کذب کو اپنے الفاظ کے پردوں میں چھپا نہ سکے۔ جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح یمامہ کے مسیلمہ کذاب پر محمد ﷺ نے کفر کا فتویٰ عائد کیا۔ اسی طرح ہم مسیلمہ پنجاب (مرزا غلام احمد قادیانی) پر حقائق کی بنا پر کفر کا فتویٰ عائد کرتے ہیں اور مرزا قادیانی اور ان کے حواری مرتد، کافر، کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

پیغام انقلاب

آئے ہیں مقابل پہ تو سجتے ہیں کفن یوں
اب خون سے میدان کو ہم بھر کے اٹھیں گے

جتنے انسان اس دنیا میں آئے انہیں کٹھن قسم کے امتحانات سے گزرنا پڑا اور اللہ پاک ہر مومن کا امتحان لے کر اسے آزما کر اس کا درجہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک مومنوں کو دولت دے کر آزماتے ہیں۔ غربت دے کر آزماتے ہیں۔ روٹی دے کر اور بھوکا رکھ کر آزماتے ہیں۔ بیماری اور تندرستی دے کر آزماتے ہیں۔ عزت وذلت دے کر آزماتے ہیں اور راحت و تکلیف دے کر آزماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بھیجے ہوئے نبیوں کو آزمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے انبار میں آزمایا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے حسن میں آزمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو تاج و تخت دے کر آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیل و فرعون کے درمیان لا کر آزمایا۔ محمد عربی ﷺ کو شعب ابی طالب میں آزمایا۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق جتنے بھی دجال یعنی جھوٹے مدعی نبوت آئے وہ مسلمانوں

کے لئے آزمائش ثابت ہوئے۔ یعنی یہ کہ ان دجالوں کے آنے کے بعد مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ یا بعض مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف اور جاہل ہیں۔ وہ دنیاوی جاہ وجلال کے لالچ میں آکر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی مسلمانوں کے لئے کڑی آزمائش ثابت ہوئے۔ چونکہ جو مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات سے پھر کر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ اس کفر کے شکنجے میں جکڑے گئے اور یوں فرنگیوں کا لگایا ہوا پودا پروان چڑھتا گیا اور اب پاکستان میں مرزائی اپنی انتھک کوششوں سے سول اور ملٹری کے ہر کلیدی عہدے پر فائز ہو رہے ہیں۔ جس شعبے کا سربراہ مرزائی بن جاتا ہے۔ وہ پہلا تمام سٹاف معطل کر کے تمام کا تمام مرزائی اسٹاف رکھتا ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا۔ گویا مرزائی پاکستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم یوں ہی خواب خرگوش میں سرشار رہے تو مرزائی پاکستان پر حکومت تو شاید نہ کر سکیں۔ لیکن وہ بہت جلد پاکستان میں ایک مرزائیل کو جنم دینے والے ہیں اور اس سلسلے میں وہ ایک کوشش بھی کر چکے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور مغربی طاقتیں اس معاملے میں ان کی مکمل پشت پناہی کر رہی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے یہودیوں کی پشت پناہی کر کے عرب مسلمانوں کے علاقے میں اسرائیل کو جنم دیا اور کفر و اسلام کی یہ دشمنی جو آج سے چودہ سو سال سے چلی آرہی ہے۔ وہ آج بھی باقی ہے اور مغربی قومیں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اپنے ذہن کے تاریک کونوں میں چھپا کر موزوں موقعے کی تلاش میں ہیں اور پاکستان اس وقت اسلام کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس لئے ان کی سازشی توپوں کے منہ اسی طرف ہیں اور ان کا یہ ناپاک ارادہ ہے کہ پاکستان میں ایک مرزائیل کو جنم دیا جائے۔ موجودہ ہے اور ان کو اس سے موزوں موقع بھی ہاتھ نہ آئے گا کہ ہم بری طرح باہمی نفاق کا شکار ہیں۔ سیاسی معاشی اور معاشرتی طور پر ابتر ہو چکے ہیں۔ سماجی برائیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح تباہ کر رہی ہیں اور ان حالات میں ہمارے کان اگرچہ نصیحتوں کی طرف سے بہرہ ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں باہمی اتحاد کو قائم کرنا چاہئے اور خاص طور پر علماء کو ایک دوسرے کی مخالفت کی بجائے متحد ہو جانا چاہئے ۔

اک دم جو بڑھے نعرۂ تکبیر لگا کر
پیچھے قدم ہو بت ترے لشکر کے ہٹیں گے

اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دلوانے کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہئے۔

چونکہ مرزائیوں کا ٹولہ پاکستان میں سب سے بڑا "C.I.A" کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کی تنظیم

”فری میسن“ میں مکمل طور پر شامل ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کے درپے ہے وہ اس سازش کو ختم کئے بغیر پاکستان کے سازشی ٹولی کو ختم کرنا ناممکن ہے اور مرزائیت کو لگام دیئے بغیر ہم ملکی امن وامان قائم کرنے اور بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔

ہم تذکرۂ دیں ہیں تو اعانت سے خدا کی
میدان سے میدان کو سر کر کے اٹھیں گے

پاکستان کی آبیاری مسلمانوں نے اپنے خون سے کی اور اس کی بنیادوں میں لاکھوں اسلام کے پروانوں کا خون ہے۔ اسے لٹی پٹی عصمتوں نے وجود بخشا اور اب اسے اپنے ہی ہاتھوں ختم کر رہے ہیں۔ مسلمانو! ہوش میں آؤ اور محمد ﷺ کی شان کو منواؤ اور حضور ﷺ کی شان اقدس اس میں ہے کہ ہر شخص سے اس بات کا اقرار کروایا جائے کہ حضور نبی اکرم ﷺ آخری نبی ہیں۔ دوسروں کی غیرت کو جگانے والو تمہاری اپنی غیرت کہاں آرام کر رہی ہے کہ خاتون جنت کی توہین کرنے والوں کو پروان چڑھا رہے ہو۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے مقدس نام کی امانت ہے۔ اس میں ختم نبوت کے غدار مسلمان ہونے کا دعوی کریں۔ تمہیں چاہئے کہ اس سے پہلے ایسے فتنے سر اٹھائیں تم ان کو کچل دو۔ چونکہ ابھی ہم میں کئی مائیں ہیں جو ایسے لال جنتی ہیں۔ جن کی غیرت دشمن کی سنان سے زیادہ تیکھی ہے۔ مسلمانو! تم مرزائیوں کی طاقت سے مت ڈرو۔ آج بھی صدہا بلال اور صدہا صہیبی آوازوں کی تابانی کی قسم کھاتے ہیں۔ تم فاتحین جہاں کی اولاد ہو۔ تم جہاں بانوں کی اولاد ہو۔ جنہوں نے ایشیاء کے متمدن علاقوں کو اسلام کے زیر نگین کر لیا۔ زبردست فرعونوں کے ملک قلو پطرہ کا مسکن اس طوفان میں خس وخاشاک کی طرح بہ گئے۔ بہادر قیصر اور شجاع اقصولی کا کعبہ عشق مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ عظیم ایوانوں اور مضبوط اہرام سطوت اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ اٹھو مسلمانو! مرزائیوں کی تنظیم سے مت گھبراؤ۔ ان کی مشکبار زلفوں کی نگاہوں کے تیروں کے نشانوں میں مت آؤ۔ تاج دو نہ سر دو۔ تخت مانگو نہ تختہ اور مرزائیوں کی حمایت میں جو آوازیں اٹھیں گی۔ وہ خدا کے نام کی سربلندی کے خلاف اٹھیں گی۔ شان محمدیؐ کے خلاف اٹھیں گی۔ ختم نبوت کے خلاف اٹھیں گی۔ مسلمانو! تمہاری محنت کے پسینے کا ایک ایک قطرہ آسمان کے ستاروں اور گوہر دریا سے زیادہ قیمتی ہے اور تم جو راہ حق پر بہو گے وہ ہمیشہ رنگ لائے گا۔ تم وہ پہاڑ نہیں جو کسی طوفان کے بالمقابل گر جائے۔ تم وہ بجلی نہیں جو کسی فولاد کے آگے اچٹ جائے۔ عظمت تمہاری میراث ہے۔ تم نابغہ روزگار ہو۔ تمہارا خون کبھی تمہاری ایڑیوں پر نہیں گرا۔ کبھی کسی جماعت نے آج تک

تمہاری عمر کی زخم دوزی نہیں کی ہے

ایک ایک خدا کا رہے سو سو پہ بھی بھاری
اس کثرتِ اعداء سے نہ ہم ڈر کے ہٹیں گے

تمہاری غیرت دنیا کے تمام طوفانوں سے زیادہ طوفانی ہے۔ تم عزت کی خاطر سمندر پلٹ دو۔ اپنی جنگ کے انتقام میں دشت و جبل کو ہلا دو۔ تم ایک ایسی قوم ہو جو صرف خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا جانتی ہے اور دنیوی طاقتیں تمہارے آگے ہیچ ہیں۔ تم تلواروں کی جھنکار اور فوجوں کی چنگھاڑ کے درمیان بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا جانتے ہو۔ تمہارے ارادوں میں تسلسل، ترتیب اور استقلال ہونا چاہئے۔ تمہارے فیصلے چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھو۔ جب کوئی قوم اخلاقی پستیوں میں گر جاتی ہے تو اس میں زندگی کا کوئی جوہر باقی نہیں رہتا۔ اس پر بجلی کی طرح تباہی نازل ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق اور زمین کے کھنڈروں میں صدہا قوموں کی داستانیں مرقوم ہیں۔ جنہوں نے اخلاق چھوڑ کر اپنے نظریات چھوڑ کر زندہ رہنا چاہا۔ مگر قدرت کا اٹل قانون ان پر طوفان کی طرح چھا گیا اور ان کے مقدر پر موت کی مہر ثبت کر گیا۔

دین اسی کا نام ہے۔ قربانی جس کا آئین ہے۔ مسلمانو! اٹھو اور شمشیر سے ظلمت زار کو جہانتاب کر دو۔ نعروں کی آگ دامن صرصر کو دکھا دو۔ تلوار کے پانی سے ریت کے جنگل کو جلا دو۔ توحید اور تکبیر کے نعروں سے زمین ہلا دو۔ زمان ہلا دو اور اس کے لئے تمہاری طوفانی موجیں ٹکراؤ قیامتوں سے تیز ہونی چاہئیں۔ سد سکندری ہو یا دیوار چین، البرز ہو یا ہمالہ، سمندر ہو یا جنگل، کوئی تمہاری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے سینوں اور بازوؤں میں طوفان کی موجیں بے قرار ہونی چاہئیں۔ تمہاری تلواریں میدانوں میں تڑپنی چاہئیں۔ تمہارے تیر دریائے لہو میں تیرنے کے لئے مچلنے چاہئیں۔ تم اپنے اندر شعلوں کا اضطراب، بجلی کی لپک اور کڑک پیدا کرو اور خس و خاشاک اور ظلم و عیاشی کے انبار جلا دو۔ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو تاخت و تاراج کر دو۔ مرض گناہ میں دم توڑتی دنیا کو آب حیات پلا دو۔ مسلمانو! پسپائی ہمارے دین میں کفر ہے۔ ہمیں جنگ میں فتح ملے تو نعمت، شہادت ملے تو رحمت۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر چلیں گے تو ایک ساتھ کئی تلواریں ہمارے خلاف اٹھیں گی۔ ہمارے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ ہمیں شکنجوں کے نیچے روند دیا جائے گا۔ لیکن ہم وہ قوم ہیں جو

توپوں کے بھی فیروں کو سمجھتے ہیں اک کھیل

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

فرقہ احمدیہ
کا
ماضی و مستقبل

جناب خواجہ عبدالحمید بٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیش گفت

فرقہ احمدیہ کے معتقدات و حرکات و سکنات اور طریق کار کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہے۔ بلکہ اب یہ ملک کے داخلی و اندرونی مسائل سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ جس کا پرامن حل جتنی جلدی کرلیا جائے اتنا ہی خود فرقہ احمدیہ کے لئے اور مسلمانوں و ملکی داخلی امن کے لئے بہت ضروری و اہم ہے۔ اگر اب اس مسئلہ کے لئے آنکھیں بند کی گئیں تو آئندہ اس فرقہ کے طریق کار سے مسلمانوں اور ملکی بہی خواہوں کو خوفناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا اور امت مسلمہ کے لئے روحانی اور قومی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر وقت گذر جانے کے بعد اس کی تلافی کے لئے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ابھی سے اس کا حل تلاش کرلینا چاہئے۔ ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری کوتاہ نظری و غفلت کا ماتم کرتی رہیں گی۔

یہ فرقہ روئے زمین کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے اور تمام مسلمانوں سے مذہبی وسیاسی و مجلسی طور پر الگ تھلگ رہتا ہے۔ محض دوسرے لوگوں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تاکہ مسلمانوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر سیاسی و اقتصادی فائدہ اٹھائے۔ فرقہ احمدیہ گروہ بندی، سیاسی اور تمدنی اعتبار سے پاکستان کے وجود اور ملکی اندرونی امن کے لئے مستقل خطرہ ہے۔ جس پر حکومت اور اصحاب فکر کو پورے غور و فکر سے کام لینا چاہئے۔

خواجہ عبدالحمید بٹ، بلوعمراں ضلع ملتان!

برطانوی عہد حکومت میں ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانوں سے جو برا سلوک کیا گیا اوراق تاریخ میں ایک نمایاں باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن رسم و رواج اور مذہب کو ہر حیلے بہانے ختم کرنے کا عزم کیا گیا اور مستبد حکومت اور جمہوریت کی آڑ میں انگریزوں اور انگریز پرستوں نے مسلمانوں کی سیاسی اور مجلسی تنظیم ختم کر کے مسلمانوں کو درماندہ قوم بنا دیا اور یہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔

برطانوی امپیریلزم عرصہ دراز سے ممالک اسلامیہ اور مسلمانوں کو مستقل طور پر اپنا غلام بنائے رکھنا اپنی بقاء کا جزو سمجھتی ہے۔ برطانوی عہد سلطنت ہند میں مسلمانوں کے مکتبوں کو ختم کیا گیا۔ مسلمانوں کی سیاسی و مذہبی تنظیم کو فنا کرنے کے لئے انگریزوں کو مذہبی رجحان رکھنے والے کارکن کی ضرورت تھی۔ جو مسلمانوں کے ذہن سے انگریزوں کے کردہ مظالم کے خلاف نفرت

پیدا نہ ہونے دے اور انگریز کے ہر حکم کو خدائی حکم کی طرح نشر و اشاعت کرکے مسلمانوں کو ان ناقابلِ برداشت مظالم پر قانع رہنے کا پروپیگنڈا کرے اور اس کی اندرونی و بیرونی خدمات بجا لائے۔ برطانوی ہند میں انگریزوں کو سیاسی طور پر ایسے تو آدمی مل گئے مگر مسلمانوں کے دلوں سے مذہبی خیالات، جہاد کو دور کرنے اور ان میں تفریق ڈالنے کے لئے کسی عربی نحواں مذہب نما فرد کی ضرورت تھی۔ جو مسلمانوں میں مذہبی انتشار ڈالے اور اس قوم کو مذہبی فرقوں کے نام پر لڑوائے اور پھر مذہبی فرقہ بندی کرکے اس قوم کا رہا سہا شیرازہ بھی منتشر کرے۔

حکومت کے ذرائع ہمیشہ وسیع ہوتے ہیں۔ جوئندہ یابندہ کے مصداق انگریزوں کو دیہی رجحان کا ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی ضلع گورداسپور سے مل گیا۔ جس کے ساتھ اندرونی طور پر وعدے وعید کئے گئے کہ قادیان کے علاقہ کو جاگیر کی شکل میں ایک چھوٹی سی حکومت بنائی جائے گی۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کے خاندان کی مالی حالت گر چکی تھی۔ ملاحظہ ہو:

مالی حالت

۱ "میرے والد (مرزا غلام مرتضیٰ) جو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے۔ اس نامرادی (مقدمات کی شکست) کی وجہ سے والد مرحوم ایک نہایت عمیق گرداب غم اور حزن اور اضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے۔"

(کتاب البریہ ص ۱۶۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۷)

۲ ..... "آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔" (سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۴۳، روایت نمبر ۴۹)

چنانچہ ملازمت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے مختاری (وکالت) کا امتحان دیا۔ بدقسمتی سے اس میں فیل ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد مذہب کی آڑ لے کر ایک فرقہ کی بنیاد رکھی۔ ملاحظہ ہو:

فرقہ احمدیہ

"مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جاوے۔"

(تریاق القلوب ص ۳۹۹، خزائن ج ۱۵ ص ۵۲۷)

ظاہراً اگرچہ اس فرقہ کو اچھے نام پہ چلایا گیا اور مسلمانوں کا نام دے کر اس کو مسلم فرقہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اندرونی طور پر اس فرقہ کو مسلمانوں سے الگ کرنا مقصود تھا۔ جب

تک کافی لوگ مرید نہ ہو جائیں اور جب تک قوت نہ ہو تب تک اس کو مستقل فرقہ ہی ظاہر کرنا مصلحت تھی۔ تاکہ مسلمان، غیر مسلم نام، یا غیر مانوس خلاف اسلام فرقہ سے بدک نہ جائیں۔ اقتدار اور ترقی حکومت کو خوش کرنے سے مل جاتی ہے۔ اس پالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے حکومت کی خوشامد، چاپلوسی اور مسلمانوں سے آہستہ آہستہ علیحدگی اختیار کی۔ چنانچہ اپنے مریدوں کو خطاب کرتے ہوئے لکھا:

”تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہو اور تمہارے عمل ضبط ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو۔ جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور وہ ہر ایک بات میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازعہ کا فیصلہ مجھ سے چاہتا ہے۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۸ حاشیہ، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۷)

قرآن شریف کا حکم

”ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعاً لست منهم فی شیئاً (الانعام: ۱۵۹)“ {بیشک جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے مختلف گروہ۔ نہیں آپ کو ان سے کوئی سروکار۔}

۲۔۔۔ ”اعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا (آل عمران: ۱۰۳)“ {مضبوط تھامے رہو اللہ کی رسی سب مل کر اور مت ہو فرقہ فرقہ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا۔ جب کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ پھر اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں اور تم ہو گئے اس کی (اللہ) مہربانی سے بھائی بھائی۔}

۳۔۔۔۔ اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو ہو گئے۔ فرقہ فرقہ اور باہم اختلاف کرنے لگے۔ بعد اس کے کہ آ چکیں ان کے پاس روشن دلیلیں اور یہی لوگ جنہیں عذاب ہوگا بہت بڑا۔

چنانچہ نقش پاکستان، مفکر ملت، دانائے راز علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں ؎

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت
وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد

مرزا غلام احمد قادیانی نے نئی فرقہ بندی کو جاری کر کے صرف الگ فرقہ ہی تیار نہیں کیا۔ بلکہ ہر شعبہ زندگی میں تفریق کی نئی بدعت وبدعت اختیار کی اور مسلمانوں کے ہر اسلامی طریق اور

مسلمانوں کے مجموعی مفاد کی ہر لحظہ مخالفت کی اور اپنی تفریق پسندی اور غداری کو مشن اسلام بتایا اور سارے عالم اسلام کو ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کافر قرار دیا۔ ملاحظہ ہو:

اختلاف

''حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اکرم ﷺ، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوۃ۔ غرضیکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔'' (خطبہ میاں خلیفہ محمود احمد پسر مرزا غلام احمد قادیانی اخبار الفضل ج ۱۹ مورخہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء)

اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس نئی تفریق و انتشار اور فرقہ بندی کا مجرم کون ہے اور اس جرم کی شرعاً و قانوناً کیا روک تھام ہے؟ مسلمانوں نے اس نئی فرقہ بندی کے خلاف احتجاج کیا تو اس پر تفریق پسندوں نے جو جواب دیا۔ وہ بھی ملاحظہ ہو۔

جرم کا اعتراف اور اس پر باغیانہ اکڑفوں

''کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروؤں کو یہودیوں سے علیحدہ نہیں کیا؟ کیا وہ انبیاء جن کی سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور جن کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا۔ بیشک کیا ہے۔ پس اگر حضرت مرزا صاحب نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کر دیا۔ تو نئی اور انوکھی بات کون سی کی۔''

(اخبار الفضل قادیان ج ۵ نمبر ۷۰ ص ۳ مورخہ ۲ر مارچ ۱۹۱۸ء)

''غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا۔ جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی، دوسرا دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔ غرضیکہ ہر ایک طریق سے ہم کو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) نے غیروں سے الگ کیا ہے۔'' (کلمۃ الفصل ص ۱۶۹ مرزا بشیر قادیانی)

غالباً قائد اعظم اور قائد ملت کا جنازہ اسی وجہ سے فرقہ احمدیہ نے نہیں پڑھا۔

تازہ اور بگڑا ہوا دودھ

"یہ جو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے۔ اوّل تو خدا کے حکم سے تھا اور خدا ہی کی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ (مسلمان) ریاء پرستی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی ایسی حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جو سڑ گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔" (تشحیذ الاذہان ج ۶ نمبر ۸۔ ص ۳۱۶، اگست ۱۹۱۱ئ)

بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم
اک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں

یہ بات ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر کے مسلمانوں کے مذہب اور قوم وعقیدوں کا جو تمسخر اڑایا گیا ہے اور جن عیبوں کی نگاہ میں مسلمانوں کو بدنام کیا وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ تمام دیدہ دلیری انگریزی حکومت کے کھونٹے پر تھی۔ ورنہ مسلمان دینی غیرت اور ملی عقیدوں میں بہت راسخ اور حساس ہے۔ وہ اپنی قومی دل آزاری کو برداشت نہیں کرتا۔ فرقہ احمدیہ کی جو اخلاقی حالت ہے۔ وہ الگ مستقل باب ہے۔ جس پر پھر کبھی ان شاء اللہ بحث کی جائے گی۔ فی الحال صرف نمونہ ملاحظہ ہو۔ خود فرقہ احمدیہ کی اخلاقی حالت پر مرزا غلام احمد قادیانی کیا تبصرہ کرتے ہیں۔

جہاں میں کاش پیدا ہی نہ ہوتے

فرقہ احمدیہ کی مثال

"ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب و پاک دلی و پرہیزگاری و للّٰہی محبت باہم پیدا نہیں کی...... بعض لوگ جماعت (فرقہ احمدیہ) میں داخل ہو کر اور اس عاجز سے توبۃ النصوح کر کے پھر بھی ویسے کج دل ہیں اور اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ مارے تکبر کے سیدھے منہ سے السلام علیکم نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آویں اور انہیں سفلہ اور خودغرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنیٰ ادنیٰ خودغرضی کی بنا پر لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلوں میں کینہ پیدا کر لیتے ہیں...... یہ حالات ہیں جو اس قدر مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ تب دل جلتا اور کباب

ہوتا ہے اور بے اختیار دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں جنگل کے درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے۔ یہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اور ان آنکھوں سے مجھے بینائی کی توقع نہیں ہے۔ میں تو ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ اگر میں اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لئے ان لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا۔" (شہادت القرآن ص ۹۹ تا ۱۰۱ خزائن ج ۶ ص ۳۹۵ تا ۳۹۷)

خلیفہ قادیانی پر الزامات

"موجودہ خلیفہ (فرقہ احمدیہ) سخت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔" (بحوالہ شیخ عبدالرحمٰن مصری سابق ہیڈ ماسٹر احمدیہ سکول قادیان فیصلہ عدالت عالیہ ڈسٹرکٹ لاہور شائع کردہ مولوی محمد علی ایم۔ اے امیر جماعت احمدیہ لاہور مورخہ ۹/دسمبر ۱۹۳۸ئ)

فرانسیسی سینما اور ننگی عورتیں

"جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے یہ خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ دیکھوں۔ مگر قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقعہ نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چوہدری سر ظفر اللہ خاں سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی عریانی سے نظر آئے۔ وہ بھی فرانس سے واقف نہ تھے۔ مگر مجھے اوپیرا میں لے گئے۔ جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اوپیرا سینما کو کہتے ہیں۔ چوہدری صاحب نے کہا یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے۔ جسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے۔ اس لئے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چوہدری صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی تھیں۔"

(بیان خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل ج ۲۱ نمبر ۹۰ ص ۵ مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۴ئ)

فرقہ احمدیہ کے دو حصے ہیں۔ قادیانی احمدی اور لاہوری احمدی۔ اب دونوں کی حالت ملاحظہ ہو:

لاہوری احمدی

"یہ لوگ (لاہوری احمدی) نہ اخلاق کو جانتے ہیں نہ شریعت کو نہ سچے اصول کو نہ کسی آئین اور انسانی حقوق کو۔ یہ سب کو پانی میں حل کر کے نگل چکے ہیں۔ ان کے منہ کی باتیں سنو۔ شکلیں دیکھو۔ تسبیحیں دیکھو تو ملائکہ اور فرشتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اعمال میں ذرا تدبر کی گندوں کی نالیاں بہہ رہی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان کے دل میں زمین کے بہت نیچے گندی نالی بہتی ہے ان کی اولادیں احمدیت یا دین سے ہرگز اچھا تعلق نہیں رکھتیں۔ بلکہ قریباً قریباً بے دین ہیں۔ اس لئے خدا کے الہام میں یہ سب روحانی حقیقت میں لاولد ہیں۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۵۲ ص ۳، مورخہ ۲ مارچ ۱۹۴۳ئ)

قادیانی احمدی

"قادیانی فاضل (مبلغ احمدیت) کی یہ حرکت میرے لئے غیر متوقع نہ تھی۔ کیونکہ قادیانیت کی بنیاد ہی دجل، فریب کاری، کذب اور افتراء پر ہے۔ مگر مولوی اللہ دتہ صاحب (مبلغ احمدیت قادیان) پر واضح رہے کہ قادیانیت کو موت سے بچانے کے لئے یہ حیلے انشاء اللہ کارگر نہ ہوں گے۔" (لاہوری احمدیوں کا اخبار پیغام صلح مورخہ ۱۱ جون ۱۹۴۲ئ)

چار گواہ

کسی الزام کی تائید میں خلیفہ قادیان کی بعض باتوں کا احمدیہ جماعت قادیان کی دوسری احمدیہ پارٹی کی طرف سے جو جواب شائع ہوا۔ ملاحظہ ہو:

"مولانا محمد میں نے اپنے خطبہ میں لکھا تھا کہ لوگوں سے سنا ہے کہ جناب چار گواہوں کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہم سے تو آپ نے نہیں فرمایا۔ تاہم اگرچہ یہ بات درست ہے تو پھر آپ اس کے لئے تیاری فرمالیں۔ ہم صرف چار گواہ ہی نہیں بلکہ بہت سی شہادتیں۔ علاوہ عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں کی شہادت کے ہم خود جناب والا کی شہادت پیش کریں گے۔ اگر ہم ثبوت پیش نہ کر سکیں تو آپ کی بریت ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لئے ذلیل ہونے کے علاوہ ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لئے تیار ہیں۔" ([illegible] بہت بڑا ہے)

(حکیم عبدالعزیز احمدی سیکرٹری انجمن انصار احمدیہ قادیان کا ٹریکٹ)

میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ قادیانی فرقہ کے اخلاقی نمونہ پر تبصرہ کروں۔ مجھے صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ گندہ اور سڑا ہوا وجود کون سا ہے۔ یہ جماعت فرقہ یا مسلمان؟ فیصلہ ناظرین خود

گئیں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ فرقہ احمدیہ نے مسلمانوں سے ہر قسم کے معاملہ میں خود علیحدگی اختیار کی۔ ملاحظہ ہو:

مسلمانوں کی انجمن میں شرکت کرنے سے انکار

"علی گڑھ میں قرآن مجید کی اشاعت کی غرض سے ایک انجمن بنائی گئی۔ وہاں کے جناب سیکرٹری صاحب نے ایک خط بھیجا کہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انجمن میں آپ صاحبان شریک ہوں۔ مگر باوجود مولانا عبدالکریم (مرید مرزا غلام احمد قادیانی) کی کوشش کے حضور (مرزا غلام احمد قادیانی) نے انکار فرمایا۔" (کشف الاختلاف ص ۲۲)

خطرناک عقیدہ

"کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔" (آئینہ صداقت ص ۳۵)

ہندو یا عیسائی

"جو شخص غیر احمدیوں کو رشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا ہے کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو لڑکی دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو۔ مگر تم (فرقہ احمدیہ) سے کافر اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے۔ مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔" (کتاب ملائکۃ اللہ ص ۴۶)

غیر احمدی کا بچہ بھی کافر ہے

"غیر احمدی تو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کے منکر ہوئے۔ اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے۔ لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ وہ تو حضرت مسیح موعود کا منکر نہیں؟ میں سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔"

(انوار خلافت ص ۹۳، مصنفہ مرزا محمود قادیانی)

شرعی نبی

"مولوی صاحب (مولوی نورالدین خلیفہ اول مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ یہ تو

نبوت کی بات ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دیں پھر تو بھی مجھے (مرزا غلام احمد قادیانی کو) ماننے سے انکار نہ ہو۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۹۹ روایت نمبر ۱۰۹)

پکا مسئلہ

"اگر خدا کا کلام سچ ہے تو مرزا قادیانی کو مانے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔"

(بیان نور دین اکمل الفضل ص ۱۲۹)

غیر احمدی کفار ہیں

سوال ... کیا کسی شخص کی وفات پر جو سلسلہ احمدیہ میں داخل نہ ہو۔ یہ کہنا جائز ہے کہ خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے اور مغفرت کرے۔

جواب...... "غیر احمدیوں کا کفر بینات سے ثابت ہے اور کفار کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔" (فتاویٰ متعلق مرزا محمود شاہ، متعلق فرقہ احمدیہ قادیان، اخبار الفضل مورخہ ۶ فروری ۱۹۲۱ء)

فتویٰ عام

"جو شخص مرزا قادیانی کا انکار کرتا ہے۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔" (الفضل قادیان ج ۹ نمبر ۳۰ ص ۳، مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۲۱ء)

تو پھر جنازہ کیسا

"حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) نے صاف حکم دیا ہے کہ غیر احمدیوں کے ساتھ کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں۔ جب کہ ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا۔ تو پھر جنازہ کیسا؟" (اخبار الفضل مورخہ ۱۴ جون ۱۹۱۶ء)

کامل علیحدگی

"یہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارا حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا عمل [illegible] گئی ہے۔ آپ اپنی ساری زندگی میں غیروں (مسلمانوں) کی کسی انجمن کے ممبر بنے۔ نہ ان میں سے کسی کو اپنی انجمن کا ممبر بنایا۔ نہ کبھی ان کو چندہ دیا نہ کبھی ان سے چندہ لیا۔

(کشف الاختلاف ص ۲۳ سرور قادیانی)

(یہ جدا بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کے نام پر ہزاروں مسلمانوں سے چندہ لیا اور چندہ مانگتے رہے) (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۳۴)

مسلم لیگ کی مخالفت

”ہمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مصلح حقیقی اور دنیا کے سچے ہادی حضرت مسیح موعود مہدی آخر الزمان (مرزا قادیانی) کے حضور جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور نے اس کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر فرمائی۔ پس کیا کوئی ایسا کام جسے خدا کا برگزیدہ مامور ناپسند فرمائے۔ مسلمانوں کے حق میں سازگار و بابرکت ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں!

اب بھی اگر مسلمانوں کو اپنی حقیقی نفع و ضرر کی کچھ فکر ہے تو ایسے فضول مشغلے سے باز رہیں۔ جس کے نتائج نہ ان کو دنیا کا نفع دے سکتے ہیں۔ نہ دین کا۔“

(اخبار الفضل مورخہ ۸ جنوری ۱۹۱۴ء)

قائداعظم کی مخالفت

”کیا مسٹر جناح ساری دنیا کے مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے ہیں اور کیا مسٹر جناح اسلامی دنیا کے تمام مفاسد اور خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ کیا مسٹر جناح یا کوئی مسلمان قائد آج پھر ایمان کو پہلی حالت میں قائم کر سکتا ہے۔ جو کہ حالت قرون اولیٰ کی تھی۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۸ مورخہ یکم نومبر ۱۹۴۰ء)

ساری دنیا دشمن ہے

”ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی رکھنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہو جاتا۔ ہمارا دشمن ہے۔“ (تقریر مرزا محمود احمد قادیانی مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۳۰ء)

بڑا آدمی

”لوگ اخباروں میں مضامین دیا کرتے ہیں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا آدمی کون ہے۔ کوئی گاندھی جی کا نام لیتا ہے۔ کوئی اتاترک کا، کوئی مسولینی اور ہٹلر کا، مگر حقیقت میں بڑا وہ

ہے جس پر خدا کا فضل سب سے بڑھ کر ہوا اور وہ اللہ کے رسول کا جانشین حضرت فضل عمر مرزا بشیر الدین احمد (خلیفہ قادیان) ہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۲۶ نمبر ۲۸۱ ص ۳ مورخہ ۱۷ دسمبر ۱۹۳۸ء)

نیا کلمہ کیوں جاری نہ کیا

"ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آخری نبی کے بعد مرزا قادیانی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے تو پھر حضرت مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ (یہ تناسخ کا عقیدہ نہیں تو اور کیا ہے) پس جب بروزی رنگ میں مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہی ہیں جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔"

"ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ اور کوئی آتا تو ضرورت پیش آتی۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۵۸،۱۵۷ مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

محمد رسول اللہ کا مفہوم

"حضرت مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور نبی کی زیادتی ہو گئی ہے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۵۸)

فرقہ احمدیہ کا عقیدہ

سرمۂ چشم تیری خاک قدم بنائے
غوث الاعظم شہ جیلاں رسول قدنی
پہلی بعثت میں محمدؐ ہے تو اب احمدؐ ہے
تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی

(اخبار الفضل ج ۱۰ نمبر ۳۰ ص ۱۰ مورخہ ۱/۱۶ اکتوبر ۱۹۲۲ء)

محمدؐ پھر اتر آئے ہیں ہم میں
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۴۳ ص ۱۳ مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے

"مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۵۸)

ہمارا جلسہ حج ہے

"ہمارا سالانہ جلسہ ایک قسم کا ظلی حج ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۶۴ ص ۵ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۳۲ء)

قادیان مکہ مدینہ

"میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے اور یہاں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی رہتی ہیں۔"

(الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۷۵ ص ۵ مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۲ء)

ہر مرزائی صحابی ہے

"جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ درحقیقت میرے سردار خاتم النبیین کے صحابہ میں داخل ہوا۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۵۸)

شیشہ ہے بغل میں پنہاں ہے
لب پہ دعویٰ ہے پارسائی کا

آمد مسیح

"جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق و اقطار میں اسلام پھیل جائے گا۔" (براہین احمدیہ ص ۴۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

"ایسے زمانے میں صور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جائے گا۔"

(شہادت القرآن ص ۱۰، خزائن ج ۶ ص ۳۱۳)

مسیح کا نزول

"اس پر اتفاق ہوگیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گے اور راستبازی ترقی کرے گی۔"

(ایام الصلح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۱)

نہ رام چندر نہ کرشن نہ عیسیٰ علیہ السلام

"مسیح موعود آگیا ہے اور وہ وقت آتا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رام چندر پوجا جائے گا نہ کرشن نہ عیسیٰ علیہ السلام۔" (شہادۃ القرآن ص ۸۵، خزائن ج ۶ ص ۳۸۱)

اولین فرض مسیح

"مسیح موعود کا اولین فرض استیصال فتن دجالیہ ہوگا۔" (ایام الصلح ص ۱۴۹، خزائن ج ۱۴ ص ۳۱۷)

اسلام کی حمایت

"اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام جو مسیح موعود کو کرنا چاہئے تھا۔ نہ کر دکھایا اور میں یونہی مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔" (اخبار البدر قادیان مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

ناظرین! مسیح کے متعلق ان حوالہ جات کو پڑھ کر اندازہ لگائیں کہ مسیح کا کام تمام قوموں کو اسلام پر اکٹھا کرنا ہے اور آمد کے بعد نہ ہندو رہنے چاہئیں نہ عیسائی۔ بلکہ قوموں کی تفریق بھی نہ رہے گی۔ مگر خود اپنے فرقہ جدیدہ کو چلانے کے لئے مسلمانوں میں ہی مستقل تفریق پیدا کی۔ مرزا قادیانی کے ان اقوال اور متضاد عمل کو دیکھ کر مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا
نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں سے الگ ہونے کے لئے جس قسم کے زہریلے اور دل آزار وتوہین آمیز الفاظ استعمال کئے اور دعوے نبوت کر کے مسلمانوں میں انتشار و تفریق کی گہری خلیج حائل کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر اور ان کے عقائد اور اعمال سے نفرت دلا کر چند آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ختم نبوت کی مقدس مہر کو توڑ کر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو موقع دیا کہ وہ تاج رسالت سے بغاوت کرے اور ناموس رسالت پر حملہ کرے۔ اپنی نبوت کی دوکان چمکائے اور رسول اللہ کے مقدس دین میں نقائص نکالنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو رسول اور

اپنے مریدوں کو نبی اور صحابی قرار دے۔ کاش ایسے دین کے باغی لوگوں کے لئے کوئی قانون بنایا جاتا جو ایسے کذاب اور دجل کرنے والوں کو گرفت کر سکے۔ ملاحظہ ہو: کیسے کیسے نامعقول لوگوں نے دعویٰ نبوت کرنے کی جرأت کی۔

یار محمد نبی

"ایک میرے استاد تھے جو اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں وہ نبوت کے مدعی بن گئے۔ ان کا نام مولوی یار محمد تھا۔ انکو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) سے اتنی محبت تھی کہ اس کے نتیجہ میں ان پر جنون کا رنگ غالب آ گیا۔ ممکن ہے پہلے بھی ان کے دماغ میں کوئی نقص ہو۔ مگر ہم نے یہی دیکھا کہ حضرت مسیح موعود کی محبت بڑھتے بڑھتے انہیں جنون ہو گیا اور وہ حضرت مسیح موعود کی ہر پیشگوئی کو اپنی طرف منسوب کرنے لگے۔"

(ارشاد خلیفہ محمود احمد قادیانی، الفضل قادیان مورخہ کیم جنوری ۱۹۳۴ء)

احمد نور کابلی نبی

"سید احمد نور کابلی، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود مدعی نبوت ہیں اور مخبوط اور بیمار آدمی ہیں۔ پس ان کا نام ہماری طرف کس طرح منسوب کیا جا سکتا ہے۔"

(ارشاد خلیفہ قادیانی، اخبار الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۸۵ ص ۷ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۴ء)

ناظرین! اندازہ لگائیں کہ یار محمد اور احمد نور کابلی مدعیان نبوت ہیں اور فرقہ احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میاں محمود احمد قادیانی ان کے دعویٰ نبوت کی تردید بنا بریں کرتے ہیں کہ بیمار یا جنون میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا نبی نہیں ہو سکتے۔ مگر خود اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام بیماریوں پر کیوں پردہ ڈالتے ہیں۔ ان کی مختصر بیماریاں ملاحظہ ہوں۔

دو مرض

"مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سر درد اور دوران سر...... اور دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں پیشاب کثرت سے آتا اور اکثر دست آتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں تقریباً تیس برس سے ہیں۔" (نسیم دعوت ص ۶۸، خزائن ج ۱۹ ص ۴۳۵)

قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو
خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

۵۰

سوسو دفعہ پیشاب

"میں ایک دائم المرض آدمی ہوں۔۔۔۔ درد سر اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری ذیابیطس جو ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔" (اربعین نمبر ۴ ص ۴، ۵، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۰، ۴۷۱)

حالت مردمی کالعدم

"میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر ابھی بدستور تھا۔ میری حالت مردمی کالعدم تھی۔"

(نزول مسیح ص ۲۰۹ حاشیہ خزائن ج ۱۸ ص ۵۸۷)

نامرد

"جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔"

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۲۰)

اسی طرح ایک اور خط میں لکھا: "ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ بالکل جاتا رہتا تھا۔" (مکتوبات ج ۵ نمبر ۲ ص ۱۳)

نامردی کیسے دور ہوئی

"ایک ابتلاء مجھے شادی کے وقت پیش آیا کہ باعث اس کے میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سی امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔۔۔۔ اس لئے میری حالت مردمی کالعدم تھی۔۔۔۔ اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔۔۔۔ غرض اس ابتلاء کے وقت میں نے جناب الٰہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ دوائیں بتلائیں۔ میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی۔۔۔۔ میں اس زمانہ میں ذہنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا۔ اب گھر میں اپنے تئیں خداداد طاقت میں پچاس مردوں کے قائم مقام دیکھتا۔" (تریاق القلوب ص ۷۵، ۷۶، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۳، ۲۰۴)

کمزوری مردمی کی وجوہات

"اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔" (اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۳۵ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء)

مرض ہیضہ

"میر صاحب! مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔" (حیات ناصر ص ۱۴)

مرض دق (مراق)

مرزا قادیانی فرماتے تھے کہ "مجھے مراق کی بیماری ہے۔" (ملفوظات ج ۸ ص ۴۴۵)

خارجی مراق

"مراق کا مرض حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) کو موروثی نہ تھا۔ بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا۔" (ماہنامہ ریویو قادیان ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۱۰، اگست ۱۹۲۶ء)

مراقی بیوی

"میری بیوی کو بھی مراق ہے۔" (اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۲۱ ص ۲، ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

مراقی بیٹا

"حضرت خلیفۃ المسیح الثانی (میاں محمود) نے فرمایا کہ مجھے بھی مراق ہے۔"

(ماہنامہ ریویو آف ریلیجنز قادیان ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۱۱، ۱۰ اگست ۱۹۲۶ء)

مرض سل

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) کو سل ہو گئی۔ حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔"

{سیرت المہدی ج ۱ ص ۵۵ روایت ۲۶}

بیماری کے لئے استعمال شراب

"مخدومی مکرم حکیم محمد حسین صاحب۔ السلام علیکم! اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خوردنی خود خرید کر ایک بوتل ٹانک وائن (مقوی شراب) کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔" {مرزا غلام احمد کی مجموعہ خطوط امام بنام غلام ص ۵}

مراق کا مریض مسیح

"دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو وہ دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ سو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور دوسرے نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔"

(ملفوظات ج ۸ ص ۴۴۵)

مراق کا مریض

"مالیخولیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں۔" {بیاض نور الدین ص ۲۱۲}

مراق و مالیخولیا

"مالیخولیا جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مالیخولیا کی ایک شاخ۔"

{بیاض نور الدین حصہ اول ص ۲۱۱}

زمانہ بھر میں رسوا کر دیا ہم راز نے مجھ کو
عجب یہ دوستی ہے اور عجب یہ رازداری ہے

جھوٹے نبی اور دجال

مسلمانوں میں انتشار و تفریق پھیلانے کا سبق مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت سے سیکھا اور ان کی تقلید میں ایک الگ فرقہ کی بنیاد رکھی اور انگریزوں کی حمایت کی۔ مسلمانوں کی ہر معاملہ میں مخالفت کی تاکہ انگریز آقا خوش ہو کر انعام و اکرام کی عنایات کرے اور مرزا قادیانی اور اس کا خاندان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرے۔ نیز

انگریزوں سے سیاسی واقتصادی فوائد حاصل کرے۔ یہ خود غرضی کی انتہا تھی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی غداری تھی۔ جس کو مسلمان قوم معاف نہیں کرے گی اور بقول علامہ الیاس برنی حیدرآباد دکن، "مرزا غلام احمد قادیانی نے دین وملت کی صلاح وفلاح کا دعویٰ کر کے کس طرح تخریب وتفرقہ کی سازش کی۔ قادیانیت کا فریب بھی تاریخ اسلام میں یادگار رہے گا اور نتیجہ عبرت آموز ہوگا۔" (قادیانی مذہب ص ۱۱)

مرزا قادیانی آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو جھوٹا کہتے ہوئے ان کی تردید کرتے ہیں۔ مگر خود ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

شریر لوگوں نے دعویٰ پیغمبری کیا

"حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا۔ کئی فرقے عرب کے مرتد ہو گئے۔۔ اور جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔۔ خدا نے حضرت ابوبکر صدیقؓ میں۔۔ برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا۔ اس نے مفسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت وجلال پا کر قتل کیا...... آنحضرت ﷺ کے بعد چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جس کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی... جس شخص کو اس زمانہ کی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا طوفان تھا کہ اگر درحقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کا خاتمہ تھا۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۸۵۳-۴، خزائن ج ۱۷ ص ۱۸۵،۱۸۸)

مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی مدعیان نبوت

"غور کا مقام ہے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نبوت حقہ کی تبلیغ کر رہے تھے...... اس وقت مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے کیا کیا فتنے برپا کئے۔۔۔ ایسا ہی ابن صیاد نے بہت فتنہ ڈالا تھا اور یہ تمام لوگ ہزارہا لوگوں کی ہلاکت کا موجب ہوئے تھے۔" (مکتوبات احمدیہ ص ۱۱۳ ج ۵ نمبر ۲)

تیس دجال

"آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک تیس کے قریب دجال ہوں گے۔"

(ازالہ اوہام ص ۱۸۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

طریقۂ دجال

"دجال کے لئے ضروری ہے کہ نبی برحق کے تابع ہو کر پھر حق کے ساتھ باطل کو ملا دے۔ چونکہ آئندہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے پہلے نبی کے تابع ہو کر دجل کا کام کریں گے تو وہی دجال کہلائیں گے۔" (تبلیغ رسالت ص ۲۰۰، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۴)

ایک لاکھ مرتد

"اور جب نبی کریم ﷺ وفات پا گئے تو اسلام اور مسلمانوں پر مصیبتیں نازل ہو گئیں اور مرتد ہو گئے۔ بہت سے منافقین اور لمبی ہو گئیں زبانیں مرتدوں کی اور نبوت کا دعویٰ کیا ایک گروہ مفسدین نے اور جمع ہو گئے ان کے پاس گنوار لوگ۔ یہاں تک کہ مسیلمہ کے پاس قریب قریب ایک لاکھ جاہل اجڈ جمع ہو گئے۔" (سر الخلافہ ص ۴۰، خزائن ج ۸ ص ۳۳۴)

دوبارہ اسلام کی شان

"اور تو سوچ کیسی حالت تھی۔ مسلمانوں کی خلافت میں اور اسلام ایک جلے ہوئے کی طرح تھا۔ پھر اللہ نے دوبارہ اسلام کی شان قائم کی اور اس کو نکالا ایک گہرے کنوئیں سے اور قتل کئے گئے نبوت کے جھوٹے دعویدار سخت دکھوں کے ساتھ اور ہلاک کئے گئے مرتد۔ چوپاؤں کی طرح۔"
(سر الخلافہ ص ۴۱، خزائن ج ۸ ص ۳۳۵)

ناظرین! اب خود اندازہ فرمائیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کون تھے اور ان کا کیا انجام ہوا۔

یہ تو تمہید کرم ہے دل خوں گشتہ ابھی
دیکھ کیا کیا تجھے یار کے احسان ہوں گے

قادیانی نبوت کا کارنامہ

بعض مسلمان حضرات جن کو فرقہ احمدیہ کی اندرونی اسلام دشمنی کا پوری طرح علم نہیں ہے۔ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ فرقہ مسلمانوں میں مذہبی طور پر تو شامل نہیں ہے۔ مگر سیاسی طور پر اس کی گنتی مسلمانوں میں رہے تو کیا حرج ہے۔ یہ فرقہ سیاسیات میں مسلمانوں کا ساتھ تو دیتا

ہے۔ ایسے حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ اس فرقہ کی انگریز نے اپنی مطلب براری کے لئے پرورش کی اور ممالک اسلامیہ کو ابدی غلامی میں رکھنے کے لئے اس کی حمایت کی تاکہ یہ لوگ مسلمانوں سے الجھتے رہیں اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں اور انگریز کی اطاعت مذہبی طور پر قرآن وحدیث سے ثابت کرتے رہیں اور مسلمانوں سے ہر موقع میں دست گریباں رہیں۔ مسلمان ممالک اسلامیہ اور مسلمانوں کی آزادی کی طرف توجہ نہ دے سکیں گے۔ یہ فرقہ انگریز کی پیداوار ہے۔ جو الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کا پاکستان میں آکاس بیل کی طرح بڑھنا۔ ثمر پاکستان کے لئے کسی وقت بھی خطرہ کا باعث ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خطرناک سازشوں سے [illegible] رکھے۔ آمین) ملاحظہ ہو:

خود کاشتہ پودا

"ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام یہ راقم ہے۔ ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلا جاتا ہے..... قرین مصلحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ و نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیشوا ہوں۔ حضور لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبال کو آگاہ کروں اور یہ ضرورت اس لئے بھی پیش آئی کہ ہر ایک فرقہ جو نئی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو حاجت پڑتی ہے کہ اس کے اندرونی حالات دریافت کرے اور بسا اوقات ایسے نئے فرقہ کے دشمن جن کی عداوت اور مخالفت ایک نئے فرقہ کے لئے ضروری ہے۔ (مگر آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ مصنف) گورنمنٹ میں خلاف واقعہ خبریں پہنچاتے ہیں۔ گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے مجھے اور میری جماعت کو کافر قرار دیا (تو یہ بات انگریز گورنر کو کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ مصنف) میں دعویٰ سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان کرتا ہوں کہ باعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا وفادار اور جانثار یہی فرقہ ہے۔ جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لئے خطرناک نہیں..... میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ فرقہ جدیدہ جس کا میں پیشوا اور امام ہوں۔ گورنمنٹ کے لئے ہرگز خطرناک نہیں..... غرض یہ ایک جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ ہے اور مورد مراحم گورنمنٹ ہیں.. ... سرکار دولتمدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار اور جانثار ثابت کر چکی ہے۔ اس خود کاشتہ پودے

کی نسبت احتیاط، تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۸، ۲۱)

پہلا اجلاس

"جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا باقاعدہ اجتماع جو ۱۸۹۲ء میں منعقد ہوا۔ اس کی کیفیت آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ اس کیفیت میں لکھا ہے کہ آئندہ بھی اس جلسے کے بھی مقاصد ہوں گے کہ اس گورنمنٹ برطانیہ کا سچا شکرگزار اور قدردان بننے کی کوشش اور تدبیریں کی جائیں۔" (لاہوری احمدیوں کا اخبار پیغام صلح ص ۲، مورخہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۴ء)

عاجزانہ ادب

"اے محمود ملکہ معظمہ قیصرہ ہند! ہم عاجزانہ ادب کے ساتھ تیری حضور میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں۔" (تحفہ قیصریہ ص ۵، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۷)

اعلیٰ مقاصد

"آپ محسن گورنمنٹ کا مجھ پر سب سے زیادہ (شکریہ) واجب ہے۔ کیونکہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے تھے۔ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکے۔ اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔" (تحفہ قیصریہ ص ۱۲، ۳۰، خزائن ج ۱۲ ص ۲۸۲، ۲۸۳)

چاپلوسی دعویٰ

"میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے۔ جس نے زمین پر امن قائم کیا ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ (جھوٹ جھوٹ نہیں ہے۔ تکلف کی کیا ضرورت ہے۔ جو قلم میں آتا ہے لکھتے جائیں۔ مصنف) کہ جو کچھ ہم پوری آزادی کے ساتھ اس گورنمنٹ کے تحت اشاعت میں لا سکتے ہیں۔ یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی

ہرگز نہیں کر سکتے۔" (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۴۸، خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

برطانیہ سے سرکشی خدا اور رسول سے سرکشی ہے

"میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ (اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں)" (شہادت القرآن ص ۸۴، خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)

مرزا قادیانی کی اس توہین آمیز تحریر جس میں اسلام کو بدنما خوشامدی مذہب بنا کر انگریز کی چاپلوسی کی گئی ہے۔ علامہ اقبالؒ کا شعر صادق آتا ہے ؎

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من

گورنمنٹ برطانیہ کی وفادار فوج

"بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسی سچی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے۔۔۔ کہ اس کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جس کا ظاہر اور باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا پڑا ہے۔" (تحفہ قیصریہ ص ۱۲، خزائن ج ۱۲ ص ۲۶۳)

عزت کا طالب

"اس عاجز کو وہ اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے۔ جو میں ایسے الفاظ نہیں پاتا جن میں اس اخلاص کا اندازہ بیان کر سکوں۔ اسی سچی محبت اور اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جوبلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصرہ ہند دام اقبالہا کے نام رسالہ بھیجا تھا اور مجھے قوی یقین تھا کہ اس کے جواب سے مجھے عزت دی

جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا موجب ہوگا۔" (ستارہ قیصریہ ص ۳، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۳، ۱۱۴)

ملکہ معظمہ کا واسطہ

"یہ مؤلف تاج عزت ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالہا کا واسطہ ڈال کر گورنمنٹ انگلشیہ کے اعلیٰ آفیسران اور معزز حکام سے باادب گذارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری وکرم گستری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جاوے یا سن لیا جاوے۔" (کشف الغطاء ص ۲، خزائن ج ۱۴ ص ۱۷۹)

انگریزی گورنمنٹ پہ قربان

"بلاشبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی میں فدا ہے اور ہوگا اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے دعاگو ہیں۔" (تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۹۰، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۵۳)

گورنمنٹ انگریزی کا تعویذ و پناہ

"میں اس گورنمنٹ کے لئے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے جو آفتوں سے بچاوے۔" (نور الحق ص ۳۳، خزائن ج ۸ ص ۴۵)

مسلمانوں کی جاسوسی

"قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں۔ جو درپردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں... ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے دفتر میں [illegible]ظ رکھے گی۔" (تبلیغ رسالت ص ۱۰، ج ۵، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۲۷)

خدمات و معاوضہ کا طالب

"میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری ان خدمات کی قدر کرے گی۔" (تبلیغ رسالت ص ۱۱، ج ۱۰، اشتہار مورخہ ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۲۳)

حرز سلطنت انگریزی

"چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا اس گورنمنٹ کی پُرامن سلطنت اور ظلّ حمایت میں دل خوش ہے اور اس کے لئے میں دعا میں مشغول ہوں۔ کیونکہ میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں...... غرض میں گورنمنٹ کے لئے بمنزلہ حرز سلطنت (تعویذ) ہوں۔" (تبلیغ رسالت ج ۶ ص ۶۹، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۷۰، ۳۷۱)

ٹوڈی اول گورنمنٹ انگریزی

"سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنا دیا ہے۔ (۱) والد مرحوم کے اثر نے۔ (۲) گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔ (۳) خدا تعالیٰ کے الہام نے۔" (ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۳ مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۹ء۔ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۴۲، ۱۴۳)

گورنمنٹ انگریزی کے احسان جو در پردہ ہوں گے۔ ان کی تشریح بھی کی جائے گی۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی خدمات کی قدر کی جو راس لگا رکھی ہے اور مسلمانوں اور اسلام کی جس شدومد سے مخالفت جاری کی اس کا صلہ اور سرفرازی پہ کچھ روشنی پڑتی ہے اور خدا تعالیٰ کے الہام کا بھی کچھ کچھ پتہ چلتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

روپیہ کا الہام

"یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنے والا ہو یا اور چیزیں (تشریح ممکن ہے۔ مصنف) تحائف کے طور پر ہوں۔ ان کی خبر قبل از وقت بذریعہ الہام یا خواب کے مجھ کو دے دیتا ہے اور اس قسم کے نشانات پچاس ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گے۔" (حقیقۃ الوحی ص ۳۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۴۶)

تین لاکھ کی آمد

"مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں

سے۔ مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔ اس نے میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔" (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۱)

لفافوں میں نوٹ

"اگر میرے اس بیان کا اعتبار نہ ہو تو بیس برس کے سرکاری رجسٹروں کو دیکھو تا کہ معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔ حالانکہ یہ آمدنی صرف ڈاک کے ذریعہ تک محدود نہیں رہی۔ بلکہ ہزارہا روپیہ کی آمدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان میں آکر دیتے ہیں اور نیز ایسی آمدنی جو لفافوں میں نوٹ بھیجے جاتے ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۱۲، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۱)

علامہ اقبال مرحوم کا اضطراب

علامہ اقبالؒ مرزا قادیانی کی تحریرات کو پڑھ کر بہت مضطرب ہوئے اور مجبوراً مرحوم کو یہ تلخ حقیقت بیان کرنی پڑی۔ فرماتے ہیں: ۔

دولت اغیار را رحمت شمرد
رقص ہا گرد کلیسا کرد و مرد

بدخیال جہادی اور بدقسمت ظالم

"میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے۔ نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں۔ پھر میں خود اپنے آرام کا دشمن ہوں۔ اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مخفی رکھوں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بدخیال جہاد اور بغاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہوں۔ میں ان کو سخت نادان اور بدقسمت ظالم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے۔"

(تریاق القلوب ص ۲۸، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۶)

جہاد قطعی حرام ہے

"یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ (خود کاشتہ پودا۔ مصنف) جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے۔ ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے۔ بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر نہ پوشیدہ طور پر۔ جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے۔"

(تریاق القلوب ص ۳۸۹، ۳۹۰، خزائن ج ۱۵ ص ۵۱۷، ۵۱۸)

نظم جہاد

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ و قتال

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۶، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷)

اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے
دیں کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد
لوگوں کو یہ بتاؤ کہ وقت مسیح ہے
اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے

(درثمین، تحفہ گولڑویہ ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷، ۷۸، ۸۰)

جہاد قطعاً حرام ہے

"ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھے مسیح موعود مانتا ہے۔ اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔"

(ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷، خزائن ج ۱۷ ص ۲۸)

جہاد آئندہ کبھی نہیں ہوگا

"فرقہ احمدیہ کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ نہ صرف جہاد کو موجودہ حالت میں ہی رد کرتا ہے۔ بلکہ آئندہ بھی کسی وقت اس کا منتظر نہیں ہے۔" (الحکم قادیان مورخہ ۷ فروری

۲۰۰۲ئ)

علامہ اقبالؒ کا جواب

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

آں ز ایراں بود و ایں ہندی نژاد
آں ز حج بیگانہ و ایں از جہاد
سینہ ہا از گرمیٔ قرآں تہی
ایں چنیں مرداں چہ امید بہی

یعنی ایرانی نبی بہاء اللہ منکر حج تھا اور ہندی نبی مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کا منکر ہے۔ ان دونوں کے سینے تعلیم قرآن شریف وحرارت ایمان سے خالی ہیں۔ منکران ارکان دین اسلام سے خدمت اسلام کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

نقاش پاکستان علامہ اقبالؒ کا فرمان

علامہ کو مرزا غلام احمد قادیانی منکر جہاد اور فرقہ احمدیہ کی تحریرات پڑھ کر بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے
دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر
لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں
مسجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود و بے اثر
تیغ و تفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں
ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر
باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے
یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش یا کمر
تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی
دنیا کو جس کے پنجۂ خونیں سے ہو خطر
ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے
مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات
اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر

(ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ)

مسیح موعود کے بعد خلیفۃ المسیح

"حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں۔ میں مہدی ہوں اور حکومت برطانیہ میری تلوار ہے۔۔۔۔ عراق، عرب، شام ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دیکھنا چاہتے ہیں۔"

(الفضل قادیان ج ۶ نمبر ۴۲ ص ۹ مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ئ)

(مطلب مصنف یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ انگریزوں کے غلام بن جائیں۔ جس طرح بھی ہو۔ مصنف)

مشترکہ فوائد

"ہمارے فوائد اور گورنمنٹ (برطانیہ) کے فوائد متحد ہو گئے ہیں۔ جہاں یہ گورنمنٹ پھیلتی ہے۔ وہاں ہمارے لئے تبلیغ کا ایک اور میدان کھلتا ہے۔" (الفضل مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۸ئ)

زوال تعلق

"ایک بات جس کا آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس وقت کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلسلہ احمدیہ کا گورنمنٹ سے جو تعلق ہے۔ وہ باقی تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔ ہمارے حالات ہی اس قسم کے ہیں جو کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قدم آگے بڑھانے کا موقعہ ملتا ہے۔"

(الفضل قادیان مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۱۸ئ)

غیر انگریزی ممالک میں امداد

"اگر ہم دیگر ممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برٹش گورنمنٹ ہماری مدد کرتی ہے۔" (برکات خلافت ص ۶۵)

روس میں انگریز کی خدمت

"روس میں اگرچہ میں تبلیغ کے لئے گیا تھا لیکن چونکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش گورنمنٹ

کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ وہاں مجھے لازماً انگریزی حکومت کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔''

(الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۲۵ ص ۵ مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۳ئ)

افغانستان میں جاسوسی

''حکومت افغانستان نے دو احمدیوں پر مقدمہ چلایا کہ وہ برطانیہ کے جاسوس ہیں۔''

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳ مارچ ۱۹۲۵ئ)

برطانیہ کی جاسوس جماعت

''ایک دفعہ برلن (جرمنی) میں احمدیوں نے ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا۔ (یہ تبلیغ کا پہلا زینہ ہے۔ مصنف) اور بڑے بڑے آفیسروں کو ٹی پارٹی میں شمولیت کے لئے دعوت نامے بھیجے اور ایک جرمن وزیر بھی اس پارٹی میں شامل ہوا تو حکومت جرمنی نے اس جرمن وزیر سے جواب طلبی کی کہ برطانیہ کی جاسوس جماعت کی پارٹی میں کیوں شامل ہوئے۔''

(الفضل قادیان مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۳۴ئ)

گورنمنٹ کی پٹھو اور جاسوس جماعت

''ہماری جماعت وہ جماعت ہے جسے شروع سے ہی لوگ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کی پٹھو ہے۔ بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجابی محاورہ کے مطابق ہمیں ٹوڈی کہا جاتا ہے۔''

(خطبہ میاں محمود اخبار الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۸۵ ص ۲ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۳۳ئ)

جاسوس اور ایجنٹ برطانیہ

''پھر یہ خیال کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کی ایجنٹ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس قدر راسخ تھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے مجھ سے یہ سوال کیا؟ کہ ہم علیحدگی میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا انگریزی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ (زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ مصنف) ڈاکٹر سید محمود جو اس وقت کانگریس کے سیکرٹری تھے۔ ایک دفعہ قادیان آئے اور انہوں نے بتلایا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب یورپ کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے سٹیشن سے اتر کر جو باتیں سب سے پہلے کیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے اس سفر یورپ میں یہ سبق حاصل کیا ہے کہ انگریزی گورنمنٹ کو ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے

جماعت احمدیہ کو مزدور کیا جاوے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ احمدی جماعت انگریزوں کی نمائندہ اور ان کی ایجنٹ ہے۔'' (خطبہ میاں محمود خلیفہ قادیان، الفضل ج ۲۳ نمبر ۳۰ ص ۱۰، مورخہ ۹ اگست ۱۹۳۵ء)

ترکی کی شکست پر چراغاں

جب ترکی کو جنگ عظیم میں انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ دن عالم اسلام کے لئے مصیبت اور سوگواری کا دن تھا۔ اس خود کاشتہ پودا نے مسلمانان عالم کی دل آزاری کے لئے قادیان میں جشن منایا۔ ملاحظہ ہو:

''۱۳ تاریخ جب کہ جرمنی کی شرائط منظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذ پر دستخط ہو جانے کی اطلاع قادیان پہنچی تو خوشی اور انبساط کی ایک لہر۔ برقی سرعت کے ساتھ تمام لوگوں کے قلوب میں سرایت کر گئی اور جس نے اس خبر کو سنا۔ شاداں وفرحاں ہوا۔ دونوں سکولوں وانجمن ترقی اسلام اور صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں تعطیل کر دی گئی۔ بعد نماز عصر مسجد مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولانا مولوی محمد سرور (مفتی قادیان) نے تقریر کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی طرف سے گورنمنٹ برطانیہ کی فتح ونصرت پر دلی خوشی کا اظہار کیا اور اس فتح کو جماعت احمدیہ کے اغراض ومقاصد کے لئے نہایت فائدہ بخش بتلایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے مبارک باد کے تار بھیجے گئے اور حضور نے ۵۰۰ روپیہ اظہار مسرت کے طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر گورداسپور کی خدمت میں بھجوایا۔ تاکہ آپ جہاں پسند فرمائیں خرچ کریں۔ پیشتر ازیں چند روز ہوئے تھے کہ ترکی کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں پانچ ہزار روپیہ جنگی اغراض کے لئے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت میں بھجوایا تھا۔'' (اخبار الفضل قادیان ج ۶ نمبر ۳۷ ص ۱، مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۱۸ء)

انگریز کی فتح ہماری فتح ہے

''جماعت احمدیہ کے لئے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اور خوشی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انگریز قوم ہماری محسن ہے اور اس کی فتح ہماری فتح ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسیح موعود کی دعا نہایت زبردست رنگ میں مقبول ہوئی اور صحابہ کی طرح ''یومئذ یفرح المؤمنون۔۔۔۔۔'' کا انعام ہمیں بھی عطا ہوا۔''

(اخبار الفضل قادیان ج ۶ نمبر ۴۲ ص ۹، مورخہ ۳ دسمبر ۱۹۱۸ء)

ترک دشمنی

"ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں (پوچھا کس نے ہے؟ مصنف) کہ ہمارا ترکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے مذہبی خیال سے اس امر کے پابند ہیں کہ اس شخص کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھیں۔ جو حضرت مسیح موعود کا جانشین ہو۔" (قادیانی فرقہ کا ایڈریس گورنر پنجاب مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء)

ایک اعلان

"بذریعہ اس اعلان کے پبلک کو مطلع کیا جاتا ہے کہ قادیان سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی کا عقیدہ نہیں ہے کہ سلطان ترکی خلیفۃ المسلمین ہے۔" (الفضل قادیان مورخہ ۱۲ فروری ۱۹۲۰ء)

پوپ بننے کی خواہش

"میں صرف ہندوستان کے لوگوں کا خلیفہ ہی نہیں (تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ ہندوستان کے خود ساختہ خلیفہ) بلکہ خلیفہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود کا اس لئے خلیفہ ہوں افغانستان کے لوگوں کے لئے۔ (سبحان اللہ کیا خوب ڈھکلا ہے۔ مصنف) عرب، ایران، چین، جاپان، یورپ، امریکہ، افریقہ، سماٹرا، جاوا، انگلستان کے لئے۔ غرضیکہ کل جہاں کے لوگوں کے لئے خلیفہ ہوں۔ اس بارے میں اہل انگلستان بھی میرے تابع ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس پر میری مذہبی حکومت نہ ہو۔" (الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۳۵ ص ۳، ۲۷ نومبر ۱۹۳۴ء)

(انگریز حاکم کو اشارہ کر دیا ہے اب اس کا کام ہے کہ خلیفہ قادیان کو پوپ بنا دے۔ مصنف)

پوپ اور خلیفہ ایک ہیں

"زمانہ وسطی میں تو یہ قاعدہ تھا کہ جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو وہ پوپ کے پاس اپنی بادشاہت کی منظوری کے لئے چٹھی بھیجتا اور جب وہ اسے بادشاہ تسلیم کرتا تب وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا۔ عیسائی اپنا مذہبی پیشوا پوپ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کے نزدیک خلیفہ وقت اس کا مذہبی پیشوا ہے۔ پس جو بادشاہ بھی احمدی ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو خلیفہ وقت کا ماتحت اور اس کا نائب سمجھے گا۔ گو دنیاوی معاملات میں اس کے احکام نافذ نہ ہوں۔ مگر دینی معاملات میں حکومت

احمدی خلیفہ کی ہی ہوگی۔"

(خطبہ میاں محمود مندرجہ الفضل قادیان ج ۲۵ نمبر ۱۹۱ ص ۶، ۷ مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۳۷ء)

ریاست کی خواہش

"احمدیوں کے پاس چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا نہیں۔ جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بناؤ اور جب تک ایسا مرکز نہ ہو۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ اس وقت تک ہم اپنے مطلب کے امور جاری نہیں کر سکتے اور نہ ہی اخلاق کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ نہ پورے طور پر تربیت کی جا سکتی ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ مکہ اور حجاز سے مشرکوں کو نکال دو۔ ایسا علاقہ جب تک ہمیں نصیب نہیں ہوتا جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ مگر اس میں غیر نہ ہو۔ اس وقت تک ہمارا کام بہت مشکل ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔

(خطبہ محمود مندرجہ الفضل قادیان مارچ ۱۹۳۲ء)

بادشاہت کا خواب

"ہم اس وقت تک امن میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہماری اپنی بادشاہت نہ ہو۔ جو ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر غالب آ جائیں۔"

(خطبہ محمود مندرجہ الفضل قادیان مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۳۰ء)

ہندو امپیریلزم کی دور اندیشی

"سب سے اہم سوال جو اس وقت ملک کے سامنے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جاوے۔ کبھی ان کے ساتھ سودے معاہدے، اور پیکٹ کئے جاتے ہیں۔ (یاد رہے کہ ۱۹۱۶ء میں ایک ہندو مسلم پیکٹ ہوا تھا۔ ہندوؤں کی طرف سے گوپال کرشن گوکھلے اور مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جناح قائد اعظم مرحوم نے دستخط کئے تھے۔ مصنف) کبھی لالچ دے کر ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی ان کے مذہبی معاملات کو سیاسیات کا جزو بنا کر اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو الگ قوم تصور کئے بیٹھے ہیں اور دن رات عرب کے گیت گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو ہندوستان کو بھی عرب کا نام دے دیں۔ اس تاریکی اور مایوسی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور محبان وطن کو ایک ہی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک احمدیوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف راغب ہوں گے۔ وہ

قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں جب ہندو قوم بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں احمدیہ قوم (فرقے کی بجائے احمدیوں میں قوم کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ مصنف) کی ترقی بالآخر اسلام حرم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

آؤ! ہم احمدیہ تحریک کا قومی نگاہ سے مطالعہ کریں۔ پنجاب کی سرزمین میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے مسلمانو! خدا نے قرآن مجید میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ میں ہی ہوں۔ آؤ! مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو خدا تم کو قیامت تک نہیں بخشے گا۔ دوزخی ہو جاؤ گے۔ میں مرزا قادیانی کے اس اعلان کی صداقت یا بطالت پر بحث کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرزائی کا عقیدہ ہے کہ:

1. خدا ہے (وقتاً فوقتاً) لوگوں کی رہبری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے۔ جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔

۲..... خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراوٹ کے زمانے میں حضرت محمد (ﷺ) کو نبی بنا کر بھیجا۔

۳..... حضرت محمد (ﷺ) کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس لئے مرزا قادیانی کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں سے ہندوستانی قوم پرستی کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے پر اس کی شردھا اور عقیدت، رام، کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی (زمین) میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد (ﷺ) میں اس کی عقیدت کم ہو جاتی ہے۔

علاوہ ازیں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان میں تھی۔ اب وہ خلافت قادیان میں آ جاتی ہے اور مکہ اور مدینہ اس کے لئے روایتی مقامات رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی احمدی چاہے عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہو۔ وہ روحانی تسکین کے لئے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی زمین اس کے لئے پنیہ بھومی (سرزمین نجات) ہے اور اسی میں ہندوستان کی فضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہر احمدی کے لئے ہندوستان میں پریم ہو گا۔ کیونکہ قادیان

ہندوستان میں ہے۔ مرزا قادیانی بھی ہندوستان میں تھے اور اب جتنے خلیفے اس فرقہ کی رہبری کر رہے ہیں۔ سب ہندوستانی تھا۔

اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب مرزائی قرآن کو الہامی مانتے ہیں تو پھر اسلام سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟! اس کا جواب سکھوں کی موجودہ ہندوؤں سے علیحدگی ہے۔

گورو گرنتھ صاحب میں رام، کرشن، اندر، وشنو سب ہندو دیوی دیوتاؤں کا ورنن (ذکر) آتا ہے۔ مگر کیا سکھوں نے رام کرشن کی مورتیوں کا کھنڈن نہیں کیا۔ گوردواروں سے رامائن اور گیتا کا پاٹھ نہیں اٹھا دیا۔ کیا سکھ آپ کو ہندو کہلانے سے انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ زمانہ دور نہیں جب احمدی برملا کہیں گے۔ صاحب ہم محمدی مسلمان نہیں۔ ہم تو احمدی مسلمان ہیں۔ کوئی ان سے سوال کرے گا کیا تم محمد (ﷺ) کی نبوت کو مانتے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمد (ﷺ)، عیسیٰ (علیہ السلام)، رام، کرشن سب کو اپنے اپنے وقت کا نبی مانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہندو، عیسائی یا محمدی ہو گئے۔

یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمدی تحریک کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تحریک اور اسلام کی دشمن ہے۔ خلافت تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ کیونکہ وہ خلافت کو ترکی یا عرب میں قائم کرنے کی بجائے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہر وقت پان اسلامزم یا پان عربی سلطنت (اتحاد) کے خواب دیکھتے ہیں۔ کتنی ہی مایوس کن ہو۔ مگر ایک قوم پرست ہندو کے لئے باعث مسرت ہے۔" (مضمون ڈاکٹر شنکرداس مہرہ بی۔ ایس۔ سی۔ ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی مندرجہ لالہ لاجپت رائے کا اخبار بندے ماترم مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۲ء)

مسلمانوں کی طرف سے بیداری کا ثبوت

اس بات پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہندوستان میں برطانوی امپیریلزم آئندہ جگہ چھوڑ کر جس مسند پر ہندو امپیریلزم کو بٹھانا چاہتا تھا۔ اس لئے انگریز جاتے جاتے خود کاشتہ پودے کو ہندو مالی کے سپرد کرنا چاہتا تھا اور ہوا بھی یہی۔ مسلمانوں نے گہری نیند سے کروٹ لی اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مرحوم جسٹس مرزا ظفر علی کو اور مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ کو جنہوں نے علامہ اقبالؒ کو توجہ دلائی۔ چنانچہ جسٹس سر ظفر علی ریٹائرڈ جج ہائیکورٹ پنجاب، گورنر پنجاب مسٹر ایمرسن کو ملے اور علامہ اقبالؒ کے جرأت مندانہ فیصلے نے مسلمانوں کو اپنے مار آستین سے آگاہ

کیا۔ چنانچہ علامہ اقبالؒ اور چوہدری فضل حق مرحوم سابق ایم۔ ایل۔ سی کی کوششوں سے مرزا محمود خلیفہ قادیان کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے بنابریں برطرف کیا گیا کہ مسلمانوں کی انجمن کا کوئی مرزائی رکن نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ مرزائی جماعت یعنی فرقہ احمدیہ نے مسلمانوں سے ہر معاملہ میں خود علیحدگی اختیار کر کے مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی رشتوں پر نمک پاشی کی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی مسٹر جلال الدین شمس مرزائی کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی سیکرٹری شپ سے بھی برطرف کر دیا گیا اور تمام مرزائی ممبر اس اسلامی انجمن سے نکال دیئے گئے اور بعد ازاں انجمن حمایت اسلام لاہور جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تعمیری انجمن ہے۔ اس کی رکنیت سے مرزائی ممبروں کو نکالا گیا۔ اسی طرح پنجاب کی تمام اسلامی انجمنوں نے مرزائیوں سے اپنے وجود کو پاک کر لیا۔

مجلس احرار اسلام ہند نے مختلف مقامات پر جلسے کر کے لوگوں کو اس فرقہ احمدیہ کی اندرونی منافقتوں سے آگاہ کیا۔ اخبار زمیندار اور احسان اور مولانا مرتضیٰ احمد خان کی کوششیں اس کارِ خیر میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں میں بیداری یہاں تک بڑھی کہ جناب مسلم لیگ نے بھی مرزائیوں کو مسلم لیگ سے خارج کر دیا۔ چنانچہ مرزائی مسلم لیگ کے اس فیصلہ پر بہت تلملائے۔ ملاحظہ ہو:

مسلم لیگ کا اعلان

"مسلم لیگ اعلان کر چکی ہے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کو خدا تعالیٰ کا مامور اور راست باز مانتا ہے وہ (مسلم لیگ) مسلمان نہیں سمجھتی اور نہ اپنے ساتھ سیاست میں اس وقت تک شامل کرنے کو تیار ہے۔ جب وہ احمدی ہونے سے انکار نہ کر دے۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۴۳ء)

مسلم لیگ کا حلف نامہ

"اب تو مسلم لیگ نے بھی جس کے ممبر آزاد خیال اور روادار سمجھے جاتے تھے اور ہندوستان کی ذہنی روح تصور کئے جاتے تھے ایک حلف نامہ تیار کیا ہے کہ جو ان کی (مسلم لیگ) طرف سے اسمبلی کے لئے امیدوار کھڑا ہو وہ یہ حلف اٹھائے کہ میں اسمبلی میں جا کر احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت منظور کروانے کی کوشش کروں گا۔"

(لاہوری احمدیوں کا اخبار پیغام صلح مورخہ ۱۸ دسمبر ۱۹۴۶ء)

آپ حیران ہوں گے کہ مسلم لیگ جیسی سیاسی جماعت نے آخر یہ انتہا پسندانہ اقدام

کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ احمدیہ نے اگرچہ مذہب کی اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے۔ مگر یہ کوئی فرقہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہب کی آڑ میں سیاست پہ چھا جانا چاہتا ہے۔ اپنی خوشامدانہ باتوں سے اقتدار پہ چھاپہ مارنا چاہتا ہے اور جوں جوں اس فرقہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا۔ اس نے اپنے وار کا رخ مسلمانوں پر ہی کیا اور جس مذہب اور قوم سے نشوونما حاصل کی۔ اسی کی ہی جڑ کاٹنے کی ناکام کوشش کی۔ مگر اسلام کا اللہ حافظ تھا۔ مسلم لیگ پہلے اس فرقہ کے پرفریب اعلانات پر دھوکہ کھا گئی تھی۔ مگر جب مسلم لیگ نے قریب ہو کر دیکھا کہ یہ فرقہ مسلمان کا ہی جانی سیاسی و اقتصادی دشمن ہے تو مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ اس فرقہ کو مسلمانوں کے نام پہ سیاسی فوائد حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں اور یہ بات مسلم لیگ نے اس فرقہ کے اسلام دشمن رویہ سے محسوس کی اور پابندی اور حلف نامہ کا اقدام کیا۔ یہ فرقہ انگریزی سامراج کے قائم مقام ہندو سامراج سے اندرونی طور پر آنکھیں ملا چکا تھا اور ہے مسلم لیگ نے اس فرقہ کو کھلا کانگریس اور ہندو کا ایجنٹ بنتے دیکھا۔ ۱۹۳۶ء میں اس فرقہ کے لیڈروں نے قادیان میں کانگریس کے لیڈروں کو بلا کر تقاریر کروائیں اور ان جلسوں میں مسلم لیگ کی بڑی شدومد سے مخالفت کی گئی۔ چنانچہ ان دنوں پنڈت جواہر لال نہرو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر تھے اور انہوں نے مسلم ماس کنٹیکٹ تحریک چلائی تھی کہ مسلمانوں کو کانگریس میں پھنسایا جاوے۔ چنانچہ قادیان میں مسز لاڈو رانی زتشی مشہور کانگریسی لیڈر اور ان کے ہمراہ چند پنجاب کے کانگریسی لیڈروں کو بلایا اور شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ امیر جماعت احمدیہ لاہور کو اس جلسہ کا صدر بنایا گیا۔ جو کہ مرزائیوں کا مشہور وکیل تھا اور خلیفہ قادیان میاں محمود احمد کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس جلسہ میں فتح محمد سیال مرزائی ناظر اعلیٰ قادیان نے بھی تقریریں کیں۔ اس جلسہ میں جی بھر کے مسلمانوں اور مسلم لیگ کے خلاف گند اچھالا گیا۔

ادھر مسلمانوں نے مسلم ماس کنٹیکٹ تحریک کی سخت مخالفت کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو صدر آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے پنجاب کا دورہ کیا تو مسلمانوں نے اس کے دورہ کا بائیکاٹ کیا۔ مگر قادیانی فرقہ نے اس کا پرجوش استقبال کر کے اپنے اخبار میں فخر کے ساتھ روئیداد شائع کی۔ ملاحظہ ہو:

صدر کانگریس کا شاندار استقبال

"علی الصباح چھ بجے تمام باوردی (قادیانی) والنٹیئرز باقاعدہ مارچ کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں [illegible] ہو رہا تھا۔ ہر شخص کی آنکھیں اس طرف اٹھ رہی تھیں۔ استقبال کا تقریباً تمام انتظام (قادیانی) کور کر رہی تھی اور کوئی (مسلم)

آرگنائزیشن اس موقعہ پر نہ تھی۔ سوائے کانگریس کے ڈیڑھ دو درجن والنٹیروں کے اسٹیشن سے لے کر جلسہ گاہ تک اور پلیٹ فارم پر انتظام کے لئے ہمارے والنٹیرز موجود تھے۔ پلیٹ فارم پر جناب چوہدری اسد اللہ خان صاحب بیرسٹر ایم۔ ایل۔ سی قائد اعظم آل انڈیا نیشنل لیگ کور موجود تھے..... (اب چوہدری صاحب اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل ہائیکورٹ پنجاب ہیں اور چوہدری ظفر اللہ خان کے بھائی ہیں۔ مصنف) اور باہر جہاں پنڈت جی نے آکر کھڑا ہونا تھا۔ جناب شیخ صاحب موجود تھے۔ ہجوم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت جی کی آمد کے وقت مجمع میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا اور لوگوں نے صفوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ مگر ہمارے والنٹیروں نے قابل تعریف ضبط اور نظم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ شیخ بشیر احمد صاحب صدر آل انڈیا نیشنل لیگ (قادیان) نے لیگ کی طرف سے آپ کے گلے میں ہار ڈالے۔ کور کی طرف سے حسب ذیل موٹو جھنڈوں پر خوبصورتی سے آویزاں تھے۔

1- Beloved of the nation, Welcome you.

2- We join in civil liberties Union.

3- Long live Jawahir Lal.

کور کا مظاہرہ ایسا شاندار تھا کہ ہر شخص اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا شاندار نظارہ لاہور میں کم دیکھنے میں آیا۔

کانگریسی لیڈر کور کے ضبط اور ڈسپلن سے صد درجہ متاثر ہوئے اور بار بار اس کا اظہار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک لیڈر نے جناب شیخ صاحب سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یقیناً ہماری فتح ہوگی۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۲۳ نمبر ۲۷۸ ص ۲، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۳۶ء)

عام مرزائیوں کے اعتراضات

خلیفہ قادیان میاں محمود احمد پسر مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت نے کانگریس سے ساز باز حالات کے بدلتے ہوئے رخ کو دیکھ کر کی۔ کہ انگریز ہندو کے ہاتھ میں اقتدار دے کر جائے گا اور کانگریس کو اقتدار حاصل ہوگا۔ تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ مگر عام مرزائیوں کو اس ساز باز کا علم نہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اعتراض کئے کہ کانگریس کی مخالفت احمدیت کا جزو تھا۔ جواہر لال نے یورپ سے یہ سبق حاصل کر کے آیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے ختم کرنے کے لئے برطانیہ کی اس جاسوس جماعت کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ بات ڈاکٹر سید محمود سیکرٹری کانگریس نے خلیفہ قادیان

سے

میں ملاقات کے دوران میں جواہر لال نہرو کا خیال بتایا تھا۔ پھر اس کے باوجود اس کا شاہانہ استقبال کیوں کیا گیا ہے۔ یہ مسیح موعود کی توہین ہے اور مرکزی جماعت احمدیہ کی مٹی پلید ہوئی ہے اور ہم دنیا میں شرم کے مارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور یہ ابن الوقتی ہمیں ذلیل کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح نے جو جواب دیا ملاحظہ ہو:

جواہر لال کا استقبال اچھی بات ہے

”اگر پنڈت جواہر لال نہرو یہ اعلان کر دیتے کہ احمدیت کو مٹانے کے لئے وہ اپنی طاقت خرچ کریں گے۔ جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس قسم کا استقبال بے غیرتی ہوتا۔ لیکن اگر اس کے خلاف قریب کے زمانہ میں پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبالؒ کے ان مضامین کا رد لکھا ہو جو انہوں نے احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیئے جانے کے لئے لکھے ہیں اور نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر اعتراض اور احمدیوں کو الگ کرنے کا سوال بالکل فضول ہے اور ان کے گزشتہ رویہ کے خلاف ہے تو ایسے شخص کا استقبال جب کہ وہ صوبہ میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہو تو ایک سیاسی انجمن (نیشنل لیگ کور قادیان) کی طرف سے بہت اچھی بات ہے۔“ (خطبہ جمعہ میاں محمود، مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۰ جون ۱۹۳۶ء)

عیاں بات

اس امر پہ حیرانی کی کوئی وجہ نہیں کہ جواہر لال فرقہ احمدیہ کو برطانوی جاسوس سمجھتا ہو۔ بھی کیوں اس فرقہ کی پشت پناہی پہ کمربستہ ہوا۔ بات واضح ہے کہ ہندو امپیریلزم برٹش امپیریلزم کی جگہ لے رہا تھا اور ہندو، انگریز اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتا تھا۔ لہٰذا اس پودے کی ”پرورش“ داشتہ بکار آید ”ضروری تھی۔

اس جبر پہ تو ذوقِ بشر کا یہ حال ہے
نہ جانے کیا کرے جو خدا اختیار دے

قادیانی کا تجارتی معاہدہ

قادیان میں جہاں فرقہ احمدیہ کی اکثریت تھی۔ اس کی مردم شماری ۱۹۳۱ء میں تقریباً حسب ذیل تھی۔

مرزائی .... ۷۰۰۰ سات ہزار

(اہل سنت) مسلمان	۲۳۰۰	دو ہزار تین سو
ہندو، سکھ	۱۰۰۰	ایک ہزار
دیگر چوہڑے عیسائی	۸۰۰	آٹھ سو

قادیان میں فرقہ احمدیہ نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کا تجارتی واقتصادی بائیکاٹ کر رکھا تھا اور اپنی سیاسی چالاکی سے ایک معاہدہ شرائط لکھا کر سودا خریدتے تھے۔ یہ ایک قسم کا لائسنس ہر غیر مرزائی کو جو مرزائیوں کے پاس سودا فروخت کرنا چاہے۔ ان سے لینا پڑتا تھا۔ جو یہ تجارتی معاہدہ کا بورڈ نہ لے اس سے کوئی مرزائی سودا نہیں خریدتا تھا۔ اگر کوئی مرزائی بھولے سے غیر مرزائی سے سودا خریدے تو اس کو میاں محمود خلیفہ ثانی کی نظارت کی طرف سے جرمانہ کی سزا دی جاتی تھی۔ اس طرح مرزائی سی۔ آئی۔ ڈی عام بازاروں میں پھر کر ٹوہ کرتی کہ کون سا مرزائی غیر مرزائیوں سے سودا خریدتا ہے۔ چنانچہ اس لائسنس یا بورڈ کی شرائط حسب ذیل تھیں۔

شرائط معاہدہ

”قادیان کی جماعت احمدیہ نے جو معاہدہ ترقی تجارت تجویز کیا ہے۔ مجھے منظور ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت احمدیہ کا خیال رکھوں گا اور جو حکم ناظر امور عامہ دیں گے اس کی بلا چوں و چرا تعمیل کروں گا۔ نیز جو اور ہدایات وقتاً فوقتاً جاری ہوں گی۔ ان کی بھی پابندی کروں گا۔ اگر میں کسی حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ تجویز ہوگا وہ ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میرا جو جھگڑا احمدیوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمدیہ (قادیان) کا فیصلہ میرے لئے حجت ہوگا اور ہر قسم کا سودا احمدیوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۲۰ روپے سے لے کر ۵۰ روپیہ تک جرمانہ ادا کروں گا اور میں روپیہ پیشگی جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپیہ ضبط ہو جاوے تو مجھے اس کی واپسی کا حق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی مخالفت مجلس میں شریک نہ ہوں گا۔ شرائط معاہدہ تجارتی لائسنس جاری کردہ ناظر امور عامہ قادیان۔“

مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان

ملکی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ انگریز بین الاقوامی طور پر مجبور ہو رہا تھا کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے جن پر اس کا جبری قبضہ تھا۔ اپنا تسلط اٹھا لے اور ان ملکوں کو آزاد کر

دے۔ ہندوستان میں ۱۹۴۲ء کی کانگریس تحریک نے انگریز کو جان کنی کی حالت میں کر دیا تھا اور قریب تھا کہ انگریزی سامراج کی جگہ ہندو سامراج متحدہ ہندوستان پر قبضہ جمالے۔ قائد اعظم کی دوربین نگاہوں نے کانگریس کی ہوشیاری کو بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ مسلمانان ہند نے ان کی قیادت میں ۱۹۴۰ء میں پاکستان کی تحریک کو زور شور سے پیش کیا۔ انگریزی سامراج کی بجائے ہندو سامراج ترقی کر رہا تھا۔ میاں محمود کو اس کشمکش میں مسلمانوں کا ساتھ دینا منظور نہ تھا۔ کیونکہ انگریز خود پاکستان کو مسلمانوں کے مطالبے کے مطابق مسلم سلطنت بنانے کے لئے تیار نہ تھا۔ کیونکہ انٹرنیشنل طور پر اسلامی بلاک بننے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس نے چپ سادھ لی اور اپنے خود کاشتہ پودے کے کان میں پھونک دیا کہ اب میری بجائے کانگریس کو آنے والی قوت سمجھو اور اس کی پوجا کرو۔ فرقہ احمدیہ کا خلیفہ اس بات کو سمجھ گیا۔ اس کا تو شروع سے مسلمانوں کی ہر بات میں مخالفت شیوہ تھا۔ چنانچہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مطالبہ پاکستان کا جو ایک زبردست تحریک عملی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کس طرح مخالف ہو۔ کیونکہ اس طوفانی تحریک میں اس کا نقصان پہنچ جانے کا امکان بھی تھا۔ ادھر مسلم لیگ کے نعرے گلی کوچوں، بازاروں، جلسے جلوسوں بلکہ سول نافرمانی کی تحریک تک پہنچ چکے تھے اور مسلمانوں نے ہر قسم کی جانی، مالی قربانی کے پیش نظر ہر شہر میں ایکشن کمیٹی قائم کی۔ ملک میں پاکستان کے حق میں عام جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ بعض جگہ شرارتی ہندوؤں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے فسادات شروع کر دیئے۔ تاکہ مسلمان اپنے نقصان سے ڈر کر اس مطالبہ سے باز رہیں۔ چنانچہ کئی جگہ بلوے ہوئے۔ امرتسر میں زبردست فساد ہوا۔ چنانچہ اس وقت اس دشمن پاکستان فرقہ کے خلیفہ میاں محمود نے محض ہندوؤں کو خوش کرنے کے لئے قادیان میں خطبہ دیا۔ ملاحظہ ہو:

مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا جائے

”اس ایجی ٹیشن قانون شکنی اور سٹرائک میں احمدیوں کو مسلم لیگ کا ساتھ نہ دینا چاہئے۔“ (خطبہ محمود، الفضل قادیان ج ۳۵ نمبر ۲۷ ص ۲ مورخہ یکم فروری ۱۹۴۷ء)

پاکستان کا مطالبہ غلط ہے

”ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی بار کہی ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہر تقسیم اصولاً غلط ہے۔“ (بیان خلیفہ محمود مندرجہ الفضل قادیان مورخہ ۱۳ اپریل

۱۹۴۷ء)

گاندھی جی سے ہم بستری

"میں نے دیکھا کہ گاندھی جی مجھ سے ملنے آئے ہیں اور وہ میرے ساتھ ایک ہی بستر پر سو گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مل کر رہنے میں فائدہ ہے۔"

(خواب میاں محمود مندرجہ الفضل قادیان ج ۳۵ نمبر ۸۷ ص ۲ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۴۷ء)

اکھنڈ ہندوستان رہے

"ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔ تاکہ ملک کے حصے بخرے نہ ہوں۔ بے شک یہ کام مشکل ہے۔ مگر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد رہیں۔ تاکہ احمدیت اس وسیع بیس میں ترقی کرے۔ چنانچہ اس رؤیا (خدائی اشارہ) میں اس طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے عارضی طور پر افتراق ہو۔ (میاں محمود پاکستان بننے کا نام افتراق رکھتے ہیں۔ اس لئے جماعت احمدیہ کا الہامی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا وجود عارضی ہے) اور کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا جدا رہیں۔ مگر یہ حالت عارضی ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۳۵ نمبر ۸۱ ص ۳ مورخہ ۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

متحدہ ہندوستان

"اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے۔ اگر عارضی علیحدگی ہو تو یہ اور بات ہے۔ ہندوستان کی تقسیم پر ہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائے۔"

(بیان خلیفہ محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۳۵ نمبر ۱۱۲ ص ۲ مورخہ ۱۴ مئی ۱۹۴۷ء)

ہندو لیڈروں کے بیانات

مندرجہ جس قدر خلیفہ قادیان کے بیانات ہیں۔ یہی بات ہندو لیڈر اور ماسٹر تارا سنگھ کہتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان غلط ہے۔ دوبارہ متحد ہونا چاہئے اور پاکستان پر حملہ کر دینا چاہئے۔ سوچنے والا آسانی سے اس بات کو پا سکتا ہے کہ خلیفہ صاحب کا منشا کیا ہے۔

انجمن کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی

ے ے

انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی

مگر اتحادی یونینسٹ کے لیڈروں نے میاں محمود کے بیانات پر دھوکہ کھایا اور باوجود اس کے کہ مرزائیوں نے باؤنڈری کمیشن کے روبرو ایک میمورنڈم پیش کیا کہ قادیان کے مرزائی پاکستان و ہندوستان میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ مگر یہ میمورنڈم مسترد کر دیا گیا اور مرزائیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

انگریزی حکومت کا مطالبہ پاکستان کو تسلیم کر لینے سے پیشتر فرقہ احمدیہ کے چیف میاں محمود نے انگریزوں کی حکومت کو اپنی پرانی وفاداری کا واسطہ دے کر یہ مطالبہ کیا کہ جاتے جاتے ان کے حقوق بطور اقلیت [illegible] کئے جائیں۔ مگر مرزائیوں کو اس جگہ بھی بری طرح ناکامی ہوئی۔ ملاحظہ ہو:

پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

احمدی اقلیت تسلیم کی جاوے

"میں نے ایک نمائندہ کی معرفت ایک بڑے ذمہ وار انگریز آفیسر کو کہلوا بھیجا کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں۔ جس پر اس آفیسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک مذہبی فرقہ۔ اس پر میں نے کہا کہ پارسی اور عیسائی بھی تو مذہبی فرقہ ہیں جس طرح آج ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی کئے جائیں۔ تم ایک پارسی پیش کر دو۔ میں اس کے مقابلہ میں دو دو احمدی پیش کر دوں گا۔"

(الفضل قادیان مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء)

مارچ ۱۹۴۷ء میں متحدہ ہندوستان و پنجاب میں فسادات زور و شور سے شروع ہو گئے۔ مرزائیوں نے جواہر لال، چندو لال ترویدی، گورنر مشرقی پنجاب اور گاندھی جی کے پاس پہنچ کر کہا کہ پاکستان کے مسلمان، جن کو ہم ساری عمر کافر کہتے رہے ہیں اور ان کی ہر بات میں مخالفت کرتے رہے۔ وہاں ہمیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حکم جاری کر دو کہ ہمیں قادیان سے نہ نکالا جائے۔ مگر ہندو سکھ لیڈروں سے بھی ندامت اٹھانی پڑی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور چار و ناچار پاکستان میں پناہ لینی پڑی اور مسلمان قوم کے ہی قدموں میں گرنا پڑا۔ مسلمان نے لاتثریب علیکم الیوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہہ دیا اور مسلمانان اس رعایت سے مرزائیوں نے بے شمار اثاث منقولہ پر ہاتھ صاف کیا۔

قادیان کے متعلق فرقہ احمدیہ نے اکثر ڈینگ ماری ہے کہ ہمارے پاس ہوائی جہاز تھے۔ اسلحہ تھا۔ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ سو یہ مرزائیوں کا کھلا جھوٹ ہے۔

ملاحظہ ہو:

تشویشناک حالات

" پہلے سکھوں نے اردگرد کے دیہات پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مار بھگایا (اور قادیانی تماشہ دیکھتے رہے۔ مصنف) اور ان کے مال و متاع کو لوٹ کر جلا دیا۔ پھر قادیان کا رخ کیا۔ حکومت کی مدد سے رسل و رسائل کے تمام اسباب منقطع کر دیئے۔ یہاں تک کہ قادیان کے وہ ہوائی جہاز جو اردگرد کی خبر لاتے تھے اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی بہت کچھ مدد کرتے تھے۔ (یہاں مسلمانوں سے مراد فرقہ احمدیہ ہے) ان کی پرواز بھی ممنوع قرار دے دی گئی۔

اسی اثناء میں سکھوں نے مختلف محلوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور جن مقامات سے عورتوں اور بچوں کو نکال [redacted] مقامات پر پہنچایا گیا تھا ان پر قبضہ کر لیا۔ خان بہادر نواب محمد دین سابق ڈپٹی کمشنر (جس نے میاں محمد ممتاز دولتانہ صدر مسلم لیگ موجودہ وزیر اعظم پنجاب کا ۱۹۳۶ء کے الیکشن میں مشرقی ٹکٹ پر مقابلہ کیا تھا اور بری طرح شکست کھائی۔ مصنف) و سابق وزیر چودھری کا گھر لوٹ لیا گیا اور بھی کئی گھروں سے ہزاروں روپے کی مالیت کے زیورات نکال لیے گئے۔

ان حالات کے پیش نظر خلیفہ صاحب قادیان نے اپنا مرکز جودھامل بلڈنگ لاہور میں تبدیل کر لیا ہے اور اس کا نام احمدیہ پاکستان مرکز رکھا گیا ہے۔ اس جگہ قادیان سے آئے ہوئے پناہ گزین فروکش ہیں اور اخبار الفضل یہیں سے شائع ہوتا ہے۔

جہاں تک احمدیہ مرکز پاکستان اور معاصر " الفضل " کی شائع کردہ اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے۔ حالات روبہ اصلاح ہونے کی بجائے دن بدن اور خطرے کا باعث ہو رہے ہیں۔ جو بہت تشویشناک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہمیں قادیان کے ساتھ بوجہ حضرت مسیح موعود کا مولد و مدفن ہونے اور بہت سے نیک لوگوں کی آرام گاہ ہونے اور اس نور کا سرچشمہ ہونے کے جو خدا کے مامور نے دنیا میں پھیلایا اور اسلام کو دنیا کا غالب مذہب ثابت کیا۔ دلی محبت ہے اور ہم خلیفہ صاحب قادیان سے جو حضرت مسیح موعود کے نام لیوا ہیں۔ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کی حفاظت میں ان کی ہمتوں اور کوششوں میں برکت دے

اور ان کو قاتلوں اور درندوں کی دست برد سے بچائے۔"

(لاہوری احمدیوں کا اخبار پیغام صلح مورخہ یکم اکتوبر ۱۹۴ئ)

قادیان میں قتل وغارت

"افسوس ہے کہ قادیان کے حالات دن بدن زیادہ ابتر ہوتے جارہے ہیں۔ تازہ اطلاعات سے یہ معلوم کر کے حد درجہ افسوس ناک ہے کہ جناب میاں محمود احمد خلیفہ قادیان کا مکان، بیت الحمد اور چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی کوٹھی لوٹ لی گئی۔ محلہ دارالرحمت اور دارالانوار میں قتل وغارت کا بازار گرم کیا گیا۔ جس میں کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ دو صد آدمی شہید ہوئے۔ مسجد میں گردونواح کے ہندو مکانات سے بم پھینکے گئے۔ جس سے دو آدمی شہید ہوئے۔"

(لاہوری احمدیوں کا اخبار پیغام صلح مورخہ ۸ اکتوبر ۱۹۴ئ)

قادیان چھوڑنے کے تاثرات

"ہم نے انڈین یونین کو اپنی پرانی روایات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ قادیان ہمارا مذہبی مرکز ہے۔ ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے اور عہد کرتے ہیں کہ ہم حکومت کے پورے پورے فرمانبردار رہیں گے...... ہمارا یقین دلانے اور عہد کرنے کے باوجود ملٹری اور پولیس نے قادیان کے نواحی محلوں پر حملے شروع کر دیئے۔

حالات اس قدر نازک صورت اختیار کر گئے کہ عاشقان احمد کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ ...اور اس قدر انہیں صدمہ ہوا کہ ہجرت کے بعد سلسلہ کے بزرگ اور حضرت مسیح موعود کے بعض صحابہ اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے حقیقی مولا سے جا ملے۔ انا للّٰہ وانا الیہ راجعون...... اے کاش انڈین یونین میری بات کو سمجھے کہ احمدیوں نے قادیان اور قادیان والوں کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑا ہے۔ اب وہ ان کو چھوڑ کر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔" اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبد المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید"

(الفضل قادیان ج۲ نمبر ۱۱۸ ص ۲ مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۴۸ئ)

فرقہ احمدیہ کے ان پوشیدہ عزائم کی تکمیل کے لئے خاص خطہ یا علاقہ ہو تو ہی یہ لوگ کوئی خفیہ سازش کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان کی ہر حرکت کا عوام الناس اور حکومت وقت کو پتہ چل سکتا ہے۔ وہی آرزو کا وہ اظہار کر بھی چکے ہیں کہ ان کے لئے علاقہ ہونا چاہئے۔ شاید انہیں امور کی تکمیل کے لئے ربوہ ضلع جھنگ میں بنایا گیا۔ جس کی حقیقت زمیندار کے علاوہ اخبار نوائے وقت نے بھی

کھولی تھی۔ شاید ان کو یہ خیال ہو کہ حکومت پاکستان ان کے ماضی کے مشکوک رویہ سے غافل ہو اور سر فرانسس موڈی گورنر پنجاب جاتی دفعہ اپنے پودے کی پرورش کر کے پاکستان میں مجسم کا دفتر رب (ربوہ) بنا گیا ہے۔

ربوہ

"احمدیوں کا نیا مرکز پاکستان کے ضلع جھنگ میں چنیوٹ سے پانچ میل کے فاصلہ پر دریائے چناب کے پاس ربوہ کے نام سے آباد کیا ہے۔ ربوہ کے معنی بلند مقام یا پہاڑی مقام کے ہیں۔ یہ نام اس نیک فال کے طور پر رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو حق وصداقت اور روحانیت کی بلندیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے۔ آبادی کے لئے سر دست دس سو چونتیس (۱۰۳۴) ایکڑ زمین قیمتاً خریدی گئی ہے۔ چنیوٹ سے جانے والی لائن اس زمین سے گذرتی ہے۔ یہ جگہ لائل پور سرگودھا کے عین وسط میں ہے۔ اس وقت ربوہ کی آبادی ایک ہزار نفوس تک پہنچ چکی ہے۔ صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے دفاتر کے علاوہ حضرت امیر المومنین کی رہائش گاہ، لنگر خانہ، مہمان خانہ اور نور ہسپتال کی عارضی عمارتیں تیار ہو چکی ہیں۔" (اخبار الرحمت مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۴۹ء)

غور کا مقام

پس اب مسلمانان پاکستان کے لئے غور کا مقام ہے کہ جس فرقہ کو عرب، حجاز، مصر، عراق، ترکی وغیرہ ممالک اسلامیہ سے انس نہ ہو۔ بلکہ ان کی بربادی وتباہی پہ چراغاں کیا اور اپنے مسیح موعود کی پیش گوئی ظاہر کر کے خوش ہوں اور باطن میں خوشیاں منائیں اور پاکستان کے وجود کو عارضی سمجھیں۔ پھر وہ پاکستان کے اندر ایک مرکز بنائیں۔ جس میں سوائے قادیانی فرقہ کے کوئی دوسرا فرقہ نہ ہو اور پھر وہ کوشش اور بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کی خطرناک تیاریاں کریں اور پھر وہ انڈین یونین کو سمجھائیں کہ کاش انڈین یونین سمجھے کہ قادیان سے بچھڑ کر ہم تڑپ رہے ہیں اور پھر مزید یہاں پاکستان کے اندر جم کر حلف نامہ تیار کریں۔ جس کے پیش نظر صرف اور صرف قادیان حاصل کرنا ہو اور پھر وہ حصول کی مختلف سکیمیں تیار کریں۔ وہ مسلمانوں اور پاکستان کے کب خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

حلف نامہ یعنی ہمارا عہد

"میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے

قادیان کو احمدیہ جماعت کا مرکز بنایا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد کرتا رہوں گا اور اس مقصد کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا اور میں اپنے نفس کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور اگر خدا تعالیٰ کی مشیت یہی ہو تو اولاد کو ہمیشہ اس بات کے لئے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لئے ہر چھوٹی اور بڑی قربانی کے لئے تیار رہیں۔ اے خدا مجھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔“

(بحوالہ پاکستان میں مرزائیت مصنفہ مولانا مرتضیٰ احمد خان ایڈیٹر روزنامہ مغربی پاکستان لاہور)

دوبارہ غور کا مقام

فرقہ احمدیہ کی جان ہندو و سکھ قوم کی مٹھی میں ہے۔ جہاں ان کے ۳۱۳ درویش رہتے ہیں۔ ان کی وقتاً فوقتاً آمدورفت پاکستان میں رہتی ہے۔ ربوہ نہایت اہم مقام پر واقع ہے۔ اکھنڈ بھارت بنانے کا خیال دل میں ہے۔ اپنے خلیفہ کی بات کو پکی کرنا بھی احمدیوں کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر اس حلف نامہ میں ہر قسم کی کوشش کا جامع لفظ موجود ہے۔ سیاسی مقام میں فرقہ احمدیہ ابن الوقت ہے۔ اس کو صرف قادیان سے محبت ہے۔ اس کی ماضی مشکوک ہے۔ مستقبل میں کیا ضمانت ہے کہ وہ کسی وقت بھی قادیان کے حصول کی خواہش میں بھارت کے کہنے پر کیا کچھ نہ کر گزرے۔ دانشمندوں کے لئے ہر قسم کی کوشش کا لفظ قابل غور ہے اور اسے سرسری طور پر خیال کرنا یا نظر انداز کرنا قوم کے لئے کسی وقت بھی خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہی محبان پاکستان اگر اس سے غافل ہوں گے تو آئندہ نسلیں ہمیں ملعون کریں گی۔

ربوہ کے مختصر حالات

”ربوہ کے مرکزی احمدی ملازمین و افسران سلسلہ کے . اخلاقی اور عملی نمونہ کو اگر نزدیک سے دیکھا جائے.... وہاں پر اکثریت ایسے احمدیوں کی ہے جو وہاں پر منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے دل احمدیت سے بیزار ہیں...... ان کے دلوں میں ناجائز حکومت کرنے کا خبط سوار ہے۔ کوئی کسی کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔

وہاں پر جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے انصافی اور ظلم کا ایک منظم جال بنا ہوا ہے۔ قادیان میں جو تھوڑا بہت تقدس باقی رہ گیا تھا۔ افسوس کہ یہاں پر سب کچھ مفقود ہے اور خدا کے بندوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حضور کو سب کچھ علم ہے۔ حضور سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔

ربوہ کے افسران نے اپنی ناجائز آمدن کے معقول ذرائع بنا رکھے ہیں .. جماعت

ربوہ میں سرمایہ دارانہ ذہنیت اور محض دنیاداری پیدا ہو چکی ہے..... اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور گمراہی سے بچائے! اور ہر مشکل کو آسان کر دے اور آخرت نیک کرے۔ آمین ثم آمین!"

(بیان عزیز احمد صاحب حنیف ربوہ سابق مبلغ چک جمبر و سودرہ ۲۲ اپریل ۱۹۸۱ء از ربوہ کی کہانی ربوہ والوں کی زبانی ص ۱۰۱، ۱۰۲ شائع کردہ عزیز احمد حنیف)

فرقہ احمدیہ اور نقاش پاکستان علامہ اقبالؒ

حکیم الامت، مفکر ملت، نقاش پاکستان علامہ اقبالؒ نے جب فرقہ احمدیہ کے لٹریچر کو پڑھا اور ان کو اس فرقہ کے خطرناک عزائم کو معلوم کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے فوراً انگریزی حکومت کو یادداشت پیش کر حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمان کو پورا کیا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر یعنی حق بات ظالم بادشاہ کے منہ پر کہنا افضل جہاد ہے اور مسلمانان عالم اور ہندوستان کو بھی اس فتنہ عظیمہ سے آگاہ فرمایا۔ اس مرد مومن اور دانائے راز نے اس فرقہ کو یہودی فرقہ کی طرح خطرناک سمجھ کر جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ جن کو اخبار تنظیم اہل سنت لاہور نے مرزا غلام احمد نمبر میں شائع کیا ہے۔ وہ مسلمانان پاکستان کے لئے آگاہی کا الارم ہے۔

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں: "لیکن موخر الذکر (قادیانیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح و مقاصد کے لئے مہلک ہے۔ اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے لاتعداد زلزلے اور بیماریاں ہوں۔ اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہے۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔" (حرف اقبال ص ۱۲۳ طبع دوم)

فرقہ احمدیہ الگ اقلیت قرار دیا جاوے

"میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کار یہ ہو گا کہ وہ قادیانیوں (مرزائیوں) کو الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے ویسی ہی رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔"

(حرف اقبال ص ۱۲۸، ۱۲۹)

گستاخ جماعت

"ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا جب ایک نئی نبوت، بانی اسلام

کی نبوت سے اعلیٰ تر کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک (احمدیہ) کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آنحضرت ﷺ کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ درخت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔"

(حرف اقبال ص ۱۳۲ طبع دوم)

حکومت قادیانیوں کو الگ فرقہ قرار دے

"ملت اسلامیہ کو اس بات کا پورا حق ہے کہ قادیانیوں (مرزائیوں) کو علیحدہ کر دے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو برائے نام کی اکثریت سے ضرب پہنچا سکے۔ حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی طرف سے علیحدگی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیانیوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے۔"

(حرف اقبال ص ۱۳۸)

قادیانیوں کے لئے دو راستے

"ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول اکرم ﷺ کی شخصیت کا مرہون منت ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے دو راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر ختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔"

(حرف اقبال ص ۱۲۲، ۱۲۳)

قادیانیوں کو سیاسی طور پر مسلمانوں سے الگ کیا جائے

"ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے رویہ (گذشتہ) کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک احمدیہ نے اپنے معتقدین کو ملت اسلامیہ سے مکمل جدائی

رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ علاوہ بریں ان کا بنیادی اصولوں سے انکار اپنی جماعت کا تمام مسلمانوں کی قیام کار سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اور ان سے بڑھ کر یہ اعلان کر دنیائے اسلام کافر ہے۔ یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر دال ہیں…… اس امر کو سمجھنے کے لئے کسی خاص ذہانت و غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ جب قادیانی مذہبی معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں۔ علاوہ سرکاری ملازمتوں کے قواعد کے ان کی موجودہ آبادی جو چھپن ہزار (۵۶۰۰۰) ہے۔ انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلا سکتی…… ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔" (حرف اقبال ص ۱۳۷، ۱۳۸)

جاذب توجہ خیالات

"مرزائیت کے بارے میں حضرت علامہ اقبالؒ کے خیالات کی اشاعت خصوصیت کے ساتھ جاذب توجہ ہے۔ ان خیالات کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ علامہ موصوف نے کسی ہنگامی جذبہ کے ماتحت ان کا اظہار فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی رائے گرامی برسوں کے عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے۔"

(شیخ فیض محمد ایڈووکیٹ سابق ممبر پنجاب اسمبلی لاہور بحوالہ اخبار تنظیم اہل حدیث لاہور مرزا غلام احمد نمبر)

فتنہ کی بنیاد

"مرزا قادیانی نے یہ بیان کر کے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ اسلام میں ایک فتنہ کی بنیاد ڈالی ہے اور ناممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص دعوت نبوت کرے علاوہ ان کی کارگزاری کو بھی ملیامیٹ کر دے۔ اس طرح مذہب (اسلام) سے امان اٹھ جائے گی اور اس کے گروہ (اسلام) ایک کھیل اور تمسخر بن جائے۔ اس کی کوئی حقیقت دین کے نہ رہے گی۔"

(فیصلہ جناب میاں محمد اکبر صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور)

پاکستان کی مشکلات اور قادیانی

"ہمارا خیال تھا کہ قیام پاکستان کے بعد وحدت اور اتحاد کے بدترین دشمن اور برسانی فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے یا کم از کم حکومت وقت کے ماتحت خاموش ہو جائیں گے۔ مگر یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج جب کہ پاکستانی مسلمان ملکی مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

قادیانیت

ایک دہشت گرد تنظیم

جناب خواجہ عبدالحمید بٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ قادیانی جماعت کا خان لیاقت علی خاں مرحوم کے قتل میں خفیہ ہاتھ کام کرتا رہا۔ کیونکہ قادیانی جماعت کی کوشش تھی کہ سر ظفر اللہ خاں، آنجہانی وزیر خارجہ پاکستان کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ قادیانی جماعت نے اندرونی سازشوں اور تماشوں کے لئے مذہبی لباس کا بہروپ دھار رکھا ہے اور یہ جماعت انگریزی حکومت کا "خود کاشتہ" پودا تھی اور انگریزی حکومت کی پوری طرح ایجنٹ تھی اور انگریزی حکومت کے اشارے پر مسلم حکومت کی جاسوسی کرتی تھی۔ صرف مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور انگریزی حکومت سے ہر ناجائز مفاد حاصل کرتی رہی ہے۔ مختلف محکموں میں ٹھیکے داریاں وغیرہ حاصل کر کے اقتصادی مفاد اٹھا رہی ہے اور علمائے کرام اور مسلم رہنماؤں کی کردار کشی کرتی رہتی ہے۔ پاکستان بننے سے پیشتر اپنی ریاست قادیان بنوانے کے لئے ہر ناجائز حربے استعمال کئے۔ حتیٰ کہ قیام پاکستان کے وقت بھی قادیانی اسٹیٹ کی سکیم باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کی۔ قادیان کو مرکز بنا کر پریس لگائے۔ مختلف فرضی انجمنوں کے نام رکھ کر اپنے مخالفوں کو بدنام کرنا اور مفاد اسلام کے خلاف صف آرا رہی۔ قادیانی جماعت کی فسطائی طرز و سامراج کے مطابق تنظیم کی، ملاحظہ ہو۔ مرزا محمود خلیفہ قادیان کی سکیم۔

انجمن اطفال احمدیہ

۱۸ سال سے کم عمر کے بچوں کی تنظیم بنائی، خدام الاحمدیہ۔ ۱۸ سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کی تنظیم جس کا صدر مرزا ناصر احمد آنجہانی بی اے مرزا محمود کا بیٹا تھا۔ قادیانی جماعت کا بعد میں خلیفہ ثالث بنا۔

الانصار الاحمدیہ

۵۰ سال سے زائد عمر کے افراد کی انجمن بنائی۔ آل انڈیا مرکزی نیشنل لیگ۔ جس کے صدر آنجہانی مسٹر اسد اللہ خاں، آنجہانی سر ظفر اللہ کے چھوٹے بھائی۔ یہ جماعت کانگریس سے ساز باز کرتی اور مختلف پوسٹر و ٹریکٹ اپنے مخالفوں کے خلاف شائع کرتی۔ پریس ان کے گھر کے تھے۔ ضیاء الاسلام پریس، اللہ بخش سٹیم پریس، الحکم پریس قادیان، مسٹر شیخ بشیر احمد

ایڈووکیٹ لاہور قادیانی سیکرٹری تھا۔ جنہوں نے لاہور میں پنڈت جواہر لال نہرو صدر کانگریس کا مسلم لیگ کی مخالفت میں جلوس نکالا اور مسٹر لاڈو رانی زتشی صدر پنجاب کانگریس کو قادیان بلا کر فتح محمد عرف تھو سیال ناظر اعلیٰ سلسلہ احمدیہ قادیان کی صدارت میں مسلم لیگ کے خلاف اور قائد اعظم کے خلاف مسلم ماس کانفرنس کے موضوع پر تقریر کروائی اور مسلم لیگ اور قائد اعظم پر الزامات اور بہتان تراشی کروائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دریدہ دہنی کی اور ہرزہ سرائی کی۔

قادیانی عورتوں کی تنظیم (لجنہ اماء اللہ)

مرزا محمود خلیفہ قادیان نے عورتوں کی تنظیم کی انجمن موسومہ لجنہ اماء اللہ قائم کی۔ جس کی صدر مرزا محمود قادیانی کی بیوی تھی۔ جس کا اپنا اخبار ہفت روزہ "مصباح" تھا۔

احمدیہ کور

یہ انجمن ڈنڈا اور تلوار بند دہشت گرد تنظیم تھی۔ جو ہر روز صبح پریڈ کرتی۔ اس کا سالار محمد حیات سر فروش تھا۔ اس کور کے خاص الفاظ کوڈ ورڈ میں تھے۔ جو عام لوگ یا مخالف لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس میں جو نوجوان شامل نہ ہوتا۔ اس کو جرمانہ کیا جاتا۔ ان کو لاٹھی، تفنگ، غلیل، نشانہ بازی سکھائی جاتی اور ان کو تشدد کے گر سکھائے جاتے۔

احمدیہ سٹوڈنٹ فیڈریشن، یہ کالج اور ہائی سکولوں کے طلباء کی انجمن تھی۔ جو مخالفوں کے خلاف فرضی انجمن بنا کر اشتہار شائع کرتی اور مخالفوں پر گندے الزامات عائد کر کے کردار کشی کرتی۔

اخبارات

قادیان کی مصنوعی آبادی تھی۔ جو ۱۹۳۱ء میں تقریباً ۷۰۰۰ ہزار تھی اور مرزا غلام قادیانی کے زمانہ اور خلیفہ محمود کے زمانے تو صرف ۳۰۰۰ / ۲۵۰۰ آبادی تھی۔ مگر قادیانیوں کے مکروہ عزائم کا پروپیگنڈہ کرنے کے لئے انگریزی حکومت نے ان کو توہین آمیز، مذہب آزار اور مسلمانوں کی دل شکنی کے لئے ان کو اخبارات کے بے شمار ڈیکلریشن دے رکھے تھے۔ مثلاً اخبار البدر، اخبار الحکم، اخبار فاروق، عورتوں کا اخبار مصباح، ریویو آف ریلیجنز انگریزی اور اردو

ایڈیشن۔ بعد میں فرقان، البشیر، تحریک جدید، الفضل، ہفت روزہ لاہور وغیرہ وغیرہ اور ان کو انگریزی حمایت اور مسلمانوں میں سر پھٹول کروانے کی کھلی آزادی تھی۔ مسلمانوں کو قادیان میں اخبار نکالنے کی اجازت تھی۔ نہ اپنے اسلامی عقائد کی تبلیغ کے لئے جلسہ کرنے کی اجازت تھی۔

پہلا اسلامی جلسہ

۱۹۲۴ء میں قادیان کے مسلمانوں کی انجمن اسلامیہ نے جلسہ کرنا چاہا۔ پہلے تو انگریز ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے بہت جدوجہد سے مسلمانوں کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر بعد میں قادیانیوں کے دباؤ کے تحت حکم جاری کر دیا۔ آئندہ مسلمانوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر علاقہ قادیان میں مسلمانوں نے جلسہ کیا تو قادیان سے خلیفہ محمود نے اپنی لٹھ بند کور اور خدام الاحمدیہ کے والنٹیر زبھیج دیئے کہ جلسہ میں شور وشر کریں اور جلسہ نہ ہونے دیں کہ فساد کا خطرہ پیدا کریں اور دہشت گردی پیدا کریں۔ لیکن حکومت نے مادہ وقت مجسٹریٹ گورداسپور لالہ خوشی رام نے جلسہ کے پنڈال کو حراست میں لے لیا اور مرزائیوں کی سازش ناکام ہوئی۔

دوسرا اسلامی جلسہ ۱۹۲۹ء اور مرزائیوں کا حملہ

انجمن اسلامیہ قادیان نے دوسرا اسلامی جلسہ ۱۹۲۹ء میں کیا۔ جس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری و دیگر علمائے کرام امرتسر، بٹالہ اور لاہور نے متفقہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی۔ علاقہ میں مرزائیوں کی تبلیغ کا اثر خاک میں مل گیا۔ مولانا ثناء اللہ نے دوپہر کو مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت مباہلہ کے واقعات سنائے اور وہ عصر کے وقت واپس چلے گئے۔ رات کو قادیانی کور اور خدام الاحمدیہ نے مرزا ناصر (جو اب واصل جہنم ہو چکے ہیں) نے جلسہ کے سائبانوں کی قناتیں کاٹ دیں اور گیس توڑ ڈالے۔ (اس زمانہ میں بجلی نہیں تھی) اور جلسہ کے مہمانوں، میر ابراہیم سیالکوٹی اور دیگر علماء پر حملہ کر دیا۔ علماء کرام اور عوام زخمی ہوئے۔ پولیس نے قادیانی غیر مشہور والنٹیر کا چالان کیا اور موٹے موٹے حملہ آوروں کو چھوڑ دیا۔ چند ایک مرزائیوں کو بلوہ کرنے پر معمولی سزائیں ہوگئیں۔

قادیانی تنظیم

مسلمانوں کے جلسہ کو روکنے اور درہم برہم کرنے کے لئے مقامی جنرل پریذیڈنٹ

احمدیہ قادیان کی کور الگ تھی۔ جس کا انچارج مرزا ناصر اور محمد حیات سرمہ فروش جو سوتی سرمے کے نام پر سرمہ فروخت کرتا تھا۔ جس کی دکان قادیانی عبادت گاہ اقصیٰ کے ملحق تھی۔ مرزا محمود قادیانی کا باڈی گارڈ دستہ الگ تھا۔ جس کا نام محکمہ کار خاص تھا۔ جس کا انچارج کیپٹن مرزا شریف احمد تھا۔ جو مرزا محمود خلیفہ قادیان کا برادر خورد تھا اور محکمہ امور عامہ کا ناظر (منسٹر) مرزا محمود خلیفہ قادیان کا سالا ولی اللہ شاہ تھا۔ جس کو سلطان ریجنٹ کہتے تھے اور امور خارجہ کا ناظر مفتی، مسٹر محمد صادق تھا۔

ناظر ضیافت

میر محمد اسحاق جو خلیفہ قادیان کا ماموں تھا۔ اس کے ماتحت دو لنگر خانے تھے۔ لنگر خانہ اعلیٰ و لنگر خانہ عام۔ اعلیٰ لنگر خانہ بڑے بڑے سرکاری افسران کے لئے تھا۔ قیصران کی آمد دن کی دعوتیں ان سے میل ملاقات رکھتا اس لنگر خانہ کا نام مہمان خانہ یعنی گیسٹ ہاؤس تھا اور عام مہمان خانہ عام مرزائیوں کے گھر بیٹھے آمدہ مہمانوں کے لئے تھا۔

اعلیٰ مہمان خانہ میں مرغ پلاؤ، تیتر، بٹیر، ہرن کا گوشت اور اعلیٰ ماکولات و مشروبات ہوتے تھے اور عام لنگر خانہ میں بینگن، بیل گائے کا گوشت ان کو شلجم (شلغم) ملا کر پکایا جاتا اور رات کو چنے اور ماش کی دال یا سبزی، کلفہ، چیفا، کدو، بینگن، گھیا توری پکائی جاتی۔

چندہ کا آٹا

قادیانی بہشتی مقبرہ کے قریب، یتیم مرزائیوں کو گھر، بالخصوص یعنی یتیم لڑکے اور بوڑھے ضعیف لوگ بسائے جاتے تھے۔ یہ مرزائی یتیم لڑکے بے بس تھے۔ ان کو ہدایت تھی کہ ہر جمعرات کے روز بھیجا جاتا۔ وہ لنگر خانہ عام اور اپنے گزارہ کے لئے جا کر آٹا اکٹھا کرتے۔ جمعہ کا آٹا، جمعہ کا آٹا اور علاقہ کے مرزائیوں، یا مرزائی نواز مسلمانوں سے آٹا مانگ کر سر پر لاتے۔ اس طرح یتیم لڑکے اپنا پیٹ پالتے۔

تائبین کا حشر

(بائیکاٹ، اخراج، مقاطعہ) اول تو کوئی مرزائی قادیان میں رہتے ہوئے مرزائی جماعت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ اس کو بائیکاٹ اور مقاطعہ یا اخراج کا اور حملہ کا شدید خطرہ ہوتا۔ یہ سزائیں خلیفہ قادیان کے حکم پر دی جاتیں۔ ان سزاؤں سے توبہ کرنے والے

مرزائی کی دین و دنیا تباہ کر دی جاتی۔ مثلاً ابتداء [redacted] الحق علمی مرزائی ایڈیٹر اخبار الفضل قادیان، نائب ایڈیٹر میر محمد شہاب، ماسٹر اللہ دتہ مبلغ سلسلہ عالیہ احمدیہ تائب ہوئے پر ان کا اخراج کر دیا گیا۔ یعنی وہ قادیان میں نہیں رہ سکتے۔ پھر بائیکاٹ اور مقاطعہ ہوا۔ یعنی اقتصادی بائیکاٹ، کوئی مرزائی نہ ان سے بول چال کرے، نہ سودا دے۔ نہ کوئی ان سے کوئی کام کروائے۔ نہ سودا لے سکے۔ قطع کلامی، اس کی بیوی بچوں تک کو بھی اس سے کلام بول چال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کو مرتد کے لقب سے خطاب کیا جاتا۔ عام مرزائی عبادت گاہوں کے علاوہ احمدیہ بازار میں بورڈوں پر چاک سے لکھ دیا جاتا اور مرزائی اخباروں میں اس سزا کا اعلان کیا جاتا۔

مستری عبدالکریم، مستری فضل کریم، محمد زاہد زیر عتاب ہو گئے

تقریباً ۱۹۳۰ء میں مستری عبدالکریم، مستری فضل کریم، محمد زاہد جب مرزائیت سے تائب ہوئے ان کا مکان بہشتی مقبرہ کے پل کے قریب تھا۔ ان کا راتوں رات مکان جلا دیا گیا۔ خلیفہ محمود قادیانی کے حکم کی اطلاع ان کو ایک برقعہ پوش نے دے دی تھی۔ جو خلیفہ کے اس حکم کو ظلم عظیم سمجھتی تھی تو یہ صاحبان عشاء سے پہلے ہی مکان چھوڑ کر نکل آئے اور رات سکھوں کے بورڈ تک کے ایک کمرہ میں پناہ لی۔

علی الصبح فجر سے پہلے برقعہ پہن کر سکھوں کی موٹر میں بیٹھ کر بٹالہ اور پھر بٹالہ سے امرتسر پہنچ گئے اور مجلس احرار اسلام امرتسر کی حفاظت میں امرتسر ہال بازار میں دکان لی اور مکان کرایہ پر لے کر رہائش اختیار کی۔ قادیان میں ان کا مکان رات کے تقریباً بارہ بجے جلا کر راکھ کر دیا۔ صبح اخبار ''الفضل'' قادیان عرف الدجال نے خبر شائع کی کہ مستری مرتدین نے خود اپنے مکان کو آگ لگائی ہے۔ امرتسر سے عبدالکریم نے اخبار مباہلہ شائع کیا۔ جس میں اپنی بے بسی اور بے کسی کی روداد شائع کی۔

قادیان میں شیخ یعقوب علی مدیر الحکم کی صدارت میں نئے ڈاکخانہ کی مجوزہ جگہ سبزی منڈی پر ان کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں ہوئیں اور مرزائیوں کو ان کے خلاف جوش دلایا گیا۔ انگریزی حکومت نے مستری عبدالکریم عرف عبدالکریم مباہلہ کے خلاف زیر دفعہ 153-A مقدمہ کی سماعت ہونے لگی۔ مسلمانوں کی طرف سے شیخ شریف حسین ایڈووکیٹ گورداسپور و مل سنجیوانی مرحوم نے مقدمہ کی پیروی کی۔ مرزائیوں کی طرف سے مرزائی وکیل مرزا عبدالحق ایڈووکیٹ تھا۔ جو اب سنا گیا ہے کہ سرگودھا میں پریکٹس کرتا ہے۔

عبدالکریم مباہلہ کے قتل کا منصوبہ

مولوی عبدالکریم مباہلہ امرتسر سے گورداسپور میں پیشی کے لئے آتا تھا۔ مگر مرزا محمود خلیفہ قادیان کا دل خوفزدہ ہوا۔ چنانچہ مرزائیوں کے ایک مبلغ محمد امین پٹھان جو روس میں مبلغ تھے۔ (بخارا) اور حکومت روس نے اس کو انگریزی حکومت کی جاسوسی کے الزام میں (جو ثابت ہو چکا تھا) قید کر لیا اور بعد میں انگریزی حکومت کی مدد سے اس کی رہائی ہوئی۔ ملاحظہ ہو۔

تبلیغ کے نام پر جاسوسی

"ہمارے برادر محترم محمد امین خان صاحب جنہیں روس کے علاقہ میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ بغیر کسی اطلاع کے آج ۲۵ رجون ۱۹۲۷ء وارد قادیان ہوئے۔ جنہیں اچانک اندر دیکھ کر اہل قادیان (مرزائی) خوشی اور مسرت کے جذبات سے بھرپور ہو گئے۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۱۴ نمبر ۱۰۱ ص ۲ مورخہ ۲۸ رجون ۱۹۲۷ئ)

جاسوسی یا تبلیغ احمدیت

"روس میں اگرچہ تبلیغ احمدیت کے لئے گیا۔ لیکن سلسلہ احمدیہ اور برٹش حکومت کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرتا تھا۔ وہاں لازماً مجھے انگریزی حکومت کی خدمت گذاری کرنی پڑتی تھی۔ کیونکہ ہمارے سلسلہ کا مرکز (قادیان) ہندوستان میں ہے۔ تو ساتھ ہی ہندوستانی حکومت کے احسانات اور قدیمی آزادی کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا تھا۔"

(محمد امین صاحب قادیانی کا مکتوب مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۲۵ مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۳ئ)

روس سے مفروری

"اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی ہمت اور اخلاص اور تقویٰ میں برکت دے۔ چونکہ ابھی اس کی پوزیشن مشتبہ تھی۔ اس لئے پھر کاگان ریلوے اسٹیشن سے روسی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا اور پیادہ بخارا پہنچا۔ بخارا میں ایک ہفتہ کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بدستور سابق پھر کاگان کی طرف لایا گیا اور وہاں سے آپ کو پھر سمرقند پہنچایا گیا۔ وہاں سے آپ پھر چھوٹ کر بھاگے اور بخارا پہنچے۔"

ے

(اعلان میاں محمود خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل ج ۱۱ نمبر ۱۲ ص ۶ مورخہ ۱۴/ اگست ۱۹۲۳ئ)

انگریزی جاسوس

"چونکہ برادرم محمد امین خاں صاحب کے پاس پاسپورٹ نہ تھا۔ اس لئے وہ روس میں داخل ہوتے ہی پہلے ریلوے اسٹیشن پر انگریزی جاسوس قرار دے کر گرفتار کئے گئے۔ کپڑے اور کتابیں جو کچھ ان کے پاس تھا۔ وہ ضبط کر لیا گیا اور ایک مہینہ تک آپ کو وہاں رکھا گیا۔ پھر عشق آباد کے قید خانے میں رکھا گیا اور بار بار بیان لئے گئے تا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ انگریزی جاسوس ہیں۔

اس کے بعد کوشکی سرحد افغانستان پر لے جایا گیا۔ وہاں سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا حکم دے دیا گیا اور روسی پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا اور بھاگ کر بخارا جا پہنچا۔ دو ماہ تک آپ وہاں آزاد رہے۔ لیکن دو ماہ بعد پھر انگریزی جاسوس کے شبہ میں گرفتار کئے گئے اور قید میں رکھا گیا اور بخارا سے مسلح روسی پولیس کی حراست میں سرحد ایران کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔" (اعلان میاں محمود قادیانی اخبار الفضل ج ۱۱ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۴/ اگست ۱۹۲۳ئ)

مستری عبدالکریم عرف مولانا عبدالکریم عرف مباہلہ کے قتل کا منصوبہ اور حاجی محمد حسین بٹالوی کا قتل

مرزائی، قادیانی جماعت کو اور اس کے خلیفہ محمود کو اس بات کا دلی رنج اور غصہ تھا کہ مستری عبدالکریم نے کر قتل کیا ہے اور وہ امرتسر سے گورداسپور اپنے مقدمہ کی سماعت کے لئے امرتسر سے بس (لاری) پر جاتا تھا۔ امرتسر میں عبدالکریم مباہلہ کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ وہ عبدالکریم کی تاک میں تھے۔

محمد امین خاں کا رول

انہوں نے محمد امین خان مجاہد بخارا پٹھان سے شیخ محمد سیال ناظر اعلیٰ (چیف منسٹر)

سلسلہ احمدیہ قادیان کے ذریعہ کوئی پٹھان کرایہ کا قاتل مہیا کرنے کی سازش کی۔ محمد امین خان پٹھان تھا وہ کوئی بیرونی قاتل پٹھان لانے کا انچارج بنایا گیا اور معقول رقم دینے کا عہد و پیمان ہوا۔ محمد امین خان نے ایک پٹھان قاضی محمد علی نوشہروی سے عبدالکریم کو قتل کرنے کا سودا کیا اور اس کو کافی رقم پیشگی دی گئی اور عبدالکریم امرتسر سے گورداسپور والی لاری بس میں قتل کرنے کی سکیم بنائی۔ امرتسر لاری اڈا پر تمام ادارہ احمدیہ کے مخصوص والنٹیرز مقرر کئے گئے۔ سازش یہ تھی کہ عبدالکریم جب لاری بٹالہ پہنچے تو والنٹیرز اڈا پر ہاتھ ہلا کر قاضی محمد علی نوشہروی کو اس لاری میں سوار ہونے کا اشارہ دے دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب لاری بٹالہ اڈا پر آ کر ٹھہری۔ قاضی محمد علی نوشہروی اشارہ پاتے ہی اس لاری میں سوار ہو گیا۔

حاجی محمد حسین ضامن کا قتل

مولانا عبدالکریم مباہلہ کے ہمراہ حاجی محمد حسین بٹالوی مالک زمیندار فونڈری بٹالہ اس کا ضامن بھی سوار تھا۔ والنٹیرز بٹالہ اڈا پر اتر گیا۔ مگر وہ قاضی محمد علی نوشہروی (مرزائی قاتل) کو مولانا عبدالکریم مباہلہ کی نشاندہی کر گیا۔ لاری چلنے لگی اور بٹالہ سے چند میل دور لاری کے اندر ہی خنجر لے کر اٹھا اور اس نے مولانا عبدالکریم پر وار کرنا ہی تھا۔ مگر وار خطا گیا اور خنجر حاجی محمد حسین کے لگ گیا۔ یہ غلط نشاندہی کی وجہ سے کیا گیا۔ قاتل جلدی میں مولانا محمد حسین ضامن اور مولانا عبدالکریم میں امتیاز نہ کر سکا۔ کیونکہ قاتل کا خون تو اس کی عقل پر چھا جاتا ہے۔

بہر حال لاری رک گئی اور مسافروں نے ہمت کر کے قاضی محمد علی قاتل کو گرفتار کر لیا۔ اس پر زیر دفعہ ۳۰۲ (قتل) مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اس مقدمہ کی تفصیل کا ذکر فیصلہ سرکار بنام امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری بجرم 153-A میں مسٹر جی۔ ڈی کھوسلہ سیشن جج گورداسپور میں آتا ہے۔ یہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ہے۔

قاتل کے امدادی قادیانی وکلاء

قاضی محمد علی نوشہروی قاتل کو بچانے کے لئے پریوی کونسل لندن تک کوشش کی گئی۔ احمدیہ ڈیفنس کونسل وکلاء کی کونسل تھی۔ جو سر ظفر اللہ خان بیرسٹر آنجہانی عرف ظفرو چوہدری اس کا بھائی چوہدری اسد اللہ آنجہانی (جو کسی وقت اسسٹنٹ ایڈووکیٹ پنجاب بھی رہا تھا) مرزا عبدالحق

ویڈووکیٹ گورداسپور، محمد احمد وکیل کپورتھلہ اور مولوی فضل الدین قادیان، شیخ ارشد علی ایڈووکیٹ بٹالہ وغیرہ مرزائی وکلاء پر مشتمل تھی۔ قاتل کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ پنجاب ہائیکورٹ نے اپیل خارج کر دی گئی اور پریوی کونسل لندن نے بھی اپیل خارج کر دی۔

قادیان میں لاش کا جلوس

قاضی محمد علی نوشہروی کی لاش قادیان میں لائی گئی۔ اس کا جلوس نکالا گیا اور اس کو شہید احمدیت کا خطاب دیا گیا۔ خلیفہ محمود نے اس کی لاش کو کندھا دیا اور اس کو بہشتی مقبرہ (نام نہاد) میں بڑے کروفر سے دفن کیا۔ بڑے بڑے جغادری مرزائی جنازہ میں شامل ہوئے۔ احمدیہ کور اور خدام الاحمدیہ جس کا انچارج مرزا ناصر احمد آنجہانی خلیفہ ثالث تھا۔ قدم قدم پر شہید احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے اور اس کی خدمات کو سراہا گیا۔

مشاعرہ شہید احمدیت

رات کو عام مہمان خانہ میں مشاعرہ ہوا۔ قاضی اکمل ایڈیٹر الفضل قادیان، رحمت اللہ شاکر اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل عرف احمد علی قادیان، منظور احمد منظور بھیروی، حافظ سلیم اٹاوی، ابراہیم عاجز ناگلی، روشن دین تنویر سیالکوٹی وغیرہ۔ شاعران احمدیت نے محمد علی قاتل کی شان میں نظمیں سنائیں۔ بعد میں ان نظموں کی کتاب ''گلدستہ احمدیت'' کے نام پر شائع کی گئی جو عام تقسیم کی گئی۔

صرف ایک شعر ملاحظہ ہو:

پیچھے آ کر سب سے آگے بڑھ گیا
مثل عیسیٰ آسمان پر چڑھ گیا

خلیفہ محمود بہت کائیاں شخص تھا۔ جب اس کی نظر کتاب کے اس شعر پر پڑی تو اس نے فوراً کتاب کی سلسلہ ضبط کر لی۔ کیونکہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا تھا۔ جو مرزائیت کی ساری عمارت پر ایٹم بم تھا۔

قدرت کا انتقام: محمد امین کا قتل

اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کا انتقام دیر گیر و سخت گیر ہوتا ہے۔ حاجی محمد حسین بٹالوی کا بے گناہ قتل رنگ لایا۔ محمد امین مجاہد بخارا جس نے قاضی محمد علی کو قتل کیا تھا۔ اس کی بجائے رقم محمد امین کو فتح محمد سیال ناظر اعلیٰ سلسلہ احمدیہ قادیان نے عبد الکریم مباہلہ کو قتل کروانے کے لیے پیشگی دی تھی اور کچھ رقم بقایا تھی۔ محمد امین خان نے بقایا رقم کا فتح محمد سیال ایم۔ اے ناظر اعلیٰ سلسلہ احمدیہ عالیہ قادیان سے مطالبہ و تقاضا کیا (عرف فتح سیال کا) اور اس کی کوٹھی پر رقم لینے گیا۔ جو موضع بھینی کے نزدیک تھی اور ریلوے اسٹیشن قادیان سے نصف میل پر تھا۔ فتح محمد سیال ناظر اعلیٰ نے کہا کہ میری کوٹھی پر مت آیا کرو۔ بلکہ دفتر میں آؤ۔ محمد امین نے کہا کہ دفتر میں عوام آتے جاتے ہیں۔ یہ راز فاش ہوگیا تو سلسلہ کی بدنامی ہوگی اور سلسلہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی والا کتا جائے گا۔ لہذا حساب کتاب تنہائی میں ٹھیک ہوگا۔

فتح محمد نے جواب دیا کہ رقم میری ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ دفتر محاسب سے چیک دے کر نکلوائی ہوتی ہے۔ کیونکہ سلسلہ کا راز ہے۔ محمد امین خان مبلغ نے کہا کہ میں دفتر میں نہیں جاؤں گا۔ کوٹھی پر رقم لوں گا۔ آخر فتح محمد نے جواب دے دیا کہ رقم کوٹھی پر نہیں دوں گا۔

دیگر بات یہ ہے کہ جس کو قتل کروانا تھا۔ یعنی عبد الکریم مباہلہ کو وہ تو بچ گیا اور حاجی محمد حسین اس کے ضامن کو قتل کیا گیا۔ مقصد تو پورا نہ ہوا۔ محمد امین خان ایک مبلغ تھا۔ دوسری دفعہ فتح محمد سیال کی کوٹھی پر گیا۔ رقم کا تقاضا کیا۔ باتوں باتوں میں تلخ کلامی ہوئی اور فتح محمد سیال نے اپنے گھر کے افراد اور ملازمین کو بلایا۔ ان کے ذریعے اس کو کوٹھی سے نکالنا چاہا۔ مگر محمد امین نے کہا وہ تو رقم لے کر ہی جائے گا۔ اس نے نوکروں کو اشارہ کیا تو وہ اس پر حملہ آور ہوگئے اور فتح محمد سیال نے گرے ہوئے پر کلہاڑی سے وار کیا۔ اس کے سر پر لگی۔ خون بہنے لگا۔ ایک اور ضربات لگیں اور محمد امین قادیانی نے پانی مانگا۔ پانی بھلا کون دیتا اور وہ وہیں ختم ہوگیا۔

فتح محمد سیال ناظر اعلیٰ نے اس لاش کو اٹھوا کر شارع عام راستہ پر گروا دیا۔ جو راستہ موضع بھینی کے قادیان کو جاتا تھا۔ فتح محمد سیال کی کوٹھی کے قریب ایک سکھ پرتاپ سنگھ عرف پرتا کا رہٹ اور کنواں تھا۔ جب پرتاب سنگھ کنواں سے گھر آنے لگا تو مردہ لاش پڑی تھی۔ اس خطرہ کے پیش نظر کہ شاید پولیس تفتیش کے وقت ان پر ہی مقدمہ نہ کرا دے۔

انہوں نے پولیس کو رپورٹ کی۔ پولیس موقعہ پر پہنچی۔ بے گور و کفن لاش پڑی تھی۔ محمد

علی نمبردار موضع بھینی کو بلوایا گیا اور مخلوق بھی اس عبرتناک واقعہ کو دیکھنے گئی تھی۔ قاتل کون ہے اور موقع پر کس نے دیکھا۔ یہ قانونی سوال زیر تحقیق تھے۔

محمد علی نمبردار موضع بھینی نے لاش کو شناخت تو کرلیا۔ یہ محمد امین مبلغ بخارا کی نعش ہے۔ مگر قتل کیسے ہوا۔ بتائے قتل ارادہ وجوہات قتل (Motive) کیا تھا۔ محمد علی نے تھانہ دار کو صرف اتنا ہی بتایا کہ محمد امین خان مبلغ کو کئی دن ہوئے میں نے چوہدری فتح محمد سیال ناظر اعلیٰ کی کوٹھی میں دیکھا تھا۔

مرزائی جماعت روپیہ کو پانی کی طرح بہا جاتی ہے۔ پوسٹر، اشتہارات، قانونوں کے خلاف، دلالوں کی رقمیں اور عیش وعشرت میں زندگی بسر کرنا۔ بہشتی مقبرہ کی آمدنی معمولی نہیں ہے۔ کروڑوں روپیوں کی آمدنی ہے اور پھر حکومتوں سے رقمیں لے لے کر ان کے کاز کی اشاعت کرنا۔

بھارت و برطانیہ کا پروپیگنڈہ، اسرائیل کا پروپیگنڈہ وغیرہ وغیرہ۔ مرزائیوں نے پولیس قادیان کو رام کرلیا۔ پھر شیخ محمد عرف فتو سیال ایم اے ناظر اعلیٰ سلسلہ احمدیہ عالیہ پر انگریزی حکومت کی موجودگی میں ہاتھ کون ڈالے۔ نعش پوسٹ مارٹم کے بعد لاوارث قرار دے کر دفن کردی گئی اور کوئی چالان وغیرہ نہ ہوا۔ اس قتل پر مسٹر محمد سلیم سیشن جج گورداسپور نے اپنے فیصلہ کا ذکر سرکار بنام امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری زیر دفعہ 153-A میں بخوبی کیا ہے۔

انجمن انصار احمدیہ قادیان کا قیام

مرزا محمود خلیفہ قادیان کے اخلاقی عیبوں کو دیکھ کر شیخ مصری، فخر الدین ملتانی اور حکیم عبدالعزیز اور کچھ دوسرے لوگوں نے قادیانیت، مرزائیت سے علیحدگی کا اعلان کرکے انجمن انصار احمدیہ قادیان کا اعلان کیا کہ خلیفہ محمود کو خلافت سے الگ کیا جائے۔ ان کی باہمی پوسٹر بازی ہوئی۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔ موجودہ خلیفہ (فرقہ احمدیہ قادیانیہ) سخت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور عورتوں کو ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ اس کے ذریعہ یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔“ (بحوالہ شیخ مصری سابق ہیڈ ماسٹر احمدیہ سکول قادیان فیصلہ عدالت عالیہ ہائیکورٹ لاہور شائع کردہ مولوی محمد علی ایم اے امیر جماعت احمدیہ

لاہور مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۳۷ء) اس پر خلیفہ محمود قادیانی نے جواب دیا کہ تمہارے خاندان فحش کا مرکز ہیں۔ اس کے جواب میں انصار احمدیہ قادیان نے جو جواب دیا ملاحظہ ہو:

”چار گواہ: حالانکہ میں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ لوگوں کی تمنا ہے کہ جناب چار گواہوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم سے آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ تاہم اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس کے لئے تیاری فرمائیں۔ ہم صرف چار گواہ ہی نہیں بلکہ بہت سی شہادتیں فریقین اور لوگوں سے شہادت کی جناب والا کی شہادت پیش کریں گے۔ اگر ہم ثبوت پیش نہ کر سکیں تو آپ کی بریت ہو جائے گی اور ہم بہتان کے لئے ذلیل ہونے کے علاوہ ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لئے تیار ہیں۔“ (حکیم عبدالعزیز سیکرٹری مجلس انصار احمدیہ قادیان، ٹریکٹ شائع شدہ)

ان حالات میں، مجلس انصار احمدیہ قادیان کے عہدے داران کی نگرانی پر پابندیاں وتعاقب جاسوسی کا عمل سخت کر دیا گیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ قادیان (جس کا صدر خلیفہ کا بیٹا ناصر احمد آنجہانی تھا) اور اس کے ممبر ہر ممکن کوشش سے اس مخالفت کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کا خاتمہ کرتا تھا۔ جس کے خفیہ جتھے بنائے گئے۔ جس میں عبدالعزیز عرف جیجا بھاٹیری انچارج کار خاص، محمد حیات سرمہ فروش، شیر ولد ہدہ، لال دین موچی، عزیز پٹھانی کرا (جس نے بعد میں فخرالدین کو قتل کیا تھا) عزیز مولوی فاضل، نذیر محمد مولوی، ظفر محمد مولوی وغیرہ تھے۔ شیخ عبدالرحمن مصری کی کوٹھی پر اس کی درخواست پر مولوی عنایت اللہ چشتی امیر مجلس احرار قادیان انچارج نے ۱۲ احرار والنٹیئر رات کو پہرہ لگوا دیا اور ڈنڈے اور کلہاڑی پہرہ داروں کے پاس تھیں۔ تاکہ رات کو حملہ نہ ہو سکے۔ جب بھاٹیری موقعہ پر رات کے ۱۲ بجے گیا تو پہرہ داروں کو دیکھ کر واپس لوٹ گیا اور شیخ مصری کا خاندان قتل سے بچ گیا۔ صبح کو پولیس کی امداد سے نقل مکانی کر لی۔

فخرالدین ملتانی کا قتل

فخرالدین ملتانی قادیانی کی دکان چوک قادیان مرزائیوں کے خلیفہ مرزا محمود کے محل کو جانے والے راستے اور قادیانی عبادت گاہ مبارک قادیان کے عین نیچے تھی۔ اس دکان کا نام احمدیہ کتاب گھر قادیان تھا۔ جو مرزائیوں کی تبلیغی کتب شائع کرتا تھا۔ اس کے تعلقات شیخ عبدالرحمن بی اے ہیڈ ماسٹر احمدیہ سکول جو ان کے مکان کے قریب رہتا تھا، سے تھے۔ شیخ عبدالرحمن قادیانی مصر میں مبلغ بھیجا گیا تھا۔ جو واپسی کے بعد (منسٹر) ناظر تعلیم وتربیت سلسلہ قادیان تھا۔ عبدالعزیز

بھی سلسلہ احمدیہ کا مبلغ تھا۔ ان تینوں کے باہمی مراسم تھے۔ بعض اخلاقی معاملات میں شیخ عبدالرحمن مصری (جو خلیفہ محمود کے سفر لندن، فرانس، اٹلی وغیرہ وغیرہ یورپین ممالک کے وقت قائم مقام خلیفہ قادیان مقرر کیا جاتا تھا) خلیفہ محمود اور شیخ عبدالرحمن مصری کے اختلافات ہو گئے۔ شیخ مصری نے بعض اندرونی اخلاقی کردار کے نقطوں کی وضاحت چاہی تھی اور خلیفہ محمود کو مختلف اوقات میں چٹھیاں لکھیں۔ جن کا جواب مرزا محمود قادیانی خلیفہ قادیان نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لئے نہ دیا۔ چنانچہ فخرالدین ملتانی اور حکیم عبدالعزیز نے چٹھیاں پڑھ کر شیخ عبدالرحمن مصری کا ساتھ دیا۔

خلیفہ محمود کے حکم سے عبدالرحمن مصری، فخرالدین ملتانی اور حکیم عبدالعزیز کا بائیکاٹ "مقاطعہ" کر دیا اور ان کے خلاف قادیانی معابد میں اعلان کر دیئے گئے اور اخبار الفضل میں ان کے خلاف اشتعال انگیز مضامین چھاپے گئے اور ان کے خلاف توہین خلافت اور الزامات خلافت کی بناء پر جلسے شروع ہو گئے اور ان کے قتل کا منصوبہ قصر خلافت میں ہوا۔ جس میں قادیانی غنڈوں کی خدمات حاصل کی گئیں کہ راتوں رات ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ راز فاش ہو گیا۔ شیخ اپنی جانوں کی حفاظت کے لئے فخرالدین ملتانی اور حکیم عبدالعزیز تھانہ چوکی قادیان کو اطلاع کرنے بڑے بازار سے گزر رہے تھے کہ قادیانی غنڈوں نے ان کو گھیر لیا اور عزیز قلعی گر احمدی سیالکوٹی نے فخرالدین کے خنجر گھونپ دیا اور حکیم عبدالعزیز کی گردن پر خنجر مارا جو اتفاق سے خنجر ان کے کندھے پر لگا اور وہ لہولہان ہو گئے۔ چونکہ اس بازار میں دو تین سکھوں اور کچھ مسلمانوں کی دکانیں تھیں۔ شور سن کر وہاں پہنچے۔ مضروبین کو ڈاکٹر گوربخش سنگھ سے پٹی کروائی گئی۔ فخرالدین ختم ہو چکا تھا۔ حکیم عبدالعزیز زخموں سے کراہ رہا تھا۔ عبدالعزیز قلعی گر کو پکڑا گیا۔ دوسرے دن اخبار الفضل عرف الدجل نے خبر شائع کی کہ مرتدین کا احمدیوں پر حملہ۔ بڑے بازار والے خبر پڑھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا صریح جھوٹ، غنڈے سے غنڈہ بھی نہیں بولتا۔ جو الدجل بولتا ہے۔

مسلمانوں کی عیدگاہ پر حملہ

یہ غالباً ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ء کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کے ملحقہ عیدگاہ تھی۔ جس میں شروع سے ہی مسلمان نماز عید ادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کی تبلیغی کوششوں سے دیہات سے بھی لوگ عیدگاہ میں نماز کے لئے آنے شروع

ہو گئے اور مرزائیوں کا دہشت و دباؤ اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ بات خلیفہ قادیان اور اس کی جماعت کو ناگوار گزرنے لگی تو انہوں نے عیدگاہ پر قبضہ کرنے کی ناپاک و مکروہ سازش و سکیم بنائی۔ چنانچہ عید کے روز صبح ہی خدام الاحمدیہ کے لٹھ بردار والنٹیرز مرزا ناصر کی سرکردگی میں عزیز بھا تیزی کی سپہ سالاری میں عبدالرحمٰن جٹ قادیانی پادری جنرل پریذیڈنٹ انجمن احمدیہ قادیان کی رہنمائی میں مرزائی غنڈوں کا گروہ پہنچ گیا اور مسلمانوں کو وہاں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ ان کو یک دم حملہ کا وہم گمان بھی نہ تھا۔ حملہ کر کے قریب سو نہتے مسلمان کو شدید ضربات پہنچائی گئیں۔ جس پر مقدمہ چلا۔ پادری عبدالرحمٰن جٹ جنرل پریذیڈنٹ اور اس کے کچھ حواریوں کو سزائے قید ہوئی۔ بوڑھا شخص شیخ چراغ دین نامی ضربات کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا۔

مرزائیوں نے عیدگاہ کے ساتھ قبرستان پر حملہ کرنا چاہا۔ شیخ چراغ دین کو مسلم قبرستان میں دفنانے نہ دیا۔ مسلمانوں نے شیخ چراغ دین کے جنازے کو اٹھایا۔ ۱۲ میل کندھوں پر بٹالہ لے گیا اور نعش کو مسٹر کشن ماتھر کی کچہری میں رکھ دیا اور فریاد کی کہ ان کے عیدگاہ اور قبرستان پر مرزائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور دفن نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے پولیس کی گارد بھیجی جو قادیان میں مسلمانوں کے قبرستان میں پولیس کی حفاظت میں شیخ چراغ دین کو دفن کیا گیا۔ اس پر بٹالہ شہر کے لوگوں نے قبرستان اور مساجد پر بورڈ لگا دیئے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اس میں مرزائی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اس میں مرزائی دفن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوٹلوں کے مالکان نے تختے لگا کر لکھ دیئے کہ یہ مرزائیوں اور عیسائیوں کے لئے جدا برتن ہیں۔ اور پنجاب میں عام مطالبہ ہونے لگ گیا کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ سرکاری طبقہ میں علامہ اقبالؒ اور سر مرزا ظفر علی ریٹائرڈ جج ہائیکورٹ پنجاب لاہور نے مرزائیوں کے خلاف عملی سرگرمیاں دکھائیں۔ انجمن حمایت اسلام لاہور سے مرزائیوں کا اخراج ہوا۔

مرزا ناصر احمد صدر خدام الاحمدیہ کا پولیس مقابلہ و گرفتاری

مرزا محمود خلیفہ قادیان عیش و عشرت کا دلدادہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے ناصر احمد کو لندن سے تعلیم دلوائی۔ مرزا محمود کا خاندان گرمیوں میں قادیان چھوڑ کر ڈلہوزی پہاڑ صحت افزا مقام پر رہتا تھا۔ کیونکہ وہ عیاش طبعی کی وجہ سے مرغن غذائیں کھاتا۔ جو ہضم نہ ہوتیں اور اکثر

مریض بن جاتا۔

محمد علی ایم اے لاہوری کی پارٹی کے لیڈر کی بھی ڈلہوزی میں کوٹھی تھی۔ ۱۹۴۲ء میں پولیس کو کسی تحقیق کے سلسلے میں ڈلہوزی جانا پڑا۔ انہوں نے مرزا ناصر احمد صدر خدام الاحمدیہ (لٹھ بند رضاکاروں کے انچارج) سے کوئی بات دریافت کرنی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ جماعتی اشارے پر مختلف جلسوں پر حملہ کر چکے تھے۔ مرزا ناصر احمد اپنے آپ کو ہونے والا خلیفہ (شہزادہ) سمجھتا تھا۔ اس نے پولیس کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور اپنے کمرہ کی تلاشی نہ کرنے دی۔ پولیس بنگلہ آفیسران، خدام الاحمدیہ کے ریکارڈ یا دیگر سیاسی ریکارڈ تنظیم یا اسلحہ کی دریافت میں تھی۔ یورپ کی جنگ برطانیہ و جرمن جاری تھی۔ اس پر پولیس نے مداخلت کے جرم میں اس کو گرفتار کرنا چاہا تو مرزا ناصر نے اندر سے آتشیں اسلحہ نکال کر مقابلہ پر پوزیشن لے لی۔ اس کے حواری بھی مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ آخر پولیس نے مرزا ناصر پسر مرزا محمود خلیفہ قادیان کو حراست میں لے لیا اور شیخ نور محمد صاحب سابق ڈپٹی کمشنر کی ضمانت و چٹھی رہائی پر مرزا ناصر احمد کو رہائی ملی۔ اخبارات میں عام خبریں جو شائع ہوئیں کہ منکرین جہاد انگریزی کے فرمانبردار ذاتی وقار کے لئے جہاد پر کیوں اتر آئے؟

فاضل قصاب کا دردناک قتل

محمد فاضل قصاب ایک نوجوان مسلمان بدوملہی ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ اس کا بہنوئی مولا بخش قصاب نے مرزائی ہو کر قادیان میں اقصیٰ کے دروازے کے سامنے گوشت فروخت کرتا تھا۔ محمد فاضل قصاب بھی چند دن کے لئے بطور مہمان اس کے گھر آیا اور مولا بخش کی دکان پر بیٹھ کر مولا بخش کی گوشت فروشی میں امداد کرتا۔ مولا بخش دیہات میں بکرے خریدنے جاتا تو محمد فاضل اس کی دکان پر بیٹھ کر پیچھے کا کام چلاتا۔ چونکہ مرزائیوں نے مسلمانوں کا اقتصادی بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ محمد فاضل ان کی اقصیٰ میں نماز پڑھنے نہ جاتا اور وہ مرزائیوں کے بڑے چھوٹے افراد کو نہ جانتا تھا۔ مرزائی جماعت کے لوگوں نے محمد فاضل سے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا کہ وہ احمدی نہیں ہے اور مرزائیوں کے کارخاص (سی۔ آئی۔ ڈی) نے ناظر امور عامہ میں رپورٹ دے دی کہ محمد فاضل غیر احمدی ہے اور احمدی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ احمدی ہے اور غیر مرزائی کے ہاتھ اور دوکان سے سودا گوشت خرید لیتے تھے۔ جب تک معاہدہ تجارت کا ناظر امور

عہدہ اور انجمن احمدیہ پریذیڈنٹ قادیانی ڈسٹرکٹ فرزند علی تھے۔ کیونکہ قادیانی اسٹیٹ میں ظلم کا راج تھا۔ سی۔ آئی۔ ڈی سفید کپڑوں میں بھرے شہر کی رپورٹیں محکمہ امور عامہ کے ناظر سید ولی اللہ شاہ جو خلیفہ قادیان مرزا محمود کا سالا تھا۔ وہ انچارج تھا اور وہ رپورٹوں پر حکم جنرل پریذیڈنٹ کو لکھتا تھا کہ فلاں کا بائیکاٹ، فلاں کا مقاطعہ، فلاں کا اخراج جماعت اور اخراج از قادیان کیا جائے۔

محمد فاضل کی محکمہ امور میں طلبی

قادیانی مسجد اقصیٰ کے ملحق بلڈنگ میں مرزائی جماعت قادیان کی سٹیٹ کے دفاتر تھے۔ عام دفاتر تھے۔ یہ بلڈنگ دو منزلہ تھی۔ نیچے جنرل پریذیڈنٹ کا دفتر اور دیگر دفاتر محکمہ خزانہ محاسب کا دفتر، تبلیغ کا دفتر، دفتر اشاعت ٹریکٹ و پوسٹر مخالفین کے خلاف وغیرہ وغیرہ۔

ان دفاتر کے بالکل سامنے تقریباً ۱۲ فٹ گلی کے ساتھ قصر خلافت الموسومہ قصر خلافت تھا۔ جس میں خلیفہ محمود اوپر کی منزل میں رہتا اور ہر قسم کے اخلاقی الزامات اس قصر خلافت میں ہوتے۔ جہاں ہر طرح سے عیش و طرب مہیا تھا۔ محمد فاضل نوجوان تھا۔ اس کو دفتر امور عامہ بلڈنگ میں بلایا گیا اور اس کو مختلف قسم کے لالچ دے کر مرزائی بنانے کی پیش کش کی۔ مگر اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور جب وہ نہ مانا تو مختلف قسم کی دھمکیاں دی گئیں اور کارندوں کے رضاکاروں نے اس پر تشدد برسائے اور اس کو گلے سے پکڑ کر ولی اللہ شاہ ناظر امور عامہ کے حکم سے زدوکوب کیا گیا۔ گلا گھونٹا گیا۔ جس سے اس نے شور مچایا۔ مگر آواز بند ہو گئی تھی۔ گلا گھونٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس جرم سے بچنے کے لئے اس کو دوسری منزل سے نیچے پختہ فرش دفاتر کے راستہ پر پھینک کر الٹا مرزائی ناظر و رضاکاروں نے شور مچایا کہ محمد فاضل نے خودکشی کر لی اور نعش کو باہر اپنے دفتر کے سامنے رکھ دیا اور اس کو معمولی غسل کے ذریعہ دفنانے کا انتظام کرنے لگے کہ راز فاش ہو گیا کہ محمد فاضل کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ بعض ملازمین مرزائی ولی اللہ شاہ سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے در پردہ مسلمانوں کو اطلاع دے دی تھی۔ مسلمانوں نے تھانہ میں اطلاع دی اور حکام کو بھی تفتیش ہوئی۔ پولیس نے دفاتروں کا موقعہ دیکھا۔ فرش پر خون کے دھبے گرانے کی وجہ جو آئی تھی۔ افسران نے موقعہ دیکھا۔ مگر انگریزی دور میں مرزائیوں کا کیا بگڑ سکتا تھا اور یہ لوگ روپیہ خرچنے میں بہت دلیر واقع ہوئے ہیں۔ پھر سو ملکل کا تھا۔ پولیس نے یہ تفتیش ناکام کر دی کہ موقعہ پر گلا گھونٹنے اور منزل سے گرانے کا کوئی گواہ نہیں

ہے اور اس کی خودکشی دو منزلہ مکان کے نیچے چھلانگ لگانے کے، بہت سے مرزائی ملازم گواہ بن چکے تھے۔ اس طرح محمد فضل کا قتل بھی چھپ گیا۔

اغوا و تفتیش

ہر حکومت کو مرزائی کی سابقہ دہشت گردی، محمد امین خان سیٹھ کا قتل، فخر الدین کا قتل، محمد فاضل کا قتل اور پھر ان قتلوں کو چھپانا اور جرم سے صاف بچ کر نکلنا مرزا طاہر احمد کا ہر قیمت ممکن کر فرار ہوتا۔ ان کے پاس ربوہ میں تاج پر اسلحہ کا سٹاک ان کی قاتلانہ حیثیت مسلمان طلباء کی ٹرین پر حملہ ان کو مزید بھتہ خوری جیسے مقصدوں سے کام لیا۔ اس کے ذرائع اور ہاتھ لمبے ہیں۔

قادیانی گروہ ملٹری ٹرک، جیپ، کاریں، ہوائی جہاز پر آسانی سے سیر کر سکتے ہیں۔ ایسے دہشت گردی کے واقعات ان کے بائیں ہاتھ کے کرتب ہیں۔ پاکستان کو وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ قادیان حاصل کرنے کے لئے اپنے مخالفوں کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے تیار ہیں۔ اس گروہ کے سیاہ کارناموں کا عوام کو پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ اس حسن صباحی گروہ کے شروں سے بچائے۔ آمین!

بولتی تحریریں...... کس کے وفادار؟ کس کے ایجنٹ؟ کس کے جاسوس؟

قادیان کے حسن بن صباح کی جماعت مرزائی لوگوں کے سامنے مذہبی لبادہ اوڑھ کر فرقہ احمدیہ کے نام سے نمودار ہوئی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: "مناسب معلوم ہوتا ہے اس فرقہ کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے۔" (تریاق القلوب ص ۱۹، خزائن ج ۱۵ ص ۵۲۷)

مالی غربت

"میرے والد (غلام مرتضیٰ) جو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے.. اس نامرادی کی وجہ سے ایک عمیق گرداب غم واضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے۔"

(کتاب البریہ ص ۱۹۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۷)

انگریزی ملازمت

"آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) شہر سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ (۱۵ روپے ماہوار)" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۴۳، روایت

نمبر ۳۰)

شہرت کا طریقہ

منشی غلام احمد قادیانی نے مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں وہ فیل ہو گیا۔ پھر مذہب میں چھلانگ لگائی۔ دل میں شہرت کا خیال اور مال و دولت کی حرص تھی۔ اس لئے مختلف طریقوں سے روپیہ حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ سب سے پہلے کتابوں کو لکھنے اور فروخت کرنے کی سکیم بنائی اور ساتھ ہی اسلام کی خدمت کرنے کے بہانے سے چندہ حاصل کیا اور پھر مختلف دعاوی شروع کر دیئے۔ مجدد، مہدی، مثیل مسیح، پھر مسیح، ظلی نبی، بروزی، غیر شرعی نبی، مامور وغیرہ قسم کے گول مول الفاظ سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا۔

شہرت کی ہوس میں کرشن، جے سنگھ بہادر، رودر گوپال اور کرشن اوتار بن کر کشف، الہام، خواب کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے جھوٹے دعاوی کرتا رہا جو بعد میں اس کی ذلت کے باعث بنے۔ ملاحظہ ہو:

”مسیح آ گیا ہے اور وہ وقت آ رہا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ زمین پر شری رام چندر پوجا جائے گا نہ کرشن و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۵، خزائن ج ۶ ص ۳۸۱)

”اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا میں کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ (ہندو، عیسائی، یہودی، بہائی، غیر مسلم وغیرہ) ہلاک ہو جائیں گے اور راستبازی ترقی کرے گی۔“ (ایام صلح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۱)

غلام احمد قادیانی چاپلوسی، خوشامد اور ابن الوقتی کا ماہر ہوتا گیا اور دولت کی فراہمی میں ہر حیلہ سے کام لیا اور جاسوسی کو (انگریزی حکومت کی) اس نے اپنا مذہب بنا لیا۔ ملاحظہ ہو:

”باعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے (انگریزی حکومت) گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا وفادار اور جانثار یہی فرقہ ہے۔“

(تبلیغ رسالت ص ۱۳ ج ۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۵)

”سرکار دولتمدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار و جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے ..... اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط

تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ اپنے ماتحت حکام کو اشارہ سے فرمائے۔ (رازداری سے) کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔" (تبلیغ رسالت ص ۱۹۔ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۱)

"جو کچھ ہم پوری آزادی کے ساتھ اس گورنمنٹ کے تحت اشاعت میں لا سکتے ہیں۔ یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز نہیں کر سکتے۔"

(ازالہ اوہام ص ۵۰۹ خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

انگریز کی جاسوسی مسلمانوں کی دل آزاری اور انبیاء اور اسلام کی توہین کے علاوہ اور کون سی خدمت کی۔ اگر ہم برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔

گورنمنٹ برطانیہ کی وفادار فوج

"میری جماعت گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔" (تحفہ قیصریہ ص ۱۰ خزائن ج ۱۲ ص ۲۶۳)

جاسوسی کی ابتدائی تبلیغ

"قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ ... ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں [illegible] رکھے گی۔" (تبلیغ رسالت ج ۵ ص ۱۱ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۲۷)

"میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن گورنمنٹ عالیہ میری خدمات کی قدر کرے گی۔"

(تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۴۸ اشتہار ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۲۶)

"غرض میں گورنمنٹ کے لئے بمنزلہ حرز سلطنت ہوں۔"

(تبلیغ رسالت ج ۶ ص ۶۹ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۷۱)

تبلیغ کا پول

"سو مجھ سے پادریوں کے مقابل جو کچھ وقوع میں آیا ہے۔ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں سے اول درجہ کا خیرخواہ

گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ کا بنا دیا ہے۔ والد مرحوم کے اثر نے، گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست۔" (مندرجہ تریاق القلوب ص ب ج خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۱)

مشترکہ فوائد

"ہمارے فوائد اور گورنمنٹ کے فوائد متحد ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں یہ گورنمنٹ پھیلتی ہے۔ وہاں ہمارے لئے تبلیغ کا ایک میدان کھلتا ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۴ء)

گہرا تعلق

"ہمارے حالات ہی اس قسم کے ہیں جو کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قدم آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔"
(خلیفہ مرزا محمود قادیانی مندرجہ الفضل قادیان مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۱۸ء)

غیر ممالک میں امداد

"اگر ہم دیگر ممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برٹش گورنمنٹ ہماری مدد کرتی ہے۔" (برکات خلافت ص ۶۵)

روس میں انگریزی خدمات

"روس میں اگرچہ تبلیغ کے لئے گیا تھا۔ لیکن چونکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس لئے جہاں میں تبلیغ کرتا ہوں۔ وہاں مجھے لازماً انگریزی حکومت کی خدمات کرنی پڑتی تھی۔" (مندرجہ الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۴۰ مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۲ء)

افغانستان میں جاسوسی

"حکومت افغانستان نے دو احمدیوں پر مقدمہ چلایا کہ وہ برطانیہ کے جاسوس ہیں۔"
(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳ مارچ ۱۹۲۰ء)

تبلیغ کا پہلا زینہ جاسوس جماعت

"ایک دفعہ برلن (جرمنی) میں احمدیوں نے ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا اور بڑے

بڑے آفیسروں کو اپنی پارٹی میں شمولیت کے دعوت نامے بھیجے۔ ایک جرمن وزیر بھی اس پارٹی میں شامل ہوا تو حکومت جرمنی نے اس جرمن وزیر سے جواب طلبی کی کہ برطانیہ کی جاسوس جماعت کی پارٹی میں کیوں شامل ہوئے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۳۴ء)

گورنمنٹ برطانیہ کی پٹھو جماعت

"ہماری جماعت وہ جماعت ہے جسے شروع میں ہی لوگ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کی پٹھو ہے۔ بعض لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۸۵ ص ۲، مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۳۴ء)

جاسوس اور ایجنٹ جماعت

"پھر یہ خیال کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کی ایجنٹ ہے۔ لوگوں کے دل میں اس قدر راسخ تھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم علیحدگی میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا انگریزی حکومت سے کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹر سید محمود جو اس وقت کانگریس کے سیکرٹری تھے۔ ایک دفعہ قادیان آئے۔ انہوں نے بتایا کہ پنڈت جواہر لعل نہرو جب یورپ کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اسٹیشن پر اتر کر جو باتیں سب سے پہلے کیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نے اس سفر سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ انگریزی گورنمنٹ کو ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کو کمزور کیا جاوے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ احمدی جماعت انگریزوں کی قائم کردہ اور ایجنٹ ہے۔" (خطبہ محمود مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۲۳ نمبر ۳۱ ص ۷ مورخہ ۲ اگست ۱۹۳۵ء)

انگریزوں کی فتح ہماری فتح ہے

"جماعت احمدیہ کے لئے خوشی کا مقام ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اور خوشی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کی قوم ہماری محسن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسیح موعود کی دعا زبردست رنگ میں مقبول ہوئی اور صحابہ کی طرح یومئذ یفرح المومنون بنصر اللہ کا انعام ہمیں عطا ہوا۔" (اخبار ریویو آف ریلیجنز ج ۱۷ نمبر ۱۲ ص ۲۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آئینہ قادیانیت

مولانا عبدالحلیم الیاسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

تعارف

اجراء نبوت کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ حضور سرورِ کائنات ﷺ کی وفات کے بعد جب چند مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفۂ اوّل حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بلا تامل ان کے اور ان کے متبعین کے کافر و مرتد ہونے کا اعلان فرما دیا اور ان سے جہاد فرمایا۔ اس کے بعد بھی تاریخ اسلام میں کبھی کبھی ایسے فتنے نمودار ہوتے رہے اور آخر کار کیفر کردار کو پہنچے۔

زمانہ حال کے دو فتنوں میں سے ایک فتنہ ایران کے بہاء اللہ کے دعویٰ نبوت کا ہے اور دوسرا قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کا ہے۔ مغرب کی استعماری و سامراجی طاقتوں میں سے روسیوں نے اپنے وقت میں بہائیوں کو عشق آباد میں پناہ دی اور پروان چڑھنے کے مواقع بہم پہنچائے اور ہندوستان میں انگریزوں نے قادیانیت کی سرپرستی کی اور اسے پھلنے پھولنے کے مواقع دیئے۔ اس فتنہ کے خلاف علمائے وقت نے خوب خوب قلمی جہاد کیا۔ تقریریں ہوئیں، بحثیں ہوئیں، مناظرے ہوئے۔ لیکن فتنہ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ گرفت میں بڑی مشکل سے آتا ہے اور یہی حالت مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچ در پیچ دعووں اور ان کے مریدین کی الجھی ہوئی تاویلات کی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ

مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

کے مصداق حضرت پروفیسر مولانا محمد الیاس برنیؒ نے قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد شروع فرمایا اور آپ کی مساعی بالآخر مشہور کتاب قادیانی مذہب اور قادیانی تحریک سے متعلق چند رسالوں کی شکل میں نمودار ہوئیں۔ ان تصنیفات نے مسلمانوں کے سامنے قادیانی مذہب کا پول کھول دیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ قادیانی مذہب کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مدعا کیا ہے، انجام کیا ہے۔

حضرت موصوف کی یہ کتابیں کچھ عرصے سے کمیاب ہیں۔ حال میں دکن میں چند خاص مقامات پر قادیانی تحریک حرکت میں آئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مقامات اور اطراف و اکناف کے مسلمانوں کو قادیانیت کی حقیقت سے واقف کرا دیا جائے۔ میرے استاد محترم مولوی عبدالحلیم صاحب حضرت مولانا الیاس برنیؒ کے بڑے فیض یافتہ مرید خاص ہیں۔ آپ نے اپنی

حال میں مولانا الیاس برنیؒ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ مرتب کر کے "قولِ طیب" کے نام سے شائع فرمایا ہے۔ جسے خواص و عوام میں بہت حسن قبول حاصل ہوا۔

میں نے اور بعض دیگر احباب مولوی نجم الہدیٰ صاحب اور حاجی اسحاق سیٹھ صاحب نے عبدالحلیم صاحب موصوف سے خواہش کی کہ قادیانی تحریک سے متعلق معلومات پر مشتمل ایک ایسا مختصر رسالہ مرتب فرمائیں کہ سرسری نظر میں قادیانیت کے خدوخال مسلمانوں کے سامنے آجائیں۔ وقت بہت کم تھا۔ تاہم صاحب موصوف نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ جس میں نہایت سنجیدگی اور متانت سے قادیانی مذہب کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس رسالہ کو اہل سنت والجماعت کمیٹی یادگیر کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ کہ اس رسالہ کے مضامین کو مساجد و مجالس میں پڑھ کر سنایا جائے۔ تاکہ جو مسلمان اس فتنہ کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ باخبر اور ہوشیار ہو جائیں۔

والسلام!

خادم: عبدالصمد الثقافی یادگیر ضلع گلبرگہ ۱۶ نومبر ۱۹۶۳ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم • خاتم النبیین • رحمۃ للعالمین • بالمؤمنین رؤف رحیم!

تمہید

قادیانی تحریک کے متعلق مرشدی و مولائی حضرت الیاس برنیؒ کی مشہور تالیف "قادیانی مذہب" تحقیق کے اعتبار سے سند مانی جاتی ہے۔ ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے بے نظیر تسلیم کی جاتی ہے اور جامعیت کے اعتبار سے قادیانیت کی "انسائیکلوپیڈیا" کہلاتی ہے۔ قادیانی تحریک کیا ہے۔ اس کا مقصد و منشاء کیا ہے۔ انجام کیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنے کی کس درجہ ضرورت ہے۔

قادیانی لٹریچر کی خصوصیات

قادیانیت تمام تر تحریف و تدلیس کا عبرت ناک کرشمہ ہے۔ جس نے مرزا قادیانی کو نبی رسول بنا دیا۔ مزعومہ قادیانی وحی کو قرآنی وحی کے ہم پلہ بنا دیا اور خود قادیان کو مکہ معظمہ کے ہم مرتبہ بنا دیا۔ بلکہ قادیان کو قرآن میں لکھا ہوا کھلا مرزا قادیانی نے دیکھ لیا۔ قادیانی لٹریچر کی

خصوصیات ہیں۔ طول کلام، التباس وابہام، لفظی ہیر پھیر، اختلاف کے ڈھیر، کہیں اقرار، کہیں انکار، کہیں دعویٰ، کہیں فرار، پراگندہ وتکرار، تخیل سازی کی بھرمار، تاویلات کے انبار، بحیثیت مجموعی قادیانی لٹریچر ایک بھول بھلیاں بن گیا۔ قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں، اکابر امت کی تصنیف میں کس خوبی اور کس بے باکی سے تحریف کی گئی۔ تب کہیں اس مذہب کی صورت پیدا ہوسکی۔ اگر اس کا نام ہی تحریفات رکھ دیا جائے تو اسم با مسمّیٰ ہوگا۔ اسی وقت کے مدنظر مولانا محمد الیاس برنیؒ نے مرزا قادیانی اور ان کے خلفاء اور قادیانی اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے اصول و مسائل کو محاسبہ کے طور پر کتاب "قادیانی مذہب" کے نام سے شائع فرما دیا کہ دنیا پر قادیانیت کا پول کھل گیا۔

اسلام میں اخوت واتحاد کی جس قدر تعلیم وتاکید ہے۔ کسی دوسرے مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حالات زمانہ بھی سخت متقاضی ہیں کہ مسلمان آپس میں متفق ومتحد ہوجائیں۔ فرقوں کی تفریق گھٹائیں۔ بلکہ ہوسکے تو تفریق مٹائیں۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، یعنی سارا دین ایک۔ سب مسلمانانِ اسلام کے نام پر ایسے متحد ہوجائیں کہ قرآن کے فائدے سے گویا فولادی دیوار بن جائیں۔ لیکن قادیانیت کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ ایک نیا رسول گھڑا گیا۔ قرآن کریم کے پہلو بہ پہلو وحی کا دروازہ کھولا۔ تمام مسلمانانِ عالم کو کافر قرار دیا۔ سیاسیات میں قدم جمایا اور اسلامی ممالک میں ریشہ دوانی شروع کی۔ خلاصہ یہ کہ قادیانیت نے اسلام اور مسلمانوں کے واسطے انشقاق وافتراق کا خطرۂ عظیم پیدا کردیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ مولانا الیاس برنیؒ نے اپنی تالیفات کے ذریعہ قادیانیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کردیا اور مسلمان ہوشیار ہوگئے۔ قادیانی تحریک سے متعلق حضرت کی ضخیم تالیفات عرصہ سے کمیاب ہیں۔ احباب کا تقاضا ہوا کہ قادیانی مذہب سے متعلق اہم معلومات کا ایک خلاصہ مرتب ہوجائے تاکہ عوام وخواص کو بیک نظر قادیانیت کے چہرے کے خدوخال نظر آجائیں۔ چنانچہ "آئینہ قادیانیت" پیش ہے۔ اس رسالہ کی ترتیب میں بیشتر مولانا برنیؒ کی تالیفات سے مدد لی گئی ہے۔ آئندہ بھی حسب ضرورت ان شاء اللہ مختصر رسالے پیش ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو داخلی وخارجی شر وفساد سے [illegible] رکھے۔ آمین!

خادم: عبدالحلیم الیاسی، ایم۔ اے

۱۳۸/ مسجد چوک شاہ جی لین دروازہ دبیر پورہ حیدرآباد (بھارت)

بروز پیر مورخہ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۸۳ھ بمطابق

۱۱ نومبر ۱۹۶۳ء

باب اوّل ...... مرزا قادیانی کی جسمانی ودماغی صحت

مرزا غلام احمد قادیانی کی جسمانی اور دماغی صحت بہت خراب رہتی تھی۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

۱..... دائم المریض

”میں ایک دائم المریض آدمی ہوں..... ہمیشہ درد سر اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بعض اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔“

{ضمیمہ اربعین نمبر ۳ ص ۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۰، ۴۷۱}

۲..... مراق اور کثرت بول

”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔“

{مندرجہ رسالہ تشحیذ الاذہان ص ۵ نمبر ۶ ج ۱، اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء}

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بیماروں کو تندرست بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لیکن مسیح موعود یعنی بزعم خود مرزا قادیانی کی نشانی خود امراض ہیں۔ خاص کر مراق اور کثرت بول۔

مژدہ باد اے مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

۳..... ہسٹریا

”ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض وقت آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات

پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے ایک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا۔ ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے۔ یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا پریشان ہونا۔ وغیرہ ذالک۔" (سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۵۵، روایت نمبر ۳۶۹)

"ہسٹریا کا بیورحم کو اختناق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو رحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورنہ مردوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ جن کو یہ مرض ہو ان کو مراقی کہتے ہیں۔" (اخبار [illegible] ج ۱۰ نمبر ۸۲، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۲۳ء)

۴...... خاندانی اثرات

"بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مرزا صاحب کے ایک حقیقی ماموں تھے۔ جن کا نام مرزا جمعیت بیگ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا تھا۔" (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۲۵، روایت نمبر ۲۱۲)

"مراق کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ورثہ میں ملا ہوا طبعی میلان اور عصبی کمزوری ہے۔ عصبی امراض ہمیشہ ورثہ میں ملتے ہیں اور لمبے عرصے تک خاندان میں چلتے ہیں۔"
(بیاض حکیم نورالدین جلد اول منقول از اخبار پیغام صلح مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۴۲ء)

۵...... مراق کی ماہیت

"مالیخولیا کی ایک قسم ہے جسے مراق کہتے ہیں۔ یہ مرض تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جس عضو میں یہ مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔" (شرح الاسباب والعلامات امراض راس مالیخولیا مصنفہ علامہ برہان الدین نفیس)

۶...... مراق کے اسباب

"اکثر یہ مرض (مراق) تجارب سے یا زیادہ خوض علم میں کرنے یا محنت شدید یا ریاضت شدید یا مجاہدہ نفس سے پیدا ہوتا ہے۔" (تذکرۃ المراق فی مرض المراق ص ۲۰)

۷...... علامات مرض

"مریض ہمیشہ سست و متفکر رہتا ہے۔ اس میں خودی کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

ہر بات میں مبالغہ کرتا ہے۔ بھوک نہیں لگتی، کھانا ٹھیک طور پر ہضم نہیں ہوتا۔"

(مخزن حکمت مصنفہ شمس الاطباء حکیم ڈاکٹر غلام جیلانی طبع دوم)

"بعض مریضوں میں لکھا ہے کہ یہ فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب داں سمجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے۔۔۔۔ اور بعض میں یہ فساد یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔"

(شرح الاسباب والعلامات حصہ مراق و مالیخولیا مصنفہ علامہ برہان الدین نفیس)

"مریض کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہو جاتے ہیں جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔" (اکسیر اعظم ج۱ ص ۱۸۸)

۸۔۔۔۔۔ہسٹریا اور دعویٰ الہام

"ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا یا مالیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔"

(مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز قادیان بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ئ)

۹۔۔۔۔۔خبیث چیزیں

"ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ پس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔"

(نسیم دعوت ص۶۹، خزائن ج۱۹ ص ۴۳۴)

توکل کی بات تو عوام الناس کو سنانے کی چیز تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نہ صرف افیون بلکہ ٹانک وائن (مقوی شراب) اور بھنگ بھی استعمال فرماتے تھے اور لطف یہ کہ اپنے مریدان خاص کو باور کراتے تھے کہ افیون جسے خود انہوں نے خبیث چیز لکھا ہے، امت

ہے

شریک کرکے دوا کا نسخہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تحت تیار کرایا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ کا ارشاد ملاحظہ ہو:

۱۰……افیون کا استعمال

"افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ پس دواؤں کے ساتھ افیون کا استعمال بطور دوا کے بطور نشہ کسی رنگ میں بھی قابل اعتراض نہیں۔ … حضرت مسیح (مرزا قادیانی) نے تریاق الٰہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا اور یہ دوا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (حکیم نورالدین صاحب) کو حضور (مرزا قادیانی) چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔"

(مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۷ نمبر ۶ مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء)

۱۱……ٹانک وائن کی فرمائش

مخدومی مکرمی حکیم محمد حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ   السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگر ٹانک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام!   مرزا غلام احمد عفی عنہ

(خطوط امام بنام غلام ص ۵، مجموعہ مکتوبات مرزا غلام احمد قادیانی بنام حکیم محمد حسین قریشی)

۱۲……ٹانک وائن کا فتویٰ

ٹانک وائن کے متعلق قادیانی فتویٰ قابل ملاحظہ ہے: "پس ان حالات میں اگر حضرت مسیح موعود برانڈی اور رم کا استعمال بھی اپنے مریدوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹانک وائن جو ایک دوا ہے۔ اگر اپنے خاندان کے کسی ممبر یا دوست کے لئے جو کسی لمبے مرض سے اٹھا ہو اور کمزور ہو یا بغرض علاج خود اپنے لئے بھی منگوائی ہو اور استعمال بھی کی ہو تو اس میں کیا حرج ہوگیا۔ آپ کو ضعف کے دورے

شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے۔ نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود اس حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا تو اطباء یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانک وائن کا استعمال اندریں حالات کیا ہو تو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ بڑھاپا بھی تھا تو اندریں حالات بطور علاج پی بھی لی ہو تو کیا قباحت لازم آ گئی۔"

(اخبار پیغام صلح ج ۲۳ نمبر ۱۵ مورخہ ۳ مئی ۱۹۳۵ء نیز ج ۲۳ نمبر ۶۵ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

اوپر کی تحریروں سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی جسمانی اور دماغی صحت کی کیا کیفیت تھی۔ دیگر عوارض کے علاوہ وہ ہسٹریا اور مراق کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان بیماریوں کے مریض کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا حال اکابر اطباء کی تحریرات سے اوپر درج ہو چکا ہے۔ ان امراض کے ساتھ افیون اور ٹانک وائن کے استعمال سے اس ذہنی کیفیت کو جو تقویت ملی۔ اس نے دو آتشہ کا کام کیا۔ جس کے نتائج مختصراً آئندہ اوراق میں قابل ملاحظہ ہیں۔ دعووں کی شکل میں۔

۱۳..... حیض بچہ ہو گیا

"اسی طرح میری کتاب (اربعین نمبر ۴ ص ۱۹ حاشیہ خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۲) میں بابو الٰہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے۔ یعنی بابو الٰہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھائے گا۔ جو متواتر ہوں گے۔ تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔"

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۴۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

۱۳..... مرزا قادیانی کا حمل

"حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت (مردی کے عمل) کا اظہار فرمایا ہے۔" (ٹریکٹ نمبر ۳۴۔ اسلامی قربانی ص ۱۲)

"مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام ۔۔ مجھے مریم سے

عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔" (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

۱۵..... قادیانیت میں خدا کا تصور

"قیوم العالمین (اللہ تعالیٰ) ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہا عرض و طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحۂ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس حرکت کے ساتھ اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہوگا۔" (توضیح مرام ص ۷۵، خزائن ج ۳ ص ۹۰)

"انت منی بمنزلۃ ولدی تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔"
(حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

"اسمع ولدی اے میرے بیٹے سن۔" (البشریٰ ج ۱ ص ۴۹)

"انت من مائنا وھم من فشل تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ بزدلی سے۔" (انجام آتھم ص ۵۵، ۵۶، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵، ۵۶)

میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے کہا: "میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔" (البشریٰ ج ۲ ص ۷۹)

باب دوم ...... مرزا قادیانی کے معاملات

مرزا قادیانی کے بچپن اور جوانی کے جو واقعات مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات مختصراً یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔ جن سے اندازہ ہوگا کہ ان کے عادات و اطوار کیسے تھے اور ان کی دیانت و امانت داری کا کیا معیار تھا۔

۱..... جیبوں میں نمک

"بیان کیا مجھ سے والدہ نے کہ ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) سناتے تھے کہ جب

میں بچہ تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھے کے ایک برتن میں سے سفید بورا (شکر) اپنی جیبوں میں بھر کر باہر آ گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا۔ میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ چونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۴۳، روایت نمبر ۲۴۴)

۲……روپیہ اڑانا

“بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلے گئے۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب آپ (مرزا قادیانی) نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ (شرم سے یا ڈر سے۔ للمؤلف) اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ (یعنی چند روپیہ ماہوار پر۔ للمؤلف)“

“والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے چاء کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا۔ ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا۔ ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔ (گویا مرزا قادیانی کا روپیہ اڑانا اور امام الدین کا ڈاکہ مارنا تو کوئی عیب ہی نہ تھا۔ للمؤلف)“ (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۳، روایت نمبر ۴۹)

دعویٰ نبوت سے پہلے مرزا قادیانی کی جو مالی حالت تھی اور اس کے بعد مریدوں کے چندوں سے دولت و ثروت میں جو اضافہ ہوا۔ اس کا حال مرزا قادیانی خود اس طرح بیان کرتے ہیں: “ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر تھا……

مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک سے اٹھاتا ہے اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔ اس نے میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے ... اگر اس میرے بیان کا اعتبار نہ ہو تو بیس برس کی ڈاک کے سرکاری رجسٹروں کو دیکھو معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔ حالانکہ یہ آمدنی صرف ڈاک کے ذریعہ تک محدود نہیں رہی۔ بلکہ ہزارہا روپیہ کی آمدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان آ کر دیتے ہیں اور نیز ایسی آمدنی جو لفافوں میں نوٹ بھیجے جاتے ہیں۔" (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، ۲۱۲، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۱، ۲۲۲)

مرزا قادیانی کو مریدوں سے جو آمدنی ہوتی تھی۔ اسے وہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے تھے اور بے دریغ صرف کرتے تھے۔ لیکن جب مرزا قادیانی کی آمدنی پر انکم ٹیکس لگایا گیا تو مرزا قادیانی نے تحصیلدار بٹالہ ضلع گورداسپور کے سامنے صاف بیان دے دیا کہ مریدوں سے ان کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ ان کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ اس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو: "اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مہدی مسعود (مرزا غلام احمد قادیانی) اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال اور اقرب کو اسی آمدنی میں سے خرچ دیتے تھے جو جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتی تھی یا کسی اور شکل سے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام (مرزا قادیانی) اسی آمد سے خرچ دیا کرتے تھے۔ پس آپ کے بعد انجمن (احمدیہ قادیان) کا فرض ہے کہ ان کو اسی آمد میں سے اسی انداز پر دے جس طرح حضرت مسیح موعود دیتے تھے۔ کیونکہ انجمن مسیح موعود سے بڑھ کر امین نہیں ہو سکتی۔" (مریدوں کو بھی بہرحال مرزا قادیانی کا معیار زندگی برقرار رکھنا لازم تھا۔ ناقل) (اخبار حقیقت ص ۳ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۳۳ء جس کو قادیانیوں کی انجمن انصار اللہ لاہور نے شائع کیا)

ایک اور شہادت ملاحظہ ہو: "لدھیانہ کا ایک شخص تھا۔ جس نے ایک دفعہ مسجد میں مولوی محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب اور شیخ رحمت اللہ صاحب کے سامنے کہا کہ جماعت مقروض ہو کر اور بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندہ بھیجتی ہے۔ مگر یہاں بیوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی بیوی) کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اس پر حرام ہے کہ وہ ایک حبہ بھی

سلسلہ کے لئے بھیجیں اور پھر دیکھے کہ خدا کے سلسلہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے" تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کبھی چندہ نہ لیا جائے۔ حالانکہ وہ پرانا احمدی تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ سے بھی پہلے آپ سے تعلق رکھتا تھا۔" (جب ہی تو بے تکلفی کا مزا چکھا۔ للمؤلف)

(الفضل قادیان ج ۲۶ نمبر ۲۰۰ مورخہ ۳۰، اگست ۱۹۳۸ء)

مزید شہادت ملاحظہ ہو:

۳…… خانگی زندگی

"اور جس روز مسجد کے چندہ کے واسطے کڑیانوالے کی طرف جا رہے تھے اور جناب نواب خان صاحب تحصیلدار کے تانگے پر ہم تینوں سوار تھے۔ کوچوان اور خواجہ کمال الدین آگے تھے۔ میں (یعنی سید سرور شاہ صاحب اور جناب محمد علی صاحب) پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ فرما کر کہ راستہ باتوں میں طے ہوا کرتا ہے اور میرا ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ میں اسے پیش کرتا ہوں۔ آپ جواب دیں۔ سوال شروع کیا۔ تیج اور یکی مضمون اس کا یہ تھا۔ پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہئے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشن پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے۔ غرض ایسے وعظ کر کے روپیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے۔ لیکن جب ہماری بیبیاں خود قادیان گئیں۔ وہاں انہوں نے اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر ہمارے سر چڑھ گئیں کہ تم بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے قادیان میں جا کر خود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آرام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے۔ اس کا عشر عشیر بھی باہر نہیں۔ حالانکہ ہمارا روپیہ اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو روپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے۔ لہٰذا تم جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کر عرصہ دراز تک ہم کو دھوکہ دیتے رہے اور آئندہ ہم ہرگز تمہارے دھوکہ میں نہ آویں گی۔ پس اب وہ ہم کو روپیہ نہیں دیتیں کہ ہم قادیان بھیجیں۔ اس پر خواجہ (کمال الدین) صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو۔ مگر تمہارا وہ جواب میرے آگے نہیں چل سکتا۔ کیونکہ میں خود واقف ہوں اور پھر بعض زیورات اور بعض کپڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا…… ان اعتراضات کے باعث مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ غضب خدا نازل ہو رہا ہے اور میں متواتر دعا میں مشغول تھا۔ بار بار جناب الٰہی میں یہ عرض کرتا تھا کہ مولا کریم میں اس قسم کی باتوں کے خلاف ہوں۔ اس مجلس

سے علیحدہ ہو جاتا مگر مجبور ہوں۔ بس تیرا غضب جو نازل ہو رہا ہے اس سے مجھے بچاتا۔"

(کشف الاختلاف ص ۱۳)

مرزا قادیانی اس آمدنی پر اپنا حق اس لئے سمجھتے تھے کہ وہ خود ذریعہ آمدنی ہیں اور اگر وہ خود علیحدہ ہو جائیں تو سب آمدنی بند ہو جائے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

۳...... مالی مناقشے

"باقی آپ سے (یعنی مولوی حکیم نور الدین قادیانی خلیفہ اوّل سے) میں (یعنی میاں محمود احمد ابن مرزا غلام احمد قادیانی) یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابتلاء اگر حضرت (مرزا قادیانی) زندہ رہتے تو ان کے عہد میں بھی آتا۔ کیونکہ یہ لوگ (یعنی خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لاہوری) ہمیشہ اندر تیاری کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) سے حساب لیا جائے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اسی دن بیماری سے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہئے۔ ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محمد علی کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ لنگر کا خرچ تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ باقی ہزاروں روپیہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آکر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا کہ کیا یہ لوگ ہم کو حرام خور سمجھتے ہیں۔ ان کو اس روپیہ سے کیا تعلق۔ اگر آج میں الگ ہو جاؤں تو سب آمدنی بند ہو جائے۔

پھر خواجہ صاحب نے ایک اور ڈیپوٹیشن کے موقعہ پر جو عمارت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھا۔ مولوی محمد علی سے کہا کہ حضرت (مرزا قادیانی) آپ تو خوب عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے خرچ گھٹا کر بھی چندہ دو۔ جس کا جواب مولوی محمد علی نے یہ دیا کہ ہاں اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ مگر بشریت ہے کیا ضرور میرا ان باتوں کے لکھنے سے یہ مطلب تھا کہ یہ ابھی بات شروع نہیں ہوئی۔ بلکہ حضرت اقدس کے زمانے سے ہے۔ وہ (یعنی مرزا قادیانی) لنگر کا چندہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے وہ بھی ان کے (یعنی خواجہ صاحب وغیرہ) کے حوالے کر دیا۔ اب ان کا خیال سوجھ کہ چلو اور بھی سب کچھ کھینچو۔ باقی رہا ان کا تقویٰ وہ تو ان کے جلوں اور مجلسوں سے بہت ظاہر ہو سکتا ہے کہ جس پر شور مچا رہے ہیں وہ کام روز مرہ

کرتے ہیں۔" (میاں محمود احمد کا خط بنام مولوی نورالدین خلیفہ اوّل، مندرجہ حقیقت اختلاف ص ۵۰)

"اس خط کے آخری فقرہ سے میاں صاحب کی گھبراہٹ جو ان کو اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ سب کچھ انجمن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، جو رہا ہے، کس قدر عیاں ہے۔ حضرت مولوی (نورالدین) کا بھی اسی بڑا قصور قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے لنگر کا چندہ بھی انجمن کے حوالے کر دیا اور اب ان کو خیال سوجھا کہ چلو اور سب کچھ چھینو۔ ۔ ۔ مگر یہ سب کچھ چھین کر ہم کہاں لے جا رہے ہیں۔ کیا اپنی جائیداد بڑھا رہے تھے یا قوم پر ہی صرف کر رہے تھے...... ہاں میاں (محمود احمد) کی ذاتی جائیداد بے شک بہت بڑھ گئی ہے اور مریدوں کے بھی مکانات بن گئے تھے۔"

(حقیقت اختلاف ص ۲۴)

ان تمام شہادتوں سے ظاہر ہے کہ چندوں کی آمدنی خود مرزا قادیانی کے اہل و عیال اور انتظام خانہ داری پر بھی خرچ ہوتی تھی۔ اب مرزا قادیانی کا وہ بیان ملاحظہ ہو جو انہوں نے عذرداری انکم ٹیکس کی کارروائی میں تحصیلدار بٹالہ کے سامنے دیا تھا۔

۵...... املاک، آمدنی اور خرچ

"اگر میری تائید میں خدا کا فیصلہ نہ ہو تو میں اپنی کل املاک منقولہ و غیر منقولہ جو دس ہزار روپیہ کی قیمت سے کم نہیں ہوگی۔ عیسائیوں کو دے دوں گا۔"

(اشتہار مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۸۹۲ء مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۵ ص ۲۳، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۵۱)

"مرزا غلام احمد پر امسال سات ہزار دو سو روپیہ اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر ایک سو بیاسی روپیہ آٹھ آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذرداری پر اس کا بیان خاص موقع پر قادیان میں جب کہ کمترین بتقریب دورہ اس طرف گیا ہوا تھا اور تیرہ کس گواہان کی شہادت قلمبند کی گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلقہ داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے۔ تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً ستاسی روپیہ آنے کی، زمین کی تخمیناً تین سو روپیہ سالانہ اور باغ کی سالانہ دو سو، تین سو روپیہ، چار سو روپیہ اور حد درجہ پانسو روپیہ تک آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی اور قسم کی آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تقریباً پانچ ہزار دو سو روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے۔ اوسط سالانہ آمدنی تقریباً چار

ہزار روپے کی ہوتی ہے۔ وہ پانچ مدوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے۔ صرف یادداشت سے تخمینا لکھوا دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی بابت زمین و تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لئے کافی ہے اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔" (رپورٹ تاج الدین صاحب تحصیلدار بٹالہ ضلع گورداسپور مورخہ ۱۳ اگست ۱۸۹۹ئ، مندرجہ ضمیمہ ۱۱۱ ملحقہ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۱۹)

پیدائش دولت اور صرف دولت کے متعلق مرزا قادیانی اور ان کے معتبر اکابر مریدین کے متفقہ بیانات اوپر درج ہوئے اور انکم ٹیکس افسر کی سرکاری تحقیقات میں مرزا قادیانی نے جو حلفیہ غلط بیانی کی ہے۔ اس سے مرزا قادیانی کا معیار امانت و دیانت اظہر من الشمس ہے۔ قرآن نے تو نبی، رسول کی شان "صدیق امین" بیان فرمائی ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیانی کے ذاتی بیانات اور ان کے اکابر مریدین کی شہادتوں کے لحاظ سے وہ اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو ہدایت نصیب کرے کہ صداقت و امانت کا قرآنی معیار کھل جائے۔ آمین! (مؤلف)

باب سوم ...... دینی الفاظ کا چکر

مسلمان، قرآن، حدیث، اسلام اور خاتم النبیین

قادیانی فرقہ تحریر و تقریر میں بے تکلف ان الفاظ سے کام لیتا ہے۔ جس سے مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں کہ گویا ان کے یہ الفاظ اسلامی اصطلاحات کے عین مطابق ہیں۔

۱...... مسلمان کا مفہوم

قادیانی اپنی تحریر و تقریر میں بالعموم مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ قادیانی درحقیقت ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ۔ لفظ کچھ ہے اور معنی کچھ۔ چنانچہ لفظ مسلمانوں کی قادیانی تفسیر سنئے اور بیداد کی داد دیجئے۔ (مؤلف)

چو دور خسروی آغاز کردند
مسلمان را مسلماں باز کردند

(حقیقت الوحی ص ۱۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

’’اس الہامی شعر میں (یہ مرزا قادیانی کا شعر ہے۔ مصنف) اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کفر و اسلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں خدا نے غیر احمدیوں کو مسلمان بھی کہا ہے اور پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے۔ مسلمان تو اس لئے کہا ہے کہ وہ مسلمان نام سے پکارے جاتے ہیں اور جب تک یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کون مراد ہے۔ مگر ان کے اسلام کا اس لئے انکار کیا گیا ہے کہ وہ اب خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کیا جائے۔ آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو۔ اس سے مدعی اسلام سمجھا جائے نہ کہ حقیقی مسلمان۔‘‘

(کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز ج ۱۴ نمبر ۳ ص ۱۳۳، ۱۴۶)

’’مجھے الہام ہوا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔‘‘

(معیار الاخیار مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۹ ص ۲۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۵)

’’کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔‘‘

(آئینہ صداقت ص ۳۵)

۲ ...... ذریۃ البغایا مسلمانوں کو گالیاں

’’تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون‘‘ ان کتابوں کو سب مسلمان محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجھے قبول کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر بدکار رنڈیوں (زنا کاروں) کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔‘‘

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷ خزائن ج ۵ ص ایضاً)

گویا جو مسلمان مرزا قادیانی کی دعوت کی تصدیق نہ کریں۔ بدکار رنڈیوں کی اولاد ہیں۔ مرزا قادیانی کی تحریرات میں گالیاں کیا ہیں۔ وہ عادت سے مجبور تھے۔ ان کا لعن سے

مرزا قادیانی کی اخلاقی و روحانی مروّت کا صاف اندازہ ہوسکتا ہے کہ کس حد تک ایک شریف انسان ایسے الفاظ استعمال کرسکتا ہے۔ اب قادیانی صاحبان "بغایا" کے لفظ کی تاویل کرنے لگے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے دل میں بیٹھ گئی تو بڑی مشکل ہوگی۔ مشہور عربی لغت "لسان العرب" میں اس کے معنی ملاحظہ ہوں:

ترجمہ: بغایا، باندیوں کو کہتے تھے۔ کیونکہ بدچلنی ان کا شیوہ تھا۔ پھر کثرت استعمال سے بالآخر اس کا اطلاق بالعموم فاجرات یعنی بدچلن عورتوں پر ہونے لگا۔ خواہ باندیاں ہوں خواہ آزاد۔

پھر قرآن مجید سورۂ مریم رکوع: ۲ ملاحظہ ہو: "قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا" مستند ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی یہ ہے: "(مریم) بولی کہاں سے ہوگا میرا لڑکا اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور کبھی نہ تھی میں بدکار۔"

اور مفتی اعظم قادیان ۲۰ ا تا سید محمد سرور شاہ قادیانی کا ترجمہ قرآن ملاحظہ ہو: "اس نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ مجھے کسی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار تھی۔"

۳…… قرآن

"مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۴)

۴…… قادیانی قرآن

"اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم نہ ہوگا۔" (حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۷)

۵…… حدیث

جب مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کو قرآن کے مساوی قرار دے دیا تو پھر ان کے سامنے جو حدیث مفید مطلب نظر آئی قبول کرلی۔ خواہ کتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو اور جو خلاف مطلب نظر آئی رد کردی۔ خواہ وہ کتنی ہی مستند ہو۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے: "اور جو شخص حکم ہو کر آیا

ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۱۰ خزائن ج ۱۷ ص ۵۱)

۴...... اسلام

قرآن و حدیث کا قادیانی مفہوم بھی جو کچھ ہے معلوم ہوا۔ اب 'اسلام' کو لیجئے کہ اس کی اشاعت کا قادیانی فرقہ بہت اعلان کرتا رہتا ہے۔ احسان جتاتا ہے۔ لیکن اسلام کا نام ہے۔ قادیانیت کا کام ہے۔ چنانچہ اسلام کے متعلق قادیانی تشریح ملاحظہ ہو:

"عبداللہ کوئلیم نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی زندگی میں ایک مشن قائم کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹر ویب نے امریکہ میں اسلام کی اشاعت شروع کی۔ مگر آپ (یعنی مرزا قادیانی) نے مطلق ان کو ایک پائی کی مدد نہ کی۔ اس کی وجہ یہ کہ جس اسلام میں آپ پر ایمان لانے کی شرط نہ ہو اور آپ کے سلسلہ کا ذکر نہیں آتا اسے آپ اسلام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول (حکیم نورالدین) نے اعلان کیا تھا کہ ان کا (یعنی مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور ہمارا (قادیانیوں کا) اسلام اور ہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۵۸ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۱۴ء)

"ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے واعظ بھیجیں۔ مگر میں اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو۔ میرا یہی مذہب ہے اور حضرت مسیح موعود کے پاس رہ کر اندر باہر ان سے یہی سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ یہی میری تبلیغ ہے۔ میں اس اسلام کی تبلیغ کروں جو مسیح موعود لایا۔"
(منصب خلافت تقریر میاں محمود قادیانی ص ۲۰)

۵...... خاتم النبیین

قادیانی جماعت جب خاتم النبیین کا ذکر و اعلان کرتی ہے تو اس کا منشا اجرائے نبوت کا قادیانی عقیدہ ہوتا ہے اور مسلمان ختم نبوت کا اسلامی عقیدہ سمجھ کر قادیانی تقریر و تحریر سے دھوکا کھاتے ہیں۔ قادیانی فرقہ میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک قادیانی جماعت۔ دوسری لاہوری جماعت۔ قادیانی جماعت تو مرزا قادیانی کو عقیدہ کی بناء پر کھلم کھلا نبی رسول مانتی ہے اور ان کے منکروں کو کافر قرار دیتی ہے۔ لیکن لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو مہدی معہود اور مسیح موعود تو برحق

باقی ہے۔ البتہ مرزا قادیانی کے نبی رسول ہونے کی تاویل کرتی ہے۔ منافقت اور مصلحت کی بناء پر مسلمانوں کو کافر نہیں ٹھہراتی اور ان سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔

نبی کریم ﷺ کی ایک خاص شان قرآن کریم نے خاتم النبیین بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی ابتداء میں پختگی سے اسی عقیدہ پر قائم تھے۔ لیکن بعد کو جب خود ان کی نبوت کی تحریک شروع ہوئی تو قادیانی تحریک کے تحت طبع آزمائیاں شروع ہوگئیں۔ اس کی تفصیل کتاب ”قادیانی مذہب“ میں موجود ہے۔ مختصراً قادیانی تضاد ملاحظہ ہو:

۸...... ختم نبوت پر ایمان

”قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث ”لا نبی بعدی“ میں بھی نفی عام ہے۔ پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی۔ پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی۔“ (ایام صلح ص ۱۴۶، ۱۴۷، خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۲، ۳۹۳)

۹...... اجراء نبوت

”اللہ جل شانہ نے آنحضرت ﷺ کو صاحب خاتم بنایا۔ یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لئے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔“ (حقیقت الوحی ص ۹۷ حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰)

”نبی کریم خاتم النبیین کیا ہوئے۔ جب کسی انسان پر آپ کی نبوت کی مہر لگی اور

آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا۔ اگر آپ کی امت میں کوئی نبی نہیں ہے تو آپ خاتم النبیین بھی نہیں تھے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۱۵ء)

"وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی۔ ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی ہتک شان ہوتی ہے..... اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آنحضرت کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی۔"

(مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ ۱۷ اپریل سنہ ۱۹۰۳ء)

"ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے..... ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اسی لئے ہم نبی ہیں۔"

(مندرجہ اخبار بدر قادیان مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء منقول از حقیقت النبوۃ ص ۲۷۲ ضمیمہ نمبر ۳)

۱۰..... مرزا کرشن

"ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں۔ (یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے۔ پس جیسا کہ آریا قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں۔"

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۸۵ خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

تاہم جب مرزا قادیانی نبی بنے تو ان کے اتباع اپنا حصہ کیوں چھوڑنے لگے۔ چنانچہ اسی قادیانی اصول کے تحت نبوت کا دروازہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور مختلف قادیانیوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ مثلاً چمن... یشو وغیرہ۔

۱۱..... مرزا قادیانی خود حضرت محمد رسول اللہ

رفتہ رفتہ جب نبوت کچھ چل نکلی تو دعویٰ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ جو قادیان میں دوبارہ آئے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو: "اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی نہ پرانا۔ بلکہ خود محمد رسول اللہ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے۔"

(مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

"تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد ﷺ کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۰۵، نمبر ۳ ج ۱۴)

۱۲......رسول اللہ پر فضیلت

اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دعویٰ بڑھتا ہی گیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "له خسف القمر المنیر وان لی غسا القمران المشرقان اتنکر" اس کے (نبی کریم ﷺ کے) لئے (صرف) چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں (کے گرہن) کا اب کیا تو انکار کرے گا۔ (اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

"قرآن شریف کے لئے تین تجلیات ہیں۔ وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ سے نازل ہوا اور صحابہؓ کے ذریعہ اس نے زمین پر اشاعت پائی اور مسیح موعود کے ذریعہ سے بہت سے پوشیدہ اسرار اس کے کھلے ..... آنحضرت ﷺ کے وقت میں اس کے تمام احکام کی تکمیل ہوئی اور صحابہؓ کے وقت میں اس کے ہر ایک پہلو کی اشاعت کی تکمیل ہوئی اور مسیح موعود کے وقت میں اس کے روحانی حقائق و اسرار کے ظہور کی تکمیل ہوئی۔"

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۵ حاشیہ، خزائن ج ۲۱ ص ۶۶)

"ہمارے نبی کریم ﷺ کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح تجلی فرمائی۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۷، ۱۸۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۶۶، ۲۶۸)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۱۶ء)

تاہم جب مرزا قادیانی نبی بن گئے تو ان کے امتی اپنا حصہ کیوں چھوڑنے لگے۔ چنانچہ اسی قادیانی اصول کے تحت نبوت کا دروازہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور مختلف قادیانیوں نے اپنی

نبوت کا اعلان کر دیا۔ مثلاً چمن نمبر، پشاور صدیق دیدار وغیرہ۔ آنحضرت ﷺ پر فضیلت کی مزید مثالیں ملاحظہ ہوں۔

”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا ذہنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھا...... اس زمانہ میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو آنحضرت ﷺ پر حاصل ہے...... لوگ اپنی تربیت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن کا جواب بغیر ذہنی ترقی کے مشکل تھا۔ تلوار سے جہاد کی بجائے قلمی جہاد کا وقت تھا۔“

(ریویو جلد سالہ آف ریلیجنز قادیان بابت ماہ مئی ۱۹۲۹ء)

”تین ہزار معجزات...... ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔“

(تحفہ گولڑویہ ص ۴۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳)

”میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ...... اگر میں ان کو فرداً فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰)

اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبد یعنی بندہ اور رسول کہا۔ لیکن مرزا قادیانی نے ادعائے نبوت ہی پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ اپنے آپ کو بمنزلہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے قرار دیا۔

نعوذ باللہ من ذالک! چنانچہ مرزا قادیانی کا الہام ہے: ”انت منی بمنزلۃ ولدی“

(حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

۱۳...... صاحب کتاب

مرزا قادیانی نے جب ابتداء میں نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں سے یہ کہا کہ میں قرآن اور شریعت محمدی کے سوا کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتا۔ لیکن یہ چیز ذہنی بہلاوے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ کیونکہ رسالت سے مراد ہی صاحب وحی الٰہی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وحی الٰہی واجب التعمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مرزا قادیانی صاحب کتاب بھی بن گئے۔ ملاحظہ ہو: ”حضرت مسیح موعود اپنی وحی اپنی جماعت کو سنانے پر مامور ہیں۔ جماعت احمدیہ کو اس وحی پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ وحی اللہ اسی غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے۔ ورنہ اس کا سنانا اور پہنچانا ہی بے سود اور لغو فعل ہوگا۔ جب کہ اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا مقصود

بالذات نہ ہو۔ یہ شان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی قرآن میں یہی حکم ملا اور ان ہی الفاظ میں ملا اور بعد حضرت احمد (مرزا قادیانی) کو ملا۔ پس یہ امر بھی آپ (مرزا قادیانی) کی نبوت کی دلیل ہے۔"

(رسالہ احمدی نمبر ۵ ج ۷ بابت ۱۹۱۹ء موسومہ النبوۃ فی الالہام ص ۲۸)

"خدا تعالیٰ نے حضرت احمد علیہ السلام (مرزا قادیانی) کے مجموعہ الہامات کو الکتاب المبین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کو آیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ الہام متعدد دفعہ ہوا۔ پس آپ کی وحی جدا جدا آیت کہلا سکتی ہے اور مجموعہ الہامات کو الکتاب المبین کہہ سکتے ہیں۔ پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب لانا ضروری شرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کاملہ ہو یا کتاب المبشرات والمنذرات ہو تو ان کو واضح ہو کہ ان کی اس شرط کو بھی خدا نے پورا کر دیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کے مجموعہ الہامات کو جو مبشرات اور منذرات ہیں الکتاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلو سے بھی نبی ثابت تھے۔ ولو کرہ الکافرون"

(رسالہ احمدی نمبر ۵ ج ۷ موسومہ النبوۃ فی الالہام ص ۴۲، ۴۳)

کتاب سے نوبت شریعت تک آ گئی۔ چنانچہ لکھا ہے:

"یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا ... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔" (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵)

مرزا قادیانی کی شریعت کی چند مثلیں

۱۴..... جہاد کی تنسیخ

"مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۳ حاشیہ، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۳)

"آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔"

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵)

۱۵.....قادیان میں مسجد اقصیٰ

''پس اس پہلو کی رو سے جو اسلام کے انتہا زمانہ تک آنحضرت کا سیر کشفی ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے۔ جو قادیان میں واقع ہے۔

''پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ'' (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۹)

''اور مسجد اقصیٰ وہی ہے جس کو بنایا مسیح موعود نے۔'' (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۰)

۱۶.....ارض حرم

''جو احباب واقعی مجبوریوں کے سبب اس موقعہ (جلسہ سالانہ) پر قادیان نہیں آسکے۔ وہ تو مجبور معذور ہیں ... لیکن جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد واثق کا پاس کیا اور ارض حرم (قادیان) کے انوار وبرکات سے بہرہ اندوز ہونے ... کے شوق میں دار الامان مہدی ٹھیک وقت پر آپہنچے۔ ان کی للّٰہیت ان کا اخلاص فی الواقعہ قابل تحسین ہے۔''

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ ص ۲ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۱۵ء)

زمین قادیان اب محترم ہے
ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(در ثمین ص ۵۲)

۱۷.....قادیان کا ظلی حج

''چونکہ حج پر وہی لوگ جاسکتے ہیں جو مقدرت رکھتے اور امیر ہوں۔ حالانکہ اسکی تحریکات پہلے غرباء ہی میں پیدا ہوتی ہیں اور غرباء کو حج سے شریعت نے معذور رکھا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک اور ظلی حج مقرر کیا۔ تاوہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لینا چاہتا ہے اور تا وہ غریب یعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہوسکیں۔''

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۲۶ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۳۲ء)

''لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں۔ مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ۔ کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔''

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۵۲ خزائن ج ۵ ص ۳۵۲)

١٨...... قادیان کا بہشتی مقبرہ

"صبح کو نماز کے لئے اٹھنے سے کوئی ۲۰، ۲۵ منٹ پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک زمین اس مطلب کے لئے خریدی گئی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں دفن کی جائیں تو کہا گیا کہ اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں دفن ہوگا وہ بہشتی ہے۔"

(ملفوظات احمدیہ حصہ ہفتم ص ۲۹٦، ۱۹۰۷ء مرتبہ منظور الٰہی)

"کشفی رنگ میں وہ مقبرہ مجھے دکھلایا گیا۔ جس کا نام خدا نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے۔ اور پھر الہام ہوا: "کل مقابر الارض الاتقابل هذا الارض" یعنی زمین ہند کی تمام مقبرے اس زمین سے مقابلہ نہیں کر سکتیں۔" (اللہ رے جسارت اور گستاخی۔ مؤلف)

(مرزا غلام احمد قادیانی کے مکاشفات ص ۵۹)

باب چہارم ...... انبیاء و اولیاء و امت پر مرزا قادیانی کی فضیلت

١...... مرزا قادیانی کی تدریجی تاویلات و ترقیات

مرزا قادیانی پہلے پہل بلا کم و کیف بلا چون و چرا قرآن و حدیث کے مطابق صراحت و بداہت کے ساتھ "خاتم النبیین" پر نبوت کا ختم ہو جانا حتمی تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ تاویل و تحلیل شروع ہوتی ہے۔ ولایت، مجددیت، محدثیت، لغوی نبوت، اصطلاحی نبوت، باطنی نبوت، جزوی نبوت، ظلی نبوت، بروزی نبوت، امتی نبوت، یہاں آخر مستقل نبوت کہ اس کی وحی قرآن کریم کے مساوی اور ہم پلہ قرار پائے۔ پھر مکمل نبوت کہ اس کے بغیر نبوت محمدی ناقص رہ جائے گی اور اس کی نبوت کا انکار کیا تو وہ ہر مسلمان کافر بن جائے۔ بلکہ تمام ناواقف بے خبر مسلمان بھی اس کی برکت سے خود بخود کافر ہو جائیں۔ ختم نبوت کی کیسی انوکھی تفسیر اور ارتقاء نبوت کی کیسی اچھی تصویر ہے۔

ایک وہ زمانہ تھا جب کہ اکابر امت کی خاک پا ہونے پر فخر تھا۔ یا یہ زمانہ آیا کہ اولیاء تو کیا انبیاء بھی نظر میں نہیں جچتے اور خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مدمقابل واقع ہوئے ہیں۔ بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ خود نبی کریم ﷺ پر اول جزوی فضیلت پاتے ہیں۔ پھر بذات خود قرآنی پیش گوئی "اسمه احمد" کا حقیقی مصداق بن جاتے ہیں اور دیگر عظیم الشان قرآنی معجزات محمدی کو تمام اپنے سے منسوب بتاتے ہیں۔ قرآن میں قادیان دکھاتے ہیں۔ عجب

فضیلت جتاتے ہیں۔ انبیاء سے افضلیت کا یہ حال ہے تو اولیاء امت کو کب خاطر میں لا سکتے ہیں۔ چنانچہ صرف خلفاء راشدین، اولیاء امت پر فضیلت ہی جتاتے ہیں۔ بلکہ ان کی جس درجہ تذلیل کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا ایمان کانپ اٹھتا ہے۔ پناہ مانگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک!

مختصر امثلہ ملاحظہ ہو:

۲..... مرزا قادیانی کی تحریف، قرآن میں قادیان

"اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ: "انا انزلناہ قریباً من القادیان" اس جگہ مجھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا "انا انزلناہ قریباً من القادیان" تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ .. تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان۔ یہ کشف تھا کہ کئی سال ہوئے مجھے دکھلایا گیا تھا۔"

(ازالہ اوہام ص ۷۵ ح ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۱۳۹، ۱۴۰)

۳..... تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے
من بعرفان نہ کمترم زکسے

(درثمین ص ۱۴۲)

"کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ وہ سب کے سب حضرت رسول کریم ﷺ میں ان سب سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ظلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔ اور اسی لئے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ ہے۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے۔ حضرت نبی کریم ﷺ کی خاص صفات کے اور اب ہم (مرزا غلام احمد قادیانی) ان تمام صفات میں حضرت نبی کریم ﷺ کے

گل تھیں..... نبی کریم نے گویا سب قوموں سے چندہ وصول کیا اور وہ لوگ تو اپنے اپنے مقامات اور حالات پر رہے۔ لیکن حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس کروڑوں روپے ہو گئے اور آپ سب سے بڑھ کر دولت مند ہو گئے۔" (چندہ کی مثال عجیب ہے۔ جس کی دھن میں مرزا قادیانی رات دن رہتے تھے) (ملفوظات احمدیہ حصہ چہارم ص ۱۴۲ مرتبہ منظور الٰہی)

"واتانی مالم یؤت احد من العالمین" (یعنی) مجھ کو وہ چیز دی گئی ہے کہ دنیا و آخرت میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دی گئی۔ (استفتاء ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵)

۴..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت

"اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ فطرتی طاقتیں نہیں دی گئیں۔ جو مجھے دی گئیں۔ کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے۔ جو خدا کی عنایت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۷)

"خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔" (گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر معجزے مرزا قادیانی نے دکھلائے۔ للمؤلف) (حقیقت الوحی ص ۱۴۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

۵..... چھٹی نبوت

"خدا تعالیٰ نے "جری اللّٰہ فی حلل الانبیاء" تمام نبیوں کے قائم مقام ایک نبی مبعوث فرمایا جو یہودیوں کے لئے موسیٰ، عیسائیوں کے لئے عیسیٰ اور ہندوؤں کے لئے کرشن اور مسلمانوں کے لئے محمد اور احمد ہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۱۱، مورخہ ۲۰ مئی

۱۹۰۴ء)

۶..... تمام اولیائے امت پر فضیلت

"اسلام میں اگرچہ ہزارہا ولی اور اہل اللہ گذرے ہیں۔ مگر ان میں کوئی موعود نہ تھا۔ لیکن وہ جو مسیح کے نام پر آنے والا تھا وہ موعود تھا۔" (یعنی خود مرزا قادیانی)

(تذکرۃ الشہادتین ص ۲۹ خزائن ج ۲۰ ص ۳۱)

"میں ولایت کے سلسلہ کو خود ختم کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے آنحضرت ﷺ نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا۔"

(خطبہ الہامیہ ص ۳۵ خزائن ج ۱۶ ص ۶۹، ۷۰)

۷..... حضرت ابوبکر صدیقؓ پر فضیلت

"میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۸)

۸..... حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی تذلیل

"مجھے اہل بیت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص محبت اور عاشقانہ تعلق تھا۔ میرے ایک محب تھے جو اس وقت مولوی فاضل ہیں اور اہل بیت مسیح موعود کے خاص رکن رکین ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بھی اتنی پیشین گوئیاں نہیں جتنی کہ مسیح موعود کی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والا فقرہ بولا کہ ابوبکرؓ و عمرؓ کیا تھے۔ وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ ان فقروں نے مجھے ایسا دکھ دیا اور ان کے سننے سے مجھے ایسی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میں جو توقیر اور عزت اہل بیت مسیح موعود میں سے ہونے کی ان کی نسبت تھی وہ سب جاتی رہی۔" (المہدی نمبر ۲، ۳ ص ۵۷)

حضرت علیؓ کی تذلیل

"پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی (یعنی مرزا قادیانی۔ للمؤلف) تم میں موجود ہے۔ اس کو تم چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔"

(اخبار الحکم قادیان نومبر ۱۹۱۲ء بحوالہ ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۳۰)

۱۰...... حضرت امام حسینؓ کی تذلیل

”امام حسینؓ پر فضیلت کے بارے میں کہ ان پر میری فضیلت سن کر یوں ہی غصہ میں آجاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہاں امام حسینؓ کا نام لیا ہے۔ زید کا ہی نام لیا ہے۔ اگر ان کی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ امام حسین کا نام بھی لے دیا جاتا اور پھر ”ما کان محمد ابا احد من رجالکم“ کہہ کر اور بھی ابوت (باپ ہونا) کا خاتمہ کر دیا۔ اگر امام حسین اس آیت کے ساتھ کہہ دیا جاتا تو شیعہ کا ہاتھ کہیں آ پڑ جاتا۔“ (ملفوظات احمدیہ حصہ چہارم ص ۱۹۱، ۱۹۲)

”اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

”اے قوم شیعہ! اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک (مرزا قادیانی) ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔“ (ایضاً)

کربلائیست سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم

(درثمین ص ۱۷۱)

باب پنجم ...... مرزا قادیانی کی سیاسیات

سورۂ نساء میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ: ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللّٰہ“ یعنی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر اس لئے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ کے فرمان سے۔ لیکن مرزا قادیانی کی تحریرات اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ عمر بھر حکومت برطانیہ کی خوشامد کرتے رہے اور اپنے مریدین اور غیر مریدین سب کو انگریزوں کی محکومیت اور اطاعت کو نعمت سمجھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ چنانچہ ایک مقام پر مرزا قادیانی دنیا کے شغلوں سے اپنے... علیحدہ ہونے اور خدا کی طرف مشغول ہونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

۱...... خدا کی طرف مشغولیت

"والد صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد یہ عاجز (مرزا قادیانی) دنیا کے شغلوں سے بکلی علیحدہ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوا اور مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعاگو رہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں میں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ و مدینہ میں بھی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ، بلاد شام و مصر اور کابل و افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے غلط خیالات چھوڑ دیئے جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہ سکا۔" (یہ خدا کی طرف مشغولیت تھی یا انگریزوں کی طرف۔ مؤلف)

(ستارہ قیصریہ ص ۳، ۴، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۴)

۲...... جوش وفاداری برطانیہ

مرزا غلام احمد قادیانی میں حکومت برطانیہ کی وفاداری کا یہ جوش اور تعصب ہے کہ جو کوئی ان سے اختلاف کرے وہ اس کو احمق، نادان بلکہ بدکار، حرامی قرار دیتے ہیں۔ اس معیار سے ان کی اخلاقی ذہنیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو: "بعض احمق و نادان سوال کیا کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک بدکار اور حرامی آدمی کا کام ہے۔"

(شہادۃ القرآن ص ۸۴، خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)

۳...... انگریزوں سے صلہ کی تمنا

انبیاء کرام "ان اجری الا علی اللہ" کے مقام پر فائز رہتے ہیں کہ کسی مخلوق سے اجر کی توقع نہیں رکھتے۔ سوائے اللہ کے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور اسی سے اجر کے امیدوار۔ لیکن مرزا قادیانی کا مسلک تھا۔ حکومت برطانیہ کی حمایت غلامی وفرمانبرداری اور اس کے صلہ میں خواہش مند رہے کہ انگریز قادیانی مذہب اور ان کے مریدین ومعتقدین کی سرپرستی کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں: "بار بار بے اختیار دل میں یہ بھی خیال گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت، خدمت گذاری کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھیں..... گورنمنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے قبول کیا کہ ہماری اردو کی کتابیں جو ہندوستان میں شائع ہوئیں۔ ان کے دیکھنے سے گورنمنٹ عالیہ کو یہ خیال گذرا ہوگا کہ ہماری خوشامد کے لئے ایسی تحریریں لکھی گئی ہیں..... لیکن یہ دانشمند گورنمنٹ ادنیٰ توجہ سے سمجھ سکتی ہے کہ عرب کے ملکوں میں جو ہم نے ایسی کتابیں بھیجیں۔ جن میں بڑے بڑے مضمون اس گورنمنٹ کی شکرگذاری اور جہاد کی مخالفت کے بارے میں تھے۔ ان میں گورنمنٹ کی خوشامد کا کون سا موقع تھا۔ کیا گورنمنٹ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں ایسی کتابیں تالیف کر کے ان ملکوں میں روانہ کروں اور ان سے گالیاں سنوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری ان خدمات کی قدر کرے گی۔" (اس خدمت کی غرض خود قادیانی کی آرزو سے ظاہر ہے۔ مؤلف)

(اشتہار مورخہ ۱۸ نومبر ۱۸۹۶ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۲۵،۲۲۶)

غالب کا ایک شعر ہے ؎

درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں
انگلیاں فگار اپنی خامہ خونچکاں اپنا

۴..... تمنائے جواب

حکومت برطانیہ کے جوش اطاعت میں مرزا قادیانی کے دل پر جو گذری ہے اسے ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: "میں (یعنی مرزا قادیانی) نے تحفہ قیصریہ میں جو حضور قیصرہ ہند کی خدمت میں بھیجا گیا۔ یہی حالات اور خدمات اور دعوات گذارش کئے تھے۔ میں اپنی جناب ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پر نظر رکھ کر ہر روز جواب کا امیدوار تھا اور اب بھی ہوں۔ میرے خیال میں یہ غیر ممکن ہے کہ میرے جیسے دعا گو کا وہ عاجزانہ تحفہ جو بوجہ کمال اخلاص خون دل سے لکھا

کیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالہا کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس کا جواب ضرور آتا۔ بلکہ ضرور آتا ضرور آتا۔ اس لئے مجھے بوجہ اس یقین کے کہ جناب قیصرۂ ہند کے پر رحمت اخلاق پر کمال وثوق سے مسلسل ہے۔ اس یاد دہانی کے عریضہ کو لکھنا پڑا۔" (ستارۂ قیصرہ ص ۳۔ در خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۱)

۵.....فتنہ در فتنہ

فتنوں کی بھی عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی عیسوی کے وقفہ میں جب یورپ کی استعماری طاقتیں اسلامی حکومتوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف تھیں۔ ہندوستان میں، جو برطانوی طاقت کا بڑا مرکز تھا۔ قادیانی تحریک شروع ہوئی۔ حکومت برطانیہ کو ایسے ذرائع کی تلاش ہی تھی۔ جس سے مسلمانوں میں اختلاف وافتراق پیدا ہو۔ چنانچہ انگریزوں نے غنیمت سمجھا کہ قادیانیت پھیلے تو مسلمانوں میں نفاق وشقاق پھیلے اور ملت اسلامیہ کا رہا سہا اتحاد پاش پاش ہو جائے۔ مرزا قادیانی نے حکومت برطانیہ کی اس نفسیات کا اندازہ لگایا کہ وہ مسلمان کے جذبہ جہاد سے خائف رہتی ہے تو انہوں نے جہاد بالسیف کی مخالفت اور انگریزوں کی اطاعت گذاری اور فرمانبرداری کی تحریک پھیلانے کا بیڑا اٹھایا تا کہ اس کے معاوضے میں قادیانیت کے حق میں انگریزوں کی تائید وحمایت وسرپرستی حاصل ہو سکے۔ اس طرح حکومت برطانیہ اور قادیانی تحریک میں چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو کا سودا رہا۔ ملاحظہ ہو:

۶......انگریزوں کی حمایت

"میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں۔ جو بفضلہ تعالیٰ کئی لاکھ تک ان کا شمار پہنچ گیا ہے۔ نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھیں جو قریباً ۲۶ برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں۔ یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کریں۔ کیونکہ وہ ہماری محسن گورنمنٹ ہے۔ ان کی ظل حمایت میں ہمارا فرقہ احمدیہ چند سال میں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۸۳)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: "ہم اس سلطنت کے سایہ کے نیچے بڑے آرام اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور شکر گذار ہیں اور یہ خدا کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ظالم بادشاہ کے حوالے نہیں کیا۔ جو ہمیں پیروں کے نیچے کچل ڈالتا۔ بلکہ اس نے ہمیں ایک ایسی ملکہ عطا کی ہے جو ہم پر رحم کرتی ہے اور احسان کی بارش اور مہربانی کے مینہ سے ہماری پرورش فرماتی ہے اور ہمیں ذلت اور کمزوری کی پستی سے اوپر اٹھاتی ہے۔" (نور الحق حصہ اول ص ۳۰ خزائن ج ۸ ص ۴۰)

۷...... سرکار انگریزی کی تائید کے آثار

بہرحال جب سرکار انگریزی کی تائید کے آثار قادیانی معاملات میں ظاہر ہونے لگے تو دنیا طلب لوگ جو بالعموم دین کی اہمیت کم سمجھتے ہیں۔ ترقی کے شوق میں قادیانیت پر مرنے لگے کیونکہ زندگی کی کشمکش خاص کر سرکاری ملازمتوں میں، سرکاری ٹھیکوں میں اور دوسرے سرکاری کاروبار میں ان کو میدان اور ہموار ہو گیا اور ہر طرف سرکاری محکموں میں قادیانی صاحبان کی آؤ بھگت ہونے لگی۔ چنانچہ دنیا طلب لوگ قادیانیت کی طرف کس طرح کھنچے۔ اس کی کیفیت خود مرزا قادیانی کی زبانی مختصراً قابل شنید ہے۔ فرماتے ہیں: "ہمارے گروہ میں عوام کم اور خواص زیادہ ہیں۔ اس گروہ میں بہت سے سرکار انگریزی کے ذی عزت عہدہ دار ہیں جو ڈپٹی کلکٹر اور اکسٹرا اسسٹنٹ کلکٹر اور تحصیلدار و دیگر معزز عہدوں والے آدمی ہیں۔ (واقعی سرکار کے معزز عہدہ داروں کو علاوہ از جلد قادیانی مرید بننا لازم تھا کہ سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ایک مجرب نسخہ تھا۔ اس کے بعد رئیسوں کو، جاگیرداروں کو اور بالآخر نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو جو تلاش معاش اور حصول ملازمت پر مجبور تھے۔ ان کو بھی قادیانیت ہی میں کاروباری اور کامیابی کا راستہ سہل اور قریب نظر آیا۔ چنانچہ وہ بھی اسی راستہ پر پڑ گئے۔ خدانخواستہ سب پر یا اکثر پر نہیں البتہ بہت سی کمزور طبیعتوں پر یہی دور گذر گیا۔ للمؤلف) ایسا ہی پنجاب اور ہندوستان کے کئی رئیس اور جاگیردار اور اکثر تعلیم یافتہ ایف۔ اے اور بی۔ اے اور ایم۔ اے اور بڑے بڑے تاجر (ایسے تاجر جن کے سرکار سے کاروباری معاملات رہتے ہیں۔ للمؤلف) اس جماعت میں داخل ہیں۔"

(مندرجہ اخبار الحکم قادیان قومی نمبر ج ۳۷ نمبر ۱۸، ۱۹ مورخہ ۱۴ مئی ۱۹۳۴ء)

۸......خدا کا لگایا ہوا پودا

انبیاءؑ کی جماعتوں کی جو شان ہوتی ہے۔ اسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

”محمد رسول اللّٰہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم تراھم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللّٰہ ورضوانا سیماھم فی وجوھھم من اثر السجود ذلک مثلھم فی التوراۃ ومثلھم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فازرہ فاستغلظ واستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بھم الکفار (فتح)“ [محمد رسول اللہ اور آپ کے اصحاب زور آور ہیں کافروں پر۔ نرم دل ہیں آپس میں۔ تم دیکھتے ہو ان کو رکوع میں اور سجدے میں۔ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ ان کی نشانی ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ شان ہے تورات میں اور انجیل میں۔ جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا۔ پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر خوش لگتا کھیتی والوں کو تاکہ جلاوے ان سے جی کافروں کا۔}

پس انبیاء کی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے کاشتہ اور پروردہ پودے ہوتے ہیں اور اسی کے سہارے پر بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کی جماعت خود ان کے بیان کے مطابق انگریزوں کا خودکاشتہ پودا تھی۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

۹......سرکار انگریزی کا خودکاشتہ پودا

”میری اس درخواست سے جو حضور کی خدمت میں مع اسماء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہیں۔ عنایت خاص کا مستحق ہوں۔۔ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان نثار ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گذار ہیں۔ اس خودکاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم واحتیاط اور تحقیق وتوجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت

اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں۔ تا کہ ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبروریزی کے لئے دلیری نہ کر سکے۔ اب کسی قدر اپنی جماعت کے نام ذیل میں لکھتا ہوں۔" (درخواست بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ منجانب خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۰،۲۱)

۱۰...... سرکار انگریزی کی راہ میں جاں نثاری

انبیاء کی جماعتیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طالب ہوتی ہیں کہ اللہ کے راستہ میں جان دینے سے بھی انہیں دریغ نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا قادیانی کو سرکار انگریزی کی راہ میں خون بہانے اور جان دینے میں تامل نہیں۔ البتہ اللہ کی راہ میں جہاد بالسیف خاص کر انگریزوں کے مقابل وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: "الذین أمنوا یقاتلون فی سبیل اللّٰہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت (نساء)" {یعنی وہ جو ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور وہ جو منکر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔}

انبیاء کی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کی طلب گار ہوتی ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی سرکار انگریزی کی عنایات اور خصوصی توجہ کے لئے درخواستیں پیش کیا کرتے تھے۔

انبیاء کی جماعتوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی کفار کو ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی جماعت "لیغیظ بہم الکفار" کا مصداق نہیں رہی۔ بلکہ سرکار انگریزی کی منظور نظر رہی کہ انگریزی حکومت اس جماعت کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

"گورنمنٹ برطانیہ کے ہم پر بڑے احسان ہیں اور ہم بڑے آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں...... اور اگر دوسرے ممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برٹش گورنمنٹ ہماری مدد کرتی ہے۔" (برکات خلافت ص۱۵)

۱۱...... سچے انبیاء اور مظلوموں کی حمایت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر میں محکوم ومغلوب

بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبری سے سرفراز ہوئے تو آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اس کے جواب میں فرعون نے احسان جتایا۔ "قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین" (یعنی فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تجھے پالا نہیں تھا اور تو اپنی عمر میں سے کئی برس ہم میں نہیں رہا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس احسان جتانے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

اور فرمایا: "وتلک نعمة تمنها علیّ ان عبدت (بنی اسرائیل)" {یعنی تم یہ احسان مجھ پر اس لئے جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔] چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطی قوم کے پنجہ غلامی سے آزاد کرا لیا۔

قرآن مجید میں حضرت رسول اکرم ﷺ کے اس وصف کو یوں بیان فرمایا ہے: "ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم (اعراف)" {یعنی آپ دور کرتے ہیں ان پر سے لدے ہوئے بوجھ اور ان پر پڑے ہوئے پھندے۔} چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کس طرح آپ نے انسانیت کو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی وسیاسی ہر قسم کے مظالم کے پھندوں سے نجات دلائی اور انسانیت کو پیام دیا کہ: "کونوا عباد الله اخوانا" یعنی تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ کہ بھائی بھائی ہو کر رہو۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے مفاخر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ان کی جماعت سرکار انگریزی کی نمک پروردہ جماعت ہے۔ چنانچہ ایک درخواست میں لکھتے ہیں: "غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ اور مورد مراحم گورنمنٹ ہیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۱، مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء)

۱۲..... مرزا قادیانی اور سامراجیت کی حمایت

مظلوم اور محکوم قوموں کو سامراجی اور استعماری قوتوں کے پنجے سے آزادی دلانا تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے مریدوں کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ تمام اسلامی ممالک مغلوب ہو کر حکومت برطانیہ کے تحت آ جائیں۔ عجیب بات ہے کہ حق کے لئے جہاد کو تو

مرزا قادیانی حرام اور ممنوع قرار دیتے تھے۔ لیکن سامراجی قوتیں چھوٹے چھوٹے ممالک کو مغلوب و محکوم بنانے کے لئے جو جنگ و جدال کرتی تھیں۔ ان کی مرزا قادیانی اور ان کے مریدین تائید کرتے تھے۔ دعا دیتے تھے اور اس غرض کے لئے اپنا خون بہانے کو بھی مستحسن قرار دیتے تھے۔ چنانچہ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

۱۳...... فتح بغداد پر خوشیاں

"حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں کہ میں وہ مہدی معہود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ تلوار ہے۔ جس کے مقابلہ میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر ہم احمدیوں کو اس فتح (فتح بغداد) سے کیوں خوشی نہ ہو۔ عراق عرب ہو یا شام ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دیکھنا چاہتے ہیں۔ فتح بغداد کے وقت ہماری فوجیں مشرق سے داخل ہوئیں۔ دیکھئے کس زمانہ میں اس فتح کی خبر دی گئی۔ ہماری گورنمنٹ برطانیہ نے بصرہ کی طرف چڑھائی کی اور تمام اقوام سے لوگوں کو جمع کر کے اس طرف بھیجا۔ دراصل اس کے محرک خدا تعالیٰ کے وہ فرشتے تھے جن کو اس گورنمنٹ کی مدد کے لئے اس نے اپنے وقت پر اتارا تا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر کے ہر قسم کی مدد کے لئے تیار کریں۔" (یعنی روح دیئے فرشتے۔ مؤلف)

(اخبار الفضل قادیان ج ۶ نمبر ۴۲ مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ء)

"عراق کے فتح کرنے میں احمدیوں نے خون بہائے اور میری تحریک پر سینکڑوں آدمی بھرتی ہو کر چلے گئے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۱۷ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۲۳ء)

۱۴...... جنگ کابل

"جب کابل کے ساتھ جنگ ہوئی تب بھی ہماری جماعت نے اپنی طاقت سے بڑھ کر مدد کی اور علاوہ اور کئی قسم کی خدمات کے ایک ڈبل کمپنی پیش کی...... اور خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیں اور چھ ماہ تک بڑا ٹرانسپورٹ کور میں آنریری طور پر کام کرتے رہے۔"

(منقول از اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳ جولائی ۱۹۲۱ء ج ۹ نمبر ۱)

یہ ہے قادیانی سیاست جس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں پر احسانات جتائے جاتے ہیں۔

بریں دین و ایمان بباید گریست

باب ششم ...... سلسلہ و راز عشق

۱...... نامردی کا یقین

مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک شادی پہلے ہی قادیان میں ہو چکی تھی اور اس بیوی سے ان کے دو جوان لڑکے سلطان احمد اور فضل احمد موجود تھے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے ایک اور شادی دہلی کے میر ناصر نواب کی صاحبزادی نصرت جہاں بیگم سے کی۔ حالانکہ اس زمانہ میں مرزا قادیانی کی قوت مردی کے ضعف کا جو حال تھا وہ قابل ملاحظہ ہے۔

مخدومی اخویم مخدوم و مکرم مولوی حکیم نورالدین سلمہ اللہ تعالیٰ

جس قدر ضعف دماغ کے عارضہ میں یہ عاجز مبتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی عارضہ ہو۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ آخر میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے بہ امید اور دعا کرتا رہا۔ سو اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ضعف قلب تو اب بھی مجھے اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ (پھر شادی کس حسرت و امید پر کی تھی۔ للمؤلف)

خاکسار غلام احمد قادیانی مورخہ ۲۲ فروری ۱۸۸۸ء

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲، خط نمبر ۱۳)

مخدومی مکرمی: اخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

مجھے یہ دوا بہت ہی فائدہ مند معلوم ہوتی ہے کہ چند امراض کافی درستی و رطوبات معدہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرض مجھے نہایت ہی خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ (خیزش) بکلی جاتا رہتا تھا۔ شاید قلت حرارت عزیزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بکلی جاتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرارت عزیزی کو بھی مفید ہے اور مسک کو بھی قابلیہ کرتی ہے .... چونکہ وہ دوا ختم ہو چکی ہے اور میں نے زیادہ سے زیادہ کھائی ہے۔ اس لئے ارادہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو دوبارہ تیار کی جائے۔ لیکن چونکہ گھر میں ایام امید ہونے کا کچھ گمان ہے۔ جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک وہ گمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو راست کرے۔ اس جہت سے جلد تیار کرانے کی چنداں ضرورت میں نہیں دیکھتا۔ (مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲

ص ۱۳، ۱۴)

مرزا قادیانی کے ضعف مردمی کی تو یہ کیفیت تھی۔ لیکن اپنی رسالت کے دعویٰ کی تائید میں پیشین گوئیوں کے لئے موقع کے منتظر رہتے تھے۔ مرزا قادیانی کے ایک ماموں زاد بھائی تھے۔ جن کا نام احمد بیگ صاحب تھا۔ مرزا احمد بیگ کی اہلیہ عمر النساء مرزا قادیانی کی چچازاد ہمشیرہ تھی۔ مرزا قادیانی کے دوسرے لڑکے فضل احمد کی اہلیہ عزت بی بی مرزا احمد بیگ کی بھانجی تھی۔ چنانچہ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا مرزا احمد بیگ اور ان کے اقرباء پر خاندانی تعلقات کے اعتبار سے کافی اثر تھا۔ مرزا احمد بیگ کی ایک نو عمر لڑکی تھی۔ جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ ادھر مرزا احمد بیگ کو اپنی زمین کے معاملات میں مرزا قادیانی سے کچھ کام پڑا۔ تو انہوں نے مرزا قادیانی سے اس معاملہ میں تعاون کی درخواست کی اور ادھر عمر النساء بیگم کے بھائی اور مرزا احمد بیگ کے سالے امام الدین نے جو ایک لاابالی طبیعت کے شخص تھے۔ مرزا قادیانی کو امید دلائی کہ وہ اپنی بھانجی محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کی شادی کرا دیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کروائی کہ ان سے محمدی بیگم کا نکاح آسمان پر طے ہو چکا ہے اور جب انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے طرح طرح سے مرزا احمد بیگ پر خاندانی تعلقات کے دباؤ ڈالے۔ اس کی روئیداد ذیل میں قابل ملاحظہ ہے۔

۲..... انعام کا وعدہ

”بیان کیا مجھ سے عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جالندھر جا کر قریباً ایک ماہ ٹھہرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی ماموں (امام الدین) نے محمدی بیگم کا مرزا قادیانی سے رشتہ کرانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کامیاب نہ ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ جب کہ محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیارپوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں جالندھر اور ہوشیارپور کے درمیان یکہ میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمدی کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے حضرت (مرزا قادیانی) نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول روایت نمبر ۱۷۹ ص ۱۹۲، ۱۹۳)

۳...... محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی

"خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا غلام احمد قادیانی) پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیارپوری کی دختر کلاں (محمدی بیگم) انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری (یعنی مرزا قادیانی کی) طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ (مگر مرزا قادیانی کی وفات تک وہ سہاگن ہی رہی۔ بیوہ نہیں ہوئی۔ للمؤلف) اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔"

(ازالہ اوہام ص۳۹۶، خزائن ج۳ ص۳۰۵)

۴...... تخویف

"خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے۔ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہ دے گا تو تین برس کے عرصہ بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور جو نکاح کرے گا روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا۔ (لیکن سلطان محمد جو محمدی بیگم کا شوہر تھا مرزا قادیانی کی وفات کے بعد بھی سالہا سال تک زندہ رہا) اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔" (مجموعہ اشتہارات ج۱ ص۱۰۲، حاشیہ مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء)

۵...... ترغیب

خط بخدمت مرزا احمد بیگ

"آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور مملوکات کا ایک تہائی حصہ دوں گا اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اس لئے انکار میں اپنا وقت ضائع نہ کیجئے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص۵۷۳، خزائن ج۵ ص ایضاً)

۶...... التماس

مشفقی مکرمی اخویم مرزا احمد بیگ صاحب

آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیشگوئی اس عاجز کی ہزارہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے ...... اور ایک جہان کی اس طرف نظر لگی ہوئی ہے۔ ... یہ عاجز آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔

(خاکسار احقر عباد اللہ غلام احمد عفی عنہ محررہ ۱۷ جولائی ۱۸۹۲ء منقول از رسالہ کلمہ فضل رحمانی ص ۱۲۴)

مرزا قادیانی کی پہلی اہلیہ اور بڑے صاحبزادے مرزا سلطان احمد کو محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا رشتہ پسند نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے مرزا قادیانی کی تائید نہیں کی۔ مرزا قادیانی نے اپنی تائید کے لئے ان پر جس طرح دباؤ ڈالا اور غصہ نکالا اس کا حال ملاحظہ ہو:

۷...... خانہ بربادی

”میرا بیٹا سلطان احمد ...... اور اس کی تائی صاحبہ ...... اس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے ...... بہت تاکیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں۔ ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا ...... انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے۔ آج کی تاریخ کہ دوسری مئی ۱۸۹۱ء ہے۔ عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار ظاہر کرتا ہوں کہ ... نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ .. اور اگر اس کا بھائی فضل احمد (مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا) اپنی بیوی (مرزا احمد بیگ کی بھانجی) کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو طلاق نہ دیوے تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج۱ ص۲۱۹ تا ۲۲۱)

۸...... یاس میں آس

”سچ ہے کہ وہ عورت (محمدی بیگم) میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے۔“

(اخبار الحکم قادیان ج۵ ص۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

۹...... پیشگوئی کا انجام

اس شادی کی پیشگوئی کی تکمیل آسمان پر اور تشہیر زمین پر مکمل ہو چکی تھی اور خود

[illegible]

حقیقت قادیانیت

جناب اختر حسن

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم!

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیش لفظ

مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اپنے آپ کو احمدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حالانکہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو مرزائی یا قادیانی کہنا چاہئے۔ زیر نظر کتاب DIMENSION OF QADIANISM کا ترجمہ ہے۔ اس تالیف کا مقصد سادہ لوح مسلمانوں کے علاوہ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ کس طرح مرزا قادیانی نے نہ صرف قرآن حکیم کے معانی میں تحریف کرنے کی شرانگیز کوشش کی بلکہ آیات قرآنی میں بھی تصرف کی ناپاک جسارت کی ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے ۱۸۳۹ء میں ہندوستان کے ایک قصبہ قادیان میں جنم لیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب محب وطن عناصر نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی تو مرزا قادیانی کے والد نے اپنے ہم وطن آزادی کے پروانوں کے خلاف برطانوی غاصب وجابر حکمرانوں کی پچاس گھڑ سواروں سے مدد کی۔ خود مرزا قادیانی نے اس کا ذکر فخریہ انداز میں کیا ہے: "میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے اور سرکار انگریزی کے ایسے خیر خواہ اور دل کے بہادر تھے کہ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس جنگ جو بہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدد دی تھی۔ غرض ہماری ریاست کے ایام دن بدن زوال پذیر ہوتے رہے۔" (تحفہ قیصریہ ص۱۸،۱۹، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۰،۲۷۱)

۱۸۵۷ء میں برطانوی سامراجیوں نے مکروفریب، عیاری وبدیانتی، سازشی ہتھکنڈوں اور مرزا قادیانی کے باپ جیسے غداروں کی مدد سے سلطنت ہند کے مسلمان حکمرانوں کو تخت وتاج سے محروم کردیا۔ حتیٰ کہ آخری مغل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو انتہائی بےبسی کی حالت میں گرفتار کرکے رنگون کے قید خانے میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ہمیشہ کے لئے مقید کردیا۔ یہی نہیں بلکہ بےدست وپا شہزادوں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالا اور عفت وعصمت کی پیکر

شہزادیوں کو جنہیں آسمان نے بھی کبھی کھلے سر نہ دیکھا تھا اور جنہوں نے قصر سلطانی سے باہر بھی قدم نہ رکھا تھا۔ بے بسی اور بے یار و مددگاری کی حالت میں سڑکوں پر نکلنے کو مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے حریت پسندوں کے خون سے جی بھر کر ہولی کھیلی اور آخر میں مسلمانوں کے لئے تمام عہدوں کے راستے مسدود کر کے تمام اختیارات و اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ استبدادی قوتیں خوفزدہ تھیں کہ کہیں فرزندان توحید انہیں کسی وقت بھی نکال دینے کا منصوبہ نہ بنا ڈالیں۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے اور اپنی جارحیت کا نشانہ بنانے کے لئے دوہری پالیسی پر مشتمل ایک پروگرام مرتب کیا۔ ان کے پیش نظر ایک طرف تو افتراق و انتشار کے بیج بو کر اس بہادر قوم کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور دوسری طرف خود اسلام کے بنیادی عقائد پر ضرب لگا کر اس کی فکری وحدت اور مرکزیت کو ضعف پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے انہیں ایک ایسے غدار کی ضرورت تھی جو ان کا آلہ کار بن کر ان کے اشاروں پر ناچ سکے۔ کروڑہا مسلمانوں میں سے انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ان کی امنگوں پر پورا اتر سکا اور وہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی، جنہوں نے ضمیر اور قلم کی عصمت کا سودا کر ڈالا اور قبیح کام کے لئے اپنی خدمات پیش کر کے فخر محسوس کیا۔ ان کے ذہن میں اپنے خاص سیاسی مقاصد تھے۔ وہ برطانوی سامراج کے زیر سایہ اپنی ریاست قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔

ناموس رسالت اور اسلام کے ان دونوں دشمنوں نے اپنے گھناؤنے پروگرام کی تکمیل کے لئے اسلامی اعتقادات میں سب سے پہلے فریضۂ جہاد اور ختم نبوت پر ضرب لگانا مناسب سمجھا۔ فریضۂ جہاد اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ جہاد اس مقدس جنگ کو کہتے ہیں جو ریاست کی حفاظت و بقاء، مظلوموں کی دادرسی اور معاندین اسلام کی راہ سے سنگ و خار ہٹانے کے لئے لڑی جاتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کے علاوہ تمام آدمیوں پر اس جنگ میں حصہ لینا فرض ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور تم کو کیا ہوا کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، نکال کر کہیں اور لے جا۔" (النساء: ۷۵)

تمام اسلام دشمن، استبدادی طاقتیں اسلام کے اس بنیادی رکن جہاد سے ہمیشہ لرزہ بر اندام رہی ہیں اور اسے معطل کرنے کے لئے کوشاں۔ انگریز حکمران بھی مسلمانوں کے شوق شہادت اور جذبۂ جہاد سے خائف و لرزاں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی جذبۂ جہاد ان کے خلاف

مسلمانوں کے جوش و خروش کو معراج پر پہنچانے کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ اس ولولے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ جو ان کے اقتدار پر کاری ضرب لگانے کی سکت رکھتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس خدمت کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ حکم خداوندی کے خلاف مرزا قادیانی کی درج ذیل تحریر پڑھ کر اس کے حاشیہ برداروں کا سر شرم و ندامت سے جھک جانا چاہئے۔

"میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی حکومت کی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات طبع کئے ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔"

(تریاق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

مرزا غلام احمد قادیانی اپنے مذہب کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی سرپرستی کے عوض تو انگریز کی حمایت میں سرشار مرزا نے جہاد کی مخالفت کر کے ملت اسلامیہ کی شہ رگ کاٹنے کی کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیں: "میرا اس درخواست سے جو حضور کی خدمت میں مع اسماء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہیں۔ عنایت خاص کا مستحق ہوں۔ لیکن صرف اتنی التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جاں نثار ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گذار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ جو اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔"

درخواست بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ

منجانب خاکسار غلام احمد قادیانی از قادیان۔ مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۱)

"ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔" (ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷، خزائن ج ۱۷

ص ۲۸)

چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۶ خزائن ج ۱۷ ص ۷۶، ۷۷)

تعجب ہے کہ اس دور میں جب یورپی طاقتیں اسلامی سلطنتوں کو تہ وبالا کرنے میں سرگرم عمل تھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی امت مسلمہ میں انتشار وتفرقہ پیدا کرنے کے لئے اسلام کے مقابلہ میں ایک اور مذہب لا کھڑا کیا اور دین اسلام کے بنیادی رکن فریضۂ جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ اس اہم فریضہ کو حرام قرار دے کر دراصل مرزا قادیانی نے نہ صرف انگریز بہادر کی بے پایاں خدمت کی بلکہ ملت اسلامیہ کی جڑیں کاٹنے کی مذموم کوشش بھی کی۔

اس طرح برطانوی سامراج مرزا قادیانی کے روپ میں اپنا ایجنٹ پالنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ ملت اسلامیہ سے اس غداری کے صلہ میں انگریز حاکموں نے مرزا قادیانی کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ جس طرح چاہے اپنے حریفوں کو گالیوں سے نوازے۔ حریف تو درکنار اس کی مغلظ زبان کی زد سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ بچ سکے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے پرستار عیسائی حکمرانوں نے اس کی یاوہ گوئی اور ہرزہ سرائی سے چشم پوشی اختیار کرلی۔ اپنے خدا کے بیٹے اور اس کے خاندان کے خلاف سب کچھ سنا۔ لیکن اف تک نہ کی۔ یہی خاموشی ان کے مرزا قادیانی کے سرپرست ہونے کا بین ثبوت ہے۔ ورنہ کون بے غیرت قوم اپنے روحانی پیشوا کی رسوائی وذلت کو برداشت کرسکتی ہے۔

ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے بھی دراصل ایک ایسی چال تھی۔ جس کا مقصد سادہ لوح مسلمانوں کو اس دام فریب میں مبتلا کرنا تھا کہ مرزا قادیانی ہی اسلام کا سب سے بڑا مبلغ ومجدد تھا اور وہ دشمنان اسلام کے خلاف محاذ آرائی کر کے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہا تھا۔

حالانکہ اس دعویٰ میں حقیقت کی کوئی رمق ہوتی تو مرزا قادیانی اور اس کے جانشینوں کو انگریزوں کے عہد حکومت میں ان کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی اور آج بھی جب برصغیر سے ان کے اقتدار کا جنازہ اٹھے اڑتالیس سال بیت چکے ہیں۔ وہ سات سمندر پار بیٹھے اس فرقہ کی حمایت

وحفاظت پر کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔

۱۹۴۷ء میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو تمام قادیانی بھی اس نوزائیدہ اسلامی ریاست میں منتقل ہو گئے اور ان کا ایک سرکردہ رہنما کسی نہ کسی طرح وزارت خارجہ کا سربراہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہم مذہبوں کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی۔ انہیں کلیدی عہدوں پر فائز کروایا۔ مسلمانوں کو پس پشت ڈال کر حکومت کے ہر محکمہ پر ان کو قابض ہونے کے مواقع فراہم کئے۔ ان کے حوصلے اتنے بڑھے کہ حصول اقتدار کے لئے انہوں نے ریاست در ریاست قائم کرنے کے مقصد کو حرز جان بنا لیا اور اس کے لئے عملی طور پر جدوجہد شروع کر دی۔ مسلمانوں کی طرف ان کا رویہ ہمیشہ جارحانہ رہا۔ وہ اپنے مذہبی وسیاسی مرکز ربوہ کے دروازے ہر اس شخص پر بند رکھتے ہیں جو ان کے خیالات ومقاصد سے متفق نہیں ہوتا۔

بیرونی دنیا میں انہوں نے اپنا دام فریب اسلام کے نام پر اپنے مذہب کی تبلیغ واشاعت کے ذریعہ بچھایا اور اندرون ملک بڑے بڑے کاروباری اور صنعتی اداروں نیز سرکاری ملازمتوں پر قبضہ جما کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔

بظاہر یہ فرقہ ضالہ اسلام کا دم بھرتا ہے۔ لیکن درحقیقت دین اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ ہر مقام پر اس نے اسلام کے اساسی اصولوں کا تمسخر اڑایا ہے۔ ہر مرحلہ پر اس نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانی سے کام لیا ہے۔ اپنے مقاصد کی برآوری کے لئے اس نے قرآنی آیات کو نہ صرف حسب منشاء جامہ معانی پہنائے ہیں۔ بلکہ لفظی تحریف کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے مذہبی اور معاشرتی نظام کا استحصال کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے پیرو مسلمانوں کی مساجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اپنی لڑکیوں کو ان کے نکاح میں نہیں دے سکتے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر گردانتے ہیں۔

اردو میں قادیانی تحریک پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن انگریزی زبان میں **DIMENSIONS OF QADIANISM** اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ جس میں قادیانی فتنے کا ہر پہلو سے تجزیہ کیا گیا ہے اور اس فرقہ ضالہ کے مذموم عزائم کو آشکارا کیا گیا ہے۔ یہاں انگریزی خواں طبقہ میں اسے بہت پسند کیا گیا۔ نیز بیرونی ممالک میں بھی اسے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر احباب نے اس کا اردو متن میں ترجمہ کرانے کے لئے اصرار کیا۔ مشن نے اپنی بے سروسامانی کے باوجود

اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کام کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ اب یہ معمولی اضافے کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رب العزت ہماری اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو فلاح دارین سے نوازے۔ آمین!

اختر احسن

قادیانیت کا پس منظر

قرآن حکیم و احادیث نبوی، آثار صحابہ اور اقوال آئمہ و مفسرین اس عقیدے پر کلی طور پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دین اسلام کو بہمہ وجوہ کامل ترین اور جامع صورت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم وحی الٰہی کی معراج ہے اور اس معراج کے شہنشاہ، ہر زمانے کی تمنا و آرزو، پوری بنی نوع انسان کے لئے رحمت، شہر امن و محبت و پیغمبر اسلام محمد ﷺ ہیں جو کہ سلسلۂ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ سے قبل اپنے ہم قوموں کو رشد و ہدایت کی راہوں پر ڈالنے کے لئے مختلف ممالک اور مختلف ادوار میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ لیکن حضور ﷺ کی بعثت تو مستقبل کی ان تمام انسانی و جناتی نسلوں پر بھی محیط و حاوی ہے جو آپ کے عہد مبارک میں پیدا نہ ہوئی تھیں، پھر قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہدایت قرآن کی روشنی میں تمام انسانیت کے لئے ایک صاف، سیدھی، منور، پاکیزہ اور واضح شاہراہ متعین فرما گئے۔ جس کی حفاظت و تحفظ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات عالی کے لئے مختص فرمایا۔ لہٰذا آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن حکیم کی ۹۹ آیات سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ''اور آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔''

{المائدہ:۳}

جلیل القدر مفسر علامہ ابن کثیر مندرجہ بالا آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لئے دین کو کامل فرمایا۔ لہٰذا امت محمدیہ کسی اور دین کی محتاج ہے اور نہ کسی اور نبی کی اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو خاتم الانبیاء (آخری نبی) کی حیثیت سے جن و بشر کی طرف مبعوث فرمایا۔''

کلام اللہ میں پیغمبر اسلام ﷺ کی ختم المرسلینی کا مزید اعلان ملاحظہ فرمایئے: "محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں (نبوت) کی مہر یعنی اس (نبوت) کو ختم کردینے والے ہیں۔" (احزاب: ۴۰)

مذکورہ بالا دونوں قرآنی آیات سے مترشح ہے کہ قرآن حکیم کے بعد کوئی وحی نازل نہ ہوگی۔ اسلام دین خداوندی کا کامل ترین صورت ہے۔ نیز سید عرب و عجم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالٰی کے آخری نبی ہیں۔ قرآنی آیات کے علاوہ تقریباً ۲۱۰ احادیث مبارکہ آنحضور ﷺ کی ختم المرسلینی پر شاہد ہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ حضور اقدس فداہ امی وابی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا۔ مگر اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے دیکھنے کو جوق در جوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ چنانچہ میں (حضور ﷺ) نے اس جگہ کو پر کیا اور مجھ ہی سے تعمیر نبوت مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں (یا) مجھ پر تمام رسل ختم کردیئے گئے۔

(مشکوٰۃ ص ۵۱۱، باب فضائل سید المرسلین)

حضرت سعدؓ بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ: "تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ (اس لئے) کہ تم ہارون (علیہ السلام) کی طرح نبی نہیں ہو۔"

(مشکوٰۃ ص ۵۶۳، باب مناقب علیؓ بن ابی طالب)

مندرجہ بالا احادیث کسی ابہام کے بغیر پیغمبر اسلام کے بعد کسی بھی نبی کی بعثت کی نفی کرتی ہیں۔ گذشتہ چودہ سو سال سے امت مسلمہ کا بالاجماع یہی عقیدہ رہا ہے۔ چنانچہ امام غزالیؒ امت کے اجماع پر اظہار خیال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: "تمام امت نے لفظ خاتم النبیین سے سمجھا کہ یہ آیت آنحضرت ﷺ کے بعد مطلقاً کسی نبی یا کسی رسول کے پیدا ہونے کی نفی کرتی ہے اور تمام امت محمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ نہ اس میں کوئی تاویل ہے نہ تخصیص اور جس نے

اس آیت کو تاویل کر کے کسی خاص جماعت سے خاص کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا کلام از قبیل ہذیان ہے اور اس کی یہ تاویل ہمیں اس سے نہیں روک سکتی کہ ہم اس کے کافر ہونے کا حکم لگا دیں۔ اس لئے کہ وہ شخص اس آیت کریمہ کا مکذب اور منکر ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہے کہ نہ اس میں کوئی تاویل ہے اور نہ کوئی تخصیص۔" (الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۱۲۳)

حضرت ثوبانؓ رسالت مآب ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ: "میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔" (مشکوٰۃ ص ۴۶۵ باب الملاحم)

اس حدیث مبارکہ سے دو اہم نقاط کی وضاحت ہوتی ہے۔ (۱) سرور کونین حضور علیہ الصلوٰۃ پر اختتام نبوت۔ (۲) رسالت مآب ﷺ کے بعد ۳۰ کذابوں کا دعویٰ نبوت۔

اس مختصر سے کتابچے میں ایسے ہی ایک کاذب نبی جس کا تعلق قادیان سے ہے، کے عقائد کی تصریح کرتے ہوئے اس کے دعووں کا پول کھولا گیا ہے۔ سید الانبیاء حضور ﷺ کی ختم المرسلینی کی شہادت میں واضح قرآنی آیات، صاف اور روشن احادیث نبوی کی موجودگی اور امت مسلمہ کے اجماع کے باوجود اس کاذب نبی سے قبل بھی کئی گم کردہ راہ اشخاص مختلف ادوار میں نبوت کا ڈھونگ رچاتے رہے ہیں۔

مسیلمہ بن حبیب نے سرور کونین کی حیات طیبہ کے دوران ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تاریخ میں اس مدعی نبوت کو کذاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ میں رسالت مآب ﷺ کی خدمت اقدس میں مشرف با اسلام ہونے کے لئے حاضر ہوا۔ لیکن چونکہ ذہن میں فتور تھا۔ سیاسی مقاصد پیش نظر تھے۔ اقتدار کا حریص تھا۔ کسی سلطنت کا تاجدار بننے کے خواب پریشان کا شکار تھا۔ لہٰذا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نیز سید الاولین و الآخرین کے حضور چند شرائط پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ اسے نبوت میں شریک ٹھہرا کر جانشین نامزد کر دیا جائے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس پر رحمٰن نامی فرشتے کے ذریعے وحی کا نزول ہوتا تھا اور یوں نازل شدہ کتاب مختلف ابواب و آیات پر مشتمل تھی۔ خاتم النبیین ﷺ کے وصال کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی زیر کمان مرتد و کذاب کی گوشمالی کے لئے فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ مسیلمہ چالیس ہزار مسلح نوجوانوں کو لے کر مقابلے

کے لئے بڑھا لیکن شکست کھائی اور قتل ہوا۔

آنحضور ﷺ کے عہد مبارک میں یمن کے ایک باشندہ اسود عنسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا اصل نام عبہلہ ابن کعب اور لقب ذی الحمار تھا۔ وہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت علم الہیات اور شاعری کے سبب معروف تھا۔ اس نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حالت وجد میں وہ اپنا سر جھکا لیتا پھر قدرے توقف کے بعد اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہتا: "اس نے مجھے یہ اور یہ حکم دیا ہے۔" اس مکار اور جھوٹے مدعی نبوت کو ختم المرسلین ﷺ کے وصال سے ۲۴ گھنٹے پیشتر واصل جہنم کر دیا گیا تھا۔

قبیلہ اسد سے طلیحہ بن خویلد نے ایک وفد کے ہمراہ سرور کائنات، رسول خدا محمد ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ لیکن اپنے قبیلے میں واپس پہنچتے ہی خبط کا شکار ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ذوالنون فرشتے کی وساطت سے اس کے پاس وحی پہنچتی ہے۔ اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے بھی خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی زیر قیادت ایک لشکر روانہ کیا۔ مقابلے میں شکست کھا کر یہ کاذب نبی شام کی طرف فرار ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد از خود ارتداد سے تائب ہو کر بقیہ زندگی نہ صرف حلقہ بگوش اسلام ہو کر گزار دی۔ بلکہ اس نے جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے خلاف کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

بنی تغلب کی ایک مکار و عیار عیسائی عورت سجاح بنت حارث عراق کے علاقے جزیرہ سے بنی تمیم میں آئی۔ اس کے پیش نظر لوگوں کو اسلام سے بدول کرنا تھا۔ اس نے حضور ﷺ کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے یہ مشہور کر دیا کہ اس پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلی۔ لیکن ناکامی کا منہ دیکھ کر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جا ملی۔ بالآخر نبوت کے ان دونوں مدعیوں نے آپس میں شادی رچالی۔ مسیلمہ کے قتل کے بعد اس نے اپنی مذموم حرکتوں اور جھوٹے دعووں سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا اور آخر تک اسی دین پر قائم رہی۔

خلیفہ عبدالملک کے عہد خلافت میں ایک اور شخص حارث دمشقی کو بھی نبی بننے کا جنون سوار ہوا۔ اس دور کے علمائے کرام نے اس کے لئے سزائے موت تجویز کی۔ لہٰذا اسے عملی جامہ

پہنائے ہوئے خلیفہ نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل اشخاص بھی نبوت کے دعویٰ کے مرتکب ہوئے۔

۱......	المغیرہ بن سعید العجلی	۷۲۳ء	۷۳۱ء
۲......	ابو منصور العجلی	۷۲۴ء	۷۳۱ء
۳......	اسحاق الاخرس المغربی	۷۵۰ء	۷۵۴ء
۴......	ابو عیسیٰ اسحاق اصفہانی	۷۵۴ء	۷۷۵ء
۵......	علی بن محمد خارجی	۸۶۹ء	
۶......	حمیم بن من اللہ قاسی		
۷......	محمود احمد گیلانی	۱۵۸۶ء	۱۹۲۸ء
۸......	مرزا علی محمد باب (ایران)	۱۸۴۴ء	۱۸۵۰ء
۹......	مرزا بہاء اللہ (ایران)	۱۸۶۳ء	۱۸۹۲ء
۱۰......	مرزا غلام احمد قادیانی	۱۸۹۱ء	۱۹۰۸ء

۱۱...... مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے کئی ایک متبع۔

مندرجہ بالا گوشوارے سے عیاں ہے کہ سرکار مدینہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلی صدی کے سوا باقی صدیوں کی نسبت انیسویں صدی میں کاذب نبیوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ ایشیا میں تاریخ اسلام کے قارئین بخوبی واقف ہیں کہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں مسلمانوں کی سیاسی قوتیں روبہ تنزل تھیں اور استعماری طاقتیں اپنے مکروہ ہتھکنڈوں سے ہر جگہ خاص کر مسلمان حکومتوں کو مغلوب کر کے غلبہ حاصل کر رہی تھیں۔ چنانچہ علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کی اس حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

”تاریخ اسلام میں ۱۷۹۹ء کا سال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سال سلطان ٹیپو کا زوال ہوا۔ اس مرد مجاہد کے زوال سے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی وقار کی بحالی کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اسی سال نوارینو کی جنگ میں ترکی بیڑے کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اسی طرح ۱۷۹۹ء میں براعظم ایشیاء میں اسلام کا سیاسی زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔“

(اسلام اور احمدیت علامہ اقبال)

انیسویں صدی کی ابتداء تک اسلامی دنیا کی سیاسیات پر یورپی استعمار مکمل طور پر

غالب آ چکا تھا۔ یورپی بزرجمہروں نے اپنی چیرہ دستیوں اور مذموم ہتھکنڈوں سے اسلامی ممالک پر تسلط تو جما لیا تھا۔ لیکن مسلم اور عیسائی دنیا کے صد ہا سال پرانے حریفانہ تعلقات ان فاتحین کے دل میں خلش پیدا کرنے کے لئے کافی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عالم اسلام کو مغلوب رکھنے کا مسئلہ آسان نہیں۔ ان پر یہ حقیقت بھی عیاں تھی کہ انہوں نے اپنے حریفوں کو سیاسی انتشار و افتراق کا شکار بنا کر بظاہر مغلوب تو کر لیا تھا۔ لیکن ان کا مذہبی اتحاد ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ جس کے سبب کسی وقت بھی ان کے منصوبے خاک میں مل سکتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اعلان جہاد دنیا بھر کے گوشے پر اسلام کے نام لیواؤں کو ظلم و استبداد کی قوتوں کے خلاف متحد کر سکتا تھا۔ وہ اپنی روز افزوں فتوحات کے باوجود اسلام اور اس کے سرفروشوں کو اپنے لئے چیلنج تصور کرتے تھے۔ درحقیقت مسلم اتحاد کی تحریک پہلے ہی جنم لے چکی تھی۔ سید جمال الدین افغانی، مفتی عبدہ، اسپرتی اور بہت سے دیگر مسلمان مفکرین امت مسلمہ کی پراگندہ قوتوں کو یکجا کرنے کے لئے انتہائی تندہی سے سرگرم عمل تھے۔ جس کے نتیجہ میں پان اسلامک تحریک وجود پذیر ہو چکی تھی۔

اس سلسلے میں سید جمال الدین افغانی نے مسلم ممالک کا وسیع دورہ کیا اور اپنی آتش بیانی سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے ہر ممکن سعی کی۔ اسی طرح مفکر اسلام مصر کے مفتی عبدہ نے مسلم اتحاد کی ضرورت اور اس کے حصول کے لئے اپنا سارا زور بیان صرف کر دیا۔ یہ تمام جانتے تھے کہ اسلامی دنیا کے سیاسی زوال کی راکھ میں چنگاری نہاں تھی۔ جو شعلہ بن کر عیسائی غاصبوں کو بھسم کرنے کا کام سرانجام دے سکتی تھی۔ دراصل مسلمانوں کا یہ جذبہ مستقل سامراجی دنیا کے لئے پیغام اجل تھا اور پان اسلامک تحریک اسی جذبہ کی تحریک تھی جو مذہبی جوش و خروش کے تحت سامراجیوں اور مغربی دنیا کے خلاف برسرپیکار تھی۔ نوآبادیاتی طاقتیں جو حالات کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ مسلم اتحاد کے دوررس نتائج سے بے خبر نہ تھیں۔ انہیں علم تھا کہ یہ جذبہ ایک نہ ایک دن ان کے اقتدار کو زمین بوس کر کے رہے گا۔ لہٰذا اس خطرے سے نمٹنے اور مسلم ریاستوں کے عظیم مقاصد کو ناکام بنانے کے لئے فاتح اقوام نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔

اسی پس منظر میں صیہونی تحریک کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔ ویانا کے ایک یہودی ڈرامہ نویس تھیوڈور ہرزل نے اپنی کتاب DERJUDENSTAAT (یہودی ریاست) میں جو ۱۸۹۶ء میں طبع ہوئی۔ یہودیوں کے لئے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے صیہونی تحریک کا بیج بویا۔ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو

فلسطین میں یکجا ہونے اور اسے بحیثیت وطن اپنانے کی راہ دکھائی۔ برطانوی سامراج نے فلسطین کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان متنازعہ مسئلہ بنانے کے لئے اس تحریک کی پشت پناہی کی۔ اس کے پیش نظر دو مقاصد تھے۔ مسلم قوت کو کمزور کرنا اور اس خطہ سرزمین میں مستقل اثر ورسوخ حاصل کرنا۔ ان تمام سازشوں کا حقیقی مقصد تو اسلام کے مسلمہ اعتقادات پر کاری ضرب لگانا تھا۔ لیکن اسلامی تعلیمات کی بیخ کنی اور انہیں مسخ کرنے کے لئے براہ راست تصادم کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے خفیہ طریقے اپنائے گئے۔ اس مذموم منصوبے کی تکمیل کے لئے انہوں نے مسلمانوں میں ایسے نئے مذہبی فرقے پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا جو بظاہر اسلام کا لیبل لگا کر در پردہ اسلامی تعلیمات کے پرخچے اڑانے میں سرگرم عمل رہتے۔

ان ناپاک عزائم کی تکمیل کے لئے بددیانت افراد جو ان کے اشاروں پر ناچ سکیں، کی خدمات کا حصول لازمی تھا۔ اول تو ایران میں بابی اور بہائی فرقوں کی پشت پناہی کی گئی۔ لیکن چونکہ ان دونوں فرقوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلا تصادم کی راہ اختیار کی۔ لہذا اپنے آقاؤں کی کوئی خدمت بجا لانے کی بجائے وہ خود ہی تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے۔ مرزا محمد علی باب نے پہلے تو اپنے آپ کو مہدی کا مجسم قرار دیا۔ بعد ازاں "نقطہ" ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن اس نے اپنے غیر اسلامی اور ملحدانہ خیالات کے سبب تمام اسلامی دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا۔ وہ رواداری کا شدید مخالف تھا اور کھلم کھلا تشدد کی تبلیغ کرتا تھا۔ جس کے نتیجے میں خونریز فسادات برپا ہوئے۔ آخر کار بغاوت کے الزام میں سزائے موت کا مستحق ٹھہرا اور ۱۸۵۰ء میں تبریز کے مقام پر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔

محمد علی کے بعد اس نئے مسلک کی باگ ڈور "صبح ازل" نامی شخص کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا اصل نام مرزا یحییٰ تھا۔ جلد ہی اس کے سوتیلے بھائی مرزا بہاء اللہ نے اس کی جگہ لے لی۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور الہامات گھڑنے شروع کر دیئے۔ اس نے قرآن حکیم کی بجائے اپنی کتاب "کتاب اقدس" کے نام سے پیش کی۔ اس نے اپنے مسلک کو اسلام کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس کھلم کھلا محاذ آرائی اور دشمنی کے سبب یہ مسلک سامراجی دنیا کے لئے کارآمد ثابت نہ ہو سکا۔ انہیں تو ایک ایسے غدار کی تلاش تھی جو بظاہر اسلام کا لیبل اپنے اوپر چسپاں رکھے۔ اس مذہب سے خلوص و وفاداری کا دم بھرے۔ لیکن خفیہ طور پر اپنے انگریز آقاؤں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے ان کے اشاروں پر ناچ سکے۔

یہ داستان تو بین الاقوامی سطح پر برطانوی سازش کا محض ایک معمولی تذکرہ ہے۔ برصغیر

ہند میں مسلمانوں کے جذبات نئے حکمرانوں کے خلاف شدید تند و تیز تھے۔ ۱۸۵۷ء میں جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز حکمران یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی فتوحات کا دور ختم ہو رہا ہے اور اگر مسلمانوں کو کچلا نہ گیا تو برطانوی سامراج کو ہند سے جلد ہی اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے۔ لہٰذا ۱۸۶۹ء میں برطانوی صحافیوں اور عیسائی راہنماؤں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا گیا۔ جس کا مقصد حالات کا مطالعہ کر کے مسلم آبادی کو بھٹکا ہٹانے اور ہندوستانیوں کے دلوں میں سلطنت برطانیہ کے لئے وفاداری کے جذبات پیدا کرنے سے متعلق تجاویز پیش کرنا تھا۔ ۱۸۷۰ء میں اس وفد کے دونوں گروہوں مشنریوں اور سیاست دانوں نے اپنی علیحدہ رپورٹیں پیش کیں۔ یہ رپورٹیں THE ARRIVAL OF THE BRITISH EMPIRE IN INDIA کے عنوان سے شائع ہوئیں۔

رپورٹ میں مختلف سفارشات کے علاوہ یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی رہنماؤں پر اندھا دھند اعتقاد رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر حکومت کسی ایسے شخص کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جو پیغمبر خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اکثر لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ مسلمانوں میں اس قسم کا آدمی تلاش کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اگر اس کا انتظام ہو جائے تو حکومت کی سرپرستی میں ایسے شخص کی نبوت، مشکل مقاصد کے لئے بہت مدد و معاون ثابت ہوگی۔ رپورٹ میں مسلمانوں کے اندرونی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے پر بھی زور دیا گیا۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں زیر نظر کتاب کے موضوع مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ رچایا۔

مرزا قادیانی نے ۱۸۳۹ء میں ضلع گورداسپور (موجودہ بھارت کا ایک ضلع) کے ایک گاؤں قادیان میں مرزا غلام مرتضیٰ کے ہاں جنم لیا۔ اس نے بعض گمنام اساتذہ سے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اپنی تعلیم کے متعلق وہ خود تحریر کرتا ہے: ”جب میں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو میں نے معمولی سی فارسی، صرف کی چند کتابیں، کچھ قواعد نحو اور حکمت کے متعلق معمولی سا علم حاصل کیا۔ میرے باپ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ وہ اکثر وقت مجھے تلقین کرتے رہتے کہ کسی طرح طبابت میں مہارت حاصل کر لوں۔ اس طرح مجھے حدیث اور اصول فقہ کے گہرے مطالعہ کا موقع نہ ملا۔“ (کتاب البریہ ص ۱۶۲، ۱۶۳، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۰، ۱۸۱)

یہاں اس امر کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مالیخولیا کے مرض کا شکار تھا۔

(ریویو قادیان، قادیانی میگزین بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء)

شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا اپنی یادگار کتاب "القانون" میں اس مرض کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: "مالیخولیا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات و افکار متغیر مخوف و فساد ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب مزاج سوداوی ہوتا ہے۔ جس سے روح دماغی اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے اور مریض اس کی ظلمت سے پراگندہ خاطر ہو جاتا ہے۔"

علامہ برہان الدین نفیس، شرح اسباب والعلامات امراض مالیخولیا میں فرماتے ہیں:

"مالیخولیا خیالات و افکار کے طریق طبعی سے متغیر خوف و فساد ہو جانے کو کہتے ہیں۔ بعض مریضوں میں یہ فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھتا ہے اور بعض میں یہ فساد یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔"

مرزا قادیانی کو خود اقرار ہے کہ مجھے مراق کی بیماری ہے۔

(تشحیذ الاذہان بابت ماہ جون ۱۹۰۶ء)

"کام کی مصروفیت کی وجہ سے رات کو زیادہ جاگتا ہوں۔ جس سے مراق کی بیماری ترقی کرتی ہے۔" (ملفوظات ج ۲ ص ۳۷۶)

مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی شہادت بھی ملاحظہ فرمائیں: "بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔" (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۳ روایت نمبر ۱۹)

اس سے عیاں ہے کہ مرزا قادیانی ابتدائے جوانی ہی میں اس مرض کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی بیماری کا کرشمہ تھا کہ اسے تخیل میں فرشتے نظر آنے لگے تھے۔

"ایک فرشتہ کو میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی انگریزوں کی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں۔" (تذکرہ ص ۳۵)

اس مراقی نبی کے تخیل کے مزید کرشمے ملاحظہ فرمایئے: "مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے

سے زیادہ تھیں۔ بذریعہ اس الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

مرزا غلام احمد قادیانی نے مختاری کا امتحان دیا۔ لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ۱۸۶۴ء وہ سیالکوٹ کی کچہری میں پندرہ روپے ماہوار پر بطور منشی بھرتی ہو گیا۔ اس آسامی پر اس نے چار سال تک کام کیا۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ مذہبی لٹریچر کے مطالعہ میں منہمک ہو گیا اور ۱۸۸۰ء میں اپنی کتاب براہین احمدیہ کی پہلی جلد اور اگلے چار سال کے دوران اس کی مزید تین جلدیں شائع کیں۔ ابتداء میں اس کذاب نبی نے یہ مشتہر کیا تھا کہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی حمایت میں براہین احمدیہ کو پچاس حصوں میں طبع کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کتاب کی تعریف یوں کی گئی کہ اس کے پڑھنے سے غیر مسلموں کے لئے قبولیت اسلام کے سوا چارہ نہ رہے گا۔ سادہ لوح مسلمانوں نے دھڑا دھڑ پیشگی قیمت جمع کرانی شروع کی۔ دیوانہ وار چندہ دیا۔ لیکن اس منافق نے چار جلدیں طبع کرانے کے بعد تقاضوں پر تقاضوں کے باوجود بقیہ حصے شائع نہ کرائے اور مسلمانوں کے چندے ہضم کر کے ڈکار تک نہ لی۔

اس کتاب میں اسلام، قرآن حکیم اور سرور کونین ختم المرسلین ﷺ کی شان اقدس میں توصیفی الفاظ تو موجود تھے۔ لیکن بغور مطالعہ کرنے والوں پر واضح ہو گیا تھا کہ اس میں ایک نئے مسلک کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور مصنف کا ذہن کسی طویل المیعاد منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے۔ ایک طرف تو مرزا قادیانی نے اس امر پر زور دیا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی اصرار تھا کہ نزول وحی کے امکانات ختم نہیں ہوئے۔ بلکہ وحی کا سلسلہ بذریعہ الہام ہر وقت ممکن ہے۔ تیسری جلد منظر عام پر آئی تو مسلمانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ حصہ حکومت برطانیہ کی تعریف و توصیف سے بھرا پڑا تھا۔ حکومت تو پہلے ہی ایسے چاپلوس غدار کی تلاش میں تھی۔ اسے تو اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لئے گوہر مقصود ہاتھ آ گیا اور اس نے فوراً اس ابلیس کی سرپرستی شروع کر دی۔

ابھی مرزا قادیانی نے اپنے ملحدانہ خیالات کی کھل کر تشہیر نہیں کی تھی۔ لیکن اس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ علمائے کرام ابتداء ہی میں اس کے منصوبے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے نظریات و خیالات پر شدید نکتہ چینی کی اور ان

خدشات کا اظہار کیا کہ اس مرتد کے ہاتھوں آخر کار اسلام کو نقصان پہنچ کر رہے گا۔

اب نبوت کی منزلیں مرزا قادیانی نے کچھ اس انداز سے طے کرنی شروع کیں کہ سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ اسے الہام ہوا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے۔ ۱۸۸۵ء میں اس نے مشہور کیا کہ وہ مجدد ہے۔ ۱۸۸۸ء میں اس نے دعویٰ کیا کہ بذریعہ الہام اس پر منکشف کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معتقدوں سے حلف بیعت لے۔ ۱۸۹۰ء میں اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے متعلق ایک نیا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو آسمان پر اٹھائے گئے۔ نہ ان کا پھانسی پر انتقال ہوا۔ مگر جب وہ پھانسی پر لٹکائے گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ انہیں زخمی حالت میں اتار دیا گیا۔ طبیعت سنبھلنے پر وہ کشمیر کی طرف بھاگ نکلے اور وہاں طبعی طور پر انتقال فرمایا۔ مرزا قادیانی نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ یہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ وہ خود مثیل مسیح تھا۔

"مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں ...... بلکہ مجھے تو فقط مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات ج اول ص ۲۳۱)

مرزا قادیانی کو بخوبی علم تھا کہ مسلمان ختم نبوت پر بہت حساس واقع ہوئے ہیں اور اس کے جھوٹے دعویٰ سے ان میں شدید ردعمل شروع ہو گا۔ لہٰذا ابتداء میں تو اس نے کھلم کھلا حضور ﷺ کے عہدہ ختم المرسلین کی مخالفت کی جرأت تو نہ کی۔ بلکہ ایک عیارانہ انداز اختیار کی۔

"قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات ممتنع ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔"

(ازالہ اوہام ص ۷۶۱ خزائن ج ۳ ص ۵۱۱)

جب مرزا قادیانی کی ہیرا پھیری اور اینچ پینچ کی پالیسی کے باعث چاروں طرف سے شدید ردعمل ہوا تو اس نے ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو دہلی کی جامع مسجد میں مندرجہ ذیل تحریری بیان

"ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانبیاء ﷺ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔" (مجموعہ اشتہارات ج اول ص ۲۳۰، ۲۳۱)

لیکن جلد ہی اس بدعہد نے اپنے مندرجہ بالا بیان کی مخالفت میں سیالکوٹ کے مقام پر ایک تقریر میں کہا: ”وہ نعم خداوندی ہے کہ انبیاء آتے رہیں اور ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ جسے تم توڑ نہیں سکتے۔“ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲۰، خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۷)

۱۸۹۱ء کو اس نے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور پھر اسی سال مسیح موعود بننے کا بیہودہ اور فضول ڈھونگ رچالیا۔ لیکن مسلمانوں کے خوف سے اس نے اپنے خیالات کا اظہار مبہم الفاظ میں کیا: ”میں نبی نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں۔ تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، خزائن ج ۵ ص ۳۸۳)

کچھ عرصہ بعد مزید جسارت کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اگرچہ اب بھی کھل کر سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ”میں نبی نہیں ہوں۔ بلکہ محدث، محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوۃ، بالفعل نہیں۔“ (حمامۃ البشریٰ ص ۸۱، خزائن ج ۷ ص ۳۰۰)

”محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۶۹، خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

اس ناقص نبوت سے مرزا قادیانی نے ایک قلابازی اور کھائی۔ ”میں مسیح ہوں جس کے متعلق خدا کے رسول ﷺ نے پیش گوئی کی تھی۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۸۳، خزائن ج ۳ ص ۴۶۸)

بالآخر ۱۹۰۱ء کو اس نے اپنے منصوبے کو آخری شکل پہناتے ہوئے ظاہر کر ہی دیا کہ: ”میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

اب مرزا کئی ایک قلابازیاں کھانے کے بعد باقاعدہ اور مکمل پیغمبر بن چکا تھا۔ مگر

بعض لحاظ سے نعوذ باللہ انبیاء سابقین سے افضل۔ اس نے مہدی کے دعویٰ سے آغاز کیا اور آ کر اپنے ناپاک منصوبے کے مطابق نبوت کے درجے پر پہنچ ہی گیا۔ بلکہ دریدہ دہنی و اخلاقی اور جسارت کی حد کر دی اور دعویٰ کیا: "میں محمد رسول اللہ ہوں۔" (ایک غلطی کا ازالہ ص ۴ خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

قادیان کے اس متنبی نے وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ کوئی مبہم سا بیان دیتا۔ لیکن مسلمانوں کی تنقید کے خوف سے فوراً ہی پینترا بدل لیتا اور اس سے متضاد کوئی اور بیان داغ دیتا۔ لیکن اپنی ہیرا پھیریوں کے باوجود وہ اس امر پر سب سے زیادہ زور دیتا رہا کہ وہ خدا کی طرف سے فرستادہ نبی ہے اور اس پر آسمانی وحی نازل ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل سطور سے اس کی متلون مزاجی اور تضاد بیانی کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

"مجھ کو وہ سب کچھ دیا گیا ہے۔ جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔"

(الاستفتاء ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵)

سابقہ اوراق میں مذکور ہے کہ مرزا قادیانی نے حضور محمد ﷺ کے بعد کسی شخص کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے امکانات کو خارج از بحث قرار دیا تھا۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ تک اپنے سب عقیدے پر قائم نہ رہ سکا اور جلد ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت جبرائیل اس کے پاس آتے تھے۔

"میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)

"جو مجھ میں اور مصطفیٰ (محمد ﷺ) میں امتیاز کرتا ہے۔ اس نے نہ مجھے جانا اور نہ مجھے دیکھا۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۵۹)

پیغمبر اسلام کے معجزے تین ہزار تھے۔ لیکن میرے معجزوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ (نسیم دعوت ص ۸۲، خزائن)

ج۱۹ ص ۲۲۷)

ایک شاعرانہ دعویٰ کی ہرزہ سرائی بھی ملاحظہ فرمایئے: "میں مسیح اور موسیٰ ہوں۔ میں محمد اور احمد ہوں۔ جسے خدا نے چن لیا ہے۔" (تریاق القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

اور پھر اپنے کمالات کا ذکر کس انداز سے کیا ہے؟ "کمالات متفرقہ جو تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ وہ سب حضرت رسول کریم ﷺ میں بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول اکرم ﷺ سے ظلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔" (ملفوظات ج ۴ ص ۲۷۰)

ایک اور موقع پہ اپنی تعریف میں مرزا یوں رطب اللسان ہے۔ "دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا۔ جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیلؑ ہوں، میں موسیٰؑ ہوں، میں داؤدؑ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمدؐ ہوں۔ یعنی بروزی طور پر، سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان محمدؐ میں پائی جاوے۔" (تتمہ حقیقت الوحی ص ۸۴، ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

مرزا قادیانی نے نبوت کے دعویٰ ہی پہ اکتفا نہ کیا۔ بلکہ خدائی کا شریک بھی بن بیٹھا۔
"میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔"
(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴، خزائن ج ۵ ص ۵۶۴)

اور پھر تمام حدود پار کرتے ہوئے کہا: "میں خدا کا باپ ہوں۔"
(حقیقت الوحی ص ۹۵، خزائن ج ۲۲ ص ۹۹)

ایک اور مقام پر اس نے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے کا کردار اختیار کرتے ہوئے ہرزہ سرائی کی۔ "تو (مرزا قادیانی) بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

"اے میرے بیٹے سن۔" (البشریٰ ج اول ص ۴۹)

"تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔"

(تذکرہ مجموعہ الہامات وکشوفات ص ۲۰۳ طبع ۲)

"عیسیٰ بن مریم مجھ سے ہے اور میں اللہ سے ہوں۔ وہ بابرکت ہے وہ جس نے مجھے پہچانا اور جس کی آنکھوں سے میں چھپا ہوں۔ وہ شقی ہے۔" (مکتوبات احمدیہ ج ۳ ص ۱۲۷)

مرزا قادیانی کے حواریوں میں سے ایک بیہودہ گو کا بیان تو ردی و دو ٹکی اور یاوہ گوئی کی انتہا ہے: "حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔" (اسلامی قربانی ص ۱۲)

"مجھے خدا کی طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔"

(خطبہ الہامیہ ص ۲۳ خزائن ج ۱۶ ص ۵۵، ۵۶)

کسی جال میں پھنسی ہوئی مکھی کی طرح مرزا قادیانی تیزی سے قلابازیاں کھاتا ہے۔ تاکہ تضاد بیانی کی ذلت سے بچ سکے۔ لیکن ہر نئی قلابازی اس کی خود فریبی میں اضافہ کرتے ہوئے مزید رسوائی کا باعث بن جاتی۔ چونکہ اس کی نبوت چل چکی تھی۔ اس لئے مسلمانوں کے علاوہ اسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دینے پڑے۔ ہر اعتراض کے جواب میں وہ ایک چولا پہنتا۔ ایک نیا بیان جڑتا اور خود فریبی و خود تردیدی کی دلدل میں گر کر پھنس جاتا اور پھر ایک نیا روپ دھار لیتا۔ یکم نومبر ۱۹۰۴ء کو سیالکوٹ کے مقام پر اس نے اصرار کیا کہ وہ ہندوؤں کا کرشن ہے۔ چنانچہ ایک لیکچر میں گل افشانی کرتے ہوئے کہا: "اس خدا نے مجھے ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی بار بتایا ہے کہ میں ہندوؤں کے لئے کرشن، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے مسیح موعود ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سن کر جاہل مسلمان فوراً کہیں گے کہ میں نے مقدس کرشن جسے وہ کافر سمجھتے ہیں۔ کا نام اختیار کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن میں آج اتنے بڑے اجتماع میں اس دعویٰ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیونکہ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی کی بدزبانی یا الزام تراشی سے خوف نہیں کھاتے۔ اب واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ایسا کامل انسان تھا۔ جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ مجھے کرشن سے محبت ہے۔ کیونکہ میں اس کا بروز ہوں۔ روحانی طور پر کرشن اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔

اس میں اتنا ہی فرق ہے۔ جتنا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی اصطلاحات میں۔"

اسی لیکچر میں اس نے اپنے آپ کو برہمن اوتار بھی ظاہر کیا۔ "جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں۔ وہ کرشن میں ہی ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا۔ وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ۔"

پھر اس نے ہندوؤں کو مخاطب کر کے کہا: "بحیثیت کرشن میں آریوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کرتا ہوں۔" (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳، ۳۴، خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۸، ۲۲۹)

مرزا قادیانی کی ان قلابازیوں کے باوجود اس کے بعض پرستار اس پر اندھا دھند اعتقاد رکھتے ہیں۔

"سب تعریفیں اللہ کے لئے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے سابقہ زمانوں کی مانند ان دنوں بھی ایک نبی مبعوث فرمایا۔ جس کا نام احمد، مسیح موعود، مہدی، کرشن، پارسیوں کا مصلح، سب قوموں کی آرزو، اسلام کا حامی، عیسائیت کی اصلاح کرنے والا، ہندوؤں کا اوتار، مشرق کا چاند وغیرہ وغیرہ۔" (احمدیہ موومنٹ کی کتاب مطبوعہ ہوالنڈ میں ایک قادیانی کا خط)

مرزا قادیانی کو وہم تھا کہ اس پر اردو، فارسی، انگلش اور بعض اوقات عربی میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک دو بار اس نے بے معنی اور بے ربط جملے لکھے اور کہا کہ یہ تمثیلی قسم کی وحی ہے۔ جس میں معتقدوں کے لئے پراسرار پیغام ہیں۔ ان جھوٹے اعلانات سے مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور مرزا قادیانی کو چاروں طرف سے شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ علمائے کرام نے اس کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر دیئے۔ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لئے اس نے برطانوی حکومت کے سایۂ عاطفت میں پناہ لی۔ درحقیقت مرزا قادیانی کی بیہودہ دعاوی، افتراء پردازیاں اور یاوہ گوئیاں تمام حدود کو پار کر گئی تھیں۔ جو مسلمانوں کے صبر کے لئے ناقابل برداشت تھیں۔ ان کی برہمی حق بجانب تھی۔ ان کا شدید ردعمل غیر متوقع نہ تھا۔ مسئلہ کے اس پہلو پر علامہ اقبال کا تجزیہ کیا معقول ہے۔

"اس قسم کے کفر کی تحریک ثانی جو اسلام کی حدود کو توڑ کرے۔ تاریخ اسلام میں شاذ و نادر ملتی ہے۔ اسی لئے فطری طور پر عامۃ المسلمین کے جذبات شدت کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی

وجہ ہے کہ بہائیوں کے خلاف ایرانی مسلمانوں کے جذبات بے حد شدید تھے اور اسی بناء پر قادیانیوں کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات اتنی شدت لئے ہوئے ہیں۔"

(اسلام اور احمدیت علامہ اقبال)

لہذا قادیانیت اسلام کے خلاف سرکشی و بغاوت تھی۔ زیرزمین بغاوت خفیہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا جال اسلام کے سارے ڈھانچے کو منہدم کرنے کی گہری سازش۔ اس بغاوت کی سرپرستی حکومت برطانیہ نہ کرتی تو کون کرتا؟ اس بغاوت کو برطانوی سامراج تحفظ نہ دیتا تو کون دیتا؟ غرض اس خودکاشتہ پودہ کی آبیاری فرنگی آقاؤں نے اپنی عنایت خسروانہ سے جی بھر کر کی۔ یہ ایک تحریک تھی۔ ایک منظم تحریک جو برطانوی استعمار کے ایماء پر چلائی گئی تھی اور جس کی نشوونما میں اسلام کے دشمنوں نے بھرپور حصہ لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس باغیانہ تحریک کی قیادت کی اور قادیان کی بدبخت و منحوس سرزمین پر اسے پنپنے کا موقع ملا۔ دراصل اس قسم کی بدی اسلامی دنیا کے کسی خطے میں کہیں بھی سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مرزا قادیانی نے سچ ہی تو کہا تھا: "میں اپنے کام (نبوت) کو نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ ترکی میں نہ شام و ایران و کابل میں چلا سکتا ہوں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کی دعا کرتا ہوں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۷۰)

"اور گورنمنٹ برطانیہ میری تلوار ہے۔ جس کے مقابلہ میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔" (الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۴۳ ص ۵ مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ء)

"اس کے (برطانوی حکومت) کے ہم پر احسان ہیں۔ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گذارہ ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔" (ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۱۴۶، لاہوری ایڈیشن)

مرزا غلام احمد قادیانی نے فرنگی آقاؤں کا آلہ کار بن کر مسلمانوں کی فکری وحدت کو جو نقصان پہنچایا۔ اسلام کے اساسی اعتقادات کی جس انداز سے بیخ کنی کی۔ ملت اسلامیہ کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جو جال پھیلایا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کی مدح سرائیوں، چاپلوسیوں، کاسہ لیسوں اور وفا شعاریوں سے اپنا دامن کو جس طرز سے داغدار کیا۔ اس کا اعتراف و اقرار اپنے خط کے: - ایک درخواست میں کرنے کے بعد انگریز کی ٹکسال سے نکلا ہوا نبی اپنے آقاؤں سے نوازشات کا طالب ہوتا ہے۔

"میرا اس درخواست سے جو حضور کی خدمت میں مع اسماء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہیں۔ عنایت خاص کا مستحق ہوں۔ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جاں نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں۔ تا کہ ہر ایک شخص بے وجہ ہمارے آبروریزی کے لئے دلیری نہ کر سکے۔

درخواست بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ منجانب خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۱)

لیجئے! بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان ایک انگریزی طاغوتی طاقت کا خادم و جاں نثار ہے جو اسلام کی ازلی دشمن ہے۔ اب یہ قارئین کرام کا کام ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ فرمائیں کہ اس خط کا تحریر کنندہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے یا برطانوی حکومت کا مرتد نبی۔ خصوصاً اس کا خود اعتراف ہے کہ قادیانیت برطانوی حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور درخواست کا ایک پیراگراف ملاحظہ فرمائیے: "میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت، دوسرے اس سلطنت کی جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر ہم اس حکومت برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام، خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔"

(بعنوان گورنمنٹ عالیہ کی توجہ کے لئے شہادت القرآن ص ۸۴ خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)

یہ تھا کردار قادیانیت کے بانی کا، اور یہ تھے مذموم مقاصد اس زیر زمین تحریک کے،

جو برطانوی حکومت کے ایماء پر شروع کی گئی تھی۔ یہ تحریک اسلام کے بنیادی اعتقادات کے خلاف بغاوت تھی۔ ایسی بغاوت جو اسلام کی ازلی دشمن عیسائیت نے اس دین برحق کے خلاف کھڑی کی تھی۔ ابتداء سے آج تک اس کا یہی کردار رہا ہے۔ اسلام کا لبادہ تو صرف سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دینے اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے اوڑھا گیا تھا۔ ورنہ اس کا اسلام اور قرآن حکیم سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام احمد قادیانی نے تو اپنے بیہودہ اور فضول اوہام کو الہامات کا نام دے کر نہ صرف قرآن حکیم کی آسمانی تعلیمات کے برابر لا کھڑا کیا۔ بلکہ اپنے مراقی ذہن کے بے لگام طوفانی خیالات کو وحی سے موسوم کر کے المبین کے نام سے بیس اجزاء پر مشتمل کتاب کو قرآن عظیم کی جگہ دینے کی ناپاک جسارت بھی کر ڈالی۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئیوں پر ایک نظر

مرزا غلام احمد قادیانی کو وحی الٰہی کا مہبط ہونے کا دعویٰ تھا۔ اپنے اس باطل اور کھلے دعوے کی تائید میں اسے نہ صرف بے شمار کرامات اور معجزے اپنی طرف منسوب کرنے پڑے بلکہ یہ ڈینگ بھی مارنا پڑی کہ اس کے معجزوں کی تعداد پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزوں سے زیادہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے تین ہزار معجزات ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۴۰ خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳)

"میرے معجزات کی تعداد دس لاکھ ہے۔" (تذکرۃ الشہادتین ص ۴۱، خزائن ج ۲۰ ص ۴۳)

"اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔" (چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

مرزا قادیانی نے لاف زنی سے کام لیتے ہوئے اپنے معجزات کی تعداد تو لاکھوں بتا دی۔ لیکن ان کی تفصیل بتانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ دراصل مرزا قادیانی جیسا کاذب نبی اپنی تخریبی کارروائیوں کے نتیجے میں اگر کسی معجزے پر فخر کر سکتا تھا تو وہ یہی تھا کہ اس نے انگریز کی پشت پناہی کے بل بوتے پر امت مسلمہ کے اتحاد میں نقب لگا کر اپنے مذموم سیاسی ارادوں کی تکمیل کے

لئے ایک علیحدہ گروہ تیار کرلیں۔ زمانہ ماضی میں اگر اللہ تعالیٰ کے فرستادہ سچے پیغمبر انسانی فہم سے بالاتر، فوق الفطرت معجزوں کا اظہار کرتے رہے ہیں تو نبوت کے کاذب مدعی بھی ہمیشہ سادہ لوح انسانوں کو دام فریب میں پھنسانے کے لئے مکاری وعیاری کو اپنا شعار بناتے رہے ہیں۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر مناسکتی ہے۔ بالآخر یہ مکروفریب ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ کذب وافتراء کے سہارے حاصل کردہ عظمت وشوکت ذلت ورسوائی میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔

قادیان کے خود ساختہ نبی کا حال بھی ان شعبدہ بازوں سے مختلف نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی لاتعداد پیش گوئیوں کے متعلق ڈینگیں مارتا دکھائی دیتا ہے۔ جو اس کے معتقدوں کے خیال میں سچ ثابت ہوئیں۔ مندرجہ ذیل صفحات میں ایسی ہی چند پیش گوئیوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ انہیں پڑھ کر ناظرین خود مرزا قادیانی کی نبوت کے متعلق فیصلہ فرماسکتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا جائزہ لینے سے پیشتر اس کی ایک تحریر پیش ناظرین کی جاتی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیش گوئیوں کو کس قدر اہمیت دیتا تھا؟

”ہمارے مخالفین پر واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص۲۸۸، خزائن ج۵ ص۲۸۸)

گویا مرزا قادیانی نے خود اپنے دعویٰ کی صداقت کا معیار یا کسوٹی اپنی پیش گوئیوں ہی کو ٹھہرایا ہے۔ اس کی تمام تر پیش گوئیاں تعداد میں کثیر ہیں۔ جو اس کے دور کے تاریخی، سیاسی اور معاشرتی حالات و واقعات پر محیط ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا۔ جس پر عوام الناس کی توجہ مرکوز ہو جاتی تو مرزا قادیانی بلاتاخیر اس سے اپنی کسی پیش گوئی کی تکمیل ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اسے اپنی نیک نامی میں اضافے کا سبب بنا دینا چاہتا۔ اکثر اوقات اس کی مبہم قسم کی پیش گوئیاں تشنۂ تکمیل رہ جاتیں۔ تو مخالفین کے ہاتھوں سے شدید تنقید وطنز وتضحیک کا ہدف بننا پڑتا۔ لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور آئندہ کے لئے کذب بیانی اور بیہودہ گوئی سے تائب ہونے کی بجائے وہ ذلت ورسوائی سے بچنے کے لئے اپنی پیش گوئی کے ابہام والتباس میں پناہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا اور مختلف تاویلیں پیش کرتا۔ اس کی تمام تر پیش گوئیاں اکثر زلزلوں، آفات وحادثات، تباہی وبربادی اور مخالفین کی ہلاکت وموت سے متعلق ہی ہوتیں۔ سچ

پوچھئے تو اس کی چند الٹی سیدھی پیش گوئیاں تو تھیں۔ البتہ بددعائیں، دشنام طرازیاں اور لعنتیں ملامتیں ضرور تھیں۔ جن کو بیان کرکے اپنا اعمال نامہ سیاہ کرتا رہتا۔

درحقیقت مرزا قادیانی کے اس دعویٰ نے امت کو دو مخالف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور دونوں طرف سے دلائل و جواب دلائل کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ جو بھی کوئی شخص مرزا قادیانی کے کذب کو ثابت کرنے کے لئے زبان کھولتا۔ وہ فوری طور پر اس پر لعن طعن کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بددعاؤں کے تیر چلانے شروع کر دیتا۔ عبداللہ آتھم عیسائی، چراغ دین قادیانی (مرزا قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبوت کا دعویدار) مولانا ثناء اللہ امرتسری، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، پنڈت لیکھرام خصوصاً مرزا قادیانی کی نام نہاد پیش گوئیوں کے ہدف بنے رہے تھے۔

عبداللہ آتھم مسیحی قادیانی کے عیسائی مخالفین میں سے تھا۔ دونوں میں اکثر مذہبی مناظرے ہوتے رہتے۔ ایک دفعہ مناظرے سے پہلے ہی مرزا قادیانی نے اپنے حاشیہ برداروں کو خوش کرنے کے لئے اپنی کامیابی کی پیش گوئی سنادی۔ لیکن اس خوشخبری کے برعکس جب مناظرہ بغیر کسی فیصلے کے اختتام پذیر ہوا۔ تو اس نے اپنے مخالفین کو لعنت ملامت اور گالی گلوچ اور بددعاؤں سے نوازنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جون ۱۸۹۳ء کو اس نے اعلان کر دیا کہ عبداللہ آتھم پندرہ ماہ کے عرصہ میں اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ ناظرین کرام ملاحظہ فرمایئے: ”میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ۵؍جون ۱۸۹۳ء سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا اور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔“ (جنگ مقدس ص۲۱۰، خزائن ج۶ ص۲۹۳)

مذکورہ پیش گوئی کی رو سے آتھم کو ۵؍ستمبر ۱۸۹۴ء تک موت سے ہم کنار ہونا تھا۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے گم کردہ راہ ساتھیوں نے یہ اضطرابی عرصہ آتھم کی موت کے لئے خشوع وخضوع سے دعائیں کرتے ہوئے گذارا۔ دن گذرتے گئے کہ اب بھی کی

دعائیں بے اثر ثابت ہوتی نظر آرہی تھیں۔ ستر سالہ بڈھے کو موت آئی نہ کسی بیماری نے حملہ کیا۔ وہ اچھا بھلا تندرست و توانا دندناتا ہوا پھرتا رہا۔ چونکہ اس پیش گوئی کی خوب تشہیر کی گئی تھی۔ دوست دشمن مقررہ تاریخ کے لئے بے تابی سے منتظر تھے۔ خود مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں اس پیش گوئی کی تکمیل اس کے تمام تر دعوؤں کی صداقت کے لئے دلیل کی حیثیت رکھتی تھی۔

مرزا قادیانی کے ایک قادیانی سوانح نگار کی تحریر سے خود اس کذاب زمانہ اور اس کے حاشیہ برداروں کی ذہنی بے کلی و اضطراب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ "آتھم کے متعلق پیش گوئی کا آخری دن آ گیا اور جماعت میں لوگوں کے چہرے پژمردہ تھے۔ بعض لوگ ناواقفی کے باعث عبداللہ آتھم کی موت پر شرطیں باندھ چکے تھے۔ ہر طرف سے مایوسی اور اداسی کے آثار ظاہر تھے کہ اے خداوند رسوا مت کریو۔ غرض ایسا کہرام مچ رہا تھا کہ غیروں کے رنگ بھی فق ہو رہے تھے۔" (سیرت المہدی الموعود ص ۹، مصنف یعقوب علی قادیانی)

قادیانیوں کی تمام توقعات نقش برآب ثابت ہوئیں۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی لیکن آتھم کو موت نہ آئی۔ وہ مرزا قادیانی کا منہ چڑانے کو زندہ رہا۔ ذلت و رسوائی، روسیاہی و ندامت پیش گوئی کرنے والے کا مقدر بن گئی تھی۔ عیسائی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ انہوں نے جشن کامیابی منانے کے لئے آتھم کا جلوس نکالا۔ غلام احمد قادیانی ذلت آمیز شکست کے ناقابل برداشت بوجھ تلے پس رہا تھا۔ اس کا کذب مشتہر و عیاں ہو چکا تھا۔ اس کا ریت پر تعمیر شدہ جھوٹا قصر نبوت یک لخت زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ اس سزا کا مستحق تھا کہ اس کے گلے میں رسہ ڈالا جائے۔ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ مرزا قادیانی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ کذب بیانی سے تائب ہو جاتا۔ سابقہ گناہوں کا اقرار کرتا اور بقیہ زندگی ان کی سزا سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے گزار دیتا۔ لیکن ہر پیش گوئی کی ناکامی پر مختصر خاموشی کے بعد یہ مراقی نبی اپنے حواریوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کے لئے ایک نئی تاویل پیش کر دیتا۔

"بعض اوقات کسی پیش گوئی کی تشریح میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر بھی تو فانی انسان ہی ہیں۔"

مرزا قادیانی کی یہ تاویل محض عذر لنگ سے زیادہ نہ تھی اور نہ ہی مزید توضیح و تصریح

کی تاریخ۔

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری سے متعلق پیش گوئی کا بھی یہی حشر ہوا۔ مرزا قادیانی نے بددعا کی تھی کہ دونوں میں سے جو کاذب و مفتری ہے۔ وہ ہیضے جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر فریق مخالف سے پہلے موت کا شکار ہو۔

"اگر میں کذاب و مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ یعنی طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک! اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد و کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین! اور اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے۔ حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو نابود کر مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک امراض سے۔"

(مرزا قادیانی کا اشتہار مورخہ ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۱۲۰ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹)

اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ صدق و کذب، حق و باطل کا فیصلہ جلد ہی ہو گیا۔ صرف ایک سال بعد ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا قادیانی اپنے حریف کی حیات کے دوران ہی ہیضے کے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر ہلاکت سے دوچار ہوا اور مولانا موصوف بتفضل ربی مزید چالیس سال تک اسلام کی مخالف قوتوں خصوصاً قادیانیت کے خلاف مصروف جہاد رہے اور آخرکار یہ مجاہد اسلام ۱۹۴۸ء میں کبر سنی میں طبعی طور پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

مرزا قادیانی کے حاشیہ برداروں کے لئے اس سے زیادہ اور کیا مقام عبرت ہو سکتا ہے۔

اسلام کے ایک اور فرزند ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی نے مرزا قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیا تو اس نام نہاد متنبی کو اسے قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ البتہ اپنا پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے ایک پیش گوئی فرما دی کہ "عبدالحکیم چونکہ میری توہین و تذلیل کرتا ہے۔ اس لئے میری

زندگی ہی میں مرے گا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۹)

یہ امر دلچسپ ہے کہ عبدالحکیم نے اسی زبان میں جواب دیتے ہوئے یہ پیش گوئی کی کہ:

”قادیانی کاذب آج سے پندرہ ماہ بعد مر جائے گا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۹)

شانِ خداوندی ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی تو اسی مقررہ مدت کے دوران ہی جہنم رسید ہوا۔ لیکن عبدالحکیم صاحب عرصہ دراز تک بقیدِ حیات رہے۔ لیکن حیف صد حیف قادیانیوں نے اس ذلت آمیز شکست و رسوائی کے بعد بھی ادنیٰ عبرت حاصل نہ کیا۔

مرزا قادیانی کی کئی ایک پیش گوئیوں کے سبب امنِ عامہ شدید خطرے میں پڑ گیا تھا۔ حالات ایسی نازک صورت اختیار کر چکے تھے کہ قادیانی متنبی کی سرپرست برطانوی حکومت بھی اس کی مذموم حرکات کے خلاف انتظامی حکم جاری کرنے اور اس سے درج ذیل تحریر نامہ لینے پر مجبور ہو گئی۔

۱… ”میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا۔ جس کے یہ معنی خیال کئے جا سکیں کہ کسی شخص کو (یعنی مسلمان ہو خواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ ہو) ذلت پہنچے گی یا وہ موردِ عتابِ الٰہی ہو گا۔“

۲… ”میں خدا کے پاس ایسی اپیل (فریاد و درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو (یعنی مسلمان ہو خواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ موردِ عتابِ الٰہی ہے۔ یہ ظاہر کرے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔“

۳ ”میں کسی چیز کو الہام جتا کر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا یہ منشا ہو یا ایسا منشا رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں شخص ذلت اٹھائے گا یا موردِ عتابِ الٰہی ہو گا۔“

قارئین کرام! آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین ختم المرسلین آنحضور محمد مصطفیٰ ﷺ تک کسی نبی نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا۔ جس کا مرتکب قادیانی نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہوا؟ وہ دنیاوی عدالت کے ایک ادنیٰ غیر مسلم حاکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یعنی ضلع گورداسپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تحریری طور پر اپنا توبہ نامہ پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے عہد پر قائم رہنا اس مراقی پیغمبر کے مقدر میں کہاں تھا؟ ابھی اس تحریری عہد نامہ کی سیاہی بھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ اس نے

حسبِ عادت فوری طور پر اپنے مخالفین کو بددعاؤں اور دشنام طرازی سے نوازنا شروع کر دیا۔

مرزا قادیانی نے اپنی اس بدعملی اور زعمِ نبوت کو حصولِ دولت کا ذریعہ بھی بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور اپنے معتقدوں کے لئے وقتاً فوقتاً نرینہ اولاد کی پیدائش کی پیشگوئیاں کر دیتا اور یوں انہی بشارتوں کے عوض بھاری رقوم وصول کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کرتا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک معتقد عبداللہ تیماپوری جو مرزا قادیانی کی موت کے بعد خود بھی نبوت کا مدعی بن بیٹھا تھا، نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک پمفلٹ کی تردید میں اس نے ایک رسالہ لکھا جس میں ایسے واقعات قلم بند کئے جن سے یہ تصریح ہوتی ہے کہ مرزا نرینہ اولاد کے خواہش مندوں کو بیٹے کی پیدائش سے متعلق پیش گوئی سنا کر پانچ سو روپے کی خطیر رقم بٹور لیتا تھا۔ اس نے خصوصاً ایک رسالدار میجر کی حالتِ زار کا ذکر کیا ہے جو مرزا قادیانی کو پانچ سو روپے کی رقم دینے کے باوجود بیٹے سے محروم رہا۔

ایک صاحب منظور محمد نامی بھی مرزا قادیانی کے پیروکاروں میں سے تھا۔ جب مرزا قادیانی کو اس کی بیوی کے حاملہ ہونے کا علم ہوا تو حسبِ عادت فوراً اسے بیٹے کی پیدائش کی بشارت سنا دی بلکہ عالمِ وجود میں بھی نہ آنے والے اس فرزند کو بشیر الدین کے نام سے بھی موسوم کر دیا۔ کاذب نبی کی بشارت کے برعکس منظور کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا اور مرزا قادیانی اور منظور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔

اپنے بیٹے مبارک احمد کی پیدائش پر تو مرزا قادیانی نے ایک الہامی بیان جاری کیا:

"اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ وہ صاحبِ شکوہ اور عظمت اور دولت والا ہوگا۔ مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ کلمۃ اللہ ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی۔" (تذکرہ ص ۱۳۸، ۱۳۹ طبع چہارم)

لیکن تدبیرِ خداوندی ملاحظہ فرمائیں کہ اس بشارت کا مصداق بقول مرزا قادیانی دنیا کا مسیحا، نبیِ وقت، مہدی اور مسیح موعود آٹھ سال کی عمر ہی میں اس جہانِ فانی سے رحلت کر گیا اور اس کے کاذب باپ کا خواب شرمندۂ تعبیر نہ ہو سکا۔ مرزا قادیانی کی کذب بیانی لوگوں پر آشکار ہوتی رہی۔ اس کے فریب عیاں ہوتے رہے۔ اسے شکست پر شکست اٹھانا پڑی۔ لوگ اس کی رسوائی

پیدائش کا انکار کرتے رہے۔ کوئی غیرت مند انسان ہوتا تو اسے منہ چھپائے نہ بنتی۔ لیکن حیاء و شرم سے عاری نبی کو کبھی بھی ذرہ بھر ندامت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے تو اپنے مریدوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا رکھنے کے لئے ایک جال بچھا رکھا تھا۔ اس کی ایک تدبیر ناکام ہوتی تو دوسری چال چلتا۔ ایک مسیح موعود (مبارک احمد) مر گیا تو تاویل سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی پیدائش کی بشارت سنا ڈالی۔ لیکن اب کے بھی لڑکے کی بجائے عصمت نامی بچی تولد ہوئی اور مرزا قادیانی کی ناکام بشارتوں میں مزید ذلت کا باعث بنی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بچی بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور چھوٹی عمر میں مرزا قادیانی کی رسوائیوں میں دو چند اضافہ کرتے ہوئے انتقال کر گئی۔

۱۹۰۵ء میں حکومت برطانیہ نے انتظامی مصلحتوں کے تحت بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ اس تقسیم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان تھا۔ لہٰذا اس کے خلاف ہندوؤں کا ردعمل شدید تھا۔ انہوں نے منسوخ کرانے کے لئے شدید ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ حکومت کا رویہ بھی سخت تھا اور بظاہر آثار بھی تھے کہ وہ تقسیم کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے شورش پسندوں کے مطالبے کو درخور اعتنا نہیں سمجھے گی۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مرزا قادیانی نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اپنے طائفے کو یہ بشارت سنا دی کہ تقسیم بنگال قائم رہے گی اور دونوں صوبوں کا اتحاد بعید از امکان ہے۔ فرنگی آقاؤں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لئے اپنے پروردہ کی لاج نہ رکھی اور دسمبر ۱۹۱۱ء میں جارج پنجم نے دہلی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کو منسوخ کرتے ہوئے صوبے کی سابقہ حالت کو بحال کر دیا۔ بنگال متحد ہو گیا اور کذابوں کے سرخیل مرزا قادیانی کو ایک بار پھر ذلت کی کھانا پڑی۔

۱۸۹۸ء میں جب طاعون کی وبا نے ہندوستان کے بعض حصوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو مرزا قادیانی نے اپنا الہام شائع کیا کہ غضب الٰہی اس کے مخالفین کے لئے طاعون کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اس وبا کے شکار صرف اس کے مخالفین ہوں گے۔ جنہوں نے اس کے ناہموار دعوؤں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی توہین و تذلیل کے مرتکب ہوئے تھے۔

طاعون ابھی قادیان کی حدود سے دور تھی۔ مرزا قادیانی نے جوش مسرت میں قادیانیوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ وہ اپنے متعلقوں سمیت اس وبا سے [illegible] رہے گا۔ طاعون اس کے گھر کی چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ نیز سارے قادیان کو اس وبا سے مامون [illegible] قرار دے دیا۔

"سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اور خدا تعالیٰ بہرحال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا۔ گو ستر سال تک رہے۔ قادیان کو اس خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔"

(دافع البلاء ص ۱۰، ۱۱ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰، ۲۳۱)

اپنی اس قسم کی خوش فہمیوں کے تحت مرزا قادیانی نے طاعون کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرنے اور ٹیکہ لگوانے کی تجاویز کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا: "یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ میں طاعون اور دوسری بیماریوں سے بچاؤ کے لئے دوائیوں کے استعمال اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو ممنوع قرار نہیں دیتا۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا نہ کیا ہو۔ لیکن میں ٹیکوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس نشان کو مٹانے کے خلاف ہوں۔ جو اس نے کمال شفقت سے میرے اور میرے معتقدوں کے لئے ظاہر فرمایا اور جس کے ذریعہ وہ میرے ساتھ خلوص وفاداری کا تعلق رکھنے والوں کے لئے اپنے لطف و کرم کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ لہذا میں ٹیکہ لگوا کر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بے اعتمادی اور رحمت کے اس عظیم الشان نشان کی توہین و اہانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔" (ریویو آف ریلیجنز ج ۱ نمبر ۱۱ ص ۳۲۵ ملخص)

قارئین کرام کو اس امر پر تعجب نہیں ہونا چاہئے کہ اس بار بھی اس بشارت پر جو الہام پر مبنی تھی۔ وہی حشر ہوا جو اس سے پیشتر سینکڑوں کا ہو چکا تھا۔ یعنی نہ صرف قادیان کے ہر کونے میں پھیلی بلکہ تمام ہندوستان کا عشرت کدہ بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ خوف سے مرزا قادیانی پر رعشہ طاری تھا۔ اس کی کیفیت کا اندازہ اس کے اس خط سے لگائیے۔ جو اس نے اپنے داماد محمد علی خان کے نام تحریر کیا۔

"اس جگہ طاعون تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کب یہ ابتلاء دور ہو۔ مگر یہ کہ آتے وقت ایک بڑا بکس فینائل کا جو سولہ یا بیس روپے کا آتا ہے۔ ساتھ لے آویں اور علاوہ اس کے آپ بھی اپنے گھر کے لئے بھیج دیں اور ڈس انفیکٹ کے لئے رس کپور اس قدر بھیج دیں جو چند ماہ کے لئے کافی ہو۔" (مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۳ ص ۱۱۳)

قدرت خداوندی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص جو وبائی خداوندی کے تحت طاعون کو اپنی دعاؤں کا ثمر اور اپنے نشانوں میں سے ایک عظیم الشان نشان سمجھتا ہو اور اپنے مخالفوں کے لئے عذاب الٰہی اور اپنے معتقدوں کے لئے رحمت خداوندی گردانتا ہو۔ ٹیکہ لگوانے سے انکار کر چکا ہو۔ کس طرح اب حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لئے بے تاب نظر آتا ہے۔ بلکہ اپنے فرنگی آقاؤں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے: "شکر کا مقام ہے کہ گورنمنٹ عالیہ انگریزی نے اپنی رعایا پر رحم کر کے دوبارہ طاعون سے بچانے کے لئے ٹیکہ کی تجویز کی اور بندگان خدا کی بہبودی کے لئے کئی لاکھ روپیہ کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لیا۔ درحقیقت یہ وہ کام ہے جس کا شکر گزاری سے استقبال کرنا دانش مند رعیت کا فرض ہے۔" (کشتی نوح ص ا، خزائن ج ۱۹ ص ا)

اور ہاں یہ نام نہاد پیغمبر تو اپنے گھر کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند آفات و بلیات سے [redacted] سمجھتا تھا۔ اب غضب الٰہی سے اس کے گھر کا حصار اور اس کے مکین [redacted] نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ خود بھی مرض کا شکار ہوتا ہے۔ اگرچہ موت ابھی اسے منہ نہیں لگاتی۔ مرزا قادیانی کی اپنی تحریر ملاحظہ فرمائیں: "طاعون تو ہمارے گھر میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ بڑی غوثاں کو تپ ہو گیا تھا۔ اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میری دانست میں اس کو طاعون نہیں ہے۔ احتیاطاً نکال دیا ہے اور ماسٹر محمد دین کو تپ ہو گیا اور گلٹی بھی نکل آئی۔ اس کو بھی باہر نکال دیا۔ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان عورت کو جو دہلی سے آئی تھی بخار ہو گیا۔ بعض اوقات میں بھی ایسا بیمار ہو گیا کہ وہم گذرا کہ شاید دو تین منٹ جان باقی ہے اور خطرناک آثار ظاہر ہو گئے۔" (مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۴ ص ۱۱۵)

کیا اس کاذب نبی کے دعویٰ کی تردید میں مزید شواہد و دلائل کی ضرورت ہے۔

مرزا قادیانی کا ایک اور ڈھکوسلہ زلزلہ کی پیش گوئی سے مشہور ہوا۔ ۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو شمالی ہندوستان میں قیامت خیز زلزلہ آیا جو کانگڑے کے زلزلے کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے کئی آباد علاقے کھنڈرات میں بدل گئے۔ انسانی آبادیاں ویرانوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ اس دور کے ماہر ارضیات نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ایسے ہولناک زلزلوں کے بعد یکے بعد دیگرے مزید جھٹکوں کا رونما ہونا لازمی ہے۔ جو شدت کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں کرہ ارض کے مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جیسے پیش گوئیاں کرنے کا جنون تھا۔ اس

سنہری موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ لہٰذا پہلے زلزلے کے صرف چار دن بعد یعنی ۸ اپریل ۱۹۰۵ء کو یہ پیش گوئی ساری کہ بہت جلد اس کی زندگی ہی میں ایک ہولناک زلزلہ رونما ہوگا۔ چند دن بعد اس نے ایک اور اشتہار کے ذریعہ قریب الوقوع زلزلے کا اعلان کیا۔

”آج ۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء کو خدا تعالیٰ نے مجھے ایک ہولناک زلزلے کی خبر دی ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۲۴)

ایک اور تحریر میں اس نے پرزور الفاظ میں کہا کہ خدا تعالیٰ کی وحی کے مطابق زلزلہ سولہ سال کے اندر اس کی زندگی ہی میں رونما ہوگا۔ مرزا قادیانی نے ہوشیاری یہ کی کہ زلزلے کے وقوع کے اوقات اور مقام کا ذکر حذف کرتے ہوئے مبہم الفاظ میں یہ پیش گوئی شائع کردی۔

قارئین کرام! غور فرمائیے کہ سولہ سال کی طویل مدت کے دوران کسی ایک نہیں، بلکہ کئی ایک زلزلوں کا وقوع پذیر ہونا بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ اس طویل مدت کا تعین بھی مرزا قادیانی کی چالاکی تھی۔ مرزا قادیانی نے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لئے اپنی قیاس آرائی کا غیر ضروری طور پر کئی بار اعادہ کیا۔ مرزا قادیانی اپنے الہام اور خوابوں کو شائع کرنے پر ہی اکتفا نہ کرتا بلکہ حکومت کو بھی اپنے بیمار ذہن کے اختراع کردہ آسمانی خطرات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا اور مناسب انتظامات کرنے پر زور دیتا رہتا۔ لہٰذا اب کے بھی اس نے ایک پمفلٹ

" AN URGENT REQUESTT DEMANDING ATTNTION OF THE GOVERNMENT "

شائع کیا اور حکومت کو بھی خبردار کرنے کے لئے اس کی نقول روانہ کردیں۔ مرزا قادیانی کو اس پیش گوئی پر اتنا کامل یقین تھا کہ اس نے قادیان میں اپنے عشرت کدہ کو خیرباد کہہ کر قصبے سے باہر باغ میں نہ صرف خود خیمے لگالئے بلکہ اپنے قادیانی ٹولے کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اس سے مترشح ہے کہ مرزا قادیانی زلزلے کی صورت میں کسی ہولناک تباہی کا منتظر تھا۔ ایسی تباہی و بربادی جو سابقہ تمام ریکارڈوں کو مات کردے اور جان و مال کے نقصان کے لحاظ سے اپنا ثانی نہ رکھتی ہو۔

قارئین کرام! یہ جان کر لطف اندوز ہوں گے کہ چھوٹے موٹے زلزلوں کے جھٹکے تو ادھر ادھر محسوس کئے گئے ہوں تو ہوں۔ لیکن جس شدید زلزلے کی مرزا قادیانی نے اطلاع دی تھی اور جس کا خوب ڈھول پیٹا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں رونما ہوا اور نہ سولہ برس کی طویل مدت میں۔

مرزا قادیانی کے الہام، خواب، چالبازیاں جنہیں وہ پیش گوئیوں کا نام دیتا تھا۔

تعداد میں تو بے شمار ہیں۔ ان سب کو گنانا تو تضیع اوقات ہے۔ لیکن اس کے شیطانی ذہن کی ایک اور اختراع قارئین کی دلچسپی کے لئے پیش کی جاتی ہے۔ عبداللہ آتھم سے متعلق پیش گوئی کی مانند اس نے اسے بھی اپنے صادق و کاذب ہونے کی دلیل قرار دیا تھا۔

مرزا قادیانی کا ایک قریبی عزیز احمد بیگ نامی کسی کام میں حصول مدد کے لئے اس کے پاس پہنچا۔ مرزا قادیانی نے اس کام کے عوض میں احمد بیگ کی بیٹی کا رشتہ اپنے لئے طلب کر لیا۔ لیکن جب حصول مراد میں دقت پیش آئی تو پھر یہی دور پیش گوئیوں کے مکارانہ حربے آزمانے شروع کر دیئے۔ لہٰذا احمد بیگ کو ایک خط لکھا گیا۔

مکرمی مخدومی اخویم مرزا احمد بیگ سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ابھی مراقبہ سے فارغ ہی ہوا تھا تو کچھ غنودگی سی ہوئی اور خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ احمد بیگ کو مطلع کر دے کہ وہ بڑی لڑکی کا رشتہ منظور کرے۔ یہ اس کے حق میں ہماری جانب سے خیر و برکت ہوگا اور ہمارے انعام و اکرام بارش کی طرح اس پر نازل ہوں گے اور تنگی اور سختی اس سے دور کر دی جائے گی اور اگر انحراف کیا تو مورد عتاب ہوگا اور ہمارے قہر سے نہ بچ سکے گا۔

اور میں نے اس کا حکم پہنچا دیا تا کہ اس کے رحم و کرم سے حصہ پاؤ گے اور اس کے بے بہا نعمتوں کے خزانے تم پر کھولے جائیں اور میں اپنی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب و لحاظ ہی ملحوظ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دیندار اور ایماندار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے لئے فخر سمجھتا ہوں۔ یہ نامہ پر جب چاہو تو محفوظ کر جاؤ اور اس کے علاوہ میری امداد کی ضرورت آپ کی ہے۔ عزیز محمد بیگ کے لئے پولیس میں بھرتی کرنے کی عہدہ دلانے کی خاص کوشش و سفارش کر رہی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جاوے اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی جو میرے عقیدت مندوں میں ہے۔ تقریباً کر دیا ہے اور اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہو۔ فقط (خاکسار غلام احمد عفی عنہ مکتوبات اقبال ج۲ مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء)

خط کا متن کسی تبصرے کا محتاج نہیں۔ اس کا آغاز ایک پیش گوئی سے ہوتا ہے۔ لیکن تحریر کنندہ کو یقین ہے کہ اس پیش گوئی کا حشر بھی دوسری پیش گوئیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ لہٰذا ترغیب و تحریص اور دھمکیوں کا نسخہ بھی ساتھ ہی آزمایا جا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک اور تحریر

ملاحظہ فرمائیں: ’’محمدی بیگم کا نکاح ایک طے شدہ امر ہے۔ مجھے اپنے رب کی قسم کہ یہ سچ ہے۔ وہ اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے۔ ہم خود اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ ہماری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔‘‘ (آسمانی فیصلہ ص ۴۰، خزائن ج ۴ ص ۳۵۰)

لیکن احمد بیگ تو نانا ہی کسی اور مٹی سے بنا تھا۔ اس پر تحریص و ترغیب کے حربے کامیاب ہوئے اور نہ دھمکیاں کارگر ہوئیں۔ اس نے مرزا قادیانی کی یاوہ گوئی کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ جب مرزا قادیانی نے دیکھا کہ اس کی کوششیں رائیگاں جارہی ہیں تو اس نے مرزا احمد بیگ کو راضی کرنے کے لئے کئی قسم کے دباؤ ڈالے۔ لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ بالآخر ہوس کے اس بندے کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ جب محمدی بیگم کی شادی کی رسم ہندوستانی فوج کے ایک سپاہی سلطان بیگ کے ساتھ ادا ہوگئی۔

مرزا قادیانی کے لئے یہ گھاؤ بہت گہرا تھا۔ وہ دل تھام کر رہ گیا۔ وہ اپنی محبوب سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ایک طرف تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور دوسری طرف اپنی ہیرا پھیری اور چالبازیوں کی ناکام پر جگ ہنسائی کا خوف۔ خفت مٹانے کے لئے ایک اور پیشین گوئی کر دی کہ محمدی بیگم تین سال کے عرصہ میں بیوہ ہونے پر اس کے نکاح میں آکر رہے گی۔

’’یہ درست ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے نہیں ہوسکا۔ لیکن یہ حکم الٰہی ہے اور پیش گوئی کے مطابق انجام کار وہ میری زوجیت میں آکر رہے گی۔‘‘

’’اور پھر خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے کہ وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ میں اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کی دلیل ٹھہراتا ہوں۔ میں نے یہ اس وقت تک نہیں کہا جب تک خدا تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر نہیں دی۔‘‘ (انجام آتھم ص ۲۲۳، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳)

مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے متعلق پہلی پیش گوئی ۱۸۸۸ء میں کی تھی۔ لیکن نہ تو محمدی بیگم کا شوہر سلطان بیگ تین سال کے عرصہ میں فوت ہوا اور نہ مرزا قادیانی کا خواب شرمندۂ تعبیر ہوا۔ البتہ ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی محمدی بیگم سے شادی کی حسرت دل میں لئے ہوئے اپنی روسیاہیوں کا حساب چکانے کے لئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔

مرزا قادیانی کو نبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ نبی کی پیش گوئیاں تو ہمیشہ واضح اور دوٹوک ہوتی ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کی ہر پیش گوئی مبہم اور ہیرا پھیری کا پہلو لئے ہوتی۔ چنانچہ اپنے حاشیہ برداروں کو بشارت سنادی کہ ۸۰ سال کی عمر پاؤں گا۔ شاید پانچ چھ سال کی بیشی ہو جائے۔ لیکن جناب کا انجام کیا ہوا۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو ہیضہ کا شدید حملہ ہوا۔ مرض جان لیوا تھا۔ کئی بار قے کرنے کے بعد چھبیس مئی ۱۹۰۸ء کو ۶۸، ۶۹ سال کی عمر میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ دار نبیوں پر افترام باندھنے والا، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا ناپاک وجود خالق حقیقی کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ملک عدم کو سدھارا۔

مرزا قادیانی کی کوئی ایک پیش گوئی بھی حقیقت کا رنگ اختیار نہ کر سکی۔ تقریباً ہر بار اسے رسوائی و ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ اس کی چالاکی و ہوشیاری ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ متوقع واقعہ سے متعلق مقام وقوع اور وقت کو نظر انداز کر دیتے۔ اپنے ڈھکوسلوں کو الہام کے دبیز پردوں میں لپیٹ کر پیش کرتے۔ تاکہ تحریر ابہام لئے، اور ہیرا پھیری کرنے میں سہولت رہے۔

مرزا قادیانی کی ناکام پیش گوئیاں، نفرت انگیز چالیں، پیچ در پیچ اور ہیرا پھیریاں یہ واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ نبوت سے متعلق اس کا دعویٰ محض کذب پر مبنی تھا۔ حرص و آز کے اس بندے نے یہ ڈھونگ حصول اقتدار کے لئے رچایا تھا۔ سیالکوٹ کی کچہری کا یہ محرر اپنے خاندان کو اس عروج پر لے جانا چاہتا تھا جہاں سے ان کے لئے کسی مملکت کا حکمران بننا آسان ہو جائے۔ انگریز کی یہ ذریت پاکستان میں آج بھی ان مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم عمل ہے اور مسلمانوں کی ملی غیرت کے لئے ایک چیلنج۔

مسلمانوں اور قادیانیوں کے عقائد میں بنیادی اختلافات

ماقبل دو ابواب میں ان حالات پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ جن کے تحت قادیانی تحریک نے جنم لیا۔ ناظرین کو ان ہتھکنڈوں اور حربوں سے بھی روشناس کیا جا چکا ہے۔ جو ملت اسلامیہ سے غداری کی اس تحریک کو فروغ دینے کے لئے استعمال کئے گئے۔ اب اس کے بعض اساسی اعتقادات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ تاکہ اسلام سے اس کے بنیادی اختلاف کی صحیح تصویر سامنے آسکے۔

اسلام اور قادیانیت کا پہلا بنیادی اختلاف

مسئلہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ اس کا ذکر تو پیچھے بحث میں بھی کیا جا چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا واضح کر دینا کافی ہے کہ قادیانیت کے پیرو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ﷺ کی ختم المرسلین پر ایمان نہیں رکھتے۔ مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں رسالت مآب حضرت محمد ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے رسالہ "شرائط بیعت" میں عقیدہ سے متعلق آرٹیکل کی پانچویں شق کی عبارت حسب ذیل تحریر کی ہوئی ہے۔

"نبوت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے اور کھلا رہے گا۔ خدا کی کوئی صفت بے کار نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ پہلے نیک بندوں سے بذریعہ وحی ہم کلام ہوتا تھا۔ وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔"

یہ امر کسی کے لئے تعجب انگیز نہیں ہونا چاہئے کہ قادیانیوں نے جب اپنے مذہبی پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کو مصلح سے مسیح اور مسیحا سے نبی کے درجہ تک ارتقا پذیر ہوتے دیکھا تو ان کے ذہن میں بھی اپنے روحانی پیشوا کے نقش قدم پر گامزن ہونے کی خواہش نے چٹکیاں لینی شروع کیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کے معلم ماسٹر یار محمد نے مرزا کے تمام الہامات کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں ایک اور قادیانی محمد نور دین بھی نبوت کا دعویدار بن کر اکھاڑے میں اتر آیا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔

"اے لوگو! میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آسمان کے نیچے اللہ کا دین میری تابع فرمانی ہے۔ میرا مان لینا اللہ کا دین ہے اور میرے خلاف اور رد کر لینا اللہ کے دین سے انحراف ہے۔"

دکن میں شورپور کے نواحی علاقے تیماپور کا مولوی عبداللہ جسے مرزا غلام احمد قادیانی کا مصاحب ہونے کا شرف حاصل تھا۔ کیوں پیچھے رہتا۔ فوراً مقابلے میں آیا اور اعلان کر دیا کہ:

"غلام احمد کی پیشگوئیوں کے مطابق میں نبی ہوں۔ میں خدا کا رسول ہوں۔ تم سب کو میری پیروی کرنی چاہئے۔ میں قادیان کا اصل خلیفہ ہوں۔"

"اللہ پاک نے پہلے ایک برگزیدہ غلام احمد کو مسیح احمد بنا کے بھیجا۔ پھر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر وہی بادشاہ زمین و آسمان نے اس عاجز کو چن لیا ہے کہ دوبارہ مسلمانوں سے غلام

احمد کی سچائی کو ظاہر کرے۔" (تفسیر آسمانی مئی التالی عبد مجید چوہدری)

عبداللہ اپنی نبوت کو مرزا قادیانی ہی کے روحانی فیض و برکات کا مرہون منت سمجھتا تھا۔ غلام محمد قادیانی کو بھی نبی بننے کی سوجھی تو خدا کی قسم کھا کر دعویٰ کر دیا کہ: "مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا تمام الہامات و مکاشفات میں تمام شاہانہ تصور اور اس کے متعلقہ کاروبار میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف میں ہی ان سب کا مصداق اور مدعی صادق ہوں۔"

(رسالہ تنویر ختم نبوت جناب شیخ غلام محمد بشیر المعبود ثانی فرزند ارجمند مسیح موعود)

عبداللطیف قادیانی اور چراغ دین قادیانی نے بھی نبوت کے ایسے ہی دعووں کا برملا اعلان کیا۔ ظاہر ہے اس قسم کے اعتقادات و دعاوی قرآنی تعلیمات و احادیث نبوی سے صریحاً متصادم ہیں۔ اسلام میں ایسے خرافات کو قرار انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اسلام اور قادیانیت میں دوسرا اختلاف

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یوم حشر سے قبل دنیا میں ان کے دوبارہ ورود سے متعلق ہے۔ امت اسلامیہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر انتقال نہیں فرمایا۔ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لئے گئے اور قیامت سے قبل ان کا دوبارہ زمین پر نزول ہوگا۔

اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کی موت سے بچ کر کشمیر چلے گئے اور بعد میں طبعی طور پر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ نیز قبل از قیامت جس مسیح صفت مہدی موعود کا انتظار ہے۔ وہ خود مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔

اسلام اور مرزائیت میں تیسرا اہم اختلاف

مسئلہ جہاد سے متعلق ہے۔ اس امر پر بھی بلا تخصیص اہل ایمان عالم متفق ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس مسئلہ پر امت اسلامیہ میں کبھی کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا۔

قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیات ۱۵۴، ۱۹۰ تا ۱۹۳، سورۃ آل عمران کی آیات ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۹، سورۃ النساء کی آیات ۷۱، ۷۴ تا ۷۵، ۸۴، ۹۵، سورۃ التوبہ کی آیات ۱۳، ۱۴، ۳۸ تا ۳۹، ۴۱، ۱۲۳، سورۃ الانفال کی آیات ۱۵، ۱۶، ۶۰، ۶۵، سورۃ محمد کی آیات ۴ تا ۷ اور سورۃ الحج کی آیات ۳۹، ۴۰، سورۃ الفرقان کی آیت ۵۲، سورۃ الصف کی آیات ۱۰ تا ۱۲ کے ذریعہ مسلمانوں کو فریضۂ جہاد کو بجا لانے کا حکم دیا گیا۔

لیکن دشمن اسلام مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کے اس واضح حکم کے خلاف فریضۂ جہاد بالسیف کو حرام قرار دینے کی ناپاک جسارت کی۔ لہٰذا منیر انکوائری رپورٹ میں مندرج ہے۔ "۱۹۰۰ء میں اس نے اپنے اس نظریہ کو پیش کیا کہ آئندہ کے لئے جہاد بالسیف منسوخ کیا جاتا ہے۔" (رپورٹ تحقیقاتی عدالت ص ۹)

فریضہ جہاد سے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کی وضاحت کے لئے اس کی اپنی تحریروں سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں: "لوگو! میں تمہارے لئے ایک حکم لایا ہوں کہ آئندہ سے جہاد بالسیف ممنوع ہے۔" (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱۵، خزائن ج ۱۷ ص ایضاً)

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے
دیں کے لئے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۶، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷)

"کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے۔ ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۵۷)

"اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵)

"میں نے زندگی کا بیشتر حصہ برطانوی حکومت کی اطاعت اور جہاد کی مخالفت کرنے میں گذارا اور میں نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ مسلمان دل سے حکومت کے وفادار ہوگئے۔"

دراصل بعض دنیوی مصلحتوں کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک اور احادیث نبوی کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہوئے فریضہ جہاد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ خدشہ تھا کہ باحمیت اور غیرت مند اسلامیان ہند کہیں اس کے آقاؤں سے ٹکرا نہ جائیں۔ لہٰذا حکومت کی خوشنودی اور اپنے دنیوی مفاد کے پیش نظر اس نے دین فروشی اور اسلام سے غداری کرنے میں

کوئی قباحت محسوس نہ کی۔ جہاد کی مخالفت میں اس کاذب نبی کی ایک گہری چال تھی۔ ایک بھیانک سازش جس کے دور رس نتائج کی زد میں ملت مسلمہ کی سیاسی زندگی بلکہ خود اسلام تھا۔ اس سازش کا تفصیلی جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔

زیر نظر کتاب کے باب اول میں واضح کیا جا چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ اس وقت رچایا جب اسلامی دنیا یورپی استعمار کے جور و ستم کا شکار ہو چکی تھی۔ عیسائیت کا پرستار یورپ کو ایک تھپڑ کھا کر دوسرا تھپڑ کھانے کے لئے رخسار پیش کرنے پر ایمان رکھتا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے ظلم و استبداد کی چکی میں پیس رہا تھا۔ اقتدار کے نشہ میں مست استعماری قوتیں بالعموم یہ حقیقت فراموش کر دیتی ہیں کہ ظلم و تشدد اور مکر و فریب سے حاصل کی ہوئی طاقت جسموں پر تو حکمرانی کر سکتی ہے۔ لیکن ضمیر کے چراغوں کو گل کرنا ان کی استطاعت سے کہیں بعید ہوتا ہے۔ غیرت و حمیت کی چنگاریاں سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں سلگتی رہتی ہیں۔ جو کسی وقت بھی شعلہ بن کر ظالم حکمرانوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی انگریز اپنی عیاریوں اور مکاریوں کے باعث تاجدار ہند تو بن بیٹھے تھے۔ لیکن جیسا کہ ظالم و غاصب حکمرانوں کا وجود زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جاتا۔ لوگوں نے غیر ملکی تسلط کے اس جوئے کو اتار پھینکنے کی تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ غلامی کی زنجیریں کاٹ پھینکنے کی تحریکوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا وقت کی اہم ضرورت اتحاد و تنظیم تھی۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کی سرزمین پر پہلی جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس میں اسلامیان ہند نے نہایت اہم کردار ادا کیا اور وہ کیوں نہ کرتے وہ اس خطۂ ارض کی آبرو کے امین تھے۔ یہاں قدم قدم پر ان کے آباؤ اجداد کی عظمت و شوکت کے نقوش کندہ تھے۔ بلکہ ہند کی عظمت تو ان ہی کی کاوشوں کی مرہون منت تھی۔ یہاں کے چپے چپے کو انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ وہ اس صنم پرست دھرتی پر توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس کے شہروں اور دیہاتوں کو مسجدوں سے رونق بخشی تھی اور اب انہی مسجدوں کے بلند و بالا میناروں سے درس جہاد دے رہے تھے۔ انہوں نے اس صدائے حق پر لبیک کہا اور شوق شہادت میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بے خطر کود پڑے۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق

غدار ملت مرزا غلام احمد قادیانی کے غدار باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے اس کٹھن وقت میں بھی آزادی کے پروانوں کا ساتھ نہ دیا۔ ساتھ دیا تو کس کا دیا؟ ظلم و تشدد کا۔ جور و استبداد کا، باطل

وفاسد قوتوں کا، بیرونی حکمرانوں کا، ایک طرف سکھوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تحریک آزادی کو جو مہلک نقصان پہنچانے کی سعی کی اور دوسری طرف آزادی کے جیالے سپاہیوں کو تہ تیغ کرنے میں اپنے بیرونی آقاؤں کا دست و بازو بن گیا۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

برطانوی دسترخوان کے زلہ خوار مرزا غلام احمد قادیانی نے ان غدارانہ مساعی کو فخریہ بیان کیا ہے: "میرے والد غلام مرتضیٰ دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے۔ سرکار انگریزی کے ایسے خیر خواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس جنگجو بہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدد دی تھی۔"

{تحفہ قیصریہ ص ۱۸، ۹ خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۰، ۲۷۱}

مرزا قادیانی کے باپ نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ سکھوں کے عہد میں مجاہد آزادی، اسلام کے بطل عظیم سید اسماعیل شہید کی مخالفت کرتے ہوئے فرعونی قوتوں کا ساتھ دیا۔

برطانوی حکمران افغانستان کے خلاف صف آرا ہوئے تو مسلمانوں نے علم جہاد بلند کرنے کی نیت سے اپنی پراگندہ و منتشر قوتوں کو متحد کرنے اور اپنے وسائل کو یکجا کرنے کی مساعی کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ مختلف جھڑپوں اور تصادمات کے دوران بالآخر مغربی طاقتوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ان کے مختصر دستوں کو جس جذبے نے یکجا کیا ہے۔ وہ شوق شہادت ہے۔ فریضۂ جہاد ہی نے ان کے قلب و نظر کو جلا بخشی ہے اور وہ سر بکف تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دشمنوں کے خلاف یک جان محاذ آرا ہو جاتے ہیں۔ برطانویوں نے برصغیر کے علاوہ ترکی میں بھی اپنی مذموم سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ روس، ترکی پر قبضہ جمانے کے لئے دانت تیز کر رہا تھا۔ ترکی نے محض آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے طویل جدوجہد کی۔ بالآخر جب روسی یلغار کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تو بامر مجبوری غاصبوں کی پیش کردہ صلح کی شرائط کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران میں انگریزوں کے استعماری عزائم بھی کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے ترکی کی بے بسی سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے عیارانہ حربوں اور خفیہ ہتھکنڈوں کے ذریعہ قبرص کے علاقہ پر مکمل قبضہ جما لیا۔

۱۸۸۱ء میں برطانوی فوجوں نے اپنی مکارانہ چالوں سے مصریوں کو مغلوب کر لیا۔ سوڈان میں مسلمانوں نے شدید مزاحمت کر کے انگریزوں کے دانت کھٹے کئے۔ لیکن بالآخر

سامراجی فوجوں کی وحشیانہ جارحیت ہی کامیاب رہی۔ برطانوی یلغار نے عدن اور بحرین کو بھی نگلنے سے نہ چھٹنے دیا اور اسے بھی ہڑپ کر کے ہی دم لیا۔

بظاہر اسلام دشمن طاقتوں نے اپنی حریف ملت اسلامیہ کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ لیکن وہ خائف بھی تھیں کہ یہ زخم خوردہ شیر کسی وقت بھی کچھار سے باہر نکل سکتا ہے۔ غیرت و حمیت کی دبی ہوئی چنگاری کسی لمحہ بھی شعلہ بن کر ان کی اخلاقی اقدار سے عاری شجاعت و دلیری کے ایوانوں کو راکھ بنا سکتی ہے اور ان کے کبر و نخوت کے محلات کو ملیامیٹ کر سکتی ہے۔ استعماری قوتیں اس امر سے باخبر تھیں کہ جذبہ جہاد سے سرشار مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے مفتوحہ علاقے کسی وقت بھی ان کے اقتدار کا قبرستان بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کے پیش نظر اگر کوئی نصب العین تھا تو وہ مسلمانوں میں جہاد کی روح کو کچلنا تھا۔ یہودی پہلے ہی اس جذبے کو پامال کرنے کے لئے ادھار کھائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں کو اس حکم خداوندی سے برگشتہ کرنے کے لئے دھڑا دھڑ لٹریچر شائع کر رہے تھے۔ انگریزوں نے ان کی خوب پیٹھ ٹھونکی۔ ان کے معاندانہ خیالات کی تشہیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن اپنی تمام تر مساعی کے باوجود دشمنان اسلام مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کی روشن شمع گل نہ کر سکے۔ بالآخر وہ اسی نتیجہ پر پہنچے کہ اس مہم کو سر کرنے کے لئے مسلمانوں کے ہاں کسی غدار کو آمادہ کیا جائے۔ کسی ضمیر فروش کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کی پیٹھ ٹھونکی جائے۔ اس کی سرپرستی کی جائے اور اسے اپنا آلۂ کار بنایا جائے۔ ان کی نگاہیں تو پہلے ہی قادیان کے اس خود ساختہ نبی پر لگی ہوئی تھیں۔ ان کی نظر میں بھی وہ شخص تھا جو ان کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مدد معاون ثابت ہو سکتا تھا اور ان کا دست و بازو بن کر جہاد بالسیف کو حرام قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد میں دراڑ ڈال سکتا تھا۔ ہِز ایکسیلنسی لارڈ ریڈنگ کی خدمت میں قادیانی ایڈریس ان تلخ حقائق پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ متعلقہ اقتباس پیش خدمت ہے: "جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو تمام اسلامی دنیا جذبہ جہاد سے سرشار تھی۔ اس کی حالت پٹرول کے پیپوں کی مانند تھی۔ جو بھڑکنے کے لئے کسی شعلے کا منتظر ہو۔ لیکن بانی تحریک نے جہاد کے غیر اسلامی اور خلاف امن تصور کی مخالفت میں پورے زور و شور سے تحریک چلائی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بمشکل چند سال ہی گزرے تھے کہ ارکان حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جس فرقہ کی تشکیل کو وہ امن کے لئے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ ان کے لئے غیر معمولی طور پر باعث اعانت و تقویت ثابت ہوئی ہے۔"

(الفضل قادیان ج ۹ نمبر ۴ ص ۴ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۲۲ء)

مرزا غلام احمد قادیانی نے فریضہ جہاد کے خلاف بہت کچھ لکھا اور اسلام کے اس واضح حکم کی شدید مخالفت کی۔ اس نے اپنے زہر آلود خیالات کی تشہیر کے لئے مختلف زبانوں میں کتابیں لکھ کر اسلامی ممالک میں بھجوائیں۔ اس سلسلے میں اس کا اپنا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

"میری کتابوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی ہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصر اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلیظ خیالات چھوڑ دیئے جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہیں سکتا۔" (ستارہ قیصریہ ص ۳، ۴ خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۴)

سامراجیوں کا پٹھو اور انگریزوں کا پروردہ ہونے کی حیثیت سے مرزا قادیانی نے گلستان اسلام کو جو نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں میں عالمگیر رشتہ اخوت کے انقطاع کی جو سعی کی، ملت اسلامیہ میں افتراق و شقاق کا جو باب کھولا، وہ اگرچہ اب ڈھکا چھپا نہیں رہا، تاہم اسے سطح قرطاس پر لاتے ہوئے قلم بھی ندامت سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔

قادیانی مذہب کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کی یاوہ گوئی الہام والقاء کی اس پر تضاد ہذیانی کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت قرآن حکیم کے متوازی لا کھڑا کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن حکیم کو وحی کی معراج اور آخری آسمانی کتاب نہیں کہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن قادیان کے کاذب کا دعویٰ تھا کہ اس پر وحی الٰہی نازل ہوتی تھی اور یوں اس نے اپنے اوہام اور فریب خیالی کو کلام اللہ کا نام دے رکھا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کتاب (حقیقت الوحی کے ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) میں گل افشانی کی ہے۔

"میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں۔

جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔"

مرزا قادیانی کی ایک اور تحریر ملاحظہ فرمائیں: "مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت وانجیل اور قرآن پر۔" (نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

مرزا قادیانی کے کذب وافتراء پر مشتمل اپنی کتاب ہے۔ جسے وہ تذکرہ کا نام دیتا ہے۔ اس کے بیس اجزاء ہیں۔ ہر جز متعدد آیات (نام نہاد الہامات) پر مشتمل ہے۔

علاوہ ازیں یہ جھوٹا مدعی نبوت اپنے آپ کو رحمۃ للعالمین محمد مصطفی ﷺ فداہ ابی وامی کا ہم پلہ بتاتا ہے۔ قارئین کرام اس کی ہرزہ سرائی ملاحظہ فرمائیں: "جو شخص مجھ میں اور نبی مصطفی ﷺ میں فرق کرتا ہے۔ اس نے مجھے نہیں جانا اور نہیں پہچانا۔"

(خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۵۹)

حد تو یہ ہے کہ یہ کاذب تو ذات خداوندی پر بھی کذب وافتراء باندھنے سے گریز نہیں کرتا۔ "خدا نے مجھ سے کہا تو مجھ سے ظاہر ہوا میں تجھ سے۔"

"تو مجھ سے ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا۔ یعنی تیرا ظہور بعینہ میرا ظہور ہو گیا۔" (تذکرہ ص ۷۰۳)

انگریزوں کے اس آلہ کار حبشی نے اپنی علیحدہ شریعت پیش کرنے کی بھی شرانگیز کوشش کی۔ "میں صاحب شریعت ہوں۔ میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔"

(اربعین حصہ چہارم ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵)

چودھویں صدی کا یہ دجال جس کا قلب وذہن ختم المرسلین فخر انبیاء حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت تمام پیغمبروں کے احترام سے بیگانہ تھا۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کوئی شرم وحیا محسوس نہ کرتا تھا۔ جو کلام اللہ پر قطعاً ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ماننے والوں سے کسی صحیح عقیدے کی توقع رکھنا محض عبث ہے۔ وہ تو اس سے بھی بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ ایک کاذب نبی کے پیرو جو ٹھہرے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جنم بھومی قادیان کی پرستش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس ملعون مقام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل

علیہ السلام کے آباد کردہ مقدس شہر، خاتم الانبیاء سرور کائنات حضور محمد ﷺ کی جائے ولادت، مرجع خلائق، ام القریٰ مکہ مکرمہ کے برابر مقام دیتے ہیں۔ اس کاذب نبی کے جانشین مرزا محمود احمد کی دریدہ دہنی ملاحظہ فرمائیں۔

"میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔"

(الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۲۰ ص ۱ مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۲ء)

(گویا اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کے سارے خاندان ہی سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے)

ایک جمعہ کا خطبہ بھی سن لیجئے: "قادیان کو دنیا میں ناف کے طور پر بنایا ہے اور اس کو تمام جہان کے لئے ام قرار دیا ہے اور اس مقدس مقام کے بغیر دنیا کو کوئی فیض حاصل کرنا ناممکن ہے۔" (الفضل قادیان ج ۱۲ نمبر ۷۱ ص ۱۰ مورخہ ۳ جنوری ۱۹۲۵ء)

اور یہ دشمن دین کس کس انداز سے شعائر اسلام کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ قادیان کی مسجد ضرار کو مسجد اقصیٰ سے، امام الانبیاء، خاتم النبیین ﷺ جہاں معراج کی رات تشریف لے گئے۔ افضل بتاتا ہے۔

حالانکہ قرآن حکیم کا فرمان مسجد اقصیٰ سے متعلق واضح ہے: "سبحن الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی برکنا حوله لنریه من ایٰتنا (بنی اسرائیل:)" (وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا۔ تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔)

قرآن پاک کی آیت کریمہ کے برعکس مرزا قادیان کی ہذیان گوئی ملاحظہ فرمائیں:

"اس معراج میں آنحضرت ﷺ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے تھے اور وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔" (خطبہ الہامیہ ص ۲۵ حاشیہ خزائن ج ۱۶ ص ۲۵)

اور پھر گستاخی کی انتہا دیکھئے کہ قادیان کو بیت اللہ شریف کا قائم مقام بتایا جاتا ہے۔

"ہمارا سالانہ جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ خداوند کریم نے قادیان کو اس کام کے لئے پسند کیا ہے

اور جیسا حج میں ☒ فسوق اور جدال منع ہے۔ ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔"

(برکات خلافت ص ۵)

یہ امر قابل غور ہے کہ مرزا محمود اور اس کے باپ کے پیروکار ایک نام نہاد اقصیٰ تو بھارت میں چھوڑ آئے تھے اور اب دوسری اقصیٰ ربوہ میں تعمیر کر چکے ہیں۔ اس نئی اقصیٰ کی حیثیت کے متعلق قادیانی حضرات یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔

مندرجہ بالا تمام اقتباسات اس تصریح کے لئے کافی ہیں کہ قادیانیوں کے اپنے مخصوص نظریات اور جداگانہ معتقدات ہیں۔ جن کا مسلمانوں کے عقائد سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا اپنا نام نہاد نبی مرزا غلام احمد ہے۔ اپنی کتاب تذکرہ اور اپنی شریعت ہے۔ وہ مکہ کی بجائے ایک علیحدہ مرکز قادیان کے تابع ہیں۔ یاد رہے کہ اب قادیان کی جگہ ربوہ (چناب نگر) نے لے لی ہے۔ جہاں وہ سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور اپنی ان سالانہ مذموم کارروائیوں اور منصوبوں کو حج کے برابر گردانتے ہیں۔ امت محمدیہ کے ساتھ ان کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ انہوں نے سادہ لوح مسلمانوں کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لئے اسلام کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے سامراجی محسنوں سے خفیہ تعلقات کی پردہ پوشی کے لئے یہ سب پاپڑ بیل رہے ہیں۔ ورنہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ان کے کاذب نبی کا۔

مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کے باطل دعویٰ کا اعلان کیا۔ علماء کرام نے اسی وقت اس کے خلاف کفر کے فتوے صادر فرما دیئے تھے۔ لیکن بعض مکار و عیار قادیانیوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک عیارانہ طریق کار اختیار کرنے کی سوچی۔ انہیں یہ موقع جلد ہی ہاتھ آ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جانشینی (قادیانیوں کے مطابق خلافت) کے سوال پر جب یہ گمراہ طبقہ متفق نہ ہو سکا تو محمد علی جو پہلے ہی اپنے کاذب نبی پر بعض معاملات میں انگشت نمائی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ نے قادیانیت کے لاہوری گروہ کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۱۳ء میں اس نے انجمن اشاعت اسلام کا آغاز کیا۔ اس نئے گروہ نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا تصادم کی بجائے انتہائی عیارانہ اور پرفریب انداز اختیار کیا۔ وہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی ﷺ کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو نبی کا درجہ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اسے مجدد اعظم اور مہدی موعود قرار دیا۔ ان کا مقصد ان کو گمراہ کرنا تھا۔ جو اب تک گمراہ نہ ہو سکے تھے۔ ان کو دام فریب میں مبتلا کرنا تھا۔ جو اب تک دھوکا نہ کھائے تھے۔ بظاہر وہ قادیانیوں سے اپنے اختلافات کی

بہت تشہیر کرتے تھے۔ لیکن درحقیقت وہ قادیانی تحریک ہی کا ایک حصہ ہیں اور انہیں کے خیالات کو صاد کرتے ہیں۔ وہ اسلام دشمنی میں کسی طرح بھی قادیانی گروہ سے کم نہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی زندگی اور اسلام کے لئے ان کے عزائم اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے گروہ کے۔ ملت اسلامیہ کے خلاف اس گروہ کی کارروائیاں اور منصوبے ویسے ہی مذموم ہیں۔ جیسے قادیانی فرقے کے۔ کیا یہ عقل کا اندھا فرقہ ضالہ اتنا بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو کذاب نبوت کا جھوٹا دعویدار رہا ہے۔ جلیل القدر پیغمبروں پر افتراء و بہتان باندھے۔ ختم المرسلین ﷺ کے ناموس پر ڈاکہ ڈالے۔ صحابہ کرامؓ اور خاتون جنت فاطمۃ الزہراؓ کی توہین کا مرتکب ہوا۔ ائمہ دین کو گالیوں سے نوازے۔ وہ مجدد کہلانے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے۔

دراصل یہ دونوں ہی گروہ اس خود ساختہ مذہب کے دست و بازو ہیں اور قادیانی گروہ سے لاہوری گروہ کے فروعی اختلافات کے باعث انہیں مسلمان نہیں گردانا جا سکتا۔

تحریف قرآن حکیم

مرزا غلام احمد قادیانی نہ صرف لاتعداد کافرانہ و ملحدانہ خیالات کے حامل تھے۔ بلکہ قرآنی آیات میں تحریف و تصرف کے بھی مرتکب تھے۔ لغات فیروزی کے مطابق تحریف کے معانی متن کے اصل الفاظ کو بدل کر کچھ اور لکھ دینے کے ہیں۔ لہٰذا قرآن حکیم کی آیات میں دانستہ طور پر الفاظ کی دستی تحریف لفظی کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں ارادۃً اصل معانی کو نظر انداز کر کے کوئی دوسرا مفہوم اختیار کرنا تحریف معنوی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں رسول عربی ﷺ، صحابہ کرامؓ یا مقدس مقامات کی شان میں نازل شدہ آیات کو کسی اور شخص یا مقام پر چسپاں کرنا تحریف معنی کہلاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن حکیم میں نہ صرف تحریف لفظی و معنوی کا ارتکاب کیا۔ بلکہ حضور ﷺ اور مکہ مکرمہ کی شان و عظمت میں نازل شدہ آیات کو اپنی ذات اور قادیان کی سرزمین پر منطبق کرنے کی جسارت بھی کی۔

ملت اسلامیہ اس امر پر بالاجماع متفق ہے کہ ہر وہ شخص جو مقدس اور ناقابل منسوخ کلام الٰہی میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے اس کے تقدس کو مجروح کرے وہ کافر ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب ماننے والا کوئی بھی مسلمان ایسی جسارت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تحریف قرآنی کی چند مثالوں کا جائزہ لینے سے پیشتر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ مرزا قادیانی کی

نظر میں قرآن حکیم کی کیا وقعت تھی؟ اس کا دعویٰ ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ قرآن مجید پر بطور آخری وحی ایمان لانے کے لئے تیار نہ تھا۔ بلکہ اس متبرک و مقدس کتاب سے بظاہر اس کی شیفتگی محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تھی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے دعاوی میں اس انداز سے مبہم قسم کے اشارے کر جاتا۔ جس سے لوگ مغالطہ میں مبتلا ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ مثلاً: ”قرآن دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ میں اسے آسمانوں سے دوبارہ لے کر آیا ہوں۔“ (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۷۲۷، خزائن ج ۳ ص ۳۵)

”میں قرآن کی مانند ہوں اور یہ مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔“ (البشریٰ ج ۲ ص ۱۱۹)

مرزا قادیانی کی درج ذیل عبارت ہر ذی شعور کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ”میں قرآن کی غلطیاں دور کرنے کے لئے آیا ہوں۔ جو تفاسیر کی کثرت کے باعث پیدا ہو گئی تھیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۷۰۵، خزائن ج ۳ ص ۴۸۴)

گویا مرزا قادیانی کے ذہن نے اپنے خیال کے مطابق قرآنی آیات میں تصحیح کا پروگرام بنایا تھا۔ اگر وہ قرآن حکیم پر بطور آخری آسمانی کتاب ایمان لایا ہوتا تو درج ذیل قرآنی آیت کا مطلب اسے ذہن نشین کرنے میں دقت پیش نہ آتی۔ ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون (الحجر: ۹)“ (بے شک یہ کتاب ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔)

قرآن حکیم میں نام نہاد تصحیح کی یہ کوشش صریحاً ایک قبیح جرم ہے۔ یہ ایک ایسا مذموم گناہ ہے جو اکیلا ہی مرزا قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس کی اپنی تصنیف سے تحریف کی چند مثالیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔ مزید سہولت کے لئے اصل آیات بھی درج کی جاتی ہیں۔

اصل آیات قرآنی   محرف آیات

"وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شھداء کم من دون اللہ ان کنتم صدقین ۰ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا (البقرہ: ۲۳) "{اور اگر تم کچھ شک میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے (محمد عربی) پر تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں۔ ان کو بھی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔}	"وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوہ بسورۃ من مثلہ وان لم تفعلوا ولن تفعلوا" (سرمہ چشم آریہ حاشیہ ص ۱۲، خزائن ج ۲ ص ۶۲، براہین احمدیہ ص ۵۳۶، خزائن ج ۱ ص ۶۵۲)

تحریف شدہ متن میں مرزا قادیانی نے "وادعوا شھداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین" کے الفاظ حذف کر دیئے ہیں اور "فان" کو "وان" میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس غلطی کو سہو کتابت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی چار مختلف کتب میں آیت اسی انداز سے تحریر کی گئی ہے۔

"قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا" (الاسراء:) "{فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع ہو جاویں کہ بنا لاویں۔}	"قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا" (سرمہ چشم آریہ ص ۳۸، خزائن ج ۲ ص ۹۰، نور الحق ج ۱ ص ۱۰۹، خزائن ج ۸ ص ۱۳۶)

مرزا قادیانی نے "الجن" کے لفظ کو "الانس" سے پہلے لا کر کلام اللہ کی ترتیب ہی کو تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔

۲۰۰

"وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطن فی امنیته (الحج:۵۲)" {اے محمد ﷺ! ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا۔ جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے خدا تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار) کے قلوب میں شبہ ڈالا۔}

"وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته" ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے۔ یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ (دافع الوساوس ص، خزائن ج۵ ص ۳۵۲)

مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت میں سے "قبلک" کا لفظ خارج کر دیا ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں نبوت کا حوالہ آپ سے پہلے دیا گیا ہے نہ کہ آپ کے بعد۔ لہٰذا اس لفظ کی موجودگی میں وہ اپنا قصر نبوت تعمیر کرنے سے تو قاصر تھے۔ مندرجہ بالا حوالہ جات جو مرزا قادیانی کی تصنیف آئینہ کمالات سے نقل کئے گئے ہیں۔ بھی تحریف سے خالی نہیں۔

"یایها الذین امنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقاناً ویکفر عنکم سیاتکم ویغفر لکم واللہ ذوالفضل العظیم (الانفال:۲۹)" {اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کرے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔}

"یا ایها الذین امنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقاناً ویکفر عنکم سیاتکم ویجعل لکم نوراً تمشون به" اے ایمان والو! اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا۔ جس نور کے ساتھ تم اپنی راہوں میں چلو گے۔

(دافع الوساوس ص، خزائن ج۵ ص ۱۹۶)

مرزا قادیانی نے "ویجعل لکم نوراً تمشون به" کا اضافہ کر کے "یغفر لکم" کو غائب کر دیا ہے۔ محرف آیات کا ترجمہ بھی مرزا قادیانی کی ذہنی کی پیداوار ہے۔

"وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ (توبہ: ۴۱)" {اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔}	"ان یجاهد فی سبیل اللہ باموالکم و نفسکم" اگر وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں۔ (جنگ مقدس ص ۶۴ خزائن ج ۶ ص ۲۴۶)

اس آیت میں واضح حکم ہے اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ انگریزوں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے فریضہ جہاد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس آیت سے مخاطب کا صیغہ اڑا کر فریضہ جہاد کے حکم کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ نیز "ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم" کا اپنی طرف سے اضافہ کرنے کے علاوہ "فی سبیل اللہ" کو آخری سے ہٹا کر درمیان میں رکھ دیا۔

"یوم تبدل الارض غیر الارض (ابراهیم: ۴۸)" {جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔}	"بدلت الارض غیر الارض" زمین کے بدلے دوسری زمین بدل دی گئی۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۱۸۵)

مرزا قادیانی نے قرآنی لفظ یوم تبدل کو بدلت میں تبدیل کر کے آیت کے معانی ہی بدل ڈالے۔

"وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون (الانبیاء: ۲۵)" {اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔}	"وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیة فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیا" (ازالہ اوہام ص ۳۲۲ خزائن ج ۳ ص ۳۲۱)

مندرجہ بالا آیت کریمہ اور اس کی تحریف قارئین پر منکشف اور واضح ہو چکا ہو گا کہ مرزا قادیانی نے "من رسول" تک قرآن عظیم کی آیت کا اصل متن تحریر کرنے کے بعد باقی حصے میں تبدیلی کرتے ہوئے نہایت ہوشیاری سے لفظ محدث کا اضافہ کر دیا ہے۔ جو سارے

قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پیشتر چونکہ وہ اپنے آپ کو محدث یعنی وہ شخص جس کے کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہوں۔ ”وعلم من اللہ“ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے اسے یہ چال چلنا پڑی۔

”ادع الیٰ سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالتی ھی احسن (النحل:۱۲۵)“ {(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔}	”وقال جادلہم (ای جادل النصاریٰ) بالحکمة والموعظة“ اس نے یہ تو کہا کہ عیسائیوں سے حکمت اور نیک نصیحت کے طور پر بحث کرو۔ {نورالحق ص ۳، خزائن ج ۸ ص ۳}

اس ساری آیت ہی کو مرزا قادیانی نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ تبدیلی کسی ایک تصنیف میں نہیں بلکہ دو مختلف تصانیف میں موجود ہیں اور دونوں جگہ تحریف کی گئی ہے۔

”الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم (توبہ:۶۳)“ {کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور رسول سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس کے لئے جہنم کی آگ (تیار) ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔}	”الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم“ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک بڑی رسوائی ہے۔ {حقیقت الوحی ص ۱۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳}

مرزا قادیانی نے قطع بیخ اپنی طرف سے اضافہ کر کے ”فان لہ“ اور ”جہنم“ کو خارج کر دیا۔

"وجعل منهم القردة والخنازير" (المائدہ:۶۰) "{اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سور بنا دیا۔}	"وجعلنا منهم القردة والخنازير" اور ہم نے ان میں سے بندر اور سور بنا دیئے۔
	(ازالہ اوہام ج ا ص ۳۰۴)

مرزا قادیانی نے لفظ "جعل" کو "جعلنا" میں تبدیل کر کے لکھ دیا۔

"كل من عليها فان ۰ ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام" (الرحمٰن:۲۷،۲۶) "{جو (مخلوق) زمین پر ہے، سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات (بابرکات) جو صاحب جلال وعظمت ہے باقی رہے گی۔}	"كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام" ہر چیز فانی ہے۔
	(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۱۳۲)

مرزا قادیانی نے سورۂ رحمٰن کی ان دو آیات کو ایک آیت ظاہر کیا ہے۔ نیز "من علیہا" کو حذف کر کے "شیء" کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔

"انا انزلناه في ليلة القدر" (القدر:۱) "{ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا۔}	"انا انزلناه قريباً من القاديان" ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ (براہین احمدیہ ص ۳۳)

قادیان مرزا کا مولد ومسکن تھا۔ اس مقام کا تقدس جتانے کی خاطر اسے قرآن حکیم میں لفظ قادیان کے اضافے کی ضرورت پیش آئی۔

قارئین کرام! یہ ہے وہ لفظی تحریف جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے پیش نظر مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے قرآن کے متن میں تصحیح کے نام پر عمل میں لانے کی کوشش کی۔ لیکن تحریف کی یہ صرف چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ جیسا کہ پہلے بھی تحریر کیا جا چکا ہے کہ لفظی تحریف کے علاوہ وہ معنوی اور متنی تحریف کی جسارت کا بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے متعلقہ آیات کے سارے سیاق وسباق کو تبدیل کر کے

رکھ دی ہے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی نے قرآن حکیم کی مشہور و معروف آیت: "یسین ۔ والقرآن الحکیم ۔ انک لمن المرسلین" میں سے صرف "والقرآن الحکیم" کے الفاظ کو حذف کر دیا۔ بلکہ اس آیت کو اپنے مطلب کے مطابق نئے معنی پہناتے ہوئے اصرار کیا کہ اس آیت میں جس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ رسول عربی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود ہے۔ اس طرح وہ الفاظ کو حذف کرنے اور آیت کو اپنے پر منطبق کرنے کے دوہرے گناہ کے مرتکب ہوئے۔

قرآنی آیت: "وما ارسلنک الا رحمۃ للعلمین" میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو رحمۃ للعالمین کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔ لیکن اس کذاب کا کذب ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے اس آیت کا اطلاق بھی اپنے اوپر کر لیا۔ (حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۵)

قرآن حکیم کی سورۃ الصف آیت: ۸ "ومبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد" میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پیش گوئی امام الانبیاء ختم المرسلین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کا اسم مبارک احمد بھی ہے، سے متعلق بیان فرمائی گئی ہے۔ اس نے اس قرآنی آیت کو بھی اپنے اوپر چسپاں کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ یہ آیت رسول عرب وعجم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں نہیں بلکہ احمد کے لئے نازل ہوئی ہے اور احمد سے مراد اس نے اپنا وجود لیا ہے۔ حالانکہ اس کا نام غلام احمد تھا اور ہر ذی عقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک پیش گوئی جو احمد سے منسوب ہو۔ غلام احمد یعنی احمد کے غلام پر کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے؟

سورۃ الفتح کی آخری آیت میں پیغمبر اسلام کا اسم مبارک محمد مذکور ہے اور یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ آیت سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کی شان مبارک میں نازل ہوئی تھی۔ آپ کے معتقدین میں سے کوئی شخص بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ حضور ﷺ کو ان کے بلند مرتبے سے محروم کر کے خود اس پر قابض ہو جائے۔ لیکن قادیانی صاحب جن کا مقصد ہی محمد ﷺ کے مذہب پر کاری ضرب لگانا تھا۔ اس آیت کا اطلاق بھی اپنے اوپر کرتے ہوئے یہ اصرار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اسے مطلع کیا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے الفاظ سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔

غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے سورۃ فاتحہ کی آخری آیت: "غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" کا ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: "جن پر نہ تو بعد میں تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ بعد میں گمراہ ہو گئے ہیں۔"

حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے: "نہ (دکھا) رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔"

ان حقائق کے باوجود اگر کوئی قادیانی مصر ہے کہ مرزا قادیانی قرآنی متن میں تحریف کا مرتکب نہیں ہوئے تو پھر یا تو وہ جہالت و بے خبری کا شکار ہے یا جان بوجھ کر اس مسلک کے بانی کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حالانکہ تنہا یہی ایک جرم انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لئے کافی تھا۔

یہ کرتوت تو قادیانیت کے بانی کے تھے۔ لیکن ان کے گمراہ پیروکار تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی پہلی شرط کلمہ توحید ہی کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کلمہ میں محمد کے لفظ کو احمد میں تبدیل کر دیا ہے۔

نائیجیریا کی قادیانی عبادت گاہ کی پیشانی پر یہ کلمہ جلی حروف میں تحریر کیا گیا ہے اور محمد رسول اللہ کے الفاظ کی بجائے احمد رسول اللہ کے الفاظ درج کئے گئے ہیں۔ نیز ربوہ سے مطبوعہ کتاب "AFRICA SPEAKS" میں اس عبادت گاہ کی تصویر شامل ہے اور تحریف شدہ کلمہ عبادت گاہ کی پیشانی پر نمایاں ہے۔

اس باب کو ختم کرنے سے پیشتر یہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ مرزا قادیانی اپنی زندگی کے اولین دور میں اپنی بعض تحریروں میں قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف کے مرتکب شخص کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے رہے تھے۔ لہذا ان کی ایک تصنیف ازالہ اوہام سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔

"قرآن حکیم آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کی آیات و احکامات میں کسی شوشے یا نقطے کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ قرآنی احکامات کی تبدیلی منسوخی کے سلسلہ میں اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی وحی یا الہام کے نزول کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ اسے ممکن سمجھنے والا شخص میرے خیال میں مرتد، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔" (ازالہ اوہام ص ۱۳۷، ۱۳۸، خزائن ج ۳ ص ۱۷۰)

بہرحال قرآن حکیم میں تحریف کی مندرجہ بالا چند مثالوں کے مطالعہ سے جو غیر ارادی طور پر نہیں بلکہ قصداً اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناپاک اور مذموم ارادوں کی تکمیل کے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔

قارئین! اب اس امر پر متفق ہو چکے ہوں گے کہ مرزا قادیانی اپنے ہی فتویٰ کے مطابق دائرہ اسلام سے اخراج کے مستحق تھے۔ کسی شوشے یا نقطے کو تبدیل کرنے اور اپنی جگہ سے ہٹانے کی بات تو چھوڑیئے۔ مرزا قادیانی تو قرآنی آیات میں فاش لفظی و معنوی در معنی تحریف کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ روشن و واضح حقائق بیان کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق فیصلہ ناظرین کرام کی صائب رائے پر چھوڑا جاتا ہے۔

قادیانی ایک علیحدہ امت

یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امر سے اچھی طرح باخبر ہونے کے باوجود کہ رسول عربی حضور محمد ﷺ کے بعد نبوت کا ہر دعوے دار باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر ڈالا۔ اپنی زندگی کے علمی و مذہبی دور کی ابتدائی تحریروں میں وہ رسالت مآب ﷺ کو پرزور الفاظ میں آخری نبی ہی قرار دیتا رہا۔ لیکن نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے دین اسلام جس کے تحت حضور ﷺ کو آخری نبی ماننا شرط ایمان ہے، کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر کے کفر و ارتداد پر مبنی ایک نئے مسلک قادیانیت کی اساس رکھی۔ جس کے حامی اپنے آپ کو احمدی کہنے لگے۔ گویا انہوں نے اپنا ایک نیا نام منتخب کر کے خود ہی مسلمانوں سے علیحدہ امت ہونا تسلیم کر لیا۔ مرزا قادیانی نے صرف جھوٹے دعاوی پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ اس کی نبوت پر ایمان نہ لانے والے کافر ہیں۔

"اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔" (تذکرہ ص ۶۰۷)

"جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔"

(نزول المسیح ص ۴ حاشیہ خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲)

"مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کہا جو تمہاری پیروی نہیں کرتا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا۔ وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔"

(تذکرہ ص ۲۲۶ طبع سوم)

مرزا قادیانی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے پرجوش مسلمانوں کو گالیاں دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ لہٰذا جوش گفتاری اور طبع آزمائی ملاحظہ فرمائیے۔

"کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ باقی سب میری نبوت پر ایمان لا چکے ہیں۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷)

"اور میرے دشمن جنگلوں کے سور بن گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے آگے بڑھ گئی ہیں۔" (نجم الہدیٰ ص ۱۰ خزائن ج ۱۴ ص ۵۳)

"بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب جانوروں سے زیادہ پلید خنزیر ہے۔ مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں۔ اے مردار خور مولویو! اور گندی روحو! اے بدذات فرقہ مولویاں۔" (انجام آتھم ص ۲۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۰۵)

مشہور عالم دین مولانا ثناء اللہؒ کے لیے انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ دوکاندار کسی بازاری آدمی کی زبان سے بھی زیب نہیں دیتے۔

"ابن ہوا، غدار۔" (اعجاز احمدی ص ۳۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۳)

"کفن فروش کتا۔" (اعجاز احمدی ص ۲۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۲)

"خبیث مسورہ کتا، بدذات، گول مٹول۔ ہم اس (ثناء اللہ) کو بھی جلسہ عام میں نہ بولنے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیں گے۔"

(بحوالہ الہامات مرزا از شیخ الاسلام ص ۱۲۲)

وہ شائستگی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے پیغمبران خدا کو بھی اپنی ہرزہ سرائی کا ہدف بنانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ نقل کفر کفر نباشد کے مقولہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قارئین سے معذرت کے ساتھ اس کی ایک بیہودگی کی مثال پیش کی جاتی ہے۔

''عیسیٰ کا رجحان زنا کاری کی طرف تھا کیونکہ آپ کی تین دادیاں اور نانیاں کسبی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(انجام آتھم ص ۷ حاشیہ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

مرزا قادیانی کی تحریروں میں اس قسم کی ہرزہ سرائیاں بکثرت ملتی ہیں۔ درحقیقت وہ اشتعال انگیزی، دشنام طرازی اور ناشائستہ انداز گفتگو میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ گورداسپور کی عدالت کو انہیں بدزبان اور دشنام طراز قرار دیتے ہوئے یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دینے اور ان کے خلاف اشتعال انگیز کاروائیاں کرنے سے باز رہیں۔ اس پابندی پر عمل کرانے کے لئے اسے تحریری عہد نامہ عدالت میں داخل کرنے کو کہا گیا۔ قادیانی متنبی نے اپنے ولی قسمت کی عدالت میں نہ صرف تحریری طور پر توبہ نامہ پیش کر دیا۔ بلکہ پبلک میں اس امر کا اعتراف بھی کر لیا۔

''میں نے عدالت میں عہد نامہ پیش کیا کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔''

(تمہید کتاب البریہ طبع احمدیہ ص ۱۵ خزائن ج ۱۳ ص ایضاً)

لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ ضبط نفس کی صفت سے محروم تھا۔ یہ تحریری عہد نامہ ان کی بے لگام زبان کو لگام نہ دے سکا۔ مخالفین کے ساتھ مغلظ گالیوں کا طوفان جہاں مرزا قادیانی کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ وہاں یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ اس نے خود ہی مسلمانوں اور قادیانیوں میں حد فاصل مقرر کر کے امت محمدیہ اور اپنے پیروکاروں میں تفریق کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس نے اپنے فرقہ ضالہ کے لئے الگ اور نئے مذہبی عقائد ہی نہ گھڑے بلکہ معاشرتی معاملات میں بھی علیحدگی اختیار کر کے مسلمانوں کی وحدت کو پاش پاش کرتے ہوئے ایک نئی اور علیحدہ امت کی بنیاد رکھی۔

مرزا قادیانی نے اپنے پیروکاروں کو مسلمان اماموں کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور اس طرح خود ہی ملت اسلامیہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔

''پس یاد رکھو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔۔۔ جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے

سر پر ہو اور تمہارے عمل حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔" (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۸، خزائن ج ۱۷ ص ۶۴)

ایک بار مرزا قادیانی کے معتقدوں میں سے کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ کسی ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے جس کے عقائد سے وہ واقف نہیں؟

جواب ملا: "تمہیں پہلے تمہارا فرض ہے۔ اس کے عقائد معلوم کرو۔ اگر وہ میری تصدیق کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور اگر وہ مجھے جھٹلاتا ہے تو یہ جائز نہیں اور اگر وہ نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔"

(ملفوظات احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۰۳ مرتبہ منظور الٰہی)

مرزا قادیانی نے اپنے ٹولے کو (غیر احمدیوں) مسلمانوں کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے روک دیا۔

"جب نماز سمیت تمام تعلقات منقطع ہو چکے ہیں تو ان کے مردوں کے لئے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے متردد نہیں ہونا چاہئے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۶۹)

اپنے اس عقیدے پر مرزا قادیانی اس شدت سے عمل پیرا تھا کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کی۔ صرف اس لئے کہ وہ عظیم بیٹا شمع ختم نبوت کا پروانہ تھا اور مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا منکر۔

مرزا قادیانی کا ٹولہ آج بھی اپنے اس عقیدے پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ یہاں تک کہ قادیانی امت کے بزرجمہر چوہدری ظفر اللہ خاں نے اپنے محسن بانیٔ پاکستان حضرت قائد اعظمؒ کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور غیر مسلموں کی صف میں کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔

یوں غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے خود ہی ثبوت مہیا کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

مرزا قادیانی نے مسلمانوں کی وحدت میں دراڑ پیدا کرنے کی ایک اور تدبیر اختراع کی۔ اس نے غیر احمدیوں کو لڑکیوں کا رشتہ دینے کی تو ممانعت کر دی۔ لیکن عام مسلمانوں کی لڑکیوں کو بیاہ لانے کی اجازت بحال رکھی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے اور اس کے خلیفہ ثانی نے اس امر کی

وضاحت کیسے کی ہے؟ "حضرت مسیح موعود کا حکم اور زبردست حکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی تعمیل کرنا بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔" (برکات خلافت ص ۷۵)

"جو شخص اپنی بیٹی کو غیر احمدیوں کے نکاح میں دیتا ہے وہ کافر ہوگا اور اسے جماعت سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔"

مزید ملاحظہ فرمایئے: "چونکہ مندرجہ ذیل اصحاب نے اپنی اپنی لڑکیوں کے رشتے غیر احمدیوں کو دیئے ہیں۔ اس لئے ان کو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ کی منظوری سے جماعت سے خارج کیا جاتا ہے اور وہاں کی جماعت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان سے قطع تعلق رکھیں۔" (الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۹۹ ص ۸، مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۳۴ئ)

لہٰذا اس جابرانہ حکم کے تحت پہنچی افراد کو جو امام مہدی و مسیح کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ مرزائی ٹولے سے خارج کر دیا گیا۔

اگرچہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے طائفہ کے اراکین ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا سوانگ بھرتے رہے ہیں۔ لیکن قادیانی خانوادہ و قرابت کے چند بیانات کے مطالعہ سے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ ابتداء ہی سے یہ فرقہ ایک نیا منفرد جداگانہ مخالفانہ عقائد کا حامل فرقہ تھا۔ جس کا دین اسلام اور ملت المسلمین سے کوئی تعلق نہ تھا۔

"غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ ناطہ ہے۔ سو دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔ . . ماحصل یہی ہے کہ تمام زاویوں سے ہم میں مکمل اختلاف ہے۔"
(کلمۃ الفصل ص ۱۶۹)

مسلمانوں سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کے فیصلہ کی تائید میں جو دلائل تھی مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی ہیں۔ انہیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ "یہ جو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے۔ اول تو یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تھا نہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ

لوگ ریا پرستی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی ایسی حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جو سڑ گیا ہو اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں۔ اس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح ان سے تعلق نہیں رکھ سکتی اور نہ ہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے۔''

(تشحیذ الاذہان ج ۶ نمبر ۸ ص ۱۱۳ بابت ماہ اگست ۱۹۱۱ئ)

مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود احمد کا فرمان بھی سن لیجئے: ''کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے (خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں) خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت ص ۳۵)

''حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا (یعنی مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور ہمارا اور ہے ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور۔ ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور۔ اس طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔'' (الفضل قادیان ج ۵ نمبر ۱۵ ص ۸ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۱۷ئ)

دراصل قادیانیت کے بانی اور اس کے فرقہ ضالہ نے مسلمانوں اور اپنے درمیان نئے اعتقادات و نظریات کی وسیع خلیج حائل کر کے خود ہی ایک قسم کے سوشل بائیکاٹ کو رائج کر دیا تھا۔ مندرجہ بالا سطور سے قارئین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہوگی کہ ابتداء ہی میں قادیانیوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کے عقائد کے حامل افراد ایک مختلف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت ملت اسلامیہ سے بالکل جداگانہ ہے۔ ۱۹۰۱ء میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جماعت احمدیہ کی ابتداء کی تو خود ہی حکومت سے استدعا کی کہ انہیں مردم شماری کے ریکارڈ میں ایک علیحدہ فرقے کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ مسلم دشمنی کی علمبردار حکومت نے مرزا قادیانی کی اس آرزو کی بھی تکمیل کر دی۔ اس طرح اس نام نہاد نبی نے خود ہی اپنے حواری ٹولے کو ملت اسلامیہ سے الگ کر لیا۔ منطقی لحاظ سے بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت اسلام اور قادیانیت میں حد فاصل کھینچنے کے لئے کافی ہے۔

لہٰذا مسلمانوں کا اس فرقہ ضالہ کو منحرف ہو جانے سے کافر، مرتد اور غیر مسلم قرار دینا بالکل

صحیح اور عین حقائق کے مطابق ہے۔ وہ انہیں اسلام اور ملی سیاست کے لئے خطرناک سمجھنے میں بھی قطعی طور پر حق بجانب ہیں۔ بلکہ حالیہ واقعات تو اس سازشی فرقے کی مزید ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو بھی منظر عام پر لے آئے ہیں۔

علامہ اقبالؒ نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کی کیسی صحیح ترجمانی کی ہے:

"اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے۔ جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان۔ انبیاء پر ایمان اور رسول کریم ﷺ کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم ﷺ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم ﷺ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل (عقیدہ ختم نبوت) کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایرانیوں میں بھی بہائیوں (بہاء اللہ ایرانی کی امت) نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریم ﷺ کی شخصیت کا مرہون منت ہے۔"

(حرف اقبال ص ۱۳۶)

لہٰذا فطری طور پر مسلمان ابتداء ہی سے اس نئے مسلک کے ساتھ برسر پیکار رہے اور قادیانی ٹولے کو سرکاری طور پر امت اسلامیہ سے علیحدہ فرقہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے رہے۔ علامہ اقبالؒ نے اس مطالبے کے حق میں بڑی ٹھوس دلائل پیش کی ہیں۔ جو ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں: "ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے تشبیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا تھا۔ علاوہ بریں ان کا بنیادی اصولوں سے انکار اپنی جماعت کا نیا نام (احمدی) مسلمانوں سے بائیکاٹ اور ان سب سے بڑھ کر یہ اعلان کہ دنیائے اسلام کافر ہے۔ یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر

دال ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں۔ جتنے سکھ ہندوؤں سے، کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہندو مندروں میں پوجا نہیں کرتے۔"

(حرف اقبال ص ۱۳۴)

اس امر کو سمجھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب قادیانی مذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟

درحقیقت مسلمان علماء کرام اور سیاسی رہنماؤں نے اسلام کے خلاف قادیانی خاتگے کی سرکشی کو ابتداء ہی میں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ بانی مسلک اور اس کے معاونین نے کھلم کھلا بغاوت بلند کرنے کی بجائے خفیہ سازشی ہتھکنڈوں کا طریق کار اپنایا تھا۔ علامہ اقبال کے خیالات پھر بھی ناظرین کے جاتے ہیں: "وہ اجتماعی و سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں۔ مکمل اور ابدی ہے۔ محمد ﷺ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔" (حرف اقبال ص ۱۳۹، ۱۵۰)

قادیانی تو اسلام کے اعتقادی ڈھانچے کو تہ و بالا کرنے کے لئے صرف ایک نئے فرقے کی حیثیت سے تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ جیسا کہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک زیر زمین خفیہ سازش تھی۔ جس نے برطانوی سرپرستی میں جنم لیا تھا۔

دنیا جانتی ہے کہ جہاد کی مخالفت کرنا تو اسلام کی شہ رگ پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس اہم دینی فریضہ کو قطعی طور پر حرام قرار دینا ہی اس تحریک کے ناپاک عزائم کی چہرہ کشائی کرنے کے لئے کافی ہے۔ مزید برآں اس کا سلیس تحریروں نے اپنی تمام زندگی برطانوی حکومت کی حاشیہ برداری، خیر خواہی و تم گساری میں گذار دی اور اپنے اس جنون میں اس حقیقت کو بھی فاش کر دیا کہ اس کا ناپاک وجود حکومت کی سرپرستی اور تحفظ کا مرہون منت ہے۔ جیسا کہ اس نے خود اپنی تصنیف (تحفہ قیصریہ ص ۱، ۲، خزائن ج ۱۲ ص ۲۸۳) میں اس کا واضح الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔

"میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی۔ جس کے زیر سایہ میں آزادی سے اپنا کام نصیحت و وعظ ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں

کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو سکتے ہیں۔ کسی اور حکومت کے زیر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔"

انگریزوں کا ساختہ و پرداختہ نبی مرزا قادیانی اپنی محسن و سرپرست حکومت کی چاپلوسی کرنے اور ممنون ہونے میں بالکل حق بجانب تھا۔ جس نے اس پودے کو لگایا اور پھر اس کو حزم و احتیاط سے سینچنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ یہاں تک کہ اس نے ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر لی۔ مرزا، بہائی اور بابی دونوں ملعون تحریکوں کے حشر سے باخبر تھا۔ جو اسلامی ممالک ایران اور ترکی میں بری طرح کچل دی گئی تھیں۔ بہاء اللہ ۱۸۹۲ء میں جہنم رسید ہوا تھا۔ مرزا قادیانی نے صرف ایک سال پیشتر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا بہائیوں کے ڈرامے کا آخری منظر بھی اس کے پیش نظر تھا۔ اسے کامل یقین تھا کہ اس کے ملعون اختلافات کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اگر اس نے یہ بیہودہ دعویٰ کسی اسلامی مملکت میں کیا ہوتا تو ابتداء ہی میں اس فتنے کا گلا گھونٹ دیا جاتا۔ یہ تو برطانوی حکومت کی نظر کرم کا نتیجہ تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنے آقاؤں کی تلواروں کے سایہ میں پناہ لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کر کے ان کی صفوں میں افتراق و انتشار پھیلانے کی ناپاک جسارت کی۔ جس کا اسے خود اعتراف ہے۔

"اور گورنمنٹ برطانیہ میری تلوار ہے۔ جس کے مقابلہ میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔"

"ہم احمدی اس فتح پر خوش کیوں نہ ہوں؟ ہم اس تلوار کو عراق، عرب، شام اور ہر جگہ چمکتے ہوئے فتح یاب دیکھنا چاہتے ہیں۔" (الفضل ج ۶ نمبر ۴۲ ص ۹، مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ء)

ایک اور مقام پر وہ اعتراف کرتا ہے: "بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔"

(ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۱۴۶)

"میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔"

(تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۶۹، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۷۰)

مرزا قادیانی اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے حقائق پر سے مزید پردہ اٹھاتا ہے:

”یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سایہ سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہے؟ ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کرنے کے لئے دانت پیس رہی ہے۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ سو تم اس خداداد نعمت کی قدر کرو۔ تم یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے سلطنت انگریزی تمہاری بھلائی کے لئے ہی اس ملک میں قائم کی ہے اور اگر اس پر کوئی آفت آئے تو آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی۔۔۔۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو کہ تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ سو انگریزی سلطنت تمہارے لئے ایک رحمت ہے۔ تمہارے لئے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سپر ہے۔ پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو اور ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں۔ ہزارہا درجہ انگریز ان سے بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں واجب القتل نہیں سمجھتے۔ وہ تمہیں بے عزت کرنا نہیں چاہتے۔“

(تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۲۳، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۸۰)

یہ بیان اپنے اختصار کے باوجود کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ یہ ایک متنبی کے خوشامدانہ تاثرات ہیں۔ جو ایک کافر اور دشمن اسلام حکمران کی تعریف میں الاپے گئے ہیں۔ تحریر ہر شخص جو اسے پڑھتا ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قادیانیت کا نشو و ارتقاء برطانوی استعمار کی حمایت و معاونت کا مرہون منت ہے۔ اگر اسے فرنگی آقاؤں کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو اس کا پنپنا ناممکن تھا۔ بلکہ ابتداء ہی میں از خود اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ درحقیقت اس تمام منظر کے پس پردہ برطانوی نوآبادیاتی پالیسی کارفرما تھی۔ جو مخالفت سیاسی وجوہات کے باعث اسلام کو اس کی قوت حیات سے محروم کرنے کے درپے تھی۔ لہٰذا قادیانیوں کی آواز ہز ماسٹرز وائس ہے۔ یہ طائفہ ہر لحاظ سے اپنے آقاؤں کی توقعات پر پورا اترا اور اس نے استعماریت کی مرادیں بر لانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی قومی یا بین الاقوامی مسئلہ پیش آیا۔ قادیانی اپنے مخصوص ذہن اور نظریات کو چھپائے بغیر نہ رہ سکے۔ مثلاً ۱۹۱۳ء میں حکومت نے کانپور میں کسی سڑک کو سیدھا کرنے کے لئے اس پر واقع مسجد کا ایک حصہ گرا دیا۔ مسلمانان ہند نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ عوامی احتجاج نے نازک صورت اختیار کر لی۔ بہت سے مسلمانوں نے مسجد کی حرمت پر اپنی

جائیں شمار کر دیں۔ لیکن قادیانی رہنماؤں نے ان شہیدان اسلام کو مقتول باغی کے لقب سے نواز کر اپنے خداوندان نعمت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ۱۹۱۸ء میں مسلمان ترکی سے متعلق برطانیہ کے مذموم عزائم کے باعث مضطرب تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں نے قادیان میں برطانیہ کی فتح کی خوشی میں چراغاں کیا۔ مختلف مقامات پر جلسے کر کے اپنے محسنوں کی کامیابی پر تقریبات جشن منا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ غلامان رسول عربی ﷺ کے خلاف استعمال کئے جانے والے فوجی اسلحہ کی خرید کے لئے چندہ اکٹھا کر کے مسلم دشمنی کی علمبردار کافر حکومت کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اس طرح مسلم کشی میں مکمل طور پر حصہ لیا۔

جب عراقی سرزمین برطانوی فوجی دستوں کے ناپاک قدموں تلے روندی گئی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے ایک بہت بڑے جشن فتح کا انتظام کیا اور تقریر کے ذریعے اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ (الفضل قادیان ج ۶ نمبر ۳۱ ص: ۲، مورخہ ۳ دسمبر ۱۹۱۸ء)

قادیانیوں کے خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد کا مندرجہ ذیل بیان بھی قابل غور ہے: ''عراق کے فتح کرنے میں احمدیوں نے خون بہایا اور میری تحریک پر سینکڑوں آدمی بھرتی ہو کر چلے گئے۔''

(الفضل قادیان مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۲۳ء)

اسی طرح یروشلم میں برطانوی داخلے پر تقریبات جشن و مسرت منائی گئیں اور سقوط ترکی پر انگریزوں کا یہ ایجنٹ فرقہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس سلسلے میں منیر انکوائری رپورٹ کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں: ''کہ جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے ہاتھوں ترکی کی شکست اور پھر ۱۹۱۸ء میں جمال کی پسپائی پر قادیان میں جشن مسرت منائے جانے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور احمدی انگریزوں کے پٹھو سمجھے جانے لگے۔'' (تحقیقاتی رپورٹ ص ۲۰۹)

قادیانیوں کی قابل نفرت اور مذموم کاروائیاں برصغیر تک محدود نہیں۔ بلکہ تمام دنیائے اسلام ان کی تخریبی کاروائیوں کی آماجگاہ بن گئی۔ قادیانی مبلغ تمام اسلامی ممالک میں روانہ کئے جاتے۔ جو تبلیغ اسلام کی آڑ میں برطانوی آقاؤں کے لئے جاسوسی کے فرائض

سرانجام دیتے۔

میر محمد سعید حیدر آبادی پہلا قادیانی مبلغ تھا۔ جس کے ناپاک قدم سرزمین عرب میں ۱۹۲۱ء میں پہنچے۔ اس پر جاسوسی کا شک گذرا تو مقامی حکومت کو اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لینا پڑی۔ جب اس مرتد ٹولے کے کارندوں نے عراق کا رخ کیا اور وہاں اپنا جال پھیلایا تو عراقی حکومت کو جلد ہی ان کے ناپاک عزائم کا پتہ چل گیا۔ لہذا انہیں عراق سے فوری طور پر نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ نیز عراقی پارلیمنٹ نے ۱۹۲۳ء میں قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی عائد کر دی۔ شام میں قادیانی مبلغ جلال الدین شمس کو ۱۹۲۷ء میں حصول آزادی کے جیالے سپاہیوں نے انہی وجوہات کے باعث واصل جہنم کر دیا۔ مصر میں بھی ان سے یہی سلوک کیا گیا اور انہیں ملک سے باہر نکال دیا گیا۔

مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں افغانستان میں دو قادیانیوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نیز ۱۹۲۴ء میں نعمت اللہ قادیانی پر جاسوسی اور ارتداد کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ الزامات ثابت ہونے پر اسے سنگسار کیا گیا۔ ملا عبدالحلیم اور ملا نور علی کے خلاف بھی ان ہی الزامات کے سبب عدالتی کارروائی کی گئی۔

شام کے مفتی اعظم نے بھی ایک فتویٰ کے ذریعے قادیانیوں کو ملحد اور کافر قرار دے دیا۔ نیز ان کی مذموم و فاسد عادات اور خفیہ کارروائیوں کے پیش نظر شامی حکومت نے ۱۹۵۷ء میں قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی عائد کر دی۔ متعدد مسلمان ممالک جو اس تحریک کو اپنے اصل رنگ میں دیکھ چکے ہیں اور اس کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی تشہیر پر پابندی عائد کر چکے ہیں۔ مثلاً مصر، ترکی، افغانستان، شام، حجاز، عراق، اردن میں کسی قادیانی مشن کا وجود نہیں پایا جاتا۔

عرب ممالک میں قادیانیوں کے ہتھکنڈے ناکام ہو گئے تو انہوں نے افریقی ممالک نائیجیریا، گھانا، کینیا، یوگنڈا، ماریشس اور جنوبی افریقہ میں اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لئے وسیع جال پھیلا دیا۔ فلسطین میں تو وہ ۱۹۲۸ء ہی میں اپنا مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں سے انہوں نے عربی زبان میں "البشریٰ" نامی میگزین کی اشاعت کا آغاز کیا اور اسے عرب دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجنے کا انتظام کیا۔

جب صیہونی تحریک مسلم فلسطین کے وسط میں صیہونی ریاست بنانے کے لئے مصروف جدوجہد تھی اور مسلم دنیا اس کی مخالفت پر اپنا پورا زور صرف کر رہی تھی۔ قادیانی خلیفہ نے ۱۹۲۴ء

میں ایک اعلان جاری کیا۔ ''قرآنی پیش گوئیوں اور مسیح موعود کے الہامات سے یہ واضح ہے کہ یہودی اس ملک (فلسطین) میں آباد ہونے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔''

(قادیانی میگزین الفضل مورخہ ۹ فروری ۱۹۳۴ء)

قادیانیوں کے اس اعلان نے کہ اصل مسجد الاقصیٰ فلسطین میں نہیں بلکہ قادیان میں واقع ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کشمیر میں مدفون ہیں اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ محض افسانہ ہے۔ صیہونیت کو خوب فائدہ پہنچایا۔ اس قسم کے اعلانات سے انہوں نے مذہب سے ناآشنا ان پڑھ مسلمانوں کے ذہنوں کو انتشار و الجھنوں میں مبتلا کر دیا۔ بلکہ جب اسرائیلی ریاست کے وجود کا اسلامی دنیا کے عین قلب میں خنجر گھونپ دیا گیا۔

اور تمام مسلمانوں نے انفرادی اور قومی سطح پر استعماریت کی اس ذریت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو بھی قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں وہاں جاری رکھیں۔ پاکستانیوں پر اسرائیل کے دروازے ہمیشہ بند رہے۔ لیکن قادیانیوں کی آمد و رفت وہاں جاری رہی اور آج بھی ان کا مشن وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں مسلم دنیا کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا مبارک احمد کی تالیف '' OUR FOREIGN MISSIONS'' کے صفحہ ۷۹ کے ایک اقتباس کا ترجمہ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے: ''اسرائیل میں احمدیہ مشن حیفہ کے مقام پر ماؤنٹ کرمل میں واقع ہے۔ وہاں ہماری ایک مسجد، ایک مشن ہاؤس، ایک لائبریری، ایک بک ڈپو اور ایک سکول ہے۔ مشن ایک ماہنامہ میگزین ''البشریٰ'' کی اشاعت کرتا ہے۔ جو عربی جاننے والے تیس ممالک میں تقسیم کیا جاتا ہے۔''

مندرجہ بالا حقائق کے مطالعہ سے قارئین پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے قادیانی ایک جدا سیاسی و مذہبی فرقہ ہے۔ جس کے پیش نظر اپنا مخصوص نصب العین اور مقاصد ہیں۔ اپنے بار بار دہرائے گئے دعوؤں کے باوجود ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے مسلک اور اسلام میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ البتہ اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لئے وہ اسلام کا نام لے لے کر فائدہ ضرور اٹھاتے رہے ہیں۔

علامہ اقبالؒ نے ان کا صحیح تجزیہ پیش کیا ہے: ''ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقۂ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔'' (حرف اقبال ص ۱۲۲)

قادیانیت اور پاکستان

زیر نظر سطور سے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ قادیانیت دراصل ایک سیاسی تحریک ہے جس نے سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کرنے کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ چنانچہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر اس نے ہمیشہ تقریباً ہر مسئلہ میں ملت اسلامیہ کے خلاف لائحہ عمل اختیار کیا۔ جب آزادی کے متوالے برطانوی استعمار کے خلاف برسرپیکار تھے اور غاصب حکمرانوں کو وطن عزیز سے نکالنے کے لئے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ داستان دارورسن دہرائی جا رہی تھی۔ اسلامیان ہند عروس آزادی سے ہمکنار ہونے کو بے چین تھے۔ قومی نصب العین بن چکا تھا۔ امت محمدیہ غلامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر آزاد مملکت کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لئے جادہ پیما تھی۔ مگر مرزائی تھے کہ اس کی راہ میں سنگ گراں بن رہے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت روئے زمین کے نقشہ پر ابھرنے کے لئے مضطرب تھی۔ لیکن قادیانی اس سلطنت کے وجود ہی کے خلاف تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کا یہ خود کاشتہ پودا انہی کے زیر سایہ پنپ سکتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان کی منظوری پر چوہدری ظفر اللہ قادیانی نے پریس کو بیان دیتے ہوئے کہا: "جہاں تک ہمارا (قادیانی بحیثیت جماعت) تعلق ہے۔ ہم اسے محض ایک باطل خیال اور ناقابل عمل تصور کرتے ہیں۔"

قادیانیوں کے خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں: "انگلستان سے علیحدگی نہ صرف ناممکن ہے۔ بلکہ منشاء خداوندی کے بھی خلاف ہے۔"

(ہندوستانی مسئلہ کے حل کے لئے چند تجاویز ص ۲)

ناظرین! منشاء خداوندی کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ کس طرح مرزا محمود احمد اپنے حامیوں کو تحریک آزادی سے علیحدہ رکھنے کے لئے اس ترکیب کو اختراع کیا۔ نیز جب نظریہ پاکستان کو حقیقت کا روپ دھارنے میں کوئی تاخیر نہ تھی۔ منزل عین سامنے تھی۔ اس وقت بھی مرزا محمود اپنے زہر آلود خیالات کی تشہیر سے باز نہ آیا اور کہا: "ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہندو مسلم سوال ختم ہو جائے اور تمام قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ تاکہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جائے۔ اگرچہ یہ کام مشکل ہے۔ لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ یہ خدا کی منشاء ہے کہ سب قومیں اکٹھی رہیں۔ تاکہ احمدیت کو پھیلنے کے لئے وسیع تر خطہ ارض میسر رہے۔ یہ آسمانی بشارت ہے کہ عارضی تقسیم کا امکان ہے۔ لیکن احمدیہ جماعت کا ایمان ہے کہ پاکستان کا وجود چند

رونما ہوگا۔ دونوں قومیں کچھ عرصہ کے لئے علیحدہ رہیں گی۔ لیکن یہ دور محض عارضی ہوگا۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔“

(قادیانی اخبار الفضل قادیان جلد ۳۵ نمبر ۸۰ ص ۳ مورخہ ۵ اپریل ۱۹۴۷ئ)

”نیز میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہندوستان اکٹھا رہے۔ لیکن اگر قوموں میں غیر معمولی منافرت تقسیم ہند کا باعث بنی تو یہ ایک ناگزیر برائی ہوگی۔ لہذا ملک کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائے۔“ (الفضل قادیان صفحہ ۲۱ مئی ۴۷ئ)

جسٹس منیر انکوائری رپورٹ کا ایک اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں: ”جب تقسیم ملک کے ذریعے مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ وطن کے امکانات افق پر جھلکنے سے روشن ہو رہے تھے۔ احمدی مستقبل کے تصور سے پریشان تھے۔ ۱۹۴۵ء سے ۱۹۴۷ء تک کے آغاز تک ان کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔“

(رپورٹ تحقیقاتی عدالت ص ۲۰۹)

”لہذا جب پاکستان کا دھندلا تصور درخشاں حقیقت بن کر سامنے آنے لگا تو قادیانیوں کو اس نئی ریاست کے تصور سے اپنے خیالات وجذبات کو ہم آہنگ کرنا دشوار محسوس ہوا۔ وہ انتہائی تذبذب کے عالم میں تھے۔ وہ نہ تو ہندوستان کی ہندو (بظاہر غیر مذہبی) حکومت کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی پاکستان سے اپنی تقدیر وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ جہاں فرقہ پرستی کی حوصلہ افزائی متوقع تھی۔ ان کی بعض تحریروں سے واضح ہے کہ وہ تقسیم کے قطعی طور پر خلاف تھے اور توقع کئے ہوئے تھے کہ تقسیم کی صورت میں وہ ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔“

عدالتی تحقیقات کی موجودگی میں مزید دلائل و شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ حصول پاکستان کے لئے سربکف تھا۔ قادیانی رہنما اپنے قصبہ قادیان کی علاقائی توسیع کر کے اسے پاپائے روم کے شہر ویٹی کن کی مانند اندرونی طور پر بفر سٹیٹ (فاصل ریاست) کا درجہ دلانے کے لئے جتن کر رہے

تھے۔ سرکاری ریکارڈ شاہد ہے کہ سکھوں نے وزیر اعظم انگلستان کے مطالبہ کے لئے میمورنڈم پیش کیا تو قادیانیوں نے بھی فوری طور پر قادیان کو وطن کا درجہ دلانے کے لئے برٹش گورنمنٹ کے سیاسی مشیر ہیرلڈ بے ایجی کو ایک یادداشت پیش کر دی۔ جغرافیائی لحاظ سے اس مطالبہ کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ متعلقہ علاقہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا تھا۔ جب مرزائیوں کو یقین ہو گیا کہ قادیانی ریاست کی تشکیل کا خواب شرمندۂ تعبیر ہونے سے قاصر ہے تو بادل نخواستہ انہیں تحریک پاکستان کے خلاف معاندانہ رویہ ترک کرنا پڑا۔ ان کے اندازِ فکر میں یہ تبدیلی مئی ۱۹۴۷ء میں رونما ہوئی۔

یہ امر قابلِ غور ہے کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کر کے قادیانی ٹولہ دراصل مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر ہندوؤں کے مفاد کے لئے کام کر رہا تھا۔ جن کا اصل مقصد ہندوستان کو متحد رکھ کر تمام قوموں پر حکمرانی کرنا تھا۔ ڈاکٹر شنکر داس کی کتاب (بندے ماترم) کے درج ذیل اقتباس سے اس امر پر قدرے روشنی پڑتی ہے۔

"ہندوستانی قوم پرستوں کو اگر کوئی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے تو وہ احمدیت کی تحریک ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان جس قدر احمدیت کی طرف راغب ہوں گے اسی قدر قادیان کو مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخرکار سرگرم قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں اگر کوئی تحریک عربی تہذیب اور پان اسلامزم کا خاتمہ کر سکتی ہے تو وہ یہی احمدی تحریک ہے۔ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان بن جانے پر اس کی شردھا (عقیدت) رام، کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر حضرت محمد صاحب، قرآن مجید اور عرب کی بھومی (ارض حرم) پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جہاں پہلے اس کی وفاداریاں عرب میں تھیں۔ اب وہ قادیان میں آ جاتی ہیں۔"

اس تحریر سے اظہر من الشمس ہے کہ قادیانیت دراصل پان اسلامک تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لئے وجود میں لائی گئی تھی۔ قادیانیوں کی غداریوں کے باوجود مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ دعائیں مستجاب ہو گئیں اور پاکستان ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو دنیا کے نقشے پر پانچویں اور اسلامی ممالک میں سب سے بڑی اسلامی مملکت کی حیثیت سے ابھرا۔ اس نئی ریاست کو کمزور، متزلزل، بے دست و پا نیز مشکلات سے دوچار کرنے کے لئے مشرقی پنجاب اور مغربی بنگال کے

علاوہ بھارت کے کئی حصوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ لاکھوں لٹے پٹے، زخمی لاچار مسلمان قافلوں کی صورت میں پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ سکھوں کی مار دھاڑ کے خوف سے قادیانی بھی اپنے نام نہاد مقدس قصبہ قادیان کو ہندو گورنمنٹ کے ہاتھوں میں چھوڑ کر پاکستان کے سایہ عاطفت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں انہوں نے چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے پار ۱۰۳۴ ایکڑ زمین نہایت ہی سستے داموں خریدی۔ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت لاتعداد انسانی اور سیاسی مسائل سے دوچار تھی۔ ایک طرف کیمپوں میں بیٹھے ہوئے لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف زخمیوں کی دیکھ بھال ادھر انتظامیہ کا از سر نو ترتیب دینا اور کام پر لگانا تھا۔ ادھر دفتروں میں سیاہی، پنسل اور کاغذ تک ناپید تھے۔ ملک کی اقتصادی حالت ابتر تھی۔ اندرونی معاملات کے علاوہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بھی استوار کرنا تھے۔ فوجیں بھارت کے دور دراز علاقوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔

ان حالات میں حکومت اس فتنے کی طرف توجہ نہ دے سکی۔ اس دوران اس غدار وطن فروش ٹولے کو اپنی کاروائیاں تیز تر کر کے اپنے ناپاک عزائم کو بلا روک ٹوک عملی جامہ پہنانے کا موقع مل گیا۔ اسلام کے دشمن ہونے کے باعث نظریہ پاکستان کے بھی دل سے قائل نہ تھے۔ لہٰذا اپنے سابقہ غلط نظریہ پر اڑے رہے۔ بظاہری ریاست سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے بھی دراصل ان کی وفاداریاں قادیان ہی سے وابستہ رہیں جو تقسیم کے بعد بھارت کے حصہ میں آیا۔ گویا اللہ کے نام پر بنی ہوئی اس مملکت کو وجود پذیر ہوئے ابھی سال بھی نہ گذرنے پایا تھا کہ ان کے مذموم ارادے بے نقاب ہو گئے۔ ان کے خلیفہ ثانی مرزا محمود نے کوئٹہ میں ایک تقریر کے دوران صوبہ بلوچستان کو اپنا حصار بنانے کے ناپاک منصوبے کا اظہار کیا۔ دلیری ملاحظہ فرمائیں۔

”برطانوی بلوچستان جو اب پاکستانی بلوچستان ہے کی کل آبادی پانچ چھ لاکھ ہے۔ اگرچہ اس کی آبادی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن بلوچستان ایک یونٹ اکائی کی حیثیت سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے۔ لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبہ کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھئے کہ صرف تبلیغی کاروائیاں بارآور نہیں ہو سکتیں۔ جب تک کہ مرکز مضبوط نہ ہو۔ اگر مرکز مضبوط ہوگا تو لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانا آسان ہوگا۔ اگر ہم

ہے

ہمارے صوبے کو احمدی بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہوگا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے اور یہ مقصد بغیر کسی وقت کے حاصل ہو سکتا ہے۔" (الفضل قادیان مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۴۸ء ج ۲ نمبر ۱۸۲ ص ۲)

تقریباً ایک ماہ بعد جمعہ کی تقریر میں مرزا محمود احمد قادیانی نے پھر اپنے ہم مذہبوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: "میں جانتا ہوں کہ بلوچستان کا صوبہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ہمارے ہتھے میں آ کر رہے گا۔ اگر تمام دنیا کی قومیں بھی متحد ہو جائیں تو وہ اس خطۂ ارض کو ہم سے نہیں چھین سکتے۔" (الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۴ ص ۵ مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۴۸ء)

پاکستان میں قادیانیوں نے چنیوٹ کے قریب انتہائی سستے داموں وسیع خطۂ زمین حاصل کر کے ایک نئی کالونی کی بنیاد رکھی۔ جو انہوں نے محض اپنے ہم مذہبوں کے لئے مخصوص رکھی۔ چنانچہ قادیانی خلیفہ نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا۔

"اگرچہ موجودہ حالات کے مطابق زمین خاصی مہنگی ہونے کے علاوہ اپنے اندر کوئی کشش نہیں رکھتی۔ لیکن ان شاء اللہ ہم اسے ایک خوبصورت شہر میں تبدیل کر دیں گے۔ جو فوجی نقطۂ نظر سے [illegible] ترین ہوگا۔"

پاکستان کے عین وسط میں اپنا گڑھ بنا کر قادیانی ٹولے نے ملک میں ہر طرف اپنی سازشوں کا وسیع جال پھیلا دیا۔ انہوں نے ربوہ کو ریاست در ریاست بنا کر اپنا علیحدہ نظام حکومت قائم کر لیا۔ جس میں محکمہ امور خارجہ سے لے کر نیم فوجی تنظیموں تک کو منظم کیا گیا۔

منیر انکوائری رپورٹ کا ایک اور اقتباس ملاحظہ فرمائیں: "احمدیوں کا ایک منظم طبقہ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ایک نیم قصبہ میں ہے جو اس نے صرف اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کی مرکزی تنظیم مختلف محکموں پر مشتمل ہے۔ مثلاً محکمہ امور خارجہ، محکمہ امور داخلہ، محکمہ امور عامہ، محکمہ اطلاعات و نشر و اشاعت وغیرہ۔ اس قسم کے محکمے صرف ایک باقاعدہ حکومت کے سیکرٹریٹ ہی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس والنٹیرز کا بھی دستہ ہے۔ جسے خدام دین کہا جاتا ہے اور فرقان بٹالین پر مشتمل ہے۔ یہ وہی بٹالین ہے جو کشمیر میں تمام احمدیوں پر مشتمل تھی۔"

(منیر انکوائری رپورٹ ص ۱۹۸)

یہ امر واضح ہونے کے باوجود کہ قادیانی تحریک پاکستان کی سالمیت اور اتحاد کے لئے سرطان کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی حکمران نے اس بے لگام فتنے سے نمٹنے اور اس کے پر بکھیروں

کو راہ راست پر لانے کے لئے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ ان کی بے راہ روی اور ہذیان گوئی پر کوئی قدغن نہ تھی۔ ان کی پروپیگنڈہ مشینری بے لگام تھی۔ لہٰذا انہوں نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ چوہدری ظفر اللہ وزیر امور خارجہ پاکستان کے بیرونی ممالک میں اثر و رسوخ سے بھی اسلام کو مسخ کر کے پیش کیا اور کفر و ارتداد سے بھرپور عقائد باطلہ کی خوب تشہیر کی۔ نیز ہر طرف سازشوں کے وسیع و عریض دام پھیلا دیئے۔

اسلامی عقائد سے انحراف پر ہی معاملہ ختم نہ ہوا۔ بلکہ حکومت پر قابض ہونے کے گھناؤنے منصوبے کے تحت قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں افواج پاکستان میں بھرتی ہو کر کلیدی آسامیوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ یہ بے لگام افسر جدھر کا بھی رخ کرتے احمدیت کا پرچار کرتے۔ اس طرح سرکاری فرائض کی انجام دہی کے علاوہ وہ اپنے مذہب کے مبلغ کی حیثیت سے بھی اپنے عقائد باطلہ ماتحتوں تک پہنچاتے اور انہیں ان عقائد کو اختیار کرنے پر مجبور کرتے۔ جسٹس منیر ایسے ہی معاملات کی چھان بین کے بعد اپنی انکوائری رپورٹ میں رقمطراز ہیں۔

"احمدی افسروں کی کوششوں سے تبدیلی مذہب کے واقعات بھی ثابت کئے گئے۔ نیز ان کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی گئی۔" (منیر انکوائری رپورٹ ص ۱۹۶)

"وہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ۱۹۵۱ء میں کرسمس کے موقع پر صدر انجمن احمدیہ ربوہ نے اپنے پیروکاروں سے پرجوش اپیل کی کہ وہ تبدیلی مذہب کی کارروائیوں کو تیز تر کر دیں۔ تاکہ سب غیر احمدی ۱۹۵۲ء کے آخر تک احمدیت کی آغوش میں آ جائیں۔" (منیر انکوائری رپورٹ ص ۱۹۹، ۲۰۰)

اس اشتعال انگیز اپیل سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور نتیجہ میں تمام ملک وسیع پیمانے پر فسادات کا شکار ہو گیا۔ حالات بے قابو ہو گئے۔ لاء اینڈ آرڈر کے مسئلے نے نازک صورت اختیار کر لی۔ عاشقان رسالت مآبؐ قرون کی داستانیں تازہ کر رہے تھے۔ حب رسول میں سرشار غیرت مند و باحمیت مسلمان ہر صعوبت ہر تشدد اور ہر اذیت کو خندہ پیشانی سے جھیل رہے تھے۔ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ جائیدادیں نذر آتش ہو گئیں۔ سرکاری مشینری امن بحال کرنے میں ناکام ہو گئی تو وطن عزیز کے بعض حصوں میں مارشل لا کا سیاہ دور مسلط کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ آئینی طور پر اس مسئلے کے حل ہونے پر مسلمان اور قادیانی

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

کاشف مغالطہ قادیانی
فی رد نشان آسمانی

جناب چوہدری محمد حسین ایم اے

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

مکرم برادران اسلام!

کسی مدعی کے دعویٰ کی تصدیق کے واسطے شہادت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دعویٰ بلا ثبوت و شہادت قابل سماعت نہیں اور نہ مدعی کی اپنی شہادت اپنے دعویٰ کی تصدیق میں حجت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مدعی کے واسطے ضروری ہے کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق میں گواہ پیش کرے۔ اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے مرزا قادیانی نے بھی اپنے دعویٰ مہدی آخر الزمان ہونے کی تصدیق میں شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی کا قصیدہ پیش کیا ہے۔ جب اصل قصیدہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جس طرح توریت، انجیل، قرآن اور احادیث نبوی وغیرہ میں تحریف کر کے سادہ لوحوں کو مغالطہ دیا ہے۔ اسی طرح اس قصیدے میں بھی توڑ مروڑ کر کے پیچھے کے اشعار اوپر اور اوپر کے نیچے کر کے الفاظ تبدیل کر کے معانی غلط کر کے اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ مثلاً قصیدہ میں مہدی کا نام محمد تھا اور مرزا قادیانی نے احمد کر لیا۔ کیونکہ اس کا اپنا نام احمد تھا۔ دیکھو ذیل کے اشعار ؎

میم حا میم دال مے خوانم
نام او نامدار مے بینم

مرزا قادیانی نے لکھا ہے ؎

اح م دال مے خوانم
نام آں نامدار مے بینم

جب مدعی اپنے گواہ کے بیان میں اپنے مطلب کے الفاظ تبدیل کر دے تو وہ مدعی اس کی شہادت پیش کردہ سے کبھی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی عدالت اس شہادت محرف و تبدیل کی وقعت رکھ سکتی ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ جس گواہ کو مرزا قادیانی پیش کرتے ہیں۔ وہی گواہ مرزا قادیانی کے برخلاف گواہی دیتا ہے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا مدعی قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ عراق اور خراسان میں جنگ کا ہونا مقامات مقدسہ کا خراب ہونا تمام دنیا کے بادشاہوں کا باہمی خونریز جنگ ہونا وغیرہ وغیرہ ان تمام واقعات کے بعد امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کا ظہور قصیدہ پیش کردہ مرزا قادیانی میں لکھا ہے۔ چونکہ یہ واقعات مرزا قادیانی کے فوت ہونے کے دس سال بعد وقوع میں آئے ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ مہدی آخر الزمان کی

تردید ہی کا اچھا حق ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ چوہدری محمد حسین صاحب ایم۔ اے نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین کرام غور سے پڑھیں اور مرزا قادیانی کی دیانت اور لیاقت کی داد دیں اور چوہدری صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں کہ انہوں نے خدمت اسلام کر کے مسلمانوں کو راہ راست دکھایا ہے۔ اصل قصیدہ نقل کر کے حق و باطل میں فرق دکھایا ہے۔ انجمن تائید الاسلام لاہور ان کی اس خدمت اسلامی اور اعانت علمی کی مشکور ہے۔

خاکسار: پیر بخش سیکرٹری انجمن تائید الاسلام لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی

عید از بہر آمدہ است ظاہر
سورہ دین اکمل آیہ آخر

کارگاہ ہستی ایک پیہم و مسلسل انقلاب ہے۔ جس کی رفتار کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سست۔ جس کی سحر آفرین نیرنگیاں چشم ظاہر پر کبھی یک رنگ ہو کر نمایاں ہوتی اور اسے مست و غافل کر جاتی ہیں، اور کبھی ایک ہی رنگ کو سو جلووں میں ظاہر کر کے اسے دنگ و ششدر کرتی ہیں۔ روز و شب، صبح و شام، گرما و سرما ایسے تغیرات ہیں جو کوئی انقلابی دلچسپیاں نہیں رکھتے۔ بیج کا بونا، اس کا اگنا، نشوونما پانا، انسان کی پیدائش، تربیت، موت، معمولی مشاہدات ہیں۔ غم و شادی، آنی جانی کیفیتیں ہیں۔ مگر پھر بھی طمانیت و سکون ہوتا ہے کہ دفعتہ حرکت و جولانی سے متبدل ہو جاتا ہے۔ نہ روز و شب، وہ روز و شب رہتے ہیں۔ نہ صبح و شام وہ صبح و شام دکھائی دیتے ہیں۔ گرما و سرما کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ غم اور غم بن جاتے ہیں۔ شادیاں اور شادیانے نسیم صبح کے جاں فزا جھونکے صرصر عاد کی جانسوز شدتوں سے متبدل ہوتے ہیں۔ گلشن کے پھول تبسم کی تمام ادائیں چھوڑ کر گریباں چاک دکھائی دیتے ہیں۔ بلبلوں اور قمریوں کے ترانہ ہائے مسرت فریاد و شیون کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ بہار، خزاں ہو جاتی ہے۔ عیش و عشرت رنج و ماتم سے بدل جاتے ہیں۔ تبسم گریہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تمام سکون و امن جا چکا ہے۔ بجز فتنہ و آشوب کچھ نظر نہیں آتا۔ اس انقلاب کی تیزی کے زمانہ میں کبھی حق باطل پر غالب اور کبھی باطل حق پر مرجح ہوتا ہے۔ زبردست زیردست ہو جاتے ہیں۔ زیردستوں کا پائے ہمت سربلندی کی منزل پر جا لگتا ہے۔ مگر یہ کل تبدیلیاں یہ سارے انقلاب یہ تمام نیرنگیاں اپنے زمان و مکان سے پابند صرف اس وقت ظہور میں آتی ہیں جب مقتضائے مشیت ہوا اور جب اس علیم و قدیر کی حکمت انہیں نمایاں کرنا چاہے۔

صفحۂ زمین پر چشمِ فلک نے سینکڑوں آبادیاں برباد ہوتی دیکھی ہیں اور ہزاروں ویرانے آباد ہوتے مشاہدہ کئے ہیں۔ قومیں بنی بھی ہیں اور بگڑی بھی ہیں۔ قدرت کا قانون اقوام کی نسبت بھی نظر آتا ہے کہ ایک وقت معراجِ ترقی پر پہنچیں۔ پھر مائل بہ زوال ہوئیں۔ مٹیں اور گئیں۔ ان کے اقبال و عروج کے زمانے اسی نسبت سے لمبے اور طویل رہے۔ جس نسبت سے ان میں عصبیت و استقلال، ہمت و جوانمردی، ایثار و بے نفسی کے گراں بہا جوہر موجود رہے۔ جونہی دولت و آسودگی نے بے عملی و کاہلی کے سبق دیئے۔ قعرِ ذلت میں گریں اور ہمیشہ کے لئے فنا ہو گئیں۔ مگر اصول جن پر اقوامِ سلف نے معارجِ عروج کی بنا رکھی تھی۔ وہ بھی ان زمانوں کے حالات کے مطابق اس قسم کے ہوتے تھے کہ زمانہ کا ایک خاص عرصہ ان پر عمل پیرا ہونے سے وہ اقوام دنیا میں پھول پھل سکتی تھیں اور چونکہ اس عہد کے ختم ہو جانے کے بعد نیا زمانہ نئے اصولوں کا مقتضی ہوتا اور وہ لوگ خوشی سے انہیں پرانی باتوں پر کاربند رہتے۔ اس لئے کسی قومی انقلاب کے بعد وہ اپنے رتبہ سے گر جاتے اور مٹ جاتے۔ نئے نصب العین کی طرف بڑھنے والے پھر نئے لوگ ہوتے اور ایک مخصوص عہد تک حکمران کارفرما رہتے۔ وقت گزرتا خرابیاں آ جاتی تھیں اور دور آیا کہ اصولِ زندگی وجود سے اور کمزور اصول رہ گئے۔ جن پر عمل کر کے ایک زمانہ ختم ہونے کے بعد زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح اس عالمِ موجودات کی اور اشیاء کا یہ خاصہ ہے کہ وہ تمام انقلابات سے گذر کر بالآخر اپنے انتہائی نقطۂ ترقی تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح خود انسانی زندگی کی بھی یہی فطرت ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح قبل اس کے کہ یہ عالمِ فانی فنا ہو، اپنے منتہائے کمال کو پائے۔ چنانچہ بالآخر وہ وقت آیا کہ وحیِ حق نے وہ تمام وسائل، غیر معتدل و غیر فطری اصول انسانی زندگی کو اس کے منتہائے اوج پر دکھانے کے لئے انسانوں کو عطا کئے اور کہہ دیا کہ "الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی" یہ فرض ہو چکا کہ اب قیامت تک تمام نوعِ انسان انہیں اوامر و نواہی کی شرح و اقتدار میں اپنی سعی و ہمت کو صرف کرے جو فی الفور اس طرف آ جائیں۔ وہ سابقون الاولون میں شمار ہوں اور جو قبل از قیامت آخری زمانہ میں منسلک ہوں۔ "آخرین منہم لما یلحقوا بہم" کی پچھلی صف میں کھڑے ہوں۔ ان کے ماسوا شومئ قسمت سے جو اس سمت سے رخ پھیر لیں اور تقدم بڑھائیں۔ وہ رہیں طغیان ضلالت میں کیونکہ وہ جوہرِ قابل ہی نہیں۔ ان کی فطرت میں رشد و سعادت ودیعت ہی نہیں۔ فلا ہادی لہم!

اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے اور حق کی وہ صراطِ مستقیم۔ جس کا اختیار کرنے والا قدم

اٹھاتے ہی منزل پر ہوتا ہے۔ آخری مذہب ہونے کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اس کے ظہور کے بعد فوراً ہی ہستی فنا ہو جائے اور ارض غیر الارض سے بدل جائے۔ اگر یوں مقدر ہوتا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انسانی حیات کا اصلی مہر تاباں چند لمحوں کے لئے افق پر نمودار ہوتا اور پھر الٹے پاؤں وہیں غروب ہو جاتا۔ یہ آخری عہد کم از کم اس قدر لمبا ہونا چاہئے تھا اور ہو رہا ہے کہ تمام دنیا یعنی اس کے تمام اقوام و مذاہب زندہ جذبہ پیدا اسباب و علل کو پیدا کرتے اور ارتقاء کے تمام کرشمے دکھاتے۔ بالآخر باہم دگر اس طرح جذب و متحد ہوں کہ تمام کی تمام نوع انسان ایک اخوت کے سلسلہ میں بندھ جائے اور نسل و وطن کی تمام قیدوں کو چھوڑ کر اس طریق پر حبل اللہ سے اعتصام کرے کہ شرقی و غربی، عربی و عجمی کی سب تمیز مٹ جائے۔ اسلام کا دنیا اور اس کی اقوام پر یہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ چشم بصیرت سے اوجھل نہیں۔ ہم یہ لکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ الفاظ سن کر ہزاروں کے دل میں آئے گا کہ حالات موجودہ دنیا تو اسلام کو زوال میں دیکھ رہی ہے۔ یہ کس بناء پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے تمام نوع کو متحد و منسلک کرنے کے اثرات اقوام پر اپنا ڈورہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک وسیع اور گہرا مضمون ہے۔ جس پر بحث اس مضمون کی حدود سے خارج ہے اور اگر کی گئی تو ایک بے محل گریز ہوگی۔ یہ اشارہ کر دینا کافی ہوگا کہ اسلام ایک چوتھائی انسانوں کو بلا واسطہ اپنے اندر داخل کر چکا ہے۔ تمام نوع سے وہ بت پرستی اور اوہام پرستی چھڑا چکا ہے۔ جو تمام روحانی و مادی ترقی کے لئے سنگ راہ تھی۔ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے مذاہب میں جتنے اصلاحی انقلاب پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سب اس کے ظہور کے بعد ہوئے ہیں اور اسی کے اثر کا نتیجہ ہیں۔ ان مذاہب کے نئے فرقے اگر بالکلیت نہیں تو نیم اسلامی ضرور ہیں۔ توحید کا مہر عالم تاب تمام عالم پر چمک رہا ہے۔ رسالت کے مہر چاردہم کی کرنیں منکرین ہر جگہ جلوہ فگن دیکھ رہے ہیں۔ اگر اندرون خانہ ابھی نہ گھسنے دیں تو یہ وقت کا تقاضا ہے۔ بات قبضہ سے باہر ہوئی جارہی ہے۔ اقوال میں اگرچہ کچھ نہیں مانتے۔ اعمال میں سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں۔ زبانیں اظہار تسلیم میں تامل کریں اور گنگ رہیں۔ دل اندر ہی اندر معترف ہوتے جارہے ہیں۔ یہ وہ شراب نہیں جو مدت العمر چھپ چھپ کر پی جاسکے۔ وقت قریب ہے کہ اس مستی کا نشہ لب تقیہ و رسوم کے پردوں سے باہر آجائے اور پھوٹ کر منہ سے بانگ دہل کہہ دے کہ

تاکے درون پیرہن دارم ز محتسب
پنہاں کنم چو غنچہ نرگس پیالہ را

اس تمام عبارت سے بتانا یہ مقصود تھا کہ اسلام نے ابھی تک اپنا کمال نہیں دیکھا۔ ابھی تک راہ میں ہے۔ منزل پر نہیں پہنچا۔ "ولکل نبأ مستقر" کمال اس کا جب ہوگا۔ جب تمام نوع انسان اس کے اندر داخل ہو چکیں گی اور لسان و قلب سے اس کی برکات کی مدح سرا ہوگی۔ ابھی تک جو نشیب و فراز دنیا میں ہو رہے ہیں یا یوں کہو کہ اسلام دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اس کے عروج کی زنجیر کی ضروری کڑیاں ہیں وہ منزلیں ہیں جن سے اس کو لابد گزرنا ہے۔ ہزار کامیابیاں ناکامیوں کی راہیں ہیں اور لاکھوں ٹھوکریں ثبات قدم کا ذریعہ۔

پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والسلام دنیا میں اپنے زمانہ قیام کے اندر اسلام کے عالمگیر و اکمل اصولوں کی تبلیغ کو حد انتہا تک پہنچا گئے۔ کوئی ملک نہ رہا کوئی بستی نہ رہی۔ جہاں آواز حق نہ پہنچ کر رہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ اس "فرستادہ خاص پروردگار" اور "رسالت تمام حجت استوار" پر یہی فرض تھا اور یہی اس نے کیا۔

خلائق را ز دعوت جام در داد
بہر کشور صلائے عام در داد

اس پر یہ فرض نہ تھا کہ دوران حیات ہی میں تمام مخلوق کو مومن بنا جاتا۔ اس کا دل چاہتا تھا اور وہ اندر ہی اندر کڑھتا ہو کہ کیوں اکثر حصہ میری قوم کا بوجہ نادانی و جہالت اصلیت و حقیقت کا قائل نہیں ہوتا۔ مگر یہ اس کے بس نہ تھی۔ فطرتاً رؤف و رحیم تھا۔ مگر مشیت کے مقتضیٰ سے بھی مجبور تھا۔ اس کے سینہ میں اس تمنا کے جو سیلاب اٹھتے تھے۔ ان کا اندازہ حکیم مطلق کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے اور پھر ایک بار نہیں کئی دفعہ اس مضمون کو دہرایا گیا۔ "ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعاً أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین"

آخری حجت اپنی تکمیل کو پہنچ چکی۔ مگر قبول حجت کا زمانہ ابھی تا قیام قیامت جاری ہے۔ یہ تبلیغ توحید کی امانت اپنے متبعین یعنی ملت اسلامیہ کو سپرد کرتے وقت اس خاتم المرسلین نے وہ رموز و اسرار بھی ایک خاص حد تک ان پر افشاء کر دیئے۔ جو ابھی آغوش مستقبل میں مستور و محجوب تھے۔ بطور پیش گوئیوں کے وہ تمام اہم ترین انقلابات جو اس ملت کی زندگی میں واقع ہونے والے تھے۔ سب کے سب کہہ دیئے۔ جہاں یہ پیش گوئیاں اپنے پورے ہونے کے وقت پیغمبر کی صداقت و دیانت پر حجت تھیں۔ وہاں ملت کو بطور حفظ ما تقدم احتیاط و حزم کے اعلان بھی تھے۔

ملت کا حلقہ چونکہ اتنا وسیع ہونا مطلوب تھا کہ اس سے اوسع بھی ہو نہ سکے اور پھر زندگی

بھی اس کی وقتی طولانی کہ ختم ہو تو حشر ہی برپا ہو۔ ساتھ ہی ادھر فطرت بشر میں بشریت کے سبب تقاضے میں سے کسلان و غفلت پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنے فرائض سے غافل و کوتاہ پڑ جاتا ہے۔ معلوم تھے۔ اس لئے جن جن مواقع پر تقدیر میں یہ تھا کہ قاصدان توحید سستی کی وجہ سے اپنی رفتاروں کو ڈھیلا کر دیں گے۔ ان کی طرف بھی خاص اشارے کر دیئے اور بتلا دیا کہ جب عوام میں یہ کمزوریاں ایک خاص حد تک رونما ہو جایا کریں گی۔ ہمارے نائب خاص جن کا کام ایجاد نہیں بلکہ تجدید ہوا کرے گا۔ وقتاً نمودار ہوا کریں گے۔ ہمارے دیئے ہوئے مگر بھولے ہوئے سبق از سرنو پڑھا کر لوگوں کو سبق عمل پر کمربستہ کر دیا کریں گے۔ ہمتیں پھر ایک خاص عرصہ کے لئے اٹھ جایا کریں گی۔ ہمتوں میں برکت پیدا ہو جایا کرے گی۔ فراموش کردہ سچائیوں کی اہمیت آشکارا ہوا کرے گی اور ملامت کے تازیانے سمند عمل کو گرم تک میری کیا کریں گے۔ روح القدس کسی شخص عام پھر دکھا دیا کرے گا۔ کہ ؎

دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا می کرد

فداک روحی یا محمد ؎

ہر زمینے کہ نشان کف پائے تو بود
سالہا سجدۂ صاحب نظراں خواہد بود

مدعیان مجددیت و مہدویت ؎

سگ باش زاعجاز نہ تنہا میزن
میاں دعویٰ و حجت ہزار فرسنگ است

رسول عربی ﷺ نے ایسے ارباب ارشاد کے ظہور کا وقت جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہر سو سال کے بعد بتایا اور ان کو مجددین دین کے نام سے تعبیر کیا۔ ان کے متعلق اس زبان اطہر سے جو وارد ہوئے وہ یہ الفاظ ہیں: "ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا"

ان الفاظ سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ جو شخص تجدید دین پر مامور ہوگا۔ وہ از خود مدعی بھی ضرور ہوگا۔ کوئی حقیقت اپنے پاس ہو تو اس کا دعویٰ اگر مذموم نہیں تو عبث و فضول ضرور ہے۔ دعووں کی خاص طور پر ضرورت جب بھی ہوتی ہے باطل مدعیوں کو ہوتی ہے۔ ورنہ یہ کون جانتا کہ مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔

تیرہ سو سال سے زیادہ گذر رہے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہر سو سال کے اختتام پر دین کی رونق و زینت کو دوبالا کرنے والا کوئی نہ کوئی مرد خدا ضرور پیدا ہوا ہے۔ پورے سو سال کے بعد یا اس سے کم و بیش مقدار ایک سا ہے۔ خواہ مجدد سو سال کے سر پر ظاہر ہو یا درمیان میں یا آخر میں۔ غرض ایک ایسے وجود کے ظہور سے ہے جو تجدید کا کام سرانجام دے۔ تجدید کے معنی پرانی چیز کے تازہ کرنے کے ہیں۔ نہ کہ احداث و ابتداع کی۔ دین میں تجدید کے جو معنی ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو غلو سے روکا جائے۔ جہلاء کی تاویلوں کی نفی کی جائے اور حق و باطل میں تمیز دکھائی جائے۔ جو یہ نہ کرے وہ کیسا ہی فاضل ہو، عاقل ہو، فقیہ ہو، صاحب دل ہو، صاحب مکاشفہ ہو مجدد نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بتلا دینا بھی غیر محل نہ ہوگا کہ لفظ من کا اطلاق واحد اور متعدد دونوں پر ہو سکتا ہے۔ یہ قطعی طور پر لازمی نہیں کہ مجدد ایک صدی میں ایک ہی ہو۔ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر تاریخ مذہب اسلام ان واقعات پر پورے طور پر روشنی ڈالتی ہے۔ مجددین برحق کوئی چھپی ہوئی ہستیاں نہیں۔ بات مدعی ہونے کے متعلق تھی۔ بیشک یہ پھر ایک صداقت میں واضح ہے کہ ان کے ایام زندگی ہی میں لوگوں نے ان کی خدمت ملت و دین سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ بموجب حدیث نبوی مجدد ہیں۔ ان کو اس لقب سے یاد بھی کیا گیا۔ مگر انہیں خدمت کی دھن تھی۔ وہ کام کرتا تھا جو کرنے آئے تھے۔ نہ کہ اس لقب کو اختیار کرنے کی خاص فکر وہ پیغمبر نہ تھے کہ دنیا کو مذہب از سر نو سکھاتا تھا۔ نئے احکام دیتے تھے۔ اپنے منکرین پر اپنے دعووں کی حجتوں کو پورے زور سے عیاں کرتا تھا اور اس نئے تحدی ان کا فرض تھا۔ پیغمبر کے دعویٰ میں چونکہ اس کی تبلیغ مضمر ہوتی ہے۔ اسے بغیر تحدی بن نہیں پڑتی۔ اس کے انکار سے خلق خدا صرف اس کی منکر ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اپنے خالق کی بھی منکر ٹھہرتی ہے۔ اس لئے اس کا ہر اس قسم کا اعلان ہمیشہ بطور دعویٰ ہی پیش ہو سکتا ہے۔ اسے مقصود خدا اس سے مخلوق کو روگرداں کرنا ہوتا ہے۔ حقیقی معبود کی عبادت پر سب کو لانا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے دعوے اس کے نہیں ہوتے بلکہ وہ خود اس کے مامور کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ مجددین کے لئے کہیں واجب نہیں اور کسی صورت اولیٰ نہیں کہ وہ بھی اسی حیثیت میں مدعی ہوں اور سچ یہ ہے کہ حقیقی مجددوں کو جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے۔ شغل اصلاح و فکر تجدید ایسے عبث دعووں کے خواب بھی کہاں آنے دیتی ہے ؎

بدین صفت کہ خم از شراب عشق خراب
مرا چہ جائے کرامات و نام و ننگ است

مگر نحوائے انا نحن و تعرف باخدا وعدہ۔ جہاں سچے برحق اور غیر مدعی مجددین (مثلاً امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت مجدد الف ثانی وغیرہم) کو ظاہر ہونا تھا۔ وہاں کاذبوں اور مدعیوں کو بھی موقعہ تھا کہ حدیث پیغمبر کو حجت پکڑتے اور اس سے تمسک کر کے اپنی ڈینگ مارتے۔ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہو چکا ہے اور قریباً ہر صدی کے گذرنے پر ہوا ہے کہ اصلی مجدد نے تو چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام شروع کیا۔ بغیر اس احساس کے کہ وہ مجدد ہے بھی یا نہیں اور ادھر ایک دو بلکہ اس سے زیادہ مدعیوں نے اپنے مکر وحیلے کے جال پھیلا، مناظروں اور پیش گوئیوں کے اعلان کر کے اپنے حواریوں کی جماعتیں پیدا کر لیں۔ جو انھیں اس صدی کا مجدد کہیں اور ان کے نام کا ہر طرف ڈنکا بجائیں۔ آخر نے تو ابھی خاص لاکھوں کی تعداد میں گروہ بھی بنا گئے ہیں۔ جو ان کے بعد بھی اس زہر کو پھیلانے میں کچھ عرصہ کوشاں رہے۔ مگر آخر فنا ہو گئے۔ "ان الباطل کان زہوقا"

اس تمہیدی بحث کو چھوڑ کر اپنے اصل مدعا کو پکڑتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا اوپر بیان ہو چکا ملت اسلامیہ اپنے تمام نشیب و فراز دیکھتی۔ آخر اس گھڑی پر پہنچنے والی ہے۔ جہاں یہ تمام اقوام و مذاہب کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ مگر چونکہ وہ اس کے انتہائی فراز کا دور ہوگا۔ اس لئے اس سے پہلے اس کو اپنا انتہائی نشیب بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول مقبول ﷺ نے اپنی احادیث میں جہاں مجددین اسلام کا ذکر فرمایا۔ وہاں یہ بھی بطور پیش گوئی کے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت ان ان حوادث و واقعات کی بنا پر اپنے انتہائی انحطاط کو پہنچے گی۔ یعنی یوں کہو کہ قضا آخر الزمان کو وہ پہنچے گی تو اس کے بعد آخری مگر سب سے بڑا اور افضل ترین مجدد جو مہدی کے لقب سے ملقب ہوگا، رونما ہوگا اور آخری مقصد تبلیغ کو تکمیل دے گا۔

الغرض نشیب و فراز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر خدا ﷺ کے حسب ذیل ارشادات مطالعہ کرنے دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے۔

"عن عبداللہ ابن مسعود ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تذھب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اھل بیتی یواطی اسمہ اسمی رواہ الترمذی وابوداؤد۔ وفی روایۃ لہ قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ تعالیٰ ذالک الیوم حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اھل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی یملاء الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً" { عبداللہ بن مسعود سے

روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے عرب کا مالک ہو جائے۔ جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ {ترمذی وابوداؤد} اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر مدت دنیا سے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا۔ جس کا نام، میرے نام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل وانصاف سے بھر دے۔ جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم، بے انصافی سے بھری ہوگی۔}

"عن ابی سعیدؓ قال ذکر رسول اللہ ﷺ بلاء یصیب هذه الامة حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیه من الظلم فیبعث اللہ رجلا من عترتی واهل بیتی فیملا به الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدراراً ولا تدع الارض من نباتها شیئاً الا اخرجته حتی تتمنی الاحیاء الاموات تعیش فیه ذالک سبع سنین او ثمان او تسع" {ابی سعیدؓ سے مروی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس امت پر ایک ایسی بلا نازل ہوگی کہ کسی شخص کو اس سے جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تب اللہ میرے اہل بیت سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین کو عدل وانصاف سے بھر دے گا۔ جیسے کہ وہ پہلے جور وظلم سے پر ہوگی اور ساکنان زمین وآسمان اس سے خوش ہو جائیں گے اور آسمان کوئی قطرہ پانی کا برسائے بغیر نہ رہے گا اور زمین کوئی انگوری اگائے بغیر نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کے جی اٹھنے کی خواہش کریں گے۔ وہ سات یا آٹھ یا نو سال زندہ رہیں گے۔}

"عن علیؓ قال قال رسول اللہ ﷺ یخرج رجل من وراء النهر یقال له الحارث حراث علی مقدمته رجل یقال له منصور یوطن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ ﷺ وجب علی کل مؤمن نصره او قال اجابته رواه ابوداؤد" {حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایک شخص ماوراء النہر سے نکلے گا۔ جس کا نام حارث ہوگا۔ جس کے مقدمہ لشکر پر ایک شخص منصور نام ہوگا۔ وہ آل محمد کو تسلی اور اطمینان دے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو قریش نے دی تھی۔ ہر ایک مؤمن کو اس کی امداد واطاعت واجب ہوگی۔}

"وعن ثوبان ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا رایتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوھا فان فیھا خلیفۃ المھدی رواہ احمد والبیھقی"
{حضرت ثوبان ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے دیکھو تو ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ ہوگا۔}

گویا وہ علم بردار مساوات و حریت یعنی حضرت مہدی علیہ السلام جن جن آثار و قرائن سے آشکار ہونے والا ہے۔ وہ سب متعین الشخص کر دیئے ہیں۔ ان تصریحات کے مقابلہ میں تاویلیں لایعنی و مہمل ہیں۔ اپنے منہ سے ہر شخص کو باتیں بنانے کا اختیار ہے۔

مگر جہاں مجدد کا لقب اتنا ہوس انگیز ثابت ہوا کہ ہزاروں مدعیوں نے اسے اختیار کیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ بڑے دعویٰ کے مدعی مہدی بن کر نہ رہتے۔ چنانچہ اکثر نے دعوی کئے اور دعویٰ کے وقت ہمیشہ کہا کہ یہی زمانہ آخری اجتماع کا زمانہ ہے۔ جعل کا رواج اس سے بڑھ کر نہ کبھی آگے ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ سب کی اس تجدید پر، موقوف کیا ہے اور بجز ہمارے دعوے کے تسلیم کئے نجات اخروی محال قطعی ہے۔ جمہور ملت نے ایسے مدعی کو آج تک کسی وقعت کی نظر سے دیکھا اور نہ ہی آج تک کوئی حق بجانب ثابت ہوا۔ مجددین جو حقیقت میں مجدد دین تھے۔ وہ خود آشکار ہو کر رہے۔ مدعیان تجدید مرمٹ گئے۔ مگر مہدویت کا مسئلہ آج تک بالکل کسی کا نہ ہو سکا۔

مشتے نمونہ از خروارے

ہم ذیل میں چند ایسے شخصوں کے نام دے دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے مہدویت کے دعوی کئے یا جن کے مریدوں نے کچھ عرصہ انہیں مہدی بنائے رکھا۔ مہدویت چھوڑ ان میں سے بعض نبوت کے مدعی بھی تھے۔

اسود عنسی، زکریہ بن امام محمد باقر، مغیرہ، ابن سعید، طلحہ بن خویلد، عبداللہ بن معاویہ، احمد بن محمد بن حنفیہ، سلیمان قرمطی، یحییٰ، عیسیٰ بن مہرویہ، ابوجعفر محمد بن اسمعیل، عبیداللہ بن احمد فاطمی، محمد نفس زکیہ، محمد بن قاسم، قاسم بن مرہ، عباس محمد بن تومرت، استاذ سیس، عطاء، عثمان بن نہیک، حسن عسکری، محمد بن حسن عسکری، محمد مہدی عباسی، احمد بن کیال، شیخ محمد خراسانی، محمد احمد سوڈانی، موہنیا، واسع، مجموعہ، ابراہیم بدلہ، علی محمد باب، محمد کیانی۔

قطع نظر ان سے خود ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ سید محمد جونپوری وغیرہ

کو سب لوگ جانتے ہیں اور پھر آخری شخص تو وہ ہے جسے رحلت فرمائے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں اور جس کے کارناموں کے چرچے اپنی مختصر رفتار سے ابھی جاری ہیں۔ ہمارا اشارہ صاف ہے اور جناب مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہے۔ انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مہدی آخر الزمان بنے۔ مسیح موعود اپنے آپ کو کہا۔ (یہ جرأت ان سے قبل آج تک کسی دوسرے کو نہ ہوئی تھی) ہندوؤں کے لئے کرشن بنے اور ان سب پر طرہ یہ کہ مرسل و نبی ہونے کا پیغام بھی دنیا کو دیا۔ ان سب دعوؤں کی تائید ہزارہا الہاموں سے کی۔ جن میں سینکڑوں وعدے اور سینکڑوں دھمکیاں تھیں۔ تحدیاں کیں۔ پیشین گوئیوں کو رواج دیا۔ نئی نئی باتیں بنائیں۔ بنی ہوئی سینکڑوں بگاڑنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ علم و فضل کے مالک تھے۔ مناظرے کے میدانوں میں بھی قدم مارے۔ ہارے یا جیتے یہ قسمت کے کھیل تھے۔

مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

بھی تقریروں اور تحریروں سے ایک دو نہیں ہزاروں سادہ لوح متاثر ہوئے۔ مجددیانہ بڑوں کے چھوٹوں میں کئی عقیدت شعار بنے۔ جہاں محکمات کو متشابہات کر دکھایا۔ وہاں خود انکی متشابہات سے ارادت مندوں کو محو کر دیا کہ وہ خصوصیات احمدیہ و مرموزات مہدویہ کے عقیدوں سے تا قیامت کسی اور طرف آنکھ نہ پھیریں۔ وہم پرستوں کے لئے اکسیر کا بہترین نسخہ ظاہر ہوئے۔ انتظار مہدی کے مریضوں کے لئے نہ صرف مہدی بلکہ مسیح بنے۔ سائنس دانوں کی خاطر معجزات کو نئے سے نئے رنگ دیئے۔ معجزہ کے طلبگاروں کے لئے پیشین گوئیوں کے دفتر لکھے۔ علماء کی تواضع تفسیر واجتہاد سے کی۔ گویا ہر محفل کے صدر بنے اور ہر رنگ پر اپنا رنگ غالب کرنے کی سعی کی۔ جس خیال کا کوئی دیکھا اسی خیال کے پردے میں اپنا خیال چھپا کر اس کے پیش کر دیا۔ پھر کون تھا جو اس کرشمہ کا شہید نہ ہوتا اور اس دولت کو قبول نہ کرتا ؎

بہ یک کرشمہ کہ نرگس بخود فروشی کرد
فریب چشم تو صد فتنہ در جہاں انداخت

جو بچ گئے اپنی قسمت کو دعائیں دیں اور خدا بخشندہ کا شکر ادا کریں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

متبعین کی تعداد ابھی لاکھوں میں ہے۔ ہمارے بھائی ہیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے ایک دفعہ ایک رشتہ میں ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے تھے۔ پھر بھی ہم سے الگ ہوتے۔ مگر کیا کریں جس

قطع و برید پردہ سے بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں کی ایجاد ہے۔ نہ ہماری مرزا قادیانی موصوف میں کوئی ایسی خوبی ہوگی۔ جسے دیکھ کر وہ باقی سب امت محمدیہ سے جدا ہوئے۔ مگر خدائے واحد شاہد ہے کہ ہمیں آج تک بجز دعووں اور بے جا تاویلوں اور تحریفوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ دل آزاری اپنے بھائیوں کی مطلوب نہیں۔ یہ لکھتے ہوئے اپنا دل دکھتا ہے۔ مگر مذہب کا معاملہ ہے۔ کتمان حقیقت یہاں گناہ ہے۔ مرزا قادیانی کی ان کے مریدوں کی آنکھوں میں اگر کوئی ظاہری خوبی ہے۔ تبھی تو وہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ ایسی کہ بری خوبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کجی ہوتی بلا ایسی ضرور ہوگی۔ جو اگر اس خوبی پہ جاتے ہیں تو اس بنا میں بھی بری طرح گرفتار ہوتے ہیں ؎

دل خال تو دیدہ است وندیدہ خم زلفت
اے مرغ مرو در پئے ایں دانہ کہ دام است

یہ بہتان نہیں جو لکھ رہے ہیں۔ بے جا حملے نہیں جو کر رہے ہیں۔ ایسا دعویٰ نہیں جس کے لئے دو چار ثبوت ہوں۔ حقیقت ہے اور حقیقت ظاہرہ صداقت ہے اور صداقت باہرہ اسی حقیقت و صداقت کو کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر لکھنے کا ارادہ ہے کہ یہ طول طویل سوادیات لکھنے پڑے۔ مرزا قادیانی کے جو دعاوی قرآن و حدیث پر مبنی تھے۔ ان کا رد بارہا قرآن سے کیا گیا اور وہ غیر معروف نہیں۔ آئے دن بھی جھگڑے ان کے مقلدین سے پیش رہتے ہیں۔ جو پردہ ہم اپنے بھائیوں یعنی مرزا قادیانی کے پیرووں کی چشموں سے آج اٹھانا چاہتے ہیں وہ وہ ہے۔ جس کے اٹھتے ہی حقیقت کا رخ ناظرین وہ خود دیکھ لیں گے۔ جو شہادت نہایت معتبر و غیر متزلزل سمجھ کر مرزا قادیانی اپنی مہدویت کے ثبوت میں ہمارے بھائیوں کو دیتے گئے ہیں۔ وہی شہادت اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوگی اور پکارے گی کہ میں کتنی مبدل و محرف تھی۔ جس صورت میں کہ جناب مرزا قادیانی نے مجھے پیش کیا۔ میرے معنی کیا تھے اور کیا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کئے گئے۔ مجھے نہ صرف یہ شکایت ہے کہ مرزا قادیانی وہ مہدی نہ تھے۔ جس مہدی کے لئے میں کہتا ہوں اور مجھے بے محل پیش کیا۔ بلکہ یہ کہ میرے حق میں مرزا قادیانی اپنے علم و فضل سے دور چلے گئے۔ میں ایک معصوم شہادت تھی۔ مجھ کو مذاق ادب کی محک پر نہ پرکھا۔ حالانکہ ان کے حواریوں کا دعویٰ ہے کہ آپ عروض و مصرع سازی میں بھی ید طولیٰ رکھتے تھے۔ قرآن و حدیث کی طرح میری طرف بھی چشم تحقیق کو ہرگز ملتفت نہ ہونے دیا۔ مجھے یہ شک بے شک نہیں۔ گمان غالب ہے کہ میری شکل کو دانستہ بگاڑا گیا ہے۔ تاکہ میں کسی کی ہم شکل بن جاؤں۔ میں مدتوں سے جو ہر رنگ زدہ تھی۔

انصاف کرتے جو تم حق بین کو ادا کرتے تو یہ زنگ مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتے نہ کہ اور چڑھاتے۔ غیر انہوں نے جتنے پردہ زنگاری میں مجھے چھپایا۔ میری اتنی ہی قدر اور بڑھی اور میرے شوق دید نے آنکھوں کو گرمایا اور مجھ کو اصلی رنگ میں دیکھنے پر آمادہ کیا۔ یعنی ہر رنگ کے جامہ میں میرا اعزاز قدر وہی رہا جو تھا۔

شاہ نعمت اللہ کرمانی کی پیش گوئی اور مرزا قادیانی

کلام شاہ کرمانی نشان آسمانی ہے
کہ کذاب جس سے ثابت مدعی قادیانی ہے

موجودہ مستشرقین یورپ میں پروفیسر براؤن چوٹی کے ادباء میں شمار ہیں۔ فارسی علم ادب و تاریخ پر آپ سند ہیں۔ اس وقت جب کہ تمام مشرقی علوم وفنون کے خزانے اہل مغرب کے گھروں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ پروفیسر موصوف جیسے فراخ حوصلہ آدمی جب کبھی ہم مشرقیین کو ہماری لٹی ہوئی دولت سے بطور صدقہ وخیرات کچھ عنایت فرمائیں تو اسے قبول کرتے وقت یقیناً ہم کو پشیمان بھی ہونا چاہئے اور غیرت میں بھی آنا چاہئے۔ مگر ساتھ ہی ان کے جائز شکریہ میں بھی بخل سے کام نہ لینا چاہئے اور تصانیف کے علاوہ فارسی علم ادب کی تاریخ پر آپ ہمیں گراں بہا مستند کتابیں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری کتاب ابھی ابھی ولایت میں چھپ کر یہاں پہنچی ہے۔ اس کا نام ہے۔ ’’فارسی علم ادب در عہد تاتاریاں‘‘ اس کتاب میں تاتاری زمانہ کے شعراء کے تذکرہ میں پروفیسر صاحب نے شاہ نعمت اللہ کرمانی کے حالات وسوانح لکھے ہیں ان کے مشہور مگر غیر مطبوع قصیدہ (بردیف مے بینم) کو جس میں بہ شکل کنایات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور دیگر متعلقہ واقعات کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ درج کیا ہے۔ اس معاملہ میں پروفیسر موصوف کی تحقیق وتدقیق کا اندازہ صرف اسی امر سے ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے ایران کے سفر میں ماہان جہاں شاہ صاحب کا مزار ہے۔ گئے ہیں اور وہاں اس قصیدہ کا وہ نسخہ حاصل کیا ہے جس کو وہ نہایت معتبر اور سب سے قدیم بتاتے ہیں۔ ایسی قومیں کیوں نہ دنیا پر حکمرانی کریں۔ جن میں ایسے اس قسم کے محقق افراد موجود ہوں جو غیر ممالک میں علمی تحقیقوں کی خاطر سفروں کی اتنی زحمتیں گوارا کریں۔ یہ تحقیقات خواہ اسی بنا پر کی جاتی ہوں کہ اقوام جن پر حکومت کرنا مطلوب ہو۔ ان کے قلب ودماغ کے رجحان کا پتہ چلا سکیں۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ یہ ہنرمند وہوشیار لوگ جو تحقیق بھی کرتے ہیں اور خاص کر علمی اور ادبی تحقیق وہ تعصب اور طرفداری کی لوث سے

پاک ہوتی ہے۔ ایک اجنبی سے اجنبی بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک غیر مذہب غیر ملک کا آدمی جس کو محض علمی و ادبی ذوق مختلف ممالک میں کشاں کشاں لئے پھرتا ہے۔ وہ جو رائے بھی اپنے فن کے متعلق پیش کرے گا۔ وہ تعصب کی آلودگی سے پاک ہوگی۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اور ہر وہ شخص جس نے یورپ کے مصنفین کی اس قسم کی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس امر کو یاد کرے گا کہ یہ لوگ اگر مذہب اسلام نہیں تو اسلامی لٹریچر پر ضرور اپنی رائیں آزادانہ دیتے ہیں اور وہی لکھتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ مذہب اور تاریخ اسلام پر حملہ کرنے والے بھی عام طور پر اس گروہ سے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ وہ اشخاص ہیں جن پر مذہبی رنگ زیادہ غالب ہے۔ کم از کم ادباء کی نسبت ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام کے اندرونی تفرقوں پر بحث کرتے ہوئے اپنی رائے دیتے وقت طرف داری کے عیب سے پاک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو طرف داری کی ضرورت بھی کیا ہو سکتی ہے۔ پروفیسر براؤن کو کیا غرض ہے کہ وہ حضرات تشیع کی خاطر اہل سنن کی کسی خوبی کو چھپائیں یا ان کے ایک شاعر کو محض اس لئے برا کہیں کہ دوسرے کو خوش کر سکیں۔

شاہ نعمت اللہ کرمانی کے سوانح پروفیسر براؤن نے نہایت تحقیق کے بعد لکھے ہیں۔ ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ جہاں سے اخذ کئے ہیں۔ گویا ہمارے لئے شاہ صاحب کو دنیا میں پھر زندہ کر دکھایا ہے۔ شاہ صاحب کا قصیدہ "مے بینم" جو ہمارا اصلی بحث ہے۔ وہ اپنی دیانت کی بناء پر انہوں نے ویسے کا ویسا ہی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ جیسا ان کو ملا ہے اور جس کو وہ اپنی تحقیق پر سب سے معتبر اور قدیم بتا رہے ہیں۔

یہی شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی کا "قصیدہ مے بینم" وہ معرکۃ الآرا قصیدہ ہے۔ جس میں شاہ صاحب نے اپنے وہ مکاشفات بیان فرمائے ہیں جو واقعات و حالات قرب قیامت آخر الزمان اور ظہور امام مہدی پر مشتمل ہیں۔ اس قصیدہ سے بھی بعض مدعیان مہدویت نے ویسا ہی تمسک کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث نبوی سے، چنانچہ پروفیسر براؤن جیسا کہ ان حالات سے جو انہوں نے شاہ صاحبؒ کے لکھے ہیں۔ آگے چل کر ظاہر ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ ایران میں بابیوں نے ظہور باب کے متعلق بھی اسی سے استشہاد کیا اور اس کے ظہور کی تاریخ ایک شعر کے ان حروف ابجد سے نکالی۔ جو ظہور مہدی کے متعلق اس میں دیئے گئے ہیں۔ خواہ یہ حروف بدل کر یا کیا گیا ہو۔ کیا حرج ہو گیا۔ بقول مرزا غلام احمد قادیانی، ہندوستان میں سید احمد بریلوی صاحب کے پیرووں نے اسی شعر سے سید صاحب موصوف کے ظہور کو اس پیش گوئی کے مطابق سمجھا اور کہا کہ یہ پیش گوئی صرف ان ہی

کے متعلق کی گئی تھی۔ پھر ان کے اس دعویٰ کا ابطال کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ان پر چسپاں کرنے والوں کی یہ صریح غلطی تھی۔ پیش گوئی دراصل میرے حق میں ہے۔ تاریخ بھی چودھویں صدی برآمد ہوتی ہے۔ نہ کہ تیرھویں اور باقی حالات بھی میرے حسب حال ہیں۔ نہ کہ ان سے پہلے کسی اور کے۔ ان امور سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس پیش گوئی کی کتنی اہمیت ہے اور مدعیوں نے اس سے کس کس طرح تمسک کیا ہے۔

جو معتبر شہادت کہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔ مرزا قادیانی سے بزبان حال شاکی اور نالاں ہے اور ان کے صریح مخالف ہے۔ وہ بھی شہادت ہے۔ مرزا قادیانی نے اسے اپنے حق میں ۱۸۹۲ء میں شائع کیا تھا۔ اٹھائیس سال کے بعد پروفیسر براؤن کی عنایت سے آج یہ شہادت خشت از بام ہوئی ہے اور اپنے اصلی رنگ میں کھلے طور پر دنیا کے اور خاص کر مسلمانوں کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ مسلمان، پروفیسر صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اگر وہ اسے اپنی کتاب میں درج کر کے شائع نہ کرتے تو باطل اپنے آپ کو حق کی شکل میں پیش کر ہی چکا تھا اور ہم بزدلوں میں سے کسی کو اس کے باقاعدہ رد کی جرأت نہ تھی۔ پروفیسر صاحب نے اپنی طرف سے محض ادبی دنیا پر یہ احسان کیا تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پاس کسی فرقہ کی بنیاد ہی ایک حد تک اس خشت پر قائم ہے۔ سو وہ اب دو شکریوں کے مستحق ہیں۔ ادبی لوگ بھی ان کے ممنون ہوں اور مذہبی بھی۔

ہندوستان میں یہ پیش گوئی جہاں تک ہمیں اس وقت تک معلوم ہوا ہے۔ پانچ چھ افراد سے زائد کے پاس موجود نہ تھی۔ ایک نسخہ بمبئی میں تھا۔ ایک ندوۃ العلماء میں۔ ایک بہاولپور میں بتلایا جاتا ہے۔ ایک وہ ہوگا جس سے مرزا قادیانی نے نقل کیا اور اپنے حق میں شائع کیا۔ شاید ایک آدھ اور بھی بزرگ ہوں جن کے پاس قلمی نسخے ہوں۔

مرزا قادیانی نے تمام دنیا کو چیلنج دیتے ہوئے جب اس آسمانی شہادت کو بطور حجت کے پیش کیا تو اس کی تردید کسی طرف سے نہ ہوئی۔ حالانکہ ایسے نسخے جب بھی موجود تھے۔ جو مرزا قادیانی کی نقل سے اختلاف رکھتے تھے اور جن سے کئی قسم کی قلعی کھل سکتی تھی۔ مگر اس وقت جو کسی کو تردید اور مقابلہ کی جرأت نہ ہوئی تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جس جس صاحب کے پاس یہ نسخہ تھا وہ جانتا رہا کہ یہ میرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر میں نے شائع کیا اور مرزا قادیانی کے نسخے سے اختلاف ظاہر کیا تو وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو مولوی اسماعیل شہید کی

کتاب سے اسے نقل کر رہے ہیں۔ ہمارے لئے یہ سند ہے۔ تم بتاؤ کہاں سے اسے لے رہے ہو۔ تم ہمارے نسخے کو جھوٹا اور غلط کہتے ہو۔ تمہارا ہم سے زیادہ غلط ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارا صحیح ہے اور ہمارا غلط۔ اگر ذرا بھی ان کے شائع کرنے کی ہمت پڑتی اور بات بگڑ جاتی تو اور بھی اس کی مدد کو پہنچتے۔ بات کھل جاتی۔ مگر ہر ایک اسی ڈر سے چپ رہا اور ضبط کئے رہا اور مرزا قادیانی بلا خوف تردید اپنی شہادت کو آسمانی شہادت کہہ گئے اور اپنی مہدویت کا سکہ جما گئے۔

اب جو پروفیسر براؤن کی کتاب آئی۔ بعض ادبی مذاق کے لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو کئی احباب کو یاد آگیا کہ مرزا قادیانی نے بھی اس قصیدہ کو اپنی مہدویت کا سنگ اساسی قرار دیا تھا اور اسے شائع کیا تھا۔ آؤ ذرا ان کے شائع کردہ قصیدہ اور اس کو ملائیں۔ کہاں تک مطابقت کھاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے معلوم ہوا کہ فرق زمین آسمان کا نہیں۔ بلکہ تحت الثریٰ اور فوق السما کا ہے۔ شک پیدا ہونے لگے کہ دال میں اور بھی کالا ہے۔ مرزا قادیانی نے اشعار کی جو ترتیب دی ہے۔ اس میں کئی طرح کے شکوک ہیں۔ بعض الفاظ و تراکیب اس طرح خلط اور الٹ پلٹ کئے ہیں کہ معانی کو آسمان سے زمین کر دیا ہے۔ پھر جن اشعار کی اپنے حق میں تشریح کی ہے۔ ان میں تو اور بھی غضب ہے۔ کوئی بات نہیں چھوڑی جو ان کے مخالف ہو سکتی تھی اور اس کو اپنے حق میں ثابت نہیں کیا۔ جن اشعار کی تشریح کر کے مضمون کا تسلسل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق تمام نظم میں سے کہیں کہیں سے اٹھا کر رکھ دیئے ہیں۔ جو صریحاً مخالف تھے۔ جن کی تاویل کی کوئی شکل نہ تھی۔ ان کو چھوا تک نہیں۔ گویا میٹھے میٹھے (جن کو خود میٹھے بنانے کی کوشش کی گئی ہے) سب چن کر رکھ لئے ہیں اور کڑوے کڑوے سب چھوڑ دیئے ہیں۔ خیر اس مضمون کو مفصل طور پر ہم اگلے باب میں لکھیں گے۔

یہاں پر یہ جتا دینا ضروری ہے کہ مرزا قادیانی نے اس شہادت کو معتبر ترین شہادت سمجھا ہے اور شہادتوں کے سلسلہ میں اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ جہاں اس کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مجذوب کے اقوال کو بھی بطور سند پیش کیا ہے۔ جس کی نسبت اس جگہ کچھ لکھنا بے محل ہے۔ ان دونوں پیش گوئیوں کو ایک جگہ شائع کر کے مرزا قادیانی نے ان کو حجت اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ کتاب کا ایک نام ''نشان آسمانی'' رکھا ہے اور دوسرا ''شہادت الملہمین'' سرورق پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ: ''الحمد للہ والمنۃ کہ رسالہ شافیہ کافیہ جو مخالفوں پر حجت اللہ اور

موافقوں کے لئے موجب زیادت ایمان و عرفان ہے۔"

حسب ذیل قطعہ بطور تحدی اس ٹائٹل پر بحروف جلی رقم فرمایا ہے:

عیسے نشان آمدنی مخلص جدا اگر تودانی
یا مسولی خویش راہروں آر یا تو بہ مکن زہد کمانی

قارئین کے دلوں پر اس شہادت کا اعتبار جو مرزا قادیانی بٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ منقولہ صدر عبارتوں اور قطعہ سے پورے طور پر عیاں ہے۔ قطعہ کا دوسرا مصرعہ جس دعویٰ پر دال ہے۔ وہ محتاج بیان نہیں۔ گویا "فاتوا بسورۃ من مثلہ" کا جواب لکھا ہے۔ کوئی شخص ان الفاظ کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شہادت مرزا قادیانی کے خیال میں کوئی معمولی اور محض ضمنی سی شہادت تھی۔ ہمارے خیال میں اور کسی شہادت کی مرزا قادیانی کے خیال میں اتنی وقعت نہ تھی۔ جتنی اس کی۔ اس لئے کہ اور شہادتیں زیادہ تر عقلی و نقلی ثبوتوں پر مبنی تھیں اور یہ خالص الہام پر۔ جب ایک الہام کی تائید دوسرا الہام کرے تو وہ الہام کس حد تک پکا اور معتبر نہ ہوگا۔

مرزا قادیانی سے اس سے زیادہ اور کیا بن پڑ سکتی تھی کہ وہ الہام کی تائید میں الہام ہی پیش کرتے۔ اس پر بھی جو نہ مانتے وہ انہیں شقی ذلیل کہنے کے ہر طرح مجاز تھے۔ سادہ لوحوں پر اس شہادت سے بڑھ کر اور کسی شہادت کا اثر بھی کم ہو سکتا تھا۔ جہلا تو گرفتار ہوئے۔ انکی باتوں کے۔ کتاب کا نام ہی شہادت آسمانی رکھ کر اس میں وہ جادو مضمر کر دیا کہ لاکھوں پڑھے مسحور ہوں۔

اصل پیش گوئی اور اس کی تشریح، جو مرزا قادیانی کی ہے اس پر تنقید

پروفیسر براؤن کی عبارت ظاہر کرتی ہے کہ شاہ نعمت اللہ صاحب کے دیوان کو مطالعہ کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچتا ہے اور ان کی زندگی بھی ساری اسی رنگ کی تھی کہ وہ ہمیشہ تصوف میں غرقاب رہتے۔ اسی مضمون پر عام رسالے لکھتے اور مسئلہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے۔ اس سے الگ وہ عام طور پر بطور پیش گوئیوں کے کچھ کلام کہتے۔ جس کا اشارہ حضرت آخر الزمان اور ظہور مہدی کی طرف ہوتا۔ ان دونوں مضامین کی طرف ان کے کلام میں کئی کنائے ہیں اور بعض جگہ صاف بیانیوں سے بھی کام لیا ہے۔ اس قصیدہ میں جو ہمارا بحث فیہ ہے۔ انہوں نے ظہور مہدی اور اس سے قبل حضرت آخر الزمان کے متعلق اپنے تمام مکاشفات کو یکجا اکٹھا کر کے بیان فرما دیا ہے۔ آپ ۷۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۳۴ھ میں انتقال فرمایا۔ قصیدہ کی تصنیف کا سال عیاں طور پر کہیں نہیں دیا گیا۔ تاہم یہ واضح ہے کہ قصیدہ اسی زمانہ کا ہو سکتا ہے۔ جب آپ صاحب مکاشفہ ہو چکے

ہوئے تھے۔ یہ زمانہ کم و بیش ۸۰۰ھ کے قریب ہوگا۔ قصیدہ کے لکھنے اور مکاشفات کے ظاہر کرنے میں جو اصول مدنظر رکھا گیا ہے۔ وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سب سے مقدم ظہور مہدی کی تاریخ بتائی جائے۔ سو تو یہ بتلایا جائے کہ اس ظہور کے وقت سے پہلے دنیا کن کن مصائب و آلام اور فتنوں اور بے امنیوں میں مبتلا ہوگی۔ پھر جب وقت ظہور ہو چکے گا تو کس طرح یہ فضا کے فوراً بدل جائیں گے اور عالم امن و امان اور عدل و حق کا گھر بن جائے گا۔ ظہور امام کا سال جس شعر میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بدقسمتی سے حروف ابجد رکھے گئے ہیں۔ جن سے تاریخ برآمد ہو سکتی تھی۔ مگر زمانے کے اتنا لمبا گذر جانے اور اس قصیدہ کے نقل در نقل قلمی نسخوں کی حیثیت میں اب تک رہنے سے ان حروف کو اس طرح بدل دیا گیا ہے کہ قریباً ہر نسخے میں یہ حروف ابجد مختلف ہیں۔ یہ سب کارستانیاں مدعیان مہدویت وغیرہ اور ان کے مؤیدین و معتقدین کے ہاتھوں ہم عام طور پر ہوتی پاتی ہیں۔ کیونکہ تحریف و تبدیل کی جتنی ضرورت انہیں ہوتی ہے۔ وہ کسی اور کو نہیں ہوتی اور یہ خاص ملکہ بھی انہیں ہی حاصل ہوتا ہے۔ خیر جس طرح بھی ہوا یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس شعر میں اصل حروف ابجد کیا تھے۔ یہ شعر پروفیسر براؤن کی کتاب میں یوں ہے۔

غین و را دال چون گذشت از سال
بو العجب کار و بار مے بینم

وہ لکھتے ہیں کہ بابیوں نے جب ظہور باب پر اسے چسپاں کیا تو انہوں نے کہہ کر اصل میں غین کی بجائے غرس ہے۔ جس سے تاریخ ۱۲۶۰ھ نکلتی ہے اور یہی باب کے ظہور کا زمانہ ہے۔ مگر غرس کی بجائے غین رکھنے سے جس طرح پروفیسر براؤن کے نسخے میں ہے۔ یہ تاریخ ۱۲۴۳ھ بنتی ہے۔ شملہ کے خواجہ عبدالغنی صاحب کے پاس جو نقل ہے اور جس کو وہ سب سے معتبر ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس میں یہ حروف غین را ال ہیں۔ جن سے سال ۴۴۴ھ برآمد ہوتا ہے۔ انہیں کا قول ہے کہ عمدۃ العضا والے نسخہ میں جس کی نقل ان کے پاس بھی ہے یا حروف ضا ز اہ ہیں بہرصورت یہ سب مختلف ہیں۔ اس لئے تاریخ و سال کا تعین قطعاً محال ہے۔ مگر باوجود حروف میں اختلاف ہونے کے ان تمام نسخوں میں حروف کی تعداد تین ہی ہے اور وزن شعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ حروف تین ہی ہونے چاہئیں اور اس میں تحریف و تبدیل کی گنجائش بھی اسی لئے ہوئی کہ ان حروف کی جگہ ان کے ہم وزن اور حروف رکھے جا سکتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں جو نقل درج کی ہے۔ اس میں یہ شعر مرزا قادیانی کے مذاق شعر و ادب اور تحقیق کا خوب پتہ دیتا ہے۔ اس میں درج ہے کہ

غین ورے سال چوں گذشت از سال
بوالعجب کاروبار مے بینم

مان لیا جائے کہ مرزا قادیانی کو جس نسخہ سے یہ نقل ملی۔ اس میں اسی طرح لکھا تھا۔ مگر کیا مرزا قادیانی کے ذوق ادب وکمال علم نے جب وہ سال چوں گذشت از سال لکھ رہے تھے۔ یہ سوال نہ کیا کہ آخر اس کے معنی کیا۔ پہلے لفظ سال کی بجائے ضرور کسی تیسرے حرف کا اسم درج ہوگا۔ جس کے پڑھنے میں تجنیس خط نے اگر پہلے مرزا قادیانی کو نہیں تو جس کتاب سے مرزا قادیانی لے رہے ہیں۔ اس میں درج کرنے والے کو دھوکا دیا ہوگا۔ مگر کیا مرزا قادیانی کی علمیت اس سے بھی عاجز تھی کہ وہ ''سال چوں گذشت از سال'' کو مہمل سمجھتے۔ غین ورا سے عدد ۱۲۰۰ھ برآمد ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی بعض اشعار کی تشریح میں نہایت دقتوں سے تاویلیں کر کے اور شعروں کو آگے پیچھے رکھ کر بڑی مشکل سے اس ۱۲۰۰ھ کو چودھویں صدی ثابت کیا ہے۔ اس معمہ کو سمجھنا ہو تو ان کی تشریح کو ان کی کتاب نشان آسمانی سے پڑھ لینا چاہئے۔ مرزا قادیانی کو اگر وہ کچھ تحقیق کرتے اور اس پہلے لفظ سال کو چھوڑ کر اس کی جگہ دال وغیرہ کوئی حرف رکھتے اور مصرع کو بامعنی بناتے تو ان کو خود دقت نہ ہوتی۔ کیونکہ اس طرح تیرھویں صدی کو چودھویں صدی بنانے میں از خود کچھ نہ کچھ مدد مل جاتی۔ مگر مرزا قادیانی کے پنجابی مذاق نے تو حرف دال کے اسم کو بھی رے ہی لکھا۔

اس شعر کو اس کی موجودہ حالت میں خواہ یہ کسی نسخہ میں ہو دیکھ کر جس نتیجہ پر کوئی شخص پہنچ سکتا ہے۔ اس سے اشتباہ ہی رہے گا کہ دراصل سال کون سا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوالعجب کاروبار سے اشارہ فتنۂ آخرالزمان کی طرف ہے اور چونکہ ظہور مہدی پیش گوئی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس لئے یہ حوادث وواقعات تھوڑا عرصہ قبل از ظہور امام وقوع پذیر ہوں گے۔ ان حروف سے ۱۲۰۰ھ کے عدد نکال کر اس قصیدہ کی تاریخ تصنیف کے بعد اتنے عرصوں کے واقعات پر اس پیش گوئی کو محمول کرنا محض عبث ہے۔ جب پیش گوئی کرنے والے کا مقصد اصلی ظہور مہدی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بے ربط اندھا دھند اسلام پر تاتاری حملہ وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ مگر سلیم تسلیم کرتی ہے کہ بوالعجب کاروبار ضرور وہی واقعات ہیں جو ظہور امام سے تھوڑا عرصہ قبل ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی مہدی تھے تو گویا ان کے ظہور یعنی ان کے لفظوں میں ان کے دعویٰ کی تاریخ سے قبل۔ مگر ساتھ ہی متصل یہ حوادث وواقعات جو شاہ صاحب نے بطور پیش گوئی بتائے ہیں۔ واقع ہوئے۔ جن اشعار میں ان واقعات کو نمایاں طور پر

لکھا گیا ہے۔ ہم وہ بجنسہ درج کرتے ہیں۔ عبارت اشعار کی بالکل سلیس اور سادی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے استعارات و تشبیہات نہیں کہ سمجھنے میں دقت ہو۔ ناظرین خود اندازہ لگا لیں کہ اس بنا پر مرزا قادیانی اپنے دعوی میں کس حد تک حق بجانب تھے۔ مرزا قادیانی کا اپنا اصول کسی پیش گوئی کا سچا یا جھوٹا جانچنے کی نسبت یہ ہے کہ اگر کسی پیش گوئی کا ایک حصہ سچا ثابت ہو جائے تو اس کو ساری کو منجانب اللہ سچا سمجھنا چاہئے۔ پس اگر وہ واقعات جو شاہ نعمت اللہ ولی نے ظہور مہدی سے قبل وقوع ہونے لکھے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعوی سے قبل بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کے دن تک بھی نمودار ہوئے ہیں تو مرزا قادیانی سچے ہو سکتے ہیں۔ مگر اگر یہ واقعات اس زمانہ میں ظاہر نہیں ہوئے تو مرزا قادیانی کا دعوی باطل تھا۔ ساتھ اس کے دوسری بات جو اس سے نتیجتاً اخذ ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی وفات کے بعد یہ سب واقعات دنیا کو پیش آ چکے ہیں اور اس پیش گوئی کا یہ حصہ بالکل پورا اور سچا ثابت ہوا ہے تو کیوں نہ مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق ہمارے مرزائی بھائی خود اس بات پر ایمان لے آئیں کہ اب ان واقعات کے بعد وہ اصلی مہدی ظہور کرے گا۔ جس کی اس قصیدہ میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ جو واقعات ظہور امام برحق سے قبل ہونے والے ہیں۔ وہ حسب ذیل اشعار میں اپنا چہرہ آپ دکھا رہے ہیں۔

در خراسان و شام و مصر و عراق　　فتنہ وکار زارے بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار　　بیحد و بے شمارے بینم
قصۂ بس عجیب مے شنوم　　غصہ در دیارے بینم
جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد　　از یمین و یسارے بینم
غارت و قتل و لشکر بسیار　　درمیان و کنارے بینم
بندہ را خواجہ وش ہمی یابم　　خواجہ را بندہ وارے بینم
سکہ نو زنند بر رخ زر　　در ہمش کم عیارے بینم
دوستان عزیز ہر قومے　　گشتہ غمخوار وخوارے بینم
ہر یک از حاکمان ہفت اقلیم　　دیگرے را دو چارے بینم
نصب و عزل بیگ و عمال　　ہر یکے را دو بارے بینم
ترک و تاجیک را بہم دیگر　　خصمی و گیرو دارے بینم
حال ہندو خراب مے یابم　　جور ترک و تتارے بینم

بقعۂ خیر سخت گشتہ خراب　　جائے گنج شرارے بینم

اندکے امن اگر بود آں ہم   در حد کوہسارے بینم

اسے مرادو مکرم۔

کیا یہ سب واقعات مرزا قادیانی کے مدعی ہونے کے قبل رونما ہوچکے تھے۔ مرزا قادیانی نے ۱۸۹۲ء میں اس قصیدہ کو اپنے حق میں شائع کیا۔ ایک شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دس سال ہو چکے ہیں۔ مجھ کو لوگوں کو دعوت دیتے۔ تو گویا اپنا دعویٰ انہوں نے ۱۸۸۲ء کے قریب کیا تھا۔ کیا ۱۸۸۲ء سے پہلے دنیا نے یہ حالات دیکھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعات ۱۹۰۸ء تک بھی رونما ہوئے۔ جس سال میں مرزا قادیانی نے رحلت فرمائی اور اگر نہیں ہوئے تو مرزا قادیانی وہ مہدی کیوں تھے۔ جو یہ پیش گوئی کہتی ہے۔ اب دیکھئے اس پیش گوئی کا مہدی جب ظاہر ہو چکے گا تو اس کے ظہور کے بعد دنیا میں یہ کیفیتیں ہوں گی۔

بعد امسال و چند سال دگر   عالمے چوں نگارے بینم
ایں جہاں را چو مصرے گرم   عدل اورا حصارے بینم
عاصیاں از امام معصوم   خجل و شرمسارے بینم
بر کف دست ساقئے وحدت   بادۂ خوشگوارے بینم
تیغ آہن دلان زنگ زدہ   کند و بے اعتبارے بینم
زینت شرع و رونق اسلام   ہر یکے را دو بارے بینم
گرگ با میش و شیر با آہو   در چرا برقرارے بینم
گنج کسریٰ و نقد اسکندر   ہمہ بر روئے کارے بینم
ترک عیار مست ے گرم   خصم او درخمارے بینم

کیا مرزا قادیانی کے دعویٰ سے لے کر آج تک ان باتوں میں سے کوئی بات پوری ہوئی۔ ابھی تو وہی باتیں تمام و کمال ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ جو ان اشعار سے اوپر کے درج کردہ اشعار میں بتائی گئی تھیں تو یہ کب ہوتیں۔

غائب مہدی آشکار شود
بلکہ من آشکارے بینم

نہ صرف ظہور مہدی سے قبل کے واقعات جس طرح اس پیش گوئی میں درج ہیں ظاہر نہ ہوئے تھے۔ بلکہ خود اس ظہور کے متعلق جو باتیں اور شرائط اس میں بتائی گئی ہیں۔ وہ بھی ابھی ہرگز

پیدا نہیں ہو گئیں۔ خود حضرت مہدی کی ذات کی نسبت ہم جو کچھ اس قصیدہ میں پڑھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو ان باتوں سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ ان میں وہ شرائط نہ پائی جاتی تھیں اور یہی اصل بحث ہے جس کی طرف ہم ان کے مریدین کی توجہ خصوصی طور پر منعطف کرانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ خاص مقام ہے۔ اس قصیدہ میں جہاں مرزا قادیانی پر کئی قسم کے اعتراض و شکوک خود بخود وارد ہوتے ہیں۔

واقعات قبل مہدی کا ذکر کر کے شاہ نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ ۔

گرچہ مے بینم این ہمہ غمہا　　شادی غمگسار مے بینم
غم مخور زانکہ من دریں تشویش　　خرمی وصل یار مے بینم
بعد امسال و چند سال دگر　　عالمے چوں نگار مے بینم

آگے لکھتے ہیں کہ ۔

چوں زمستان پنجمیں بگذشت　　ششمش خوش بہارے بینم

اگر وہ سنو زمستان اول کب سے شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلے شعر میں لفظ ''امسال'' بتا رہا ہے۔ امسال سے وہی سال مراد ہو سکتا ہے جس سال یہ حوادث قبل از ظہور اپنی انتہاء کو پہنچے ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے اس شعر کے پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے میں اپنے تمام علم و قابلیت کو صرف کر دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے ۔

چوں زمستان بے چمن بگذشت
شمس خوش بہارے بینم

جس سے مرزا قادیانی نے نقل لی۔ مطبوعہ تھا اور اس میں درج کرنے والے نے جس قلمی نسخے سے لیا۔ اس میں ''زمستان پنجمیں'' کو تجنیس خط کی وجہ سے اس نے ''زمستان بے چمن'' اور ''ششمش'' کو ''شمس'' پڑھا۔ یہ اس کا قصور تھا۔ مان لیا (بشرطیکہ اس کو ثابت کر دیا جاوے) مگر کیا مرزا قادیانی کا کوئی مرید جو بیشک فاضل جید بھی ہو یہ بتا سکتا ہے کہ ''زمستان بے چمن'' کس مرغ کا نام ہے اور ''شمس خوش بہار'' کس زبان کی ترکیب ہے۔ مرزا قادیانی کیا اس کو مہمل سمجھنے سے بھی قاصر تھے اور پھر ان کی شاعری و عروض دانی شمس خوش بہارے بینم کو کس طرح کہتی تھی کہ یہ موزوں مصرع ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جناب مرزا قادیانی لفظ شمس (بسکون میم) کو یہ شعر پڑھتے وقت شمّس (بہ تشدید میم) پڑھتے ہوں گے۔ یا شمَس (بہ حرکت میم) مگر سوال تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس مہمل و غلط شعر کی بھی اس طرح تفسیر کی ہے کہ چودھویں صدی کے مدعی پر

اس پیش گوئی کا چھپاں ہی بھی اسی شعر سے نکل آیا ہے اور ان کا مہدوقت ہونا بھی اسی سے ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ ما شاء اللہ۔ حکیم بدو دے۔ آپ اس کی تشریح میں یوں رقمطراز ہیں کہ: "یعنی جب کہ زمستان بے چمن مراد یہ ہے کہ جب تیرھویں صدی کا موسم خزاں گذر جائے گا۔ تو چودھویں صدی کے سر پر آفتاب بہار نکلے گا۔ یعنی مہدوقت ظہور کرے گا۔"

لاحول ولا قوۃ الا باللہ

صدی کا موسم خزاں کیا ہوتا ہے؟

دیکھیے! حضرات یہ ہے زمستان بے چمن سے مراد اور یہ بلیغ کنایہ تھا۔ شمس خوش بہار کے استعارہ میں۔

سخن شناس نہ دلبرا..........

ہائے اللہ اگر یہی الفاظ ہیں جن سے آپ چودھویں صدی کے مہدی ثابت ہیں تو پھر اب اس ثبوت کے بعد کسی اور کو دعویٰ کے ثبوت لانے پر کیوں جرأت ہوگی۔

خیال فرمائیے کہ اصل شعر ہے:

چوں زمستان بیچمن بگذشت
شمس خوش بہارے دہم

اس کو پڑھا جائے۔

چوں زمستان بے چمن بگذشت
شمس خوش بہارے دہم

وہ اس کی تشریح وہ کی جائے جو مرزا قادیانی نے کی ہے اور پھر اس پر دعویٰ مہدویت کی بنا رکھی جائے۔ کوئی ہے ایسا جو ذرہ بھر عقل دماغ میں رکھتا ہو اور اس دعویٰ اور ثبوت پر وہ کچھ نہ کہے جرأت سے کہنا چاہیے۔ مگر اس سے بڑھ کر بلکہ سب سے بڑھ کر مزے کی بات آگے ہے۔ اس شعر سے اگلا وہ شعر ہے جو اس ساری پیش گوئی میں وہ شرط پیش کرتا ہے۔ جس سے کسی مدعی مہدویت کی دال نہیں گل سکتی اور آج تک گلی ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے بھی جس طرح اس بات سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی انہی کا حصہ تھا۔ یہ شعر ہے

نائب مہدی آشکار شود
بلکہ من آشکار ے دہم

اس قصیدہ میں دراصل تین خاص ہستیوں کے ظہور کا پتہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نائب مہدی ہیں۔ پھر ان کا پسر، پھر خود امام۔ نائب مہدی یا خود امام کے متعلق بحث باشدومد بواسطہ نظم بھی کیا گیا ہے۔

یہ اعتراض کہ نائب مہدی، مہدی سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نائب تو بعد میں آتا ہے، عبث ہے۔ کیونکہ حضرت مہدی اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ ابتدائی زمانہ مہدویت کو سنبھالنے کے لئے اور دنیا کے ارتقاء کو اس کے انتہا تک پہنچانے کے لئے حضرت مہدی سے ایسے حضرات ضرور پہلے ہی ہوں گے۔ یہ نائب اس اصل صاحب مقام کے لئے میدان تیار کریں گے اور نقیبوں کا کام دیں گے۔

یہ شعر قصیدہ ان نسخوں میں موجود ہے۔ جو ہمارے علم میں ہیں۔ مولوی عبدالغنی صاحب کے نسخہ میں یہ ہے۔ ندوۃ العلماء والے نسخہ میں یہ ہے۔ پروفیسر براؤن کے نسخہ میں یہ ہے۔ تذکرہ مجمع الفصحاء میں بھی ہے۔ مگر مرزا قادیانی قبلہ کی نقل میں یہ معدوم ہے۔ کیا مرزا قادیانی کا کوئی مرید یہ بتائے گا کہ جس کاپی سے مرزا قادیانی نے قصیدہ نقل کیا ہے۔ اس میں بھی یہ موجود تھا یا نہیں اور اگر وہاں ہے اور مرزا قادیانی نے دانستہ اسے درج نہیں کیا تو کیا مرزا قادیانی کی دیانت اس مقام پر معرض خطر میں نہیں؟

مگر معاملہ صاف ہے۔ اگر مرزا قادیانی اس شعر کو لکھ دیتے تو پھر انہیں ثابت کرنا پڑتا کہ مجھ سے پہلے فلاں شخص نائب مہدی تھا اور وہ ظاہر تھا کہ کوئی بھی نہ تھا۔ جس بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر اس نسخہ میں ضرور ہوگا۔ جس سے مرزا قادیانی نے نقل کی اور اسے دانستہ درج نہ کیا۔ وہ اس اگلے شعر میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے اس اگلے شعر کو درج کیا ہے اور چون زمستان بے چمن کے بعد ساتھ ہی یہ شعر ہے ؎

دور او چون شود تمام بکام
پسرش یادگار مے بینم

چونکہ لفظ پسر اس میں آ گیا۔ مرزا قادیانی کو صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے اس میں بڑی بھاری تائید و تقویت نظر آئی اور اس کو اپنی ایک پیش گوئی کے مطابق لکھا۔ مگر افسوس یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ ”او“ کون ہے۔ کیا وہی شخص جو اصل میں مشتہر ہے اور کیا ”او“ کی ضمیر شخص کی طرف جا بھی سکتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر سے اوپر کا شعر نائب مہدی آشکار شود وہاں لکھا ہوگا۔ مگر وہ چھوڑ دیا گیا۔ ورنہ مرزا قادیانی کو کیا پڑی تھی کہ ''او'' کی ضمیر کو خواہ مخواہ عیان کی طرف راجع کرتے۔ اچھا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ شعر یعنی نائب مہدی والا اس کاپی میں نہ ہوگا۔ جس میں سے مرزا قادیانی نے نقل کی۔ مگر اب جب یہ باقی تمام نسخوں میں موجود ہے اور بغیر ذرہ بھر اختلاف کے موجود ہے تو کیا مرزائی صاحبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر اس قصیدہ کا نہیں اور اگر ہے تو وہ کون نائب مہدی تھا جس کے بعد مرزا قادیانی تشریف لائے۔ اور اگر کوئی نہیں تھا تو کیا مرزا قادیانی اس پیش گوئی کے مطابق مہدی تھے؟

دور او چوں شود تمام بکام
پسرش یادگار مے بینم

کے بعد یہ شعر ہے

بندگان جناب حضرت او
سر بسر تاجدار مے بینم

اس ''او'' پر بھی مرزا قادیانی نے غضب کیا ہے اور اس کو بھی اپنے ''شمس'' کی طرف لے گئے ہیں۔ حالانکہ حق ''پسر'' کا تھا۔ کتنا ظلم ہے اور نا انصافی اور پھر کس سے؟ تاجداروں کو آخر اپنے حق ''بندگان'' شمار کیا۔ یہ کسی اور کا حصہ کیوں ہوتا۔ اس کی تشریح بھی کچھ انوکھی سے کی ہے۔

لکھتے ہیں: ''یعنی یہ بھی مقدر ہے کہ بالآخر امراء اور ملوک اس کے معتقد ہو جائیں گے اور اس کی نسبت ارادت پیدا کرنا بعضوں کے لئے دنیوی اقبال اور تاجداری کا موجب ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ اس پیش گوئی کے مطابق ہے جو اس عاجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تجھ پر اس قدر فضل کروں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور ایک جگہ فرمایا کہ تیرے دوستوں اور محبوں پر بھی احسان کیا جائے گا۔''

ایں سعادت بزور بازو نیست

پھر کچھ شعر چھوڑ کر اس شعر کی تشریح کی ہے

تا چہل سال اے برادر من
دور آں شہسوار مے بینم

یہ بھی پر لطف ہے۔ اس میں بھی ''آں شہسوار'' دراصل اس پسر ہی کی طرف اشارہ

ہے۔ مگر آپ نے اسے بھی اپنے حق میں لیا ہے۔ لکھتے ہیں: "یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا۔ چالیس برس تک زندگی کرے گا۔"

اب واضح رہے کہ یہ عاجز (آپ نے ہر جگہ اپنے آپ کو عاجز لکھا ہے) اپنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لئے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اسی برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے۔ سو اس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے۔ جن میں سے دس برس کامل گذر بھی گئے۔ (براہین احمدیہ ص ۲۰۸) "واللہ علی کل شیء قدیر" اگرچہ اب تک حضرت نوح علیہ السلام کی طرح دعوت حق کے آثار نمایاں نہیں۔ لیکن اپنے وقت پر تمام باتیں پوری ہوں گی۔" (نشان آسمانی ص ۱۳، خزائن ج ۴ ص ۳۷۳)

کیا مزے کی باتیں ہیں۔ یہی کہہ دینا بس ہو گا کہ آپ ۱۹۰۸ء میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ناظرین خود اندازہ لگائیں کہ اس اپنی تشریح کے مطابق کہاں تک سچے تھے۔

ایک اور لطف کی بات ہے کہ آپ نے اکثر شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیش گوئیوں کو اپنی پیشگوئیوں کی شکل پر لکھا ہے اور اس کتاب میں ہر جگہ لکھا ہے کہ یہ بعینہ اس عاجز کی اس پیش گوئی کے مطابق ہے۔ جو براہین احمدیہ کے صفحہ فلاں پر درج ہے۔ براہین احمدیہ قرآن سے کم کہاں رہ گئی۔ مگر شاہ نعمت اللہ تو حضرت مرزا قادیانی سے کئی سو سال پہلے یہ باتیں کہہ گئے ہوئے تھے۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہ صاحب کا یہ قصیدہ مرزا قادیانی کے قبضہ میں مدت سے تھا اور پھر اس سے دیکھ کر آپ اس کے مطابق پیش گوئیاں کرتے رہے۔ (یہ فرضی باتیں ہیں۔ بطریق استدلال لکھ رہے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً ان پیش گوئیوں کو ان کی پیش گوئیوں سے کیا نسبت) پھر براہین احمدیہ میں چھاپ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ ہماری اس پیش گوئی کے مطابق ہے۔ جو ہم نے فلاں صفحہ پر درج فرما رکھی ہے۔

خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ تشریح کرتے وقت مضمون کو ربط دینے کے لئے ایک دو شعر کے بعد پھر مرزا قادیانی نے جس شعر کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے۔

بد بینی کہ باز پیدا
باز با ذوالفقار مے بینم

اس کو مرزا قادیانی نے اپنے مذاق کے مطابق یوں لکھا ہے یا یوں پڑھا ہے۔ اگر لکھنے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔

بعد   بیضا   کہ   با   ہو   تاشہ
ذ   خ   ز   ذوالفقار   سے   جہنم

مرزا قادیانی کی تشریح

یعنی اس کا روشن ہاتھ جو اتمام حجت کی رو سے تلوار کی طرح چمکتا ہے۔ پھر میں اس کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھی۔ مگر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اس امام کو دے گا۔ اس طرح پر کہ اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا۔ جو پہلے زمانہ میں ذوالفقار کرتی تھی۔ سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ ہے۔ جو پھر ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی۔ (ذوا صوف قلم کب چلا سکتی ہے) یہ پیش گوئی بعینہٖ اس عاجز کے اس الہام کا ترجمہ ہے (جو بات ہم نے اوپر کی وہ سچ نکلی۔ دیکھئے شاہ نعمت اللہ صاحب نے مرزا قادیانی کی پیش گوئی کا کس طرح ترجمہ اڑا لیا ہے) جو اس وقت سے دس برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے۔ (سچ ہے شاہ صاحب کی پیش گوئی اس وقت تک کب چھپی تھی کہ مقدم ٹھہرتی) اور وہ یہ ہے کتاب الولی ذوالفقار علی یعنی کتاب اس ولی کی ذوالفقار علی کی ہے۔ یہ اس عاجز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی بنا پر بارہا اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (کہاں تک آپ غازی تھے)

اس کے سوا پڑھا اور کچھ کیا یاد کرے

بریں   شرح   ونکتہ   ہا خند   گریست
یعنی   بریں   عقل   ودانش   اژ

ابھی مرزا قادیانی نے اوپر کہا تھا کہ میرا نام غازی رکھا گیا ہے۔ یہ وہ شاہ نعمت اللہ کی پیش گوئی بھی یہی کہتی ہے۔ اگلے شعر اب درج کرتے ہیں۔

غازی   دوستدار   دشمن   کش
ہمدم   دیار   نار   سے   جہنم

(جو غازی آپ بن رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی غازی، مختلف غذائیں ضرور استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ بولی سچا ہے)

آپ نے اس کی تشریح بالکل درست لکھی ہے۔ وہ ان کے اپنے حق میں لکھی گئی کہ:

"وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قاضی ہے۔ دوستوں کو بچانے والا اور دشمنوں کو مارنے والا۔ پس اگر ان کے معنی سمجھ نہ آ سکیں تو قارئین اوپر کے شعر پہ بچانے والے کے معنی پھر سے پڑھ لیں۔ پس یہاں تک آپ مہدی تھے۔ آگے جو بنتے ہیں خود اگلے شعر کی تشریح سے سمجھ لیجئے اور مسئلہ ارتقاء کا تماشہ بھی دیکھئے۔"

صورت و سیرتش چو پیغمبر
علم و حلمش شعار ہے تمام

مرزا قادیانی کی تشریح

یعنی ظاہر و باطن اپنا نبی کی مانند رکھتا ہے اور شان نبوت اس میں نمایاں ہے اور علم اور حلم اس کا شعار ہے۔ مراد یہ کہ بباعث اپنی اتباع کے گویا وہی صورت اور وہی سیرت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ اس الہام کے مطابق ہے۔ (دیکھئے پھر یہ شاہ صاحب کی پیش گوئی کے سچا ہونے کا ثبوت ملے) جو اس عاجز کے بارہ میں براہین میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے۔ "جری اللہ فی حلل الانبیاء" یعنی فرستادہ خدا در حلل انبیاء۔ قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ فرستادہ خدا کسے کہتے ہیں۔ نظامی گنجوی نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں یہ لکھا تھا کہ ؎

فرستادہ خاص پروردگار

صورت و سیرت کے معنی ظاہر و باطن لکھنا بھی قابل غور ہے۔ بباعث اپنی اتباع کے وہی صورت اور وہی سیرت ہے۔ یہ اتباع کی صورت ہوئی یا مرزا قادیانی کی اور پھر اپنی اتباع یا ان کی اتباع۔

زینت شرع و رونق اسلام
محکم و استوار ہے تمام

"یعنی اس کے آنے سے شرع آراستہ ہو جائے گی اور اسلام رونق پا جائے گا اور دین متین محمدی محکم اور استوار ہو جائے گا۔"

(ہمیں افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے یہاں دین متین محمدی لکھ کر ہمارے احمدی بھائیوں پر چوٹ کی ہے) اس الہام کے مطابق ہے جو اس عاجز کی نسبت اس وقت سے دس برس پہلے براہین میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے "بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔" (تریاق القلوب [illegible] حاشیہ در حاشیہ ص ۲۲ خزائن ج ۱۵ ص ۱۶۳)

اور نیز یہ الہام "ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ و دین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ" (براہین احمدیہ ص۲۳۹، خزائن ج۱ ص۲۶۵)

یہ الہام معلوم ہوتا ہے کہ محمدیوں کے حق میں اس لئے پورا نہیں ہوا کہ باوجود مرزا قادیانی کے اپنے الہام میں انہیں یاد کرنے کے وہ ان کے پھندے میں نہ آئے۔ ورنہ کوئی وجہ تھی کہ خدا خود ایک وعدہ کرے اور وہ پورا نہ ہو۔ مگر وقت آنے والا ہے۔ ہم سچے دل سے شہادت دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام کم از کم ضرور سچا ہو کر رہے گا۔ کیونکہ یہ الہام روز و شب ہر ایک مسلمان کو ہو رہا ہے۔

آگے پھر وہ شعر ہے۔ جس میں پھر مرزا قادیانی کی دیانت کو کسی کسوٹی کی ضرورت ہے۔ تمام نسخے جن کے ہم نے اوپر حوالے دیئے ہیں اس شعر کو جس میں امام موعود کا نام دیا گیا ہے۔ یوں لکھتے ہیں ؎

میم حا میم دال مے خوانم
نام آں نامدار مے بینم

میم، حا میم، دال سے تو محمد بنتا ہے۔ یہی نام احادیث نبوی میں ہے۔ نیز اسی واسطے اسی پیش گوئی کے مطابق سب نسخے بھی جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اس پر متفق ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کی سبز کتاب کہتی ہے۔

ا ح م و دال مے خوانم
نام آں نامدار مے بینم

یوں لکھنے سے اگرچہ پہلے مصرعہ کا وزن نہیں رہتا۔ کیونکہ ابجد کے پہلے حرف کا نام الف بکسر و لام ہے نہ کہ بسکون لام جس کے معنی ایک ہزار کے ہو جائیں گے۔ الف متحرک "الم" پڑھ سکتے۔ مگر آگے حا کا لفظ مانع ہے اور یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا کہ شاہ نعمت اللہ جیسے شاعر نے اسے الف بسکون لام ہی باندھا ہو۔ کیا ہم اس موقع پر بھی مرزائی صاحبان کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ وہ ثابت کریں۔ یہ حقیقت میں ا ح م د ہی ہے اور مرزا قادیانی نے اس کے لکھنے میں صفائی برتی ہے اور اگر یہ نہیں م ح م د ہے تو پھر مرزا قادیانی اس پیش گوئی کے مہدی کیوں تھے۔

(سائیں گلاب شاہ کی پیش گوئی مرزا قادیانی کے متعلق جو ان کی کتاب نشان آسمانی میں دوسری جگہ درج ہے۔ شاہ صاحب کی پیش گوئی سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی کا پورا نام غلام احمد سائیں گلاب شاہ کو بتایا گیا ہے۔ قادیانی اس پیش گوئی کو بھی ضرور

پڑھیں۔ بڑی پر لطف ہے)

مگر اس مرحلہ کے شعر سے قبل تمام نسخوں میں اور خود مرزا قادیانی کے نسخہ میں بھی وہ شعر ہے جو در اصل امام موعود کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نائب مہدی اور نبیرش یادگارے والے شعروں کے بعد ہے۔ یعنی اس قاعدہ کے مطابق کہ پہلے نائب مہدی ہوگا۔ پھر اس کا لڑکا اور پھر خود امام منتظر جلوہ نما ہوں گے۔ اس لحاظ سے خواجہ عبدالغنی صاحب لکھنوی کے نسخہ کی ترتیب اس مقام پر زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ ان میں یہ اشعار یوں ہیں ۔

نائب مہدی آشکار شود بلکہ مینا آشکار مے بینم
پادشاہ تمام دانائی سرور باوقار مے بینم
دور او چوں شود تمام بکام پسرش یادگار مے بینم
بندگان جناب حضرت او سربسر تاجدار مے بینم
بعد ازو خود امام خواہد بود کہ جہاں رامدار مے بینم
پادشاہ امام ہفت اقلیم شہ عالی تبار مے بینم
میم وحامیم ودال مے خوانم نام آں نامدار مے بینم

اس ترتیب سے ان حضرات کے ظہور کی ترتیب از خود نمایاں ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے باوجود اس امر کے اپنی نقل میں اس "بعد ازو خود امام خواہد بود" کے شعر کو درج کیا ہے۔ ان اشعار میں اس کو بالکل نہیں رکھا۔ جس کی ایک جگہ تصریح کی ہے اور کرتے بھی کس طرح۔ سب سے پہلے تو خوش ہو کر اپنی طرف منسوب کر چکے۔ پھر ۔

دور او چوں شود تمام بکام
پسرش یادگار مے بینم

کو اپنے اوپر لگایا۔ پھر

بندگان جناب حضرت او
سربسر تاجدار مے بینم

میں بھی "او" خود ہی بنے۔ اب اگر لکھتے ہیں کہ "بعد ازو خود امام خواہد بود" تو اس "او" کو کہاں لے جاتے اور ان "خود امام" کے القاب کو کیا کرتے۔ کیونکہ "خود" کا لفظ کہہ رہا ہے کہ امام سے پہلے اس کے نائب وغیرہ ضرور ظہور پذیر ہوں گے۔ ہمیں نہایت رنج سے لکھنا پڑتا ہے کہ اس شعر کو تصریح میں چھوڑنے سے مرزا قادیانی نے اپنی صفائی کا ثبوت نہیں دیا اور جب اس کو نقل

میں لکھا بھی تو کیوں اس کے معنی پر غور نہ کیا۔ کیوں نہ اپنے ضمیر سے پوچھا۔ بلکہ اپنے معمولی نحو کے علم سے دریافت کیا کرتے "او" کی ضمیر اس شعر میں کس کی طرف جاتی ہے اور پھر "بعد از او" سے کیا معنی کس کے بعد۔ اگر وہ ایک ہی شخص ہے جس نے ظاہر ہونا ہے تو ان الفاظ کے یہ معنی۔ "بعد ازو خود امام خواہد بود" کا یہ مطلب۔ مگر ہم بھول گئے۔ مرزا قادیانی نے تھوڑی احتیاط ضرور برتی ہے۔ "بعد ازو" کو "بعد از اں" لکھا ہے۔ مگر "خود" کی طاقت کو کیسے دبا سکتے۔ "او" کو چھوڑو "آں" ہی سہی۔ یہ معنی کہ کوئی شخص نہیں کوئی واقعہ ہوگا۔ تو پھر بھی "بعد از اں خود امام خواہد بود" امام کے ظہور کا مضمون تو وہی رہے گا کہ وہ اوپر کے بیان کردہ لوگوں اور واقعات کے بعد آئے گا۔

"م ر ج م" کا شعر جو مرزا قادیانی کے نسخہ "ا ح م د" بن گیا تھا ہے۔ اس شعر کے بعد جو اگلا شعر جو تشریح میں درج کیا ہے۔ یہ شعر ہے

دین و دنیا از و شود معمور
خلق زو بختیارے تم

تشریح لکھتے ہیں۔ "یعنی اس کے آنے سے اسلام کے دن پھریں گے اور دین کو ترقی ہوگی اور دنیا کو بھی۔"

ہم اتنی تشریح نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ آگے جو کچھ لکھا ہے وہ پھر اس کی تشریح ہے۔ اسلام کے دین و دنیا کو مرزا قادیانی نے جو ترقیاں دی ہیں وہ پوشیدہ نہیں۔ اس تشریح میں آگے چل کر لکھتے ہیں: "اور یہ جو اشارہ کیا کہ اس کے آنے سے اسلام کی دینی و دنیوی حالت صلاحیت پر آجائے گی۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اسلام کے لئے رحمت ہو کر آتا ہے اور اس کے ساتھ جلد سے یا دیر سے رحمت الٰہی نازل ہوتی ہے۔" یا دیر سے ملاحظہ ہو اور داد پر لکھ مر رہے ہیں۔ اس کے آنے سے ہی یہ کچھ ہوتا ہے۔ ورنہ شعر بھی کہہ رہا ہے کہ "دین و دنیا از و شود معمور" گر معمولی بات ہے۔ مرزا قادیانی دانا تھے۔ انہیں اپنی اصل حقیقت معلوم تھی۔ یا دیر سے کہہ کر باقی کی بات ساری کی ساری جاتی رہی۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں۔ یہ لکھ کر "مگر اوائل میں قدرے اور ہو اور ظہور کی تجلیں بھی ابتدا کرتی ہیں اور اوائل کشف انجام کا صاف بیان کرتے ہیں نہ ابتدائی واقعات کا۔" اللہ اللہ! پیش گوئی نے تمام دنیا کو زیر و زبر کر کے امام موعود کو ظاہر کیا اور ابھی ابتدائی واقعات باقی ہی تھے کہ امام کے ظاہر ہو جانے پر بھی ہمیشہ ہوتے ہی رہے۔

بادشاہ قدم بخت انجم

شمار حال تمہارے ہم

تشریح: یعنی مجھ کو کشفی نظر میں وہ ایک شاہانی خاندان ہفت اقلیم کا بادشاہ نظر آیا ہے۔ یہ مطابق اس پیش گوئی کے ہے۔ جو ازالہ اوہام میں درج ہو چکی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

"حکم اللہ الرحمن الخلیفۃ اللہ السلطان سیوتی لہ الملک العظیم" یہ اس عاجز کی نسبت الہام ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خلیفۃ اللہ بادشاہ جس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا۔" (ماشاء اللہ) اور جس پر زمین کے خزانے کھولے جائیں گے۔ آگے لکھا ہے۔ "اس بادشاہی سے مراد اس دنیا کی ظاہری بادشاہی نہیں بلکہ روحانی بادشاہی ہے۔" کیا ہمارے مکرم مرزائی صاحبان یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لکھتے وقت مرزا قادیانی کے دل میں کس کا ڈر تھا۔ خدا ملک عظیم عطا کر رہا ہے۔ خود تفسیر میں لکھ رہے ہیں۔ "زمین کے خزانے کھولے جائیں گے" بعد میں کہا "روحانی بادشاہی" یا انگریز حکمرانوں کے خوف سے۔

آخری شعر اپنی تفسیر قصیدہ میں یہ لکھا ہے اور اس سے سب دعووں کو ثابت کر دیا ہے۔

مہدی وقت و عیسیٰ دوران
ہر دورا شہسوارے ہم

تشریح: "یعنی وہ مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی۔ دونوں صفات کا حامل ہوگا اور دونوں صفات سے اپنے تئیں ظاہر کرے گا۔ یہ آخری بیت عجیب تصریح پر مشتمل ہے۔ جس سے صاف طور پر سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تیرہ سو برس سے آج تک کسی نے بجز اس عاجز کے نہیں کیا کہ عیسیٰ موعود میں ہوں۔" شعر کیا ہے اور اس تشریح میں کیا نکات اور کیا دلچسپیاں ہیں۔ قارئین خود اندازہ لگالیں۔ ہم حضرات مرزائیہ سے صرف "ہر دو" کے معنی پوچھیں گے اور بس۔

جہانے بصاحب ہنرے جوہر خود را
عیسیٰ نتواں گفت بصدیق فرے چند

ترک اور جناب مرزا قادیانی

کتاب نشان آسمانی کے شروع میں جہاں مرزا قادیانی نے قصیدہ سارے کا سارا نقل کیا ہے۔ قصیدہ کو ختم کر کے کسی منشی محمد جعفر کے خلاف جس نے یہ کہا ہوگا کہ یہ قصیدہ حقیقتاً سید احمد صاحب بریلوی کے حق میں تھا۔ لکھتے ہوئے مرزا قادیانی مفصلہ ذیل شعر سے استدلال کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اس قصیدہ کا صحیح مخاطب میں ہوں۔ نہ سید احمد بریلوی۔ اصل شعر ہے

ترک عیار مست ے گرم
عجم او در خمارے بینم

مرزا قادیانی نے اس کو یوں لکھا ہے یا پڑھا ہے۔

ترک عیار ست ے گرم
عجم او در خمارے بینم

قصیدہ میں اس شعر کا جو محل ہے ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ کیونکہ امام موعود کے ظہور کے بعد جب زمانہ کا یہ حال ہوگا کہ ۔

بر کف دست ساقئے وحدت
بادہ خوشگوارے بینم
زینت شرع و رونق اسلام
ہر کے را دو بارے بینم

اس وقت ترک جو مسلمان ہیں۔ ان کی اگر یہ کیفیت ہو کہ ۔

ترک عیار مست ے گرم
عجم او درخمارے بینم

تو بالکل بجا اور درست ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے ترکوں کو مست کی بجائے ست بنا کر اس امر سے حجت پکڑی ہے کہ چونکہ ترک اس وقت کمزور سے نظر آرہے ہیں اور پیش گوئی یہ کہہ رہی ہے کہ ظہور مہدی کے وقت وہ ست ہوں گے۔ اس لئے میں وہ مہدی ہوں جو پیش گوئی کہتی ہے۔ کیا مرزا قادیانی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے اور نہیں یہ لکھتے وقت کچھ خیال نہ آیا کہ جب ساری دنیا کا ظہور مہدی کے بعد یہ حال ہونا چاہئے کہ ۔

ایں جہاں را چو مصرے گرم
عدل اورا حصارے بینم

تو پھر ترک غریبوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ ایسے زمانہ میں بھی ست ہی رہتے۔ بلکہ ایسے زمانہ میں آکر ست ہو جاتے۔ کیا محض اس لئے کہ ان کو مرزا قادیانی قبلہ کی بعثت کا علم نہیں ہوا تھا اور خاص کر اس لئے کہ وہ غریب مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر مہدی کی یہی برکت ہے کہ اسلامی سلطنتیں اس کے عہد میں کمزور و سست ہو جائیں تو ہم بغیر مہدی کے ہی اچھے ہیں۔ پھر دوسری بات

بیا اور مرزا قادیانی کے باغ نظر ہونے کی دلیل کہ جب ترک بھی سست ہو چکا تو پھر دوسرے مصرعے میں "خصم او در خمار سے جتم" کے کیا معنی ہو سکتے تھے۔ مرزا قادیانی کی تشریح خمار میں لکھتے ہیں کہ شیخ کا سرور جاتا رہے گا اور خمار رہ جائے گا۔ کاش کوئی ہمارا قابل مرزائی بھائی اس وقت مرزا قادیانی سے خمار کے معنی بھی پوچھنے کی جرأت کرتا۔ لغا مستوں میں تحقیق کر کے مجمع الفصحاء میں یہ شعر ملا ہے۔۔

ترک عیار مست سے گردد
خصم او در خمار سے جتم

خمار اس کیفیت کو کہتے ہیں جو نشہ شراب کے زائل ہونے کے بعد رہ جائے اور خمار کے مقابل ہو بھی اتنا مست ہی سکتا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کو اعجاز ذوق سلیم کب عطا ہوا کہ وہ از خود اس عیاں کی ادبی مراد اپنے آپ پا جاتے۔

مرزا قادیانی کا اس شعر سے اپنے حق میں استدلال کرنا بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ اس اسلامی سلطنت کی خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے مرزا قادیانی یوں لکھتے ہیں: "اس جگہ منشی محمد جعفر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ شعر یعنی ترک عیار گویا اس عاجز کی تکذیب کی نسبت پیش گوئی ہے۔ (محمد جعفر صاحب نے بھی اس خیال سے کہہ ہوگا کہ مرزا قادیانی کو ترک کہہ کر سست و عیار تو کہہ لو) لیکن ایک عقلمند جو انصاف و تدبر سے کچھ حصہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شعر اس قصیدہ کے مضامین کا ایک آخری مضمون ہے اور قصیدہ کی ترتیب سے بداہت معلوم ہوتا ہے کہ اول مسیح موعود کا ظہور ہوا اور پھر اس کے بعد کوئی اور واقعہ پیش آوے جو ترک عیار سست نظر آوے اور اس کا دشمن خمار میں دکھلائی دے اور ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں بجز اس عاجز کے کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یا اس کے دعویٰ کے بعد ایک ناقص الفہم اس عاجز کو ترک قرار دے۔ پس اس شعر کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس مسیح کے ظہور کے بعد ترک کی سلطنت کچھ سست ہو جائے گی۔"

کہاں وہ تربیت شریعت اور رونق اسلام کدھر جائے گی۔ پہلے مجموعہ بیان پر اعتبار بلند تر تمام اقبال کدھر جائے گا وہ صرف اسی لئے ہے کہ براہین احمدیہ میں حوالہ کے لئے لکھ جائے اور سلطنت کا مخالف بھی یعنی روس (مرزا قادیانی کا تمام مکاشفہ اور الہام تمام عمر صرف یہی دریافت کر سکا کہ ترکوں کا صرف ایک روس ہی دشمن ہے) شیخ ولی کا اچھا اچھا پھل ترک دیکھے گا اور آخر کار شیخ کا سرور جاتا رہے گا اور خمار رہ جائے گا۔ ۔ اور حدیثوں کے رو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہدی

کے وقت ترکی سلطنت بہت ضعیف ہو جائے گی (کیا مرزا قادیانی کے مریدین یا معتقدین نے کبھی ان سے دریافت کیا کہ یہ حدیثیں کہاں ہیں اور کیا ترکی سلطنت کو مہدی کے ظہور ہونے کے بعد ضعیف ہونا چاہئے تھا۔ یا اس سے پہلے ضعف کو زور لگ چکا چاہئے تھا)

یہ تھے خیالات مرزا قادیانی کے اپنے ظہور کے وقت قریب ترکوں کے متعلق۔ کاش اس وقت مرزا قادیانی دنیا میں موجود ہوتے۔ ہم انہیں بتاتے کہ حضرت عرفیؒ یوں پڑھتے۔

ترک عیار مست ہے مگر
چشم او درخمار ہے ہنوز

اور اب اس کے معنی کیجئے اور سچے پر چسپاں کیجئے۔ مگر مرزا قادیانی سچے تھے۔ ترک تو مست اصلی مہدی کے ظہور کے بعد ہوں گے۔ مرزا قادیانی کون مہدی تھوڑے تھے۔

یہاں تک لکھ کر ہم بطور نتیجہ کوئی بات نہیں کہتے۔ ارباب علم و دانش خود سمجھ لیں۔ ان کے مرید اپنے ضمیر و دل سے پوچھیں۔ راہ حق اب بھی دور نہیں۔ ایک توبہ پچھلی تمام لغزشوں کی تلافی ہے۔ شکست توبہ پر بھی توبہ ہو سکتی ہے ۔

ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

انتظار امام

امام موعود کا تمام اسلامی دنیا کو اس اضطراب سے انتظار ہے کہ راتوں کو نیندیں نہیں آتیں۔ وہ دن کب دیکھنا نصیب ہو گا کہ تمام دنیا اپنے کمال ترقی پر پہنچی ہوئی دکھائی دے۔ بجز توحید کسی دوسرے معبود کا نام نہ ہو۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر "لا الہ الا اللہ" کے نعرے ہوں۔ عدل مساوات، حریت، اخوت کے ترانوں سے گلشن عالم معمور ہو۔ انسان اپنے آپ کو کامل انسان پائیں۔ نسل و وطن کی تمیزیں دلوں سے محو ہو جائیں۔ آہ! یہ زمانہ کیسا آ گیا۔ یہ عروج ہمیں کب دیکھنا نصیب ہو گا۔ یا رب ہمیں یا تو اتنی لمبی عمر دے کہ ہم اس رحمۃ للعالمین نائب کا زمانہ دیکھیں۔ یا ہم پر ترحم فرما اور اسے جلدی بھیج۔ اگر یہ وقت اس کے ظہور کا نہیں تو اور کون سا ہو گا۔

روز عید است ترک شہسوار من کجاست
چشم ہر کس بر رخ یار است یار من کجاست

دریغ عمر کہ در انتظارے گذرد
فدائے ناشرو من تاچ زارے گذرد
جہانے نالم از اندوہ در فراق غمش
کہ بے وصال مرا روزگارے گذرد
بیا بیا کہ نسیم بہارے گذرد
بیا کہ گل ز رخت شرمسارے گذرد
بیا کہ فصل بہار است و موسم شادی
عیار خطرہ روز گارے گذرد
اے سوار اشہب دوراں بیا
اے فروغ دیدہ امکاں بیا
رونق ہنگامہ ایجاد شو
در سواد دیدہ ہا آباد شو
شورش اقوام را خاموش کن
نغمۂ خود را بہشت گوش کن
خیز و قانون اخوت ساز دہ
جام صہبائے محبت باز دہ
باز در عالم بیار ایام صلح
جنگجویاں را بدہ پیغام صلح
نوع انساں مزرع و تو حاصلی
کاروان زندگی را منزلی
ریخت از جور خزاں برگ شجر
چوں بہاراں بر ریاض ما گذر
سجدہ ہائے طفلک و برنا و پیر
از جبین شرمسار ما بگیر
از وجود تو سرافرازیم ما

قصیدہ کی مختلف شکلیں

پروفیسر براؤن	مرزا قادیانی	خواجہ عبدالغنی
قدرت کردگار مے بینم	قدرت کردگار مے بینم	قدرت کردگار مے بینم
حالت روزگار مے بینم	حالت روزگار مے بینم	حالت روزگار مے بینم
حال امسال صورت دگر است	از نجوم ایں سخن نمے گویم	حکم امسال صورت دگر است
نہ چو پیرار و پار مے بینم	بلکہ از کردگار مے بینم	نہ چو پیرار و پار مے بینم
از نجوم ایں سخن نمے گویم	در خراسان و مصر و شام و عراق	از نجوم ایں سخن نمے گویم
بلکہ از کردگار مے بینم	فتنہ و کارزار مے بینم	بلکہ از کردگار مے بینم
غین و رے سال چوں گذشت از سال	ہمہ را حال مے شود دیگر	غ ر ق چوں گذشت از سال
بو العجب کاروبار مے بینم	گر یکے در ہزار مے بینم	بو العجب کاروبار مے بینم
در خراسان و مصر و شام و عراق	قصۂ بس غریب مے شنوم	در خراسان و مصر و شام و عراق
فتنہ و کارزار مے بینم	غصہ در دیار مے بینم	فتنہ کارزار مے بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار	غارت و قتل لشکر بسیار	گرد آئینہ ضمیر جہاں
بے حد و بے شمار مے بینم	از یمین و یسار مے بینم	گرد و زنگ و غبار مے بینم
قصۂ بس عجیب مے شنوم	بس فرومایگان بے حاصل	ہمہ را حال مے شود دیگر
غصہ در دیار مے بینم	عالم و فاضل کار مے بینم	گر یکے را ہزار مے بینم
جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد	مذہب دین ضعیف مے یابم	ظلمت ظلم ظالمان دیار
از یمین و یسار مے بینم	مہدی انتظار مے بینم	بے حد و بے شمار مے بینم
غارت و قتل لشکر بسیار	دوستان عزیز ہر قومے	قصۂ بس غریب مے شنوم
در میان و کنار مے بینم	گشتہ غمخوار خوار مے بینم	غصہ در دیار مے بینم
بندہ را خواجہ وش ہمے بینم	منصب و عزل کج عمال	جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد
خواجہ را بندہ وار مے بینم	ہر یکے را سوار مے بینم	در میان و کنار مے بینم
سکہ نو زنند بر رخ زر	ترک و تاجیک را بہم دیگر	غارت و قتل لشکر بسیار
درہمش کم عیار مے بینم	خصمی و گیر و دار مے بینم	از یمین و یسار مے بینم
دوستان عزیز ہر قومے	مکر و تزویر و حیلہ در ہر جا	بندہ را خواجہ وش ہمی بینم

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

خرمی وصل یار می‌بینم
بعد امسال و چند سال دگر
عالمی چون نگار می‌بینم
این جهان را چو مصر می‌نگرم
هفت باشد وزیر سلطانم
همه را کامیار می‌بینم
عاصیان از امام معصوم
خجل و شرمسار می‌بینم
برکف دست ساقی وحدت
بادهٔ خوشگوار می‌بینم
غازی دوستدار دشمن کش
همدم و یار غار می‌بینم
تیغ آهن دلان زنگ زده
کند و بی اعتبار می‌بینم
زینت شرع و رونق اسلام
هر یکی را دوبار می‌بینم
گرگ با میش و شیر با آهو
در چرا برقرار می‌بینم
گنج کسریٰ و نقد اسکندر
همه بر روی کار می‌بینم
ترک عیار مست می‌نگرم
خصم او دردمار می‌بینم
نعمت الله نشست در کنجی
از همه برکنار می‌بینم
چون زمستان پنجمین بگذشت
ششمش خوش بهار می‌بینم

درهمش کم عیار می‌بینم
هر یکی از حاکمان هفت اقلیم
دیگری را دوچار می‌بینم
ماه را روسیاه می‌نگرم
تاجر از دوردست بی همراه
مانده در رهگذار می‌بینم
حال هندو خراب می‌یابم
جور ترک تتار می‌بینم
بعضی اشجار بوستان جهان
بی بهار و ثمار می‌بینم
جهل و قناعت دیگر
حالیا اختیار می‌بینم
غم مخور زانکه من درین تشویش
خرمی وصل یار می‌بینم
چون زمستان پنجمین بگذشت
ششمش خوش بهار می‌بینم
دور او چون شود تمام بکام
پسرش یادگار می‌بینم
بندگان جناب حضرت او
سربسر تاجدار می‌بینم
پادشاه تمام هفت اقلیم
شاه عالی تبار می‌بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر
علم و حلمش شعار می‌بینم
ید بیضا که با او تابنده
باز با ذوالفقار می‌بینم

جای گنج شرار می‌بینم
بعضی اشجار بوستان جهان
بی بهار و ثمار می‌بینم
اهل کے امن گر بعد مرواد
هر یکی قناعت دیگر
حالیا اختیار می‌بینم
گرچه می‌بینم این همه غمها
شادی غمگسار می‌بینم
غم مخور زانکه من درین تشویش
خرمی وصل یار می‌بینم
بعد امسال و چند سال دگر
عالمی چون نگار می‌بینم
چون زمستان پنجمین بگذشت
ششمش خوش بهار می‌بینم
نائب مهدی آشکار شود
بلکه من آشکار می‌بینم
پادشاه تمام دانائی
سروری باوقار می‌بینم
دور او چون شود تمام بکام
پسرش یادگار می‌بینم
بندگان جناب حضرت او
سربسر تاجدار می‌بینم
بعد از آن خود امام خواهد بود
که جهان را مدار می‌بینم
پادشاه و امام هفت اقلیم
شاه عالی تبار می‌بینم

نائب مہدی آشکار شود
بلکہ من آشکار مے بینم
پادشاہے تمام دانائے
سرور باوقار مے بینم
بندگان جناب حضرت او
سر بسر تاجدار مے بینم
تا چہل سال اے برادر من
دور آں شہریار مے بینم
دور او چوں شود تمام بکام
پسرش یادگار مے بینم
پادشاہے تمام دانائے
شاد عالی تبار مے بینم
بعد ازو خود امام خواہد بود
کہ جہاں را مدار مے بینم
میم حا میم دال مے خوانم
نام او نامدار مے بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر
علم و حلمش شعار مے بینم
ید بیضا کہ باد پائندہ
باز با ذوالفقار مے بینم
مہدی وقت و عیسی دوراں
ہر دو را شہسوار مے بینم
گلشن شرع را ہمے بویم
گل دین را ببار مے بینم

گلشن شرع را ہمے بویم
گل دین را ببار مے بینم
تا چہل سال اے برادر من
دور آں شہسوار مے بینم
عاصیاں از امام معصوم
خجل و شرمسار مے بینم
غازی دوستدار دشمن کش
ہمدم یار غار مے بینم
زینت شرع و رونق اسلام
محکم و استوار مے بینم
گنج کسریٰ و نقد اسکندر
ہمہ بر روئے کار مے بینم
بعد ازاں خود امام خواہد بود
ملک جہاں را مدار مے بینم
ا ح م دال مے خوانم
نام آں نامدار مے بینم
دین و دنیا ازو شود معمور
خلق ازو بختیار مے بینم
مہدی وقت و عیسی دوراں
ہر دو را شہسوار مے بینم
این جہاں را چو مصر مے نگرم
عدل او را حصار مے بینم
ہفت باشد وزیر سلطانم
ہمہ را کامگار مے بینم
بر کف دست ساقی وحدت
بادۂ خوشگوار مے بینم

میم و حے میم دال مے خوانم
نام آں نامدار مے بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر
علم و حلمش شعار مے بینم
دین و دنیا ازو شود معمور
خلق ازو بختیار مے بینم
ید بیضا کہ باد پائندہ
باز با ذوالفقار مے بینم
مہدی وقت و عیسی دوراں
ہر دو را شہسوار مے بینم
گلشن شرع را ہمے بویم
گلبن دین بہار مے بینم
این جہاں را چو مصر مے نگرم
عدل او را حصار مے بینم
تا چہل سال اے برادر من
دور آں شہریار مے بینم
ہفت باشد وزیر سلطانم
ہمہ را کامگار مے بینم
عاصیاں از امام معصوم
خجل و شرمسار مے بینم
بر کف دست ساقی وحدت
بادۂ خوشگوار مے بینم
غازیان دوستدار دشمن کش
ہمدم یار غار مے بینم
تیغ آہن دلان زنگ زدہ
کند و بے اعتبار مے بینم

نخ آہن از زنگ زاد　　زینت شرع و رونق اسلام
گندہ بے اعتبارے بینم　　مختلف روزگارے بینم
گرگ بیکش شیرہ آہو　　گرگ باپش شیرہ آہو
درجہ باقرارے بینم　　درجہ برقرارے بینم
ترک عیار مست مے گیرم　　گنج کسریٰ و نقد اسکندر
غمش او دلشادے بینم　　ہمہ بیدوے کارے بینم
نعمت شد تحت ہر گنجے　　ترک عیار مست مے گیرم
از ہمہ بیتودے بینم　　غمش او دلشادے بینم
نعمت اللہ نشستہ ہر گنجے　　از ہمہ برکنارے بینم

سید نعمت اللہ کرمانی

پروفیسر براؤن نے اپنی کتاب "فارسی ادب در عہد تاتاریان" میں ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ جن میں سے انہوں نے شاہ نعمت اللہ کے حالات و واقعات زندگی مختصراً نقل کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ نعمت اللہ کی سب سے معتبر سوانح زندگی ریو صاحب کی کتاب موسومہ بہ پرشین کیٹالاگ (فہرست نسخہ ہائے فارسی) میں دیئے گئے ہیں۔ جہاں ان حالات پر جو عام کتب میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اس زمانہ کے نادر کتب سے جو اس وقت برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ تفصیلات لے کر اضافہ کیا گیا ہے۔ نیز تاریخ یزد و شاہ میر یزد موسوم بہ جامع مفیدی سے بھی مزید حالات لئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب کے مجمل حالات زندگی یوں ہیں۔ ان کا پورا نام امیر نورالدین نعمت اللہ تھا۔ باپ کا نام میر عبداللہ تھا۔ نسب میں اپنے آپ کو شیعوں کے پانچویں امام محمد باقر جو حضرت علی کرم اللہ ابن ابی طالب کے پوتے تھے کی اولاد کہتے تھے۔ آپ حلب میں ۷۳۰ھ مطابق ۱۳۲۹ یا ۱۳۳۰ء پیدا ہوئے۔ مگر شباب کا آخر حصہ عراق میں بسر کیا۔ چوبیس برس کی عمر میں مکہ معظمہ کی زیارت کی۔ جہاں سات سال مقیم رہے اور شیخ عبداللہ یافعی کے اکابر مسترشدین میں شمار ہونے لگے۔ شیخ موصوف اپنے زمانہ کے ایک مشہور صوفی اور مورخ تھے۔ جنہوں نے ۷۶۸ھ مطابق ۱۳۶۶، ۶۷ء میں انتقال فرمایا۔ شاہ نعمت اللہ کی آخری زندگی سمرقند۔ ہرات اور یزد میں بسر ہوئی۔ تا آنکہ بالکل اخیر پر آپ ماہان متصل کرمان تشریف لے گئے اور زندگی کے باقی

پچیس سال وہیں گزارے۔ آپ نے اسی مقام پر سو سال سے زائد عمر پائی۔ ۲۲ رجب ۸۳۴ھ مطابق ۵ اپریل ۱۴۳۱ء کو انتقال کیا۔ مورخ عبدالرزاق سمرقندی نے ۸۴۵ھ مطابق ۱۴۴۲،۱۴۴۱ء میں آپ کی قبر کی زیارت کی۔

شاہ نعمت اللہ درویشوں کے بادشاہ تھے۔ اسی لئے انہیں لقب شاہ سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے بادشاہوں سے دوستانہ تعلق تھے۔ شاہ رخ آپ کی خاص عزت کرتا تھا۔ احمد شاہ بہمنی شاہ دکن نے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھا۔ جب اس کی تاکیدی التجاؤں پر شاہ صاحبؒ کا ایک پوتا آخر اس کے دربار میں آ گیا۔ دو اور پوتوں نے بھی باپ کے ساتھ ادھر کا رخ کیا۔ شاہ نعمت اللہ کے اخلاف میں سے جو ایران ہی میں رہے۔ کئی ایک نے صوفیوں کے شاہی خاندان میں شادیاں کیں۔

بقول ریو صاحب، شاہ صاحبؒ نے ۵۰۰ سے زائد رسالے تصوف پر لکھے اور پیچھے چھوڑے۔ ان کے علاوہ ایک اشعار کا دیوان بھی ان کی سب سے بڑی تصنیف ہے۔ دیوان کے متعلق پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ میرے پاس اس کی طہران کی ۱۲۷۶ھ مطابق ۱۸۶۰ء کی چھپی ہوئی مکمل کاپی ہے۔ مگر اس کے کثیر اقتباسات ان تمام کتب اور بیاضوں میں جن میں شاہ صاحبؒ کا ذکر لکھا ہے۔ منتشر ملتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ بحیثیت شاعر اتنے مشہور نہیں جتنے بحیثیت ولی اور صوفی۔

شعر میں آپ کا انداز مغربی کا سا ہے۔ (اس مقام پر پروفیسر موصوف نے آپ کے کلام پر کچھ تبصرہ لکھا۔ جس کا ذکر ہمارے مقصد سے باہر ہے) آپ کی اپنے خاص رنگ کی تمام نظمیں جو تعداد میں تھوڑی ہی ہیں وہ ہیں۔ جو آپ نے الہامی انداز میں لکھی ہیں۔ ان کا ابھی تک لوگوں پر ایک خاص اثر ہے اور ان کے خاص سلسلہ معتقدین جس کے وہ خود بانی تھے کے علاوہ دوسرے ایرانی بھی ان سے استشہاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروفیسر لکھتے ہیں کہ جب میں کرمان میں تھا تو بابی فرقہ کے لوگ مجھے بتایا کرتے تھے کہ باب کے ظہور کی تاریخ ۱۲۶۰ھ مطابق ۱۸۴۴ء بطور پیش گوئی اسی نظم کے قصیدہ میں بتائی گئی ہے۔ جب میں نے ولی نعمت اللہ کے مقبرہ کی زیارت کی تو میں نے ایک درویش سے اس نظم کا سب سے قدیم اور نہایت صحیح قلمی نسخہ سے اس کی ایک نقل حاصل کی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں جو تاریخ دی ہوئی ہے وہ ۱۲۶۰ کے ۲۷۴ گنتی ہے۔ یعنی (س رغ = ۱۰۰۰+۲۰۰+۶۰) کی بجائے اس میں (ورغ

= ۴+۲۰۰+۷۰) ہے اور رضا قلی خان کے تذکرہ مجمع الفصحاء میں جہاں یہ نظم درج کی گئی ہے۔ تاریخ (درع = ۱۰۰۰+۲۰۰+۴) بنتی ہے۔ مجمع الفصحا میں نظم کا عنوان یہ دیا گیا ہے۔ دراظہار بعضے از رموزات و مکاشفات بر سبیل کنایات۔ پروفیسر موصوف یہ نظم ماہان میں ماہ اگست ۱۸۸۸ء کو حاصل کی۔ اس میں ۵۰ اشعار ہیں۔ مجمع الفصحا میں صرف ۴۲ ہیں اور ایک یا دو شعر نئے ہیں۔ یعنی پروفیسر صاحب کی کاپی میں وہ نہیں ہیں۔ بعض جگہ ترتیب اشعار بھی مختلف ہے اور کہیں کہیں الفاظ و عبارت میں تغیر و تبدل بھی ہے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ جس چھپے ہوئے دیوان کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نظم بالکل مفقود ہے۔ ان کے عام اشعار پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا کلام عام طور پر مبہم و پیچیدہ اقوال سے پر ہے۔ مثلاً عام طور پر آپ فتنۂ آخرالزمان اور ظہور امام مہدی سے متعلق ہی پیش گوئیاں وغیرہ لکھتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جب میں ۱۸۸۸ء میں تبریز سے ماہان گیا تو وہاں نعمت اللہی سلسلہ کے درویشوں نے جو مزار پر موجود تھے۔ میری بہت خاطر تواضع کی۔

شاہ نعمت اللہ کرمانی کے متعلق مرزا قادیانی کے محققانہ اور مورخانہ معلومات

آپ (نشان آسمانی ص ۹، خزائن ج ۴ ص ۳۶۹) میں لکھتے ہیں: ''واضح ہو کہ نعمت اللہ ولی رہنے والے دہلی کے نواحی کے اور ہندوستان کے اولیائے کاملین میں سے مشہور ہیں۔ ان کا زمانہ ۵۶۰ھ ان کے دیوان کے حوالہ سے بتایا گیا ہے۔''

کاش مرزا قادیانی بذریعہ کشف و الہام ہی پتہ لے لیتے کہ شاہ صاحب پیدا حلب میں ۷۳۰ھ میں ہوئے تھے اور انتقال ۸۳۴ھ میں ماہان (ایران) میں کیا۔ آخر یہ اس رسالہ میں دیا ہوا جس سے مرزا قادیانی نے قصیدہ نقل کیا ہے کہ شاہ صاحب ہندوستان کے رہنے والے تھے تو خیر۔ ورنہ اگر یہ بھی مرزا قادیانی کی اپنی اختراع ہے تو یہ ثابت ہوگا کہ مرزا قادیانی چونکہ خود ہندوستانی تھے۔ اس لئے اس ولی کا وطن بھی ہندوستان میں بتایا۔ تاکہ پیش گوئی کی نسبت خیال ہو کہ ضرور کسی ہندوستانی مہدی کے لئے ہے۔

مندرجہ ذیل شعر کی تشریح مرزا قادیانی نے معلوم ہوتا ہے اسی خیال کو مدنظر رکھ کر کی ہے۔

جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد

[illegible]

قادیانیوں

کا

اصل حقیقت سے فرار

جناب عبدالقیوم پراچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

ایک پمفلٹ

نماز فجر کے بعد مسجد سے واپس آیا تو مکان کی ڈیوڑھی میں پڑے ہوئے ایک پمفلٹ پر نظر پڑی۔ پہلے تو بچوں پر غصہ آیا کہ یوں زمین پر ایک کتابچہ کیوں پھینک دیا۔ لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ مرزائی گروہ کی کارستانی ہے۔ وہ ایک کتابچہ بنام "احمدی مسلمان کس غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھیں" ڈیوڑھی میں پھینک گئے تھے۔ خیال کر لیا کہ میں ان نام نہاد "احمدیوں" کو بتاؤں گا کہ تمہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب تمہاری نمازیں اور یہ ظاہری نمائشی تقویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے نمازیں اور تقویٰ ہی نہیں تو کسی کے آگے اور پیچھے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

تمہارے دل جب مسلمانوں کی دشمنی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ جب تم حرم بیت اللہ اور حرم نبوی کے خلاف رات دن سازشیں کرنے میں مصروف ہو اور جب تم عالم اسلام کے بدترین دشمن، جن کو قرآن کی آیات میں مسلمانوں کا غلیظ ترین اور شدید ترین دشمن قرار دیا گیا ہے اور تم اے قادیانیو! ان کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کا مکروہ کاروبار کر رہے ہو۔

اور اپنے یہودی آقاؤں کے خلاف تمہیں ایک لفظ بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب تم ہم سے سوال کرتے ہو اور بڑے مقدس اور غیر جانب دار بن کر کہ کس کے پیچھے ہم "نیک و مقدس احمدی" نماز پڑھیں۔ تم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ تم جیسے ملائکہ کو اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی دعوت دے۔

حقیقت واقعہ

قادیانی ہمیشہ اصل موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی مثلاً شیعہ سنی اختلاف، بریلوی دیوبندی اختلاف کی باتیں اور مقلد غیر مقلد کے جھگڑے کا تذکرہ لے بیٹھتے ہیں۔ جب کہ اصل موضوع یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کو میں

نبوت کے منصب پر مامور فرماتا ہوں۔ اس کا اقرار راست روی اور سلامتی کی راہ ہے اور انکار نبوت کج روی اور گمراہی بمنزلہ کفر ہے اور صاف اور سیدھی بات تو یوں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ۱۹۰۲ء میں صاف صاف نبوت کا دعویٰ کیا اور ۱۸۸۰ء سے ۱۹۰۲ء تک مسلسل ۲۲ سال اس سے انکار کیا۔ بلکہ پوری شدت سے تردید کی۔ جیسا کہ فرمایا: ”میں اس بات پر محکم یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ﷺ ہیں۔ آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیا ہو یا پرانا۔“ (نشان آسمانی ص ۳۰، خزائن ج ۴ ص ۳۹۰)

”میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“

(آسمانی فیصلہ ص ۳، خزائن ج ۴ ص ۳۱۳)

”دے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو۔“ (آسمانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۴ ص ۳۳۵)

اور پھر ۱۹۰۲ء میں صاف صاف اعلان فرما دیا کہ: ”دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔“ جیسا کہ براہین احمدیہ میں مرزا قادیانی نے فرمایا ہے: ”میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ﷺ ہوں۔“

اور اس کی تشریح بھی خود غیر مبہم اور واضح الفاظ میں یوں کر دی۔ جس کا حوالہ کلمۃ الفصل میں (تحریر حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷) کا دیتے ہوئے خلیفہ ثانی یوں بیان فرماتے ہیں کہ: ”حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اوّل یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھو۔ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا اور تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ خبیث عقیدہ ہے اور یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس

کے لئے رحمت الٰہی کا دروازہ بند ہے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۲۸)

اور اس کے بعد محمود خلیفہ ثانی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ۱۸۸۰ء سے لے کر ۱۹۰۲ء تک جتنے اعلانات اور بیانات پر تو صاف پانی پھیر دیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ: "ہر وہ انسان جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا خواہ اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔" (آئینہ صداقت از مرزا بشیر الدین محمود ص ۳۵)

یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کسی نبی نے دعویٰ نبوت پوشیدہ رکھا نہیں کیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اس سے پوچھا گیا ہو اور اس نے انکار کیا۔ بلکہ جب وحی نبوت اس پر نازل ہوتی ہے تو وہ ڈٹ کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرماتا ہے کہ میں انسانوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت پر مامور کیا گیا ہوں۔ مجھے نبی مانو تو مسلمان کہلاؤ گے اور نجات پاؤ گے۔ بصورت دیگر اگر کفر کی حالت میں مرو گے تو واصل جہنم ہو جاؤ گے۔

اب قادیانیوں کی ہیرا پھیری

لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی شان ہی نرالی ہے۔ جیسے کہ میں نے اوپر ان کی عبارت سے ثابت کیا ہے۔ لیکن ان واضح اعلانات کے بعد آج قادیانی جماعت کا کوئی مبلغ جب اپنی بات شروع کرتا ہے تو یوں گویا نہیں ہوتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اقرار کرو گے تو مسلمان کہلاؤ گے اور انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے اور دائرہ اسلام سے خارج۔ بلکہ حیات مسیح، تنظیم جماعت، نشر و اشاعت کا حدود اربعہ اور چیدہ چیدہ الہامات کا اظہار کرے گا اور ان سے جب بھی یہ پوچھا جائے گا کہ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ پہلے اس معاملہ کو صاف کریں تو کنی کترا جائیں گے۔ بلکہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے بعض علماء نے خوامخواہ مرزا قادیانی کو کافر کہا۔ جس کے جواب میں ہم بھی مسلمان کو کافر سمجھنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے۔ ۱۹۰۲ء تک جب کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا تھا تو ان کو کسی نے کافر نہ کہا۔ دعویٰ کے بعد تو کفر لازم تھا ہی جیسا

کہ مرزا قادیانی کے لئے ان کی نبوت کا انکار کفر تھا۔ ویسے ہی حضور اکرم ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کھلم کھلا کفر ہے۔ لیکن اس کو کیا کہئے کہ آج بھی خود مرزا قادیانی اور خلیفہ دوم کے واضح اعلانات کے بعد جماعت احمدیہ کے مبلغین اور مقررین دو ٹوک بات کہنے سے کتراتے ہیں۔ جس کا حوالہ میں اوپر کلمۃ الفصل ص ۱۱۲۵ اور آئینہ صداقت ص ۳۵ کا حوالہ دے چکا ہوں۔ مزید خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ: ”حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کو لڑکیاں دینا حرام کیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے ہیں۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم ﷺ نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۶۹، ۱۷۰)

قادیانیوں کا منافقانہ موقف

اس طرح جب یہ قادیانی حضرات دو ٹوک بات نہیں کرتے اور کفر و اسلام کے اس واضح امتیاز کو گول کر جاتے ہیں تو عوام الناس کو سمجھانے کے لئے علماء کرام ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ قادیانی ہم سے یوں دینی و دنیوی تعلقات منقطع کرنے کے بعد ہم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ حضرات بھی عوام الناس کو اس طلسم ہوشربا میں پھنسائے رکھنے کو اپنے لئے مفید سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جھگڑا ان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ وہ ہم سے رشتہ ناطہ کیوں نہیں کرتے۔ وہ ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھتے۔ بلکہ ان سے اختلاف ہے تو صرف یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لازم ہے کہ دو میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے۔ آج جب کہ اس بات کو صاف صاف کہنے سے کتراتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے

ہے کہ یہ بات ان کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کافر تھا مسلمان ہو رہا ہوں اور میرے مسلمان ہونے سے میرے والدین اور بھائی بہن سب کافر ہو جائیں گے تو ان کے پھیرے میں کبھی نہ آتا۔ بلکہ شروع میں تو یہ اپنے قریب کرتے ہیں اور جب آدمی ان کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے عزیز و اقارب اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ان کی انفرادی تعریفیں اور تبلیغی اعداد و شمار اور تنظیمی سرگرمیوں تک کو بیان کرتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں۔ تدریجی اس معاملہ کو اس پر آشکار کیا جاتا ہے اور تب ہی وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ بس جب پوری طرح ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو لوگ اس کو مرزائی کہنے لگتے ہیں اور وہ صراحۃً مرزائی ہونے کا اقرار کر گزرتا ہے اور پھنستا چلا جاتا ہے۔

چند مثالیں

یہ صرف مفروضے نہیں، میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں اور ایسے انسانوں کے نام تک گنوا سکتا ہوں جو اس طرح مرزائیت کے قریب ہوئے اور پھنستے چلے گئے اور آج تک گومگو میں مبتلا ہیں۔ ایسے جو مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں۔ اس طرح قادیانی حضرات ہم کو زبانی کافر نہ کہنے سے اپنے اندر کے بغض کو چھپاتے ہیں اور اپنے عقیدے سے بھی منافق ہیں۔ جب کہ عملاً وہ تمدنی معاشرتی اور مذہبی روابط منقطع کر لیتے ہیں تو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اس لئے ماحصل مدعا یہ ہے کہ ہمارا ان سے اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ ہمارے جنازوں میں کیوں شرکت نہیں کرتے اور ہم سے رشتہ ناطہ کیوں نہیں کرتے۔ بلکہ اصل اختلاف تو صرف اور صرف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو کہ جھوٹا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والا ہر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی حضرات کے لئے سیدھی سی بات صرف یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو ان کی نبوت سے انکار کرنے والے ہر انسان کو کافر سمجھیں۔ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو

نبی نہیں مانتے تو واضح اعلان کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسا کہ ان کی تحریروں سے ثابت ہے تو وہ کاذب اور جھوٹا مدعی نبوت تھا اور دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بات صاف اور دوٹوک ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ رشتہ ناطہ کرے تو ہم اس کی نبوت مان لیں گے۔ کسی انسان کو نبوت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے فائز کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا اقرار عین اسلام اور اس کا انکار عین کفر ہو۔ جیسا کہ آج تک کوئی نبی نہیں گذرا (خواہ وہ ہارون علیہ السلام ہوں جن کے پاس شریعت نہ تھی) جس نے یہ بات دوٹوک نہ کہی ہو کہ میں اب توں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی، مبعوث ہوں۔ اگر میری نبوت کا اقرار کرو گے تو اسلام میں آ جاؤ گے اور اگر انکار کرو گے تو کفر میں رہو گے۔ جیسا کہ تمام مسلمانان عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی ایک نبی کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جب کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی شریعت کے سوا کسی کی شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ صرف نبی ماننا شرط ایمان ہے تو پھر صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرات کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف صرف اور صرف دعویٰ نبوت اور کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ صاف ہونا چاہئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھے اور قادیانی حضرات ان کو کیا مانتے ہیں اور اس سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں اور ان نتائج کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔

قصہ اس کتابچے کا جس کا تذکرہ میں نے ابتداء میں کیا تھا

اب میں اس پمفلٹ کا بھی ذکر کر دوں گا جو کہ مبارک محمود صاحب نام گلی نمبر ۱۶ براندرتھ روڈ لاہور کا شائع کردہ ہے۔ اس کا عنوان سرورق پر یوں ہے۔ احمدی مسلمان غیر احمدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کے اندر انہوں نے ان فتوؤں کا ذکر کیا ہے جو کہ وقتاً فوقتاً مختلف حضرات نے مختلف مکاتب فکر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے لئے دیئے ہیں۔ حالانکہ ان کا تعلق مرزائیت کی صداقت سے بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اوپر واضح کر چکا ہوں کہ اصل اختلاف یہ ہے نبی ہیں کہ نہیں اور جو اصل اختلاف ہے۔ اس کو تو خود مبارک محمود صاحب نے اپنے عنوان سرورق پر تحریری عبارت میں واضح کر دیا ہے۔ مگر اپنی اس پرانی تکنیک سے کہ بات کو گول مول کر کے عوام جو ہمارا شکار ہیں۔

ے

کچھ نہ سمجھ پائیں۔ تحریر فرماتے ہیں کہ احمدی مسلمان غیر احمدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ غور فرمادیں احمدی مسلمان، لیکن غیر احمدی مسلمان ہیں۔ جب کہ احمدی مسلمان ٹھہرے تو غیر احمدی کے ساتھ اگر لفظ مسلمان کا نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ غیر مسلم ٹھہرے۔ اگر مبارک محمود صاحب کا یہ مدعا نہ ہوتا تو عبارت یقیناً یوں ہوتی کہ احمدی مسلمان غیر احمدی مسلمانوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اب بات تو صاف ہوگئی کہ احمدی مسلمان غیر احمدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس لئے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور یہی حقیقت بھی ہے کہ مسلمان کی نماز کافر کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا۔ مگر واضح طور پر دو ٹوک بات صرف اس لئے نہ کی کہ اس طرح عوام الناس پر صاف ظاہر ہو جائے گا کہ احمدی مسلمان نہیں سمجھتے۔ جس سے عوام الناس کا یہ مطالبہ کہ جب قادیانی ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر ہم میں سے کیوں ہیں۔ اگر پاکستان میں احمدی مسلمان ہیں اور ہم کافر تو ان کو کافر اکثریت میں مسلم اقلیت قبول کرنی چاہیے اور اگر ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر۔ جیسا کہ مسلمانان عالم کا متفقہ فیصلہ ہے تو پھر ان کو مسلم اکثریت میں کافر اقلیت قبول کرنی چاہیے۔ جیسا کہ قائد اعظم کے جنازہ کے موقعہ پر اخبار نویسوں کے سوال کرنے پر سر ظفر اللہ خان نے جواب دیا تھا کہ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر۔

احمدی نوجوان سوچیں

کہ ان کی جماعت کے یہ اکابر انہیں کس قسم کی پیچیدہ صورتحال میں پریشان کئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور مولوی لوگ ہمیں خواہ مخواہ کافر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ پورے عالم اسلام کے مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں۔ خواہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، ان کو غیر احمدی، غیر مسلم، کافر، دائرہ اسلام سے خارج جہنمی، کنجریوں کی اولاد، حرام کی اولاد، بیابانوں کے خنزیر قرار دیتے ہیں۔ خاندانی تعلقات کو ختم کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کسی گروہ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے آگے کھڑے ہو کر کسی وقت نماز کی امامت بھی کرا سکے۔ دوسری طرف ایسے ہی غیر احمدی کافروں کے درمیان رہنے پر مصر بھی ہیں۔ ان کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں۔ کس قدر یہ منافقانہ کاروائی ہے مرزائیوں کی

[illegible]

ابطال مرزا

حضرت مولانا محمد اسحاق امرتسری

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

الحمد للہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ!

بعد حمد و تعریف کے واضح ہو کہ جھوٹ کو اسلام ہی نہیں برا کہتا بلکہ ہر مذہب و ملت کا انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ مرزا قادیانی باوجود رسالت کے مدعی ہونے کے بھی (بقول خود) جھوٹ اور بہتان تراشی کی عادت تھی۔ تصانیف مرزا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ آنجہانی قادیانی کو افترا اور کذب بیانی میں ید طولیٰ حاصل تھا۔

احباب کرام کی آگاہی کے لئے اس رسالہ میں چند ایک جھوٹ درج کئے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصود صرف اصلاح ہے۔ بعد مطالعہ کے آپ خود ہی اپنے دل سے دریافت کریں کہ ایسا شخص نبوت کا مصداق ہو سکتا ہے؟

نوٹ: اگر آپ مرزائیت کی اصلیت سے کما حقہ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا رسالہ حالات مرزا ملاحظہ فرمائیے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی احباب غور سے اس کا مطالعہ کرے گا تو انشاء اللہ العزیز ہر جگہ مرزائیوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔

اباطیل مرزا کے معنی ہیں مرزا قادیانی کے جھوٹ۔ چونکہ اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے جھوٹ جمع کئے ہیں۔ اس واسطے اس کا نام بھی اباطیل مرزا انتخاب کیا گیا ہے۔

۱…… ناظرین کرام! مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا۔ میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“ (تریاق القلوب ص۵، خزائن ج۱۵ ص۱۵۵)

مشتاق: پچاس الماریاں کتابوں سے بھرنی تو الگ رہیں۔ مرزا قادیانی کی کل کتابیں اسی کے قریب ہیں۔ دیکھو اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۳۲ء ص۷) اور مرزا قادیانی کے صاحبزادے لکھتے ہیں: ”حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کے تمام اشتہارات کو بھی جن کی تعداد ۱۸۰ سے زیادہ ہے۔“ (منصب خلافت ص۳۳)

کیا قادیانی احباب بتا سکتے ہیں کہ اگر ۸۰ کتابیں اور ۱۸۰ اشتہارات یکجا جمع کئے جائیں تو کیا ان سے پچاس الماریاں بھری جا سکتی ہیں؟

۲۔ "تمام مسلمانوں کے لئے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔"

(کشتی نوح ص ۶۰ خزائن ج ۱۹ ص ۶۵)

مشتاق: مرزا قادیانی نے بغیر سوچے سمجھے بخاری جیسی متبرک کتاب پر بیجا حملہ کیا۔ حالانکہ بخاری میں صاف لکھا ہے۔ "عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (بخاری)" {حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔}

۳۔ "امام مالک جیسا امام عالم حدیث وقرآن ومتقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ایسا ہی امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں قائل وفات مسیح ہے۔ اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتاب ہے۔ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں۔ ایسا ہی فاضل ومحدث ومفسر ابن تیمیہ وابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔" (کتاب البریہ حاشیہ ص ۲۰۳ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱)

مشتاق: بالکل سفید جھوٹ ہے۔ ان بزرگوں میں سے کوئی بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہرگز نہ تھا۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں۔ "وکان الروم والیونان وغیرھم مشرکین یعبدون الھیاکل العلویۃ والاصنام الارضیۃ فبعث المسیح علیہ السلام رسلہ یدعونھم الی دین اللہ تعالیٰ فذھب بعضھم فی حیاتہ فی الارض (وبعضھم بعد رفعہ) الی السماء فدعوھم الی دین اللہ تعالیٰ فدخل من دخل فی دین اللہ" {روم اور یونان وغیرہ میں مشرکین ہیاکل علویہ اور بتان زمینی کو پوجتے تھے۔ پس مسیح علیہ السلام نے اپنے نائب بھیجے کہ وہ لوگوں کو دین الٰہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ پس بعض تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں گئے اور بعض مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے۔ پس وہ لوگوں کو دین الٰہی کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی دعوت سے اللہ کے دین میں داخل ہوا جس کسی نے داخل ہونا تھا۔} (الجواب الصحیح ج ۱ ص ۱۱۹)

اسی طرح امام صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں: "وقال لھم نبیھم لوکان موسیٰ حیاثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم وعیسیٰ بن مریم علیہ السلام اذا نزل من

السماء انما یحکم فیہم بکتاب ربہم وسنة نبیہم فای حاجة لہم مع ہذا الی الخضر وغیرہ والنبی ﷺ قد اخبرہم بنزول عیسیٰ من السماء وحضورہ مع المسلمین وقال کیف تہلک امة انا اولہا وعیسیٰ فی آخرہا" {اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم اس کی پیروی کرتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے تو گمراہ ہو جاتے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب اترے گا آسمان سے تو وہ مسلمانوں میں کتاب اور سنت کے مطابق حکم کرے گا۔ پس کون سی اور ضرورت ہے باوجود اس کے خضر علیہ السلام وغیرہ کی طرف۔ حالانکہ نبی ﷺ نے مسلمانوں کو بتایا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے اور فرمایا کہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے وہ امت جس کے ابتداء میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔} (ازالہ اوہام ص ۷۵)

۴۔۔۔۔ "ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔" (ازالہ اوہام ص ۲۲۲، خزائن ج ۳ ص ۲۷۳)

حقائق: حدیث کی کسی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں آیا۔ اگر قادیانیوں کے پاس وہ کتاب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہو تو ہم کو بھی دکھا دیں۔ ورنہ صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ "لعنة اللہ علی الکاذبین" دوستو! یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں اور نہ ہی انشاء اللہ العزیز مرزائی دکھا سکتے ہیں۔ حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں صرف یہ الفاظ ہیں۔ "لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی" (مرقاۃ شرح مشکوۃ ج ۱ ص ۲۰۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۷)

۵۔۔۔۔ "اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔" (اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

حقائق: مرزائی دوستو! ہم بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ ان نبیوں کے اسماء گرامی کی فہرست ہمیں بھی دکھا کر بتلا دیجئے کہ ان کے نام کس صحیفہ میں درج ہیں۔

۶۔۔۔۔ "تفسیر ثنائی میں لکھا ہے کہ ابوہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھا۔"

(براہین احمدیہ ج۵ ص۴۳ خزائن ج۲۱ ص۶۰)

مشتاق: امید ہے کہ امت مرزائیہ اس امر میں اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرے گی۔ ورنہ ہماری طرف سے "لعنت اللہ علی الکاذبین" کا تحفہ قبول کرے۔

۷۔ "اس تکذیب نے تو شیرخوار بچے بھی قتل کئے۔ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں تک نوبت پہنچی۔" (مکتوبات احمدیہ حصہ سوم ص۴۳)

مشتاق: کیا ہی خوب ہو۔ اگر مرزا قادیانی کی تصدیق کرنے والے احباب کرام ان بچوں کے نام مع حوالہ شائع کردیں۔

۸۔ "مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور آسمان سے قادیان پر گرا۔ (یعنی عاجز پر) اور فرمایا کہ میری اولاد اس نور سے محروم رہ گئی۔"

(اربعین نمبر ۳ ص۲۶، خزائن ج۱۷ ص۴۲۳)

مشتاق: ہم مرزائی انجمن کے ممبروں سے طالب دریافت ہیں۔ کیا ہی آپ کا شکریہ ہو اگر آپ لوگ اس کا مکمل ثبوت دیں۔ یہ واقعہ مولانا مرحوم علیہ الرحمت نے کن لوگوں کے درمیان بیان کیا۔ ان شاہدوں کی فہرست پیش کی جاوے۔

۹۔۔۔۔ "جواب شبہات الخطاب الملیح فی تحقیق المھدی والمسیح" جو مولوی رشید احمد گنگوہی کی خرافات کا مجموعہ ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ ج۵ ص۱۹۹ خزائن ج۲۱ ص۳۷۰)

مشتاق: بالکل الہامی جھوٹ ہے۔ یہ رسالہ مولوی اشرف علی تھانوی کا تصنیف کردہ ہے۔ آنجہانی نے بلا سوچے سمجھے لکھ دیا۔ افسوس کہ ٹائٹل پر سے ہی مولف کا نام پڑھ لیتے۔

۱۰۔۔۔۔ "خدا نے میرے لئے یہ نشان بھی دکھائے کہ اس نے ہر ایک مباہلہ میں میرے دشمنوں کو ہلاک کیا۔" (چشمہ معرفت حصہ دوم ص۳۱۸ خزائن ج۲۳ ص۳۳۰)

مشتاق: ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ مرزا قادیانی نے ہلاک شدہ دشمنوں کے نام تحریر نہ کئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے نام لکھ دیتے۔ کیا مرزائی دوست بتا سکیں گے۔ ۱۸۹۳ء میں بمقام عیدگاہ امرتسر میں مابین مولانا صوفی عبدالحق صاحب غزنوی اور مرزا قادیانی مباہلہ ہوا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ صوفی موصوف مرزا جی کی وفات کے بعد پورے ۹ سال زندہ رہے تھے۔ پھر یہ کہنا کہ "مباہلہ میں میرے دشمن ہلاک ہوئے" کس انصاف پر مبنی ہے۔

۱۱۔۔ "اس پیش گوئی (نکاح محمدی بیگم) کی تصدیق کے لئے جناب رسول

اللہ ﷺ نے بھی پہلے اس سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ: "(یتزوج و یولد له) یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ "تزوج" اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے۔ جس کی نسبت اس عاجز (مرزا قادیانی) کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔" (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷)

مشتاق: یہ پیش گوئی ہرگز نبی کریم ﷺ نے نہیں فرمائی۔ اگر بالفرض بقول مرزا مذکورہ پیش گوئی آنحضرت ﷺ نے کی ہو تو دنیا اس پر شاہد ہے کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم سے باوجود اپنی سعی و کوشش کے محروم رہے۔ تو کیا نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ (شرم)

۱۴ "لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پاؤ گے کہ اس کا (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا) نزول آسمان سے ہوگا۔" (حمامۃ البشریٰ ص ۱۸، حاشیہ خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

مشتاق: کیا امت مرزائیہ سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ اگر حدیث میں آسمان کا لفظ موجود ہو تو کیا مرزا قادیانی کا دامن چھوڑ کر امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ مرزائیو! ہمارا فرض ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائیں۔ ہم تمہاری ہمدردی اور مسلمانوں کی آگاہی کے لئے حدیث نقل کرتے ہیں۔ "عن ابن عباس ؓ مرفوعاً قال الدجال اوّل من یتبعه سبعون الفاً من الیهود علیهم السیجان قال ابن عباس ؓ قال رسول اللّٰہ ﷺ فعند ذالک ینزل أخی عیسیٰ بن مریم من السماء (کنز العمال ج ۷ ص ۲۶۹، ج ۱۴ ص ۱۱۴، حدیث نمبر ۳۴۷۲۱)"

علاوہ اس کے آسمان کی تصدیق خود مرزا قادیانی کرتے ہیں۔ پھر [illegible]۔ "دیکھو میری بیماری کی نسبت آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی۔ جو اس طرح پر وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔" (اخبار بدر قادیان مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۵)

۱۳..... ’’خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔‘‘

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ ۵ ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۸)

اسی صفحہ مذکورہ میں مرزا قادیانی اس الہام کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں: ’’اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ وہ تو ۷۴ اور ۸۶ برس کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔‘‘

مشتاق: مرزا قادیانی (کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۵۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷) پر لکھتے ہیں: ’’میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔‘‘ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہوئے۔ (مکمل مسئلہ ج ۲ ص ۹۱۲) سن وفات ۱۹۰۸ء منفی سن ولادت ۱۸۴۰ء کل عمر ۶۸ سال ہوئی۔

۱۴.. ’’یہ عجیب بات ہے کہ چودھویں صدی کے سر پر جس قدر بجز میرے لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے کئے تھے۔ جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور مولوی عبدالحئی لکھنوی سب صدی کے اوائل دنوں میں ہی ہلاک ہو گئے۔‘‘

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۴۶۳ حاشیہ)

مشتاق: رئیس المجاہدین عمدۃ المفسرین جناب نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی مرحوم اور مولانا مولوی عبدالحئی لکھنوی کا دعویٰ مہدویت آپ نے کس کتاب میں دیکھا۔ اگر قادیانی دوستوں کے پاس اس کا حوالہ ہو تو ہمیں بھی درکار ہے۔

۱۵..... ’’سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا۔‘‘ (ازالہ اوہام ص ۵۷۵، خزائن ج ۳ ص ۳۴۳)

مشتاق: اہل سنت والجماعت کے جتنے فرقے مثلاً حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ان کا یہ مذہب نہیں یہ محض افتراء اور بناوٹ ہے۔

۱۶.... ’’میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور عظمت وشان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے۔ پس میں جھوٹا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ

ے

رہتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔" (اخبار بدر مورخہ ۱۹ر جولائی ۱۹۰۶ء)

مشتاق: اس کے جواب میں استاذی کہنا کمال ہے ؎

کوئی بھی کام تیرا پورا نہ ہوا اے مسیحا
نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا

۱۷…… "مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری اور مولوی اسماعیل صاحب علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ وہ اگر کذاب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔ ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کذاب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا کے سامنے پیش کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۰، خزائن ج ۱۷ ص ۳۹۴)

مشتاق: مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کرنے والو! وہ کتاب یا اس کا حوالہ ہمارے سامنے لاؤ۔ جہاں مولوی غلام دستگیر مرحوم قصوری اور مولوی اسماعیل علی گڑھ نے یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ ورنہ یاد رکھو۔ "جھوٹ بھی شرک کا ایک حصہ ہے۔" (کشتی نوح ص ۲۶، خزائن ج ۱۹ ص ۲۸)

۱۸…… "اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ ابن صیاد ہی دجال معہود ہے۔"
(ازالہ اوہام ص ۲۲۲، خزائن ج ۳ ص ۲۱۰)

مشتاق: قادیانی دوستو! اگر آپ کو اپنے نبی کی عزت کو برقرار رکھنا منظور ہے تو اصحاب کبارؓ کے قول ہمارے پیش نظر کرو۔

۱۹…… "قرآن شریف قطعی طور پر مسیح ابن مریم کی موت ثابت و ظاہر کر چکا ہے۔" (ازالہ اوہام ص ۷۶۲، خزائن ج ۳ ص ۵۱۰)

قادیانی مبلغو! "اتقوا اللہ" خدا سے ڈرو۔ قرآن جیسی پاک اور متبرک کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور اگر قرآن حکیم کو حقیقی معنوں میں خدا کا کلام تسلیم کرتے ہو تو وفات مسیح کا ذکر نکال کر دکھاؤ۔ شاید یہ آیت اس قرآن کے اندر ہوگی۔ جو قادیان کے اندر چھپا ہے۔ مطبوعہ لاہوری، امرتسری، کانپوری، دہلوی اور مصری وغیرہ کے اندر تو یہ آیت موجود نہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ اپنے پیغمبر کے دامن سے کذب بیانی دور کرو۔ قرآن کریم تو پکار کر کہہ رہا ہے۔

"الا لیؤمنن بہ قبل موتہ" حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب فوت ہوں گے جب تمام

ولی کتاب وغیرہ مسلمان ہو جائیں گے۔ چہ جائیکہ ہم مرزا قادیانی کے قول کے مطابق ان کو فوت شدہ تسلیم کر لیویں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

۲۰...... ''نبی کی اجتہادی غلطی بھی درحقیقت وحی کی غلطی ہے۔ کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا...... پس چونکہ ہر ایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وحی ہے۔ اس لئے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہوگی تو وحی غلط کہلائے گی۔ نہ اجتہاد کی غلطی۔''

(آئینہ کمالات اسلام ص۳۵۲، خزائن ج۵ ص ایضاً)

مشتاق: افسوس کہ مرزا قادیانی خود ہی لکھتے ہیں: ''ایک نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے۔ مگر خدا کی وحی میں غلطی نہیں ہوتی۔'' (تتمہ حقیقت الوحی ص۱۳۵، خزائن ج۲۲ ص۵۷۳)

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

''ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے۔ یا منافق؟'' (ست بچن ص۳۱، خزائن ج۱۰ ص۱۴۳)

۲۱...... ''پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔'' (ضرورۃ الامام ص۵، خزائن ج۱۳ ص۴۷۵)

مشتاق: مرزا قادیانی کا یہ بھی صریح جھوٹ ہے کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں ہیں۔

۲۲...... ''آپ لوگ میری بڑی بڑی کتابوں کو تو نہیں دیکھتے اور فرصت کہاں ہے۔ لیکن اگر میرے رسالہ تحفہ گولڑویہ اور تحفہ غزنویہ کو ہی دیکھو۔ جو پیر مہر علی شاہ اور غزنوی جماعت مولوی عبدالجبار و عبدالحق و عبدالواحد وغیرہ کی ہدایت کے لئے لکھی گئی ہے۔ جن کو آپ کو صرف دو گھنٹہ کے اندر بہت غور اور تامل سے پڑھ سکتے ہیں۔'' (اربعین نمبر۴ ص۲۳، خزائن ج۱۷ ص۴۷۰)

مشتاق: تحفہ گولڑویہ جو ۲۰+۲۶ کی تقطیع پر ۲۳۸ صفحہ کی کتاب ہے۔ مرزائیو! عقل اور انصاف سے کام لو کیا ۲۳۸ صفحہ کی کتاب صرف ۲ گھنٹے کے اندر کوئی شخص ختم کر سکتا ہے اور پھر

ساتھ ہی مختصر طرز تو یہ بھی شامل کرلو۔

۲۲..... "مولوی صدیق حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم جب نازل ہوگا تو قرآن کریم کے تمام احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے ان پر کھولے جائیں گے۔ یعنی وحی ان پر نازل ہوا کرے گی۔ مگر وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔"

(ازالہ اوہام ص ۵۷۳، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

مشتاق: صد افسوس ایسے بزرگوں پر آنجہانی بیجا حملے کر رہے ہیں۔ غضب اس بات پر ہے کہ آنجہانی نے نواب صاحب کا نام تو پیش کر دیا۔ مگر اتنی جرأت نہ کی کہ کتاب کا حوالہ پیش کر دیتے۔ مرزا قادیانی کے مقلدو! آپ کا مذہبی فرض ہے کہ مرزا قادیانی کو اس بات میں صادق کر کے دکھائیں۔ نہیں تو "جھوٹے پر اگر ہزار لعنت نہیں تو پانچ سو سہی۔"

(ازالہ اوہام ص ۸۱۵، خزائن ج ۳ ص ۵۷۲)

۲۳..... "براہین احمدیہ میں ہے کہ میں نے (خدا نے) مجھے بشارت دی ہے کہ پھر ایک خبیث عارضہ سے تجھے [redacted] رکھوں گا۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۳۰، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۹)

مشتاق: افسوس کہ اسی کتاب کے اندر اپنے مجموعہ امراض ہونے کا ثبوت لکھا ہے۔

۲۴ "اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

مشتاق: جن نبیوں نے مسیح قادیانی کی زیارت کا شوق ظاہر کیا ہے۔ ان کے اسماء گرامی سننے کے ہم بھی مشتاق ہیں۔

۲۵..... "ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی۔" (ازالہ اوہام ص ۲۵۲، خزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

مشتاق: نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے سو برس تک قیامت بتانے والی حدیث کے ہم بھی مشتاق ہیں۔

امت مرزائیہ اس حدیث کو کسی کتاب سے دکھائے۔ ورنہ فرمان محمدی سن لیں۔ "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار (مسلم ج ۱ ص ۷)" {یعنی رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو شخص عمداً مجھ پر جھوٹ باندھے گا پس وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔}

۲۶… "ایسا ہی اسلام کے تمام اولیاء کا اس پر اتفاق تھا کہ اس مسیح موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے تجاوز نہیں کرے گا۔" (چشمہ معرفت ج ۲ ص ۳۱۸، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

مشتاق: مرزائی امت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اولیاء کرام کی فہرست اپنے اخبار الفضل کے اندر شائع کر دیں اور ایک پرچہ بذریعہ رجسٹری خاکسار کو بھی بھیج دیا کریں۔

۲۷… "قرآن شریف میں اوّل سے آخر تک جس جس جگہ توفی کا ذکر آیا ہے… ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت کے ہیں۔"

(ازالہ اوہام ص ۳۳۱، خزائن ج ۳ ص ۲۷۱)

مشتاق: بالکل سفید جھوٹ ہے۔

۲۸… "قرآن مجید میں بلکہ توراۃ کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں۔" (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

مشتاق: میں بھی اس بات کا مشتاق ہوں کہ مرزائی ان کا پورا پتہ دے کر اپنے نبی کے دامن کو پاک کریں۔

۲۹… "تمام نبیوں کی کتاب سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے۔" (لیکچر سیالکوٹ ص ۵، خزائن ج ۲۰ ص ۲۰۷)

مشتاق: تمام نبیوں کی اور قرآن کریم کی تعلیم کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ یاد رکھیں جھوٹ بھی ایک قسم شرک ہے۔

۳۰… "ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا

کہ: "کان فی الھند نبیا اسود اللون اسمہ کاھنا" یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے۔ جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا۔ یعنی کنہیا جس کو کرشن کہتے ہیں۔"
(ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۳۸۲)

حقائق: مسلمانو! یاد رکھو کہ محض جھوٹی اور بناوٹی حدیث ہے۔ حدیث کی کسی معتبر کتاب کے اندر یہ عبارت نہیں پاؤ گے۔ اے مرزائیو! میں تم سے آپ کو مطالبہ کر کے للکارتا ہوں کہ مذکورہ حدیث کا حوالہ دکھائیں۔ ورنہ یاد رکھیں "خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لئے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۲، خزائن ج ۱۷ ص ۳۹۸)

۳۱... "نبی کریم ﷺ نے نہ ایک دلیل بلکہ بارہ مستحکم دلیلوں اور قرآنی قطعیہ سے ہم کو سمجھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا اور آنے والا مسیح موعود اسی امت سے ہے۔" (دافع الوساوس ص ۳۳، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

حقائق: مرزائیت کے ممبروں کو چاہئے کہ اپنے پیر و مرشد کو اس قول میں سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ "جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

۳۲... "بٹالوی صاحب کا رئیس المتکبرین ہونا میرا ہی تخیل نہیں بلکہ ایک کثیر گروہ مسلمانوں کا اس پر شہادت دے رہا ہے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۹۹، خزائن ج ۵ ص ۵۹۹)

حقائق: مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالویؒ مرحوم پر یہ بالکل سفید جھوٹ اور افتراء ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا مولانا مرحوم علیہ الرحمۃ کے متعلق ایسا خیال ہرگز نہیں ہے۔

۳۳... "پھر اس کے بعد تیرہ سو برس تک کبھی کسی مجتہد اور مقبول امام پیشوا نے امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ ہیں۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۲، خزائن ج ۱۷ ص ۹۲)

حقائق: بالکل اعجازی جھوٹ ہے۔ کیا مرزائی دوست اس امر میں آنجہانی کو سچا ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں۔ نہایت ہی آپ کا احسان ہوا اگر آپ ان مجتہدین کے اسمائے گرامی پیش کریں۔ جو وفات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے۔ ورنہ حیات مسیح علیہ السلام کے جو بزرگ،

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

حالات مرزا

یعنی

مرزائی مذہب کی اصلیت

حضرت مولانا محمد اسحاق امرتسری

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

دیباچہ

پہلے مجھے دیکھئے!

امرتسر کے مشرق کی جانب قریباً ۲۴ میل کے فاصلے پر ایک بڑا پرانا قصبہ بٹالہ کے نام سے مشہور ہے۔ بٹالہ کے پاس گیارہ میل کے فاصلے پر ایک معمولی سا گاؤں قادیان ہے۔ جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حکیم غلام مرتضیٰ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتداء میں مشرقی علوم مولوی گل شاہ شیعہ سے بٹالہ میں پڑھے۔ اردو، عربی، فارسی کے سوا انگریزی وغیرہ سے ناواقف تھے۔ کچھ عرصہ گذرنے کے بعد مرزا قادیانی تلاش معاش کے لئے باہر نکلے اور شہر سیالکوٹ میں جاکر پندرہ روپے ماہوار تنخواہ پر ملازم ہوگئے اور ساتھ ہی قانون کا مطالعہ شروع کیا۔ قانون کا مطالعہ کے بعد مرزا قادیانی نے مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں ناکام رہے۔ آخرکار ملازمت ترک کے واپس قادیان میں آئے اور تصانیف کا سلسلہ آغاز کیا اور سب سے پہلے براہین احمدیہ ایک کتاب لکھی اور مسلمانوں سے چندہ جمع کرنے کی درخواست کی اور ساتھ ہی بیعت جاری کی۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے مجدد، مسیح موعود، نبی بلکہ اوتار کرشن کا دعویٰ کیا۔

علمائے اسلام نے ان کی تردید کے لئے کمر ہمت باندھی اور مرزا قادیانی کے رد میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مگر یہ کتابیں اکثر مشکل ہیں جو کہ عوام الناس کی عقل سے بالاتر ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے خاکسار کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ قادیانی مشن کی تردید میں ایک بے نظیر رسالہ سلیس اردو کا لکھا جائے جو کہ عوام الناس کے لئے از حد مفید ثابت ہو اور حق کے لئے ذریعہ نجات بنے۔ لہٰذا اس ضرورت کے لئے میں نے قلم اٹھایا ہے۔ خداوند کریم اس کام کو اپنے فضل وکرم سے سرانجام کرے اور اس میں میری مدد فرمائے اور امت مرزائیہ جو راستہ سے بھٹکی ہوئی ہے۔ ان کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین!

"اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم"

نوٹ: اگر کسی جگہ حوالہ میں شک وشبہ معلوم ہو تو خاکسار سے بذریعہ جوابی کارڈ دریافت فرمائیں۔ فقط!

خاکسار: محمد اسحاق مصنف رسالہ ہذا لوکو شاپ امرتسر
مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۳ء

تقریر مرزا

"میرا کام ہے جس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور تثلیث کی جگہ توحید پھیلاؤں۔ حضور کی جلالت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں۔ یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے وہ کام کر دکھایا جو مسیح علیہ السلام یا المہدی نے کرنا تھا تو میں سچا ہوں اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔" (اخبار بدر قادیان مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء مکتوبات احمدیہ ج ۶ ص ۱۹۲ حصہ اول)

مرزا غلام احمد قادیانی

۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو مر گئے۔

اب ذرا ان کے مرید بڑے مہربانی بتائیں کہ کیا دنیا کے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے۔ کیا تثلیث توڑ دی گئی۔ افسوس ؎

کوئی بھی کام پورا نہ ہوا تیرے اے مسیحا
نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا

عیسائیوں کا اسلام قبول کرنا تو کجا بلکہ مسلمانوں کے سینوں سے توحید جاتی رہی۔

قرآن مجید میں اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے قریب حضرت ابن مریم علیہ السلام دوبارہ دنیا پر رونق افروز ہوں گے۔ تو جتنے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ضرور ان کی وفات سے پیشتر اسلام قبول کریں گے۔ "الا لیؤمنن بہ قبل موتہ (النساء: ۱۵۹)"

پس اسی ارشاد مبارک کے مطابق مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے۔ لہٰذا ہم مرزا قادیانی کو ہرگز ہرگز نبی تسلیم نہیں کر سکتے اور نہ کوئی عقل سلیم والا انسان آنجہانی کو نبی مان سکتا ہے۔ جیسے کے لئے ان کو نبی تسلیم کرنے تو عجیب بات ہے۔ عیسائیوں کا اسلام قبول کرنا تو درکنار مرزا قادیانی کے بڑے حریف دشمن مسٹر عبداللہ آتھم بھی باوجود انتہائی کوشش اور سعی کے مرزا قادیانی

پر ایمان نہ لائے۔

عقائد مرزا ...... (دربارہ حضرت مسیح علیہ السلام)

۱ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم نے گرفتار کر کے سولی دلوایا۔ جہاں سے وہ نیم جان اتار لئے گئے اور پھر مخفی طور پر مرہم پٹی کرواتے رہے اور پوشیدہ کشمیر کو بھاگ آئے۔ جہاں آ کر ایک سو بیس برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ چنانچہ شہر سری نگر محلہ خانیار کے اندر آپ کی قبر موجود ہے۔'' حالانکہ مرزا قادیانی اپنی سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ میں لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ دوبارہ دنیا پر تشریف لاویں گے۔ (براہین احمدیہ ص ۴۹۱، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) اسی طرح حدیثوں سے بلکہ خود قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے۔

حدیث نبوی علیہ السلام

''ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث خمساً واربعین سنۃ ثم یموت (مشکوٰۃ ص ۴۸۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)'' {اتریں گے حضرت عیسیٰ بن مریم زمین پر، پس نکاح کریں گے اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی اور زمین پر پینتالیس برس رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے۔}

اس حدیث شریف سے روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا پر تشریف لاویں گے۔ نکاح کریں گے۔ پھر مرزا قادیانی کا قول کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن مریم وفات پا چکے ہیں۔ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک بہتان ہے۔

مرزا قادیانی اپنے مرتبہ کا اظہار کرتے ہیں

''میں نور ہوں، مجدد مامور ہوں، عبد منصور ہوں، مسیح موعود ہوں۔''

(خطبہ الہامیہ ص ۱۹، ۲۰، خزائن ج ۱۶ ص ۵۱، ۵۲)

''مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ، میرے بعد کوئی ولی نہیں۔ مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت و برکت و عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور یہ میرا قدم ایک ایسے منارہ پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ پس خدا سے ڈرو اے جوانمردو اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو۔''

(خطبہ الہامیہ ص ۳۵ خزائن ج ۱۶ ص ۷۰)

"میرے سوا اور دوسرے اُس مسیح کے لئے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۵۸ خزائن ج ۱۶ ص ۲۳۳)

"پس جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۵۸)

ناظرین! ذرا غور فرمایئے۔ حضرت پرنور ﷺ جن کو خدا تعالیٰ رحمۃ اللعالمین کے لقب سے پکارے انہوں نے صحابہ کرامؓ کو اپنی تعریف اپنے سامنے کرنے سے منع فرمایا اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کرے اس کے منہ میں راکھ بھر دو۔ یہ حکم ہے دوسرے شخص کے واسطے۔ اور جو شخص خود اپنی تعریف کرے اس کی کیا سزا ہے۔

حج

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (ایام الصلح اردو ص ۱۶۹، خزائن ج ۱۴ ص ۴۱۶) پر لکھا ہے:

"اما حج تو اس وقت ہوگا جب دجال کفر اور دجل سے باز آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔"

لطف تو اس بات میں ہے کہ مرزا قادیانی اس جگہ حج فریضہ کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مگر (حقیقت الوحی ص ۱۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۶) پر فرماتے ہیں: "پانچواں نشان حج کا بند ہونا ہے جو حدیث میں آچکا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں حج کرنا کسی مدت تک بند ہو جائے گا۔"

مرزائی دوستو! جواب دیجئے۔ اگر بقول مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی حج کو اللہ جل شانہ نے بند کر دیا ہے۔ تو ایام الصلح میں کیوں لکھا کہ ہم دجال کو مسلمان بنا کر حج کو روانہ ہوں گے؟

حکم جہاد منسوخ

اسلام میں جہاد سب سے اعلیٰ رکن اسلام ہے۔ قرآن مجید کھولو تو سورۃ توبہ خصوصاً جہاد کے حکم سے بھری پڑی ہے۔ مگر کرشن صاحب لکھتے ہیں: "میرے آنے پر خدا تعالیٰ نے جہاد کو حرام کر دیا۔" (ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷ خزائن ج ۱۷ ص ۲۸)

اشعار

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال   دیں کے لئے حرام ہے جنگ اور قتال
اب آ گیا مسیح جو دیں کا امام ہے   دیں کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے   اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد   منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد
کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو   جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو
کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر   کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر
فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ
عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا.

(در ثمین ص ۴۸، ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۶، ۲۷، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷، ۷۸)

حضرت مسیح کی قبر

۱..... مرزا قادیانی آنجہانی لکھتے ہیں: "جو سری نگر محلہ خانیار میں شہزادہ یوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے۔ وہ در حقیقت بلا شک و شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔"

(راز حقیقت ص ۲۰، خزائن ج ۱۴ ص ۱۷۲)

اس سے پہلے مرزا قادیانی نے اپنی (کتاب ازالہ اوہام ص ۴۷۳، خزائن ج ۳ ص ۳۵۳) پر لکھا ہے: "یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔"

خوب گذری! مرزا آنجہانی پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتا رہے ہیں۔ بعد میں گلیل۔ بلکہ ایک جگہ یروشلم میں بھی بتاتے ہیں۔

قادیانی ممبرو! تمہارا گرو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتا رہا ہے اور بعد میں گلیل بلکہ یروشلم تمہارا کون سی جگہ پر اعتقاد ہے۔ اگر آپ ابن مریم کی قبر کشمیر میں مانتے ہو تو تمہارا امام یعنی مرزا قادیانی تو گلیل بتا رہا ہے۔ اگر گلیل میں قبر کے قائل ہو۔ تو کرشن صاحب یروشلم میں بتا رہے ہیں۔ اب آپ کون سی جگہ کے قائل ہو۔ ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ مگر یاد رکھو کہ اپنے بناوٹی نبی کے مخالف نہ چلئے۔ اب دوستو! کس طرف جاؤ گے۔

آؤ! میں آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ ایک بناوٹی نبی کی تقلید کو چھوڑ کر عقل

نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کرا سکے۔

یادرکھو! ایک نہ ایک روز ضرور خداتعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس وقت دربار الٰہی میں کیا جواب دو گے اور کون سا منہ لے کر عدالت میں حاضر ہو گے۔

ناظرین کرام! ہم آگے چل کر انشاء اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کو جھوٹا، مرتد، منافق اور پاگل بھی ثابت کریں گے۔

مولوی محمد سعید مرزائی ساکن طرابلس کی تحریر

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے اور بیت اللحم اور بلدۃ قدس میں تین کوس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے۔ اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور اسی گرجا میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے اور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں اور بنی اسرائیل کے عہد میں بلدہ قدس کا نام یروشلم تھا۔“ (اتمام الحجۃ ص ۲۱، خزائن ج ۸ ص ۲۹۹ حاشیہ)

نتیجہ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے ہم خیال لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابن مریم علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو حج کے بعد اور قتل دجال کے بعد ان کی قبر مدینۃ النبی میں نبی کریم ﷺ کے روضہ اطہر کے پاس ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

”ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوٰۃ ص ۴۸۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“ [یعنی نزول کے بعد فوت ہوں گے اور رسول خدا ﷺ کے روضہ مبارک میں آپ ﷺ کے ساتھ اور حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے درمیان مدفون ہوں گے۔]

۲… ”عن عائشۃؓ قالت قلت یا رسول اللہ انی اریٰ انی اعیش بعدک فتأذن لی ان ادفن الی جنبک فقال وانی لی بذالک الموضع ما فیہ الا موضع قبری ابی بکر وعمر وعیسیٰ بن مریم (کنز العمال ج ۷ ص ۶۳۰، حدیث نمبر ۳۹۷۲۸)“

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپؐ کے بعد زندہ رہوں گی۔ میں آپؐ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس جگہ کی نسبت میرا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہاں تو سوائے میری قبر اور ابی بکرؓ اور عمرؓ اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے کسی کی جگہ نہیں۔ ایسی بہت سی حدیثوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر صاف لفظوں میں ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ دفن ہوں گے۔

برخلاف مرزا قادیانی ۱۸۳۹ء قادیان کے اندر پیدا ہوئے اور ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو پنجاب کے مشہور و معروف شہر لاہور کے اندر وفات پائی اور بذریعہ ریل آپ کی لاش بٹالہ لائی گئی اور وہاں سے قادیان کے اندر پہنچائی گئی۔ جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج کل قادیان کے اندر بہشتی مقبرہ کے نام سے قادیانیوں نے مشہور کر رکھا ہے۔

مراقی خاندان

ان چند سطور کے اندر مرزا قادیانی آنجہانی کے اقوال سے خود ان کا اور ان کی بیوی صاحبہ کا اور ان کے جانشین بیٹے میاں بشیر الدین محمود آنجہانی کا مراقی ہونا ثابت کیا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے مرید کے اقوال کے مطابق مرزا قادیانی کا تپ دق ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

۱۔۔۔ کرشن قادیانی فرماتے ہیں: ''دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع پذیر ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔''

{اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۵، ملفوظات ج ۸ ص ۴۴۵}

۲۔۔۔ ''حضرت اقدس (مرزا قادیانی) نے فرمایا۔ مجھے مراق کی بیماری ہے۔''

{رسالہ ریویو قادیان ج ۲۴ نمبر ۴، بابت ماہ اپریل ۱۹۲۵ء ص ۳۴}

۳۔۔۔ ''حضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، درد سر، کمی خواب، تشنج اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھی۔''

{ریویو قادیان ج ۲۶ نمبر ۵ ص ۸، بابت ماہ مئی ۱۹۲۷ء}

بیوی صاحبہ کو مراق

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں۔ "میری بیوی کو مراق کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔"

(اخبار الحکم ج ۵ نمبر ۲۹ ص ۱۳ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ئ)

مرزا محمود کو مراق

"حضرت خلیفۃ المسیح الثانی (مرزا محمود) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔" (ریویو قادیان ج ۲۵ نمبر ۸، ماہ اگست ۱۹۲۶ء ص ۱۱)

مراقی شخص نبی یا ملہم نہیں ہو سکتا؟

ڈاکٹر شاہنواز خان صاحب مرزائی اسسٹنٹ سرجن لکھتے ہیں: "ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مرگی، مالیخولیا کا مرض ہے تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے بھی کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔" (رسالہ ریویو قادیان ج ۲۵ نمبر ۸ بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء ص ۶، ۷)

فیصلہ: بقول ڈاکٹر صاحب مرزا قادیانی نبی یا ملہم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میں اقوال مرزا قادیانی اور ان کے مرید کا پیش کر کے فیصلہ ناظرین پر چھوڑتا ہوں۔ آیا مرزا قادیانی بقول ڈاکٹر، مدعی الہام ہو سکتے ہیں ؎

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر
بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

امراض مرزا

یعنی مرزا قادیانی کن کن امراض کا شکار تھے۔ مرزا قادیانی خود اپنے مجموعہ امراض ہونے کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں ایک دائم المریض آدمی ہوں۔

(۱) ہمیشہ دردسر۔ (۲) دوران سر۔ (۳) کمی خواب۔ (۴) تشنج دل۔ (۵) ضعف اعصاب۔ (۶) اسہال۔ (۷) ہسٹریا۔ (۸) ضعف حافظہ۔ (۹) نسیان۔ (۱۰) مالیخولیا۔

بلکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: "مجھے رات کو سو سو دفعہ پیشاب آتا ہے اور کثرت بول سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال ہیں۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۱)

کمالات مرزا

"مرزا قادیانی کا حاملہ ہونا۔" (تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۴۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

"مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا...... پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دردزہ تنے کھجور کی طرف لے آئی۔"

(کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

دوستو! مرزا قادیانی نبی تھے یا ہیجڑا۔

توہین انبیاء

مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵، ۶، ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹ تا ۲۹۱) پر لکھتے ہیں۔ یسوع مسیح شریر، مکار، موٹی عقل والا۔ بدزبان، غصہ والا، گالیاں دینے والا، جھوٹا، علمی اور عملی قوی میں کچا اور تین دادیاں اور نانیاں اس کی زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں کہ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان جدی مناسبت سے تھا۔ زنا کاری کا عطر ایک کنجری سے آپ نے ملوایا تھا۔

۲۔۔۔ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار، متکبر خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ مگر اس سے پہلے بھی کئی خدائی کا دعویٰ کرنے والے گزر چکے ہیں۔ ایک مصر میں ہی موجود تھا۔"

(مکتوبات احمدیہ حصہ سوم، نور القرآن نمبر ۲ ص ۱۱، خزائن ج ۹ ص ۳۸۷)

دوستو! انصاف سے کام لو کیا ایسا شخص انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے والا نبی ہو سکتا ہے۔ کسی شریف بنی نوع انسان کا کام نہیں کہ گالیاں دے۔ کسی نبی کی تحقیر کرنی کفر ہے۔ سب پر ایمان لانا فرض ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم • یستنبئونک احق ھو قل ای وربی

انہ لحق!

بخدمت جناب مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ مدت سے آپ کے

اے مرزائی لوگ اس بدگوئی کے سیہ داغ کو رفع کرنے کے لئے عذر پیش کیا کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو برا بھلا نہیں کہا۔ یسوع مسیح کو کہا گویا ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ اور یسوع مسیح دو شخص ہیں۔ مگر حقیقت میں ایک ہی شخص ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں: ”جن نبیوں کا اس وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی کہتے ہیں۔ دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“ (توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲)

پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوا ہوں اور آپ بہت سی افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔ تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں مفتری اور کذاب نہیں ہوں اور خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر وقدیر جو علیم اور خبیر ہے اور میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔

اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین! مگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے، حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ مہلک امراض سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین! میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے اب چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت ”لا تقف ما لیس لک به علم“ پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ شخص درحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دوکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بداثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لئے میں اب تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین! ”ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین“

بالآخر مولوی (ثناء اللہ) صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو پرچے میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹)

مولوی ثناء اللہ امرتسری جن کے متعلق مرزا قادیانی نے مذکورہ فیصلہ لکھا ہے۔ خدا تعالیٰ

کے فضل و کرم سے آج مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۴۳ء تک زندہ سلامت ہیں اور خود قادیانی جھوٹی نبی غلام احمد دوسرے سال ہی اپنی دعا کی زد میں آ کر ہیضہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو لاہور کے مقام سے ان کا جنازہ دجال کے گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو کر قادیان پہنچا۔ اب اس پر مولانا مولوی ثناء اللہ مرزائیوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ تمہارے امام و مرشد کے قول کے مطابق جھوٹا سچے کی زندگی میں مر چکا ہے۔ اب تمہیں سچے کے ہاتھ پر بیعت کر کے جھوٹے کا ساتھ چھوڑ دینا چاہئے۔ مرزائی پہلے تو کچھ عرصہ خاموش رہے۔ پھر بھاگنے کے لئے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس دعا کا نام مباہلہ رکھ۔ لیکن یہ مباہلہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب کہ ان کے پیر و مرشد ظلی و بروزی نبی مذکورہ بالا اقرار نامہ کے دفعہ نمبر ۵ میں مخصوص طور پر یہ اقرار کر چکے ہیں۔

”میں اس بات سے بھی پرہیز کروں گا کہ مولوی ابو سعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا موید کو اس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کہ وہ خدا کے پاس مباہلہ کی درخواست کریں۔“

مرزا قادیانی نے یہ اقرار ۲۳ مئی ۱۹۹۹ء کو کیا ہے اور دعا جس کو مرزائی مباہلہ بتا رہے ہیں۔ ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو کی گئی ہے۔ اب مرزائیوں کے پاس سوا اس کے کیا جواب ہے کہ مرزا قادیانی کا ساتھ چھوڑ دیں اور دین مصطفوی کے صحیح معنوں میں پابند ہو جائیں اور دوزخ کی نار کو اپنی عار پر ترجیح نہ دیں۔ دوستو! موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آ جاوے۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو نیک کام میں جلدی کرنی چاہئے۔

آمد مسیح علیہ السلام

”عن ابی ھریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتیٰ لا یقبلہ احد حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیراً من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابوھریرۃ فاقرؤا ان شئتم وان من اھل الکتٰب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ الآیۃ متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۴۷۹، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“

(ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بہت جلد ابن مریم منصف حاکم ہو کر تم میں اتریں گے۔ پھر وہ عیسائیوں کی صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کرائیں گے اور کافروں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے اس کو موقوف

کرائیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ لوگ ایسے مستغنی اور مالدار ہوں گے کہ ایک ایک سجدہ ان کو ساری دنیا کے مال سے اچھا معلوم ہوگا۔ ابوہریرہؓ کہتے تھے کہ تم اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید میں چاہتے ہو۔ تو یہ آیت پڑھ لو۔ ”وان من اھل الکتب“ یعنی عیسیٰ علیہ والسلام کے اترتے وقت کل اہل کتاب ان پر ایمان لے آویں گے۔}

اگر غور سے اس حدیث کی طرف دیکھا جائے تو کیا مرزا قادیانی میں ایک صفت موجود تھی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مال کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ برخلاف اس کے آج لوگ مال کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں۔ بلکہ خود مرزا قادیانی سیالکوٹ میں پندرہ روپے ماہوار پر ملازم رہے۔ (سبحان اللہ) ایسے ہی مسیح تھے۔

۲… ”عن النبی ﷺ قال والذی نفسی بیدہ لیھلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً او معتمراً او لیثنینھما (باب جواز التمتع فی الحج والقران صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۰۸)“ {رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ کہ مسیح موعود فج الروحاء سے جو کہ مکہ مدینہ کے درمیان جگہ ہے۔ (نووی شرح مسلم) حج کا احرام باندھیں گے۔} یہ حدیث حضرت مسیح موعود کی تشریف آوری کے بعد ان کے حج کرنے اور ان کے احرام باندھنے کے لئے مقام کی بھی تعیین کرتی ہے۔

مرزا قادیانی کی بابت تو یہ بلا اختلاف مسلمہ امر ہے کہ وہ حج کو نہیں گئے۔ مقام معین سے احرام باندھنا تو کہاں ان کو ہندوستان سے باہر جانا بھی نصیب نہ ہوا۔ احرام باندھنا تو کجا رہا۔

نواب صدیق حسن خان مرحومؒ

بھوپالوی اپنی کتاب (حجج الکرامہ فی آثار القیامہ ص ۴۲۴) پر کنزالعمال کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ”وفی حدیث ابن عباس ؓ ذکرہ صاحب کنزالعمال سمعت رسول اللہ ﷺ ینزل عیسیٰ بن مریم من السماء علی جبل الفیق اماماً ھادیاً حکماً عادلاً علیہ برنس له مربوع الخلقة اصلت سبط الشعر بیدہ حربة یقتل الدجال وتضع الحراب اوزارھا“ {حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی حدیث میں آیا ہے۔ جس کو صاحب کنزالعمال نے ذکر کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ حضور پرنور ﷺ فرماتے تھے کہ میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے گا۔ افیق پہاڑ پر وہ امام ہدایت کرنے والا ہوگا اور حاکم اور عادل ہوگا۔ اس پر ایک کرتہ ہوگا۔ میانہ پیدائش ہوگا۔ اس کے سر کے بال سیدھے لمبے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا اور دجال کو قتل کرے گا اور

جنگ بند ہو جائے گی۔}

پیش گوئی ڈپٹی آتھم

یہ پیش گوئی مرزا قادیانی نے مورخہ ۵ رجون ۱۸۹۳ء کو امرتسر میں عیسائیوں کے مباحثے کے خاتمہ پر اپنے دشمن مقابل ڈپٹی آتھم کے متعلق کی تھی۔ جس کی اصلی عبارت درج ذیل ہے۔

"آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے تضرع اور ابتہال سے جناب الٰہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے اور وہ انہی مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیش گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجاکھے کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔" {جنگ مقدس ص ۲۰۹، خزائن ج ۶ ص ۲۹۱}

یہ پیش گوئی اپنے مضمون میں بالکل صاف ہے۔ کسی قسم کا اینچ پیچ نہیں۔ مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ بلکہ باوجود آتھم کفر پر مصر رہنے کے میعاد مقررہ کے بعد بھی تقریباً دو سال تک زندہ رہا۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی نے بہت عذر پیش کئے۔

مرزا قادیانی کا معیار

"ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔" {دافع الوساوس ص ۲۸۸، خزائن ج ۵ ص ایضاً}

دوستو! کیا مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی صادق نکلی۔ کیا مسٹر آتھم میعاد مقررہ کے اندر ہی مر گیا؟ اگر میعاد مقررہ کے اندر ہی مرا ہے تب تو مرزا قادیانی کی پیش گوئی سچی نکلی۔ اگر نہیں تو مرزا قادیانی از روئے فتویٰ خود کذاب ٹھہرے۔

تہذیب مرزا

۱ ... ''اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑ دو گے۔ اے ظالم مولویو تم پر افسوس ہے کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا ہے۔ وہی عوام کالانعام کو پلایا۔'' (انجام آتھم ص ۲۱، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

۲ مولانا شمس العلماء سید نذیر حسین صاحب محدث دہلویؒ کی شان میں لکھا ہے: ''اس نالائق نذیر حسین اور اس کے نا سعادت مند شاگرد محمد حسین (بٹالوی) کا یہ سراسر افتراء ہے۔'' (انجام آتھم ص ۵، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

۳ . ''ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔'' (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

۴ .... ''ہمارے مخالف مسلمان جنگلوں کے سور اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔'' (نجم الہدیٰ ص ۱۰، خزائن ج ۱۴ ص ۵۳)

رئیس الموحدین مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم امرتسریؒ کے حق میں لکھا ہے: ''اگر محمد حسین بٹالوی اس خیال پر زور دے رہا ہے تو وہ بھی میدان میں آ جاوے۔ اگر مولوی احمد اللہ امرتسری یا ثناء اللہ امرتسری ایسا ہی کچھ رہا ہے۔ تو انہیں پر فرض ہے کہ قسم کھانے سے اپنی تقویٰ دکھلائیں۔ مگر کیا یہ لوگ قسم کھائیں گے۔ ہرگز نہیں کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔'' (ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۰۹)

نوٹ: مرزا قادیانی (ضمیمہ اربعین نمبر ۳، ۴ ص ۵، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۱) پر فرماتے ہیں: ''گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔'' اس سے ناظرین کرام خود ہی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔

لطیفہ: ایک دفعہ مرزا قادیانی نے مولانا محمد حسینؒ بٹالوی کی نسبت یہ لکھا کہ اے اللہ مولوی صاحب کو تیرہ ماہ کے اندر ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر۔ جب مولوی صاحب مرحوم کو کسی طرح کی ذلت نہ ہوئی بلکہ روز افزوں عزت افزائی ہوتی گئی تو مرزا قادیانی نے خفیہ کارروائی سے مولوی صاحب پر ایک کفری فتویٰ لکھوا دیا اور کہا کہ دیکھو یہی تو ذلت تھی۔ جب غور کیا اور سمجھے کہ اس سے تو کام نہ چلے گا تو اور سوچی کہ مولوی صاحب مرحوم کو انہیں ایام سے گورنمنٹ آف

انڈیا نے بہت سی اراضی دی تھی۔ جو کہ قریب پانچ مربعہ کے ایک ہی جگہ تھی اور نہری پانی سے خوب آباد تھی۔ تو مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ بجائے ذلت کے ان کو عزت ہے تو الہام لکھ دیا کہ اراضی کا ملنا بھی ذلت ہے۔ مرزا قادیانی ایسی تاویلوں سے کام لیا کرتے تھے۔

محمدی بیگم

مرزا قادیانی نے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸) میں لکھتے ہیں: ”یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جز (نکاح) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔“

مرزا قادیانی نے ایک عورت محمدی بیگم سے نکاح کی مشین چلائی تھی۔ جس پر کئی الہام اور خفیہ کارروائیاں بھی کیں۔ مگر اس عورت محمدی بیگم سے آپ محروم ہے۔

برخلاف اس کے عورت کے والد نے اپنی لڑکی کی شادی پٹی میں کر دی۔ وہ آج مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۲ء تک زندہ سلامت ہے۔

ناظرین الہامی بات کے انجام سے خود ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔

سری رام چندر

مرزا قادیانی (انجام آتھم ص ۴۱، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً) پر لکھتے ہیں: ”مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔“

اور (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) پر لکھتے ہیں کہ: ”حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہ تھا۔“

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

توہین حضرت فاطمۃ الزہراؓ

”حضرت فاطمۃ الزہراؓ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۰۳، خزائن ج ۱ ص ۵۹۹ حاشیہ)

اختلافات مرزا

محدث ہونے کا اقرار

"یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۴۷، خزائن ج ۵ ص ایضاً، توضیح المرام ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۶۰، حمامۃ البشریٰ ص ۵۷، ۹۷، خزائن ج ۷ ص ۲۹۶، ۲۹۷) میں مرزا قادیانی کو اپنی محدثیت کا اقرار ہے۔ اب اس کے برخلاف دیکھئے۔

محدث ہونے سے انکار

"اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت میں اظہار غیب کے نہیں ہیں۔ مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔" (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۹، حقیقت الوحی ص ۳۹۰، ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۵۳) میں محدثیت کی بجائے دعویٰ نبوت موجود ہے۔

مہدی ہونے کا اقرار

"یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی معہود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۷ ص ۲۶۳، خطبہ الہامیہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً، حاشیہ تذکرۃ الشہادتین ص ۲، خزائن ج ۲۰ ص ۴) میں مہدیت کا اقرار موجود ہے۔

مہدی ہونے سے انکار

"میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں۔ جو مصداق من ولد فاطمۃ ومن عترتی وغیرہ ہے۔" (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۱۸۵، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۶)

مسیح موعود ہونے کا اقرار

۱… "اب ثبوت اس بات کا کہ وہ مسیح موعود جس کے آنے کا وعدہ قرآن کریم میں ہے۔ یہ عاجز (مرزا قادیانی) ہی ہے۔" (ازالہ اوہام ص ۶۸۲، خزائن ج ۳ ص ۴۶۸)

۲… "سب جو امر اللہ تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔" (ازالہ اوہام ص ۳۹، ۶۸۳، خزائن ج ۳ ص ۱۲۲، ۴۶۹، اتمام الحجۃ ص ۳، خزائن ج ۸ ص ۲۷۵، شہادۃ القرآن ص ۷۲، خزائن ج ۶ ص ۳۶۸، خطبہ الہامیہ ص ۱۸، خزائن ج ۱۶ ص ۵۰، کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰، تحفہ ندوہ ص ۲، خزائن ج ۱۹ ص ۹۵، دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸

ص۲۲۹) میں مسیحیت مذکور ہے۔

مسیح موعود ہونے سے انکار

"اس عاجز (مرزا قادیانی) نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔" (ازالہ اوہام ص۱۹۰، خزائن ج۳ ص۱۹۲)

(الی ان قال) "میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔" (تبلیغ رسالت ج۲ ص۲۱، مجموعہ اشتہارات ج۱ ص۲۳۱) میں بھی مسیحیت کا انکار ہے۔

نبی ہونے کا اقرار

"ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(بدر قادیان مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج۱۰ ص۱۲۷)

"سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔" (دافع البلاء ص۱۱، خزائن ج۱۸ ص۲۳۱، تتمہ حقیقت الوحی ص۶۸، خزائن ج۲۲ ص۵۰۳، تجلیات الٰہیہ ص۲۰، خزائن ج۲۰ ص۴۱۲، حقیقت الوحی ص۷، خزائن ج۲۲ ص۱۰۷ حاشیہ تریاق القلوب ص۱۳۰، خزائن ج۱۵ ص۴۸۳) میں بھی نبوت کا اقرار ہے۔

نبی ہونے سے انکار

"خدا کی پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا مدعی بنتا۔"

(حمامۃ البشریٰ ص۷۹، خزائن ج۷ ص۲۹۷)

"سوال رسالہ فتح الاسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اما الجواب نبوت کا دعویٰ نہیں۔"

(ازالہ اوہام ص۴۲۱، خزائن ج۳ ص۳۲۰، تحفہ بغداد ص۲۷، خزائن ج۷ ص۲۹، ۳۳، انجام آتھم ص۲۸، خزائن ج۱۱ ص ایضاً)

مرزا قادیانی مسیح علیہ السلام کے ایلچی تھے

"وہ باتیں زبان سے کہیں اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دیئے۔ ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر باادب التماس کروں۔" (تحفہ قیصریہ ص۲۳، خزائن ج۱۲ ص۲۷۵)

مرزا قادیانی مسیح علیہ السلام کے ایلچی تھے

''خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی (مرزا قادیانی) مسیح موسوی سے افضل ہے۔''

(کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷)

۱۔۔۔ ''انت منی وانا منک'' ''تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔'' (تذکرہ ص ۳۲۲، دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)	۱۔۔۔ ''انت منی بمنزلۃ اولادی'' اے مرزا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ (تذکرہ ص ۳۲۲، دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)
۲۔۔۔۔۔ خدا کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا۔ (کرامات الصادقین ص ۸، خزائن ج ۷ ص ۵۰)	۲۔۔۔ خدا اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۹۶، خزائن ج ۲۳ ص ۱۰۳)
۳ وید گمراہی سے بھرا ہوا ہے۔ (البشریٰ ج ۱ ص ۵۰، تذکرہ ص ۱۳)	۳ ہم ویدوں کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ (پیغام صلح ص ۲۵، خزائن ج ۲۳ ص ۴۵۳)
۴۔۔۔۔۔ خدا تعالیٰ ہر ایک نقصان سے پاک ہے۔ جس پر کبھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی۔ بلکہ اونگھ و نیند سے جو اخ الموت سے مشابہ ہے۔ پاک ہے۔ (وید و قرآن کا مقابلہ ص ۲۷)	۴۔۔۔ مرزا قادیانی کو خدا مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ ''واسہر وانام'' یعنی میں جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ (البشریٰ ج ۲ ص ۷۹، تذکرہ ص ۳۹۰)

قادیان میں طاعون نہیں آئے گا

''تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال جب تک طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے [illegible] رکھے گا۔''

(دافع البلاء ص ۵، ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۵، ۲۳۰)

برخلاف

"اور پھر طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہوا۔" (حقیقت الوحی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

مرزا قادیانی کا منکر کافر نہیں

۱۔۔۔۔ "ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔" (تریاق القلوب ص۔ ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲)

۲۔۔۔۔ "یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت و احکام جدید لاتے ہیں۔" (تریاق القلوب ص۔ ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲)

مرزا قادیانی کا منکر کافر ہے

۱۔۔۔ "جو مجھے (مرزا قادیانی کو) نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

۲۔۔۔ "اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے۔ (مرزا قادیانی) خدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔" (انجام آتھم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

خلیفہ محمود فرماتے ہیں۔ "جو حضرت صاحب کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔" (تشحیذ الاذہان ج ۶ ص۔ ۱۴۰ نمبر ۴ بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ئ، مصنفہ محمود ص ۴)

پیارے دوستو! میں نے آئینہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھو کس قدر بناوٹی نبی کی زبان میں تناقض ہے۔ باوجود اپنے آپ کو نبی کہلانے کے پھر اس قدر باتوں میں تناقض۔

متضاد اور متناقض باتیں کہنے والا پاگل ہے

مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

۱ . . . ’’ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متضاد باتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔‘‘ (ست بچن ص ۳۰، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۲)

۲ . . . ’’اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے۔ کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنی کلام میں رکھتا ہے۔‘‘ (حقیقت الوحی ص ۱۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۱)

۳ . . . ’’جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔‘‘

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵)

سبحان اللہ! مرزا قادیانی نے اپنی کذب بیانی پر خود دستخط کر دیئے۔ ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ خدا تعالیٰ حق اور جھوٹ میں سچا فیصلہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو اس کی باتوں میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی آنجہانی کی باتوں میں کس قدر تناقض ہے۔ ایک جگہ پر دعویٰ نبوت سے پھرا ہوا کہتے ہیں اور دوسری جگہ پر خدا کی کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غرضیکہ ہزارہا تناقض ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا مرزا قادیانی بقول خود اپنے دعویٰ میں جھوٹے نکلے۔

قادیانی اصول کے مطابق بھی وہ نبوت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جس میں یہ تناقض ہو۔

حیرت انگیز شبہ

مرزا قادیانی کے اس قسم کے اختلافات دیکھنے والا انسان سخت متحیر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جیسی شخصیت کا ایک جس کی پرواز منازل نبوت سے گزر کر عرش الوہیت پر پہنچی ہوئی ہے اور جو بخیال خود تمام کمالات واوصاف کے واحد اجارہ دار ہیں۔ ان سے ایسے اختلافات کا صدور جو پاگلوں اور مجنونوں سے بھی ناممکن ہیں۔ کیونکر ہوا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ درحقیقت مرزا قادیانی دماغی امراض دوران سر، مراق، جنون میں فطری طور پر مبتلا تھے۔ وہ اپنے دماغی توازن صحت کو قائم نہ رکھ سکے۔ جس سے ان بے سروپا دعاوی اور مختلف باتوں کا آپ کے دماغ کشت زار سے پیدا ہونا ضروری تھا۔

انکار ختم نبوت

"اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے۔" (انوار خلافت ص ۶۵)

اس جگہ مرزا محمود آنجہانی نے صاف اقرار کیا ہے۔ انکار نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے۔ افسوس کہ خود ہی ان کے والد صاحب لکھتے ہیں کہ: "بعد ہمارے نبی کریم ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔" (ازالہ اوہام ص ۴۱۲، ۱۴۷، خزائن ج ۳ ص ۴۱۲)

حضرت امام حسینؑ کی ہتک

کربلائیست سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم

انی قتیل الحب لکن حسینکم
قتیل العدیٰ فالفرق اجلی واظہر

میں حسین سے افضل ہوں۔ کیونکہ میں محبت کا قتل شدہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمن کا قتل شدہ ہے۔ (در ثمین ص ۱۲۳، اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹۳)

فرمان نبوی ﷺ

۱...... "لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین کلهم یزعم انه رسول الله (مشکوٰۃ شریف ص ۴۶۵، باب الملاحم)" [یعنی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے رسول ہونے کا گمان کرے گا۔]

۲... "سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوٰۃ شریف ص ۴۶۵، کتاب الفتن)" [یعنی حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں عنقریب ہی تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان

میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلمانو! یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔}

سب سے پہلے ایران کے اندر بہاء اللہ نامی ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ پھر ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی خلف مرزا غلام مرتضیٰ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو چلتے بنے۔ ان کے بعد ان کے مریدوں نے دوکانداری چلتی دیکھ کر نبی بن بیٹھے۔ چنانچہ اس وقت بھی تقریباً پانچ شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ ایک تو قادیان کے اندر ہی احمد نور کابلی جس کی دوکان قادیانی عبادت گاہ مبارک کے پاس ہے اور سرمہ فروخت کرتا ہے۔ دو شخص ایک عبداللہ اور ایک اور شخص ہے۔ جس کے نام سے میں ناواقف ہوں جو ہر ماہ میں دو چار رسالے شائع کرتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔

اس نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ ربوہ، دہلی اور قادیان پر عذاب الٰہی آنے والا ہے۔ کئی اور بھی نبوت کے امیدوار ہیں۔ جو کہ عنقریب ان شاء اللہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور بموجب فرمان محمدی ﷺ تیس دجالوں کی فہرست کے اندر اپنا نام درج کرائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی

۱... "یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔" (کشتی نوح حاشیہ ص ۶۵ خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

۲..... "افسوس ہے جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں۔ اس کی نظیر کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔" (اعجاز احمدی ص ۲۵ خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۵)

۳... "حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص نے جو ان کا مرید بھی تھا، اعتراض کیا کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت سے عطر کیوں ملوا لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ تو پانی سے میرے پاؤں دھوتا ہے اور یہ آنسوؤں سے۔" (اخبار بدر مورخہ ۲ مئی ۱۹۰۸ء)

مریم صدیقہ پر اتہامات

۱..... "الغرض یہودیوں کی طرح نسبت اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ لڑکیوں کو اپنے منسوبوں کے ساتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضائقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگانا اس رسم کی بڑی پکی شہادت ہے۔" (ایام الصلح ص ۶۶ خزائن ج ۱۴ ص ۳۰۰)

۲ "یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔" (کشتی نوح ص ۱۶ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸ حاشیہ)

ناظرین کرام! مرزا قادیانی نے جس دریدہ دہنی واتہام طرازی سے حضرت مریم صدیقہ کی عصمت وناموس پر حملہ کیا ہے۔ اس سے مرزا قادیانی کی ایمانی کیفیت خوب کھل کر روشن ہو رہی ہے اور مرزائیت کے کفر کے اندازہ میں یہ شہادت کافی سے بھی زیادہ ہے۔

توہین احادیث نبوی ﷺ

۱..... "اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔"

(اعجاز احمدی ص ۳۰ خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۰)

۲ "جو شخص حکم ہو کر آیا ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔"

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۰ خزائن ج ۱۷ ص ۵۱)

مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی کے عقائد

۱..... "کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔" (آئینہ صداقت ص ۳۵)

میاں صاحب قادیانی نے اپنے تمام مخالف مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے۔

۲..... "جو حضرت مرزا قادیانی کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔"

(تشحیذ الاذہان ج ۷ ص ۱۴۰)

۳… ''آپ نے (مرزا قادیانی نے) اس شخص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہے۔ مگر مزید اطمینان کے لئے ابھی بیعت میں توقف کرتا ہے۔ کافر ٹھہرایا ہے۔''

(تشحیذ الاذہان ج ۴ ص ۱۴۰)

پیش گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی

ڈاکٹر صاحب موصوف عرصہ بیس سال تک مرزا قادیانی کے مرید رہے۔ جب انہوں نے مرزا قادیانی کے فریب و مکر اچھی طرح دیکھ لئے تو معلوم کر لیا کہ یہ دعویٰ نبوت محض ایک غلط پروپیگنڈا اور دوکانداری کے سوا کچھ بھی نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے آنجہانی کے برخلاف قلم اٹھائی۔ بلکہ دعویٰ الہام سے بھی مقابلہ کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنا آخری الہام مرزا قادیانی کی موت کے متعلق شائع کیا۔ جس کے متعلق مرزا قادیانی کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

''ایسا ہی کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ ہاں ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے۔ ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر بیس برس تک میرے مریدوں اور جماعت میں داخل رہا۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض للہ اس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت ﷺ کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آنحضرت ﷺ کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا۔ مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر میں نے اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جاوے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس سے [illegible] رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے۔ خدا ضرور اس کی مدد کرے گا۔''

(چشمہ معرفت ص ۳۲۱، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۶، ۳۳۷)

اس مقابلہ کا انجام یہ ہوا کہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی میعاد مقررہ کے اندر ہی

۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہو گئے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب عرصہ تک زندہ رہے۔

ناظرین کرام

آپ کو اس کے مطالعہ سے حقیقت سے آگاہی ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی از روئے قرآن مجید، حدیث نبوی ﷺ اور بقول خود نبی، مسیح، مہدی نہ تھے۔ بلکہ ایک مجنون الحواس انسان تھے۔ ان کا پروپیگنڈا محض شریف طبیعتوں کو مغالطہ میں ڈالتا تھا۔ مزید آپ کو بلکہ مغلظات مرزا سے پتہ چلا ہے کہ آنجہانی شریف انسان بھی نہ تھے۔

ہم بوجہ مجبوری مرزا قادیانی کی پوری حقیقت واضح نہیں کر سکے۔ لہٰذا معافی کے خواستگار ہیں۔ باقی حقیقت ہم انشاء اللہ العزیز اپنے دوسرے رسالہ تحفہ حقانی کی تردید مرزا قادیانی کے اندر ہدیہ ناظرین کریں گے۔

خدا رکھے ہر بلا سے
خصوصاً آج کل کے نبیوں سے

مباہلہ غزنوی

جن دنوں مرزا قادیانی نے ڈپٹی آتھم سے مباحثہ کیا تھا۔ انہی دنوں میں مولوی عبدالحق صاحب غزنوی امرتسری سے مباہلہ کیا۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مرزا قادیانی کے مقابلہ میں اشتہارات وغیرہ لگایا کرتے تھے۔ بات بڑھتے بڑھتے مباہلہ تک نوبت پہنچی۔ جس کو آخرکار فریقین نے منظور کر لیا۔ آخرکار خط و کتابت کے بعد مرزا قادیانی امرتسر میں آئے اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کو ایک رقعہ لکھا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم! از طرف عاجز عبداللہ الصمد غلام احمد عافاہ اللہ:

بعدہ میاں عبدالحق غزنوی کو واضح ہو کہ اب حسب درخواست آپ کے جس میں آپ نے قطعی طور پر مجھ کو کافر و دجال لکھا ہے۔ مباہلہ کی تاریخ ہو چکی ہے اور میرے امرتسر میں آنے کی دو ہی وجہیں تھیں۔ ایک عیسائیوں سے مباحثہ اور دوسرے آپ سے مباہلہ۔ بعد استخارہ مسنونہ انہیں دو غرضوں کے لئے محض اپنے توکل سے آیا ہوں اور جماعت کثیر دوستوں کی جو

میرے ساتھ کافر ٹھہرائی گئی ہے۔ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اشتہارات بھی شائع کر چکا ہوں اور متخلف پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے لعنت سے حصہ لے میں تو حسب وعدہ میدان مباہلہ یعنی عیدگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ کاذب اور کافر کو ہلاک کرے۔

" ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤلا " یہ بھی واضح رہے کہ میں مورخہ ۱۵ جون ۱۸۹۳ء کے مباحثہ میں نہیں جاؤں گا۔ بلکہ میری طرف سے اخویم حکیم نورالدین صاحب یا حضرت سید محمد احسن صاحب بحث کے لئے جاویں گے۔ ہاں یہ منظور ہے کہ مقام میں کوئی وعظ نہ کروں۔ صرف یہ دعا ہوگی کہ میں مسلمان اور اللہ رسول کا متبع ہوں۔ اگر میں اس قول میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پر لعنت کرے اور آپ کی طرف سے یہ دعا ہوگی کہ یہ شخص درحقیقت کافر کذاب اور دجال اور مفتری ہے اور اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ میرے پر لعنت کرے۔

اگر یہ لفظ میری دعا کے آپ کی نظر میں ناکافی ہوں تو آپ تقویٰ کی راہ سے لکھیں کہ دعا کے وقت یہ کہا جائے۔ وہی لکھ دوں گا۔ مگر اب ہرگز ہرگز تاریخ مباہلہ تبدیل نہیں ہوگی۔ " لعنۃ اللہ علی من تخلف منا وما حضر فی ذالک التاریخ والیوم والوقت والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ " خاکسار غلام احمد از امرتسر

(اشتہارات مرزائیہ ج ۱ حصہ اول ص ۴۱۱، ۴۱۲ مورخہ ۵ ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ)

غرض یہ ہے کہ اب میں بری الذمہ ہو گیا ہوں اور مجھ پر کسی قسم کی ملامت نہیں۔ کیونکہ میں نے تاریخ کا بدلنا تو اس سبب سے چاہا تھا کہ اگرچہ میں اور دیگر مسلمان مرزا قادیانی کو کیسا ہی گمراہ سمجھیں۔ مگر جب وہ اسلام کی طرف سے لڑتا ہے تو ہم سب کو بجائے بددعا کے دعا اور مدد دینی چاہئے۔ مگر مرزا قادیانی نے وہ تاریخ ۱۰ ذیقعدہ نہیں بدلی۔ اب میں اس وقت موعود پر کہ ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ بوقت ۲ بجے دن کے اپنا حاضر ہونا مباہلہ کے واسطے مقام مباہلہ میں فرض سمجھتا ہوں اور وہاں جا کر وعظ یا تکفیر یا اور کسی غرض سے مطلب نہ ہوگا۔ جیسا کہ اس نے اپنے خط میں وعدہ کر لیا ہے کہ مقام مباہلہ میں کوئی وعظ نہ کروں گا۔ مقام عیدگاہ میں مباہلہ اسی طریق پر بدیں الفاظ ہوگا۔

" میں کہ عبدالحق ہوں تین بار بآواز بلند کہوں گا کہ یا اللہ مرزا قادیانی کو ضال، مضل، ملحد، دجال، کذاب، مفتری، محرف کلام اللہ تعالیٰ و احادیث رسول اللہ ﷺ سمجھتا ہوں۔ اگر میں

اس بات میں جھوٹا ہوں۔ تو مجھ پر وہ لعنت کر۔ جو کسی کافر پر تو نے آج تک نہ کی ہو۔"

مرزا تین بار بآواز بلند کہے۔ یا اللہ اگر میں ضال و مضل و ملحد و دجال و کذاب و مفتری ومحرف کتاب اللہ و احادیث رسول اللہ ﷺ ہوں تو مجھ پر وہ لعنت کر۔ جو کسی کافر پر تو نے آج تک نہ کی ہو۔ بعدہ دونوں مباہلہ ہو کر دیر تک ابتہال اور عاجزی کریں گے کہ یا اللہ جھوٹے کو شرمندہ اور رسوا کر اور سب حاضرین مجلس آمین کہیں گے۔" المشتہر: عبدالحق غزنوی از امرتسر پنجاب

(مورخہ ۸/ ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۰ جون ۱۸۹۱ء)

اس اشتہار کے مطابق عیدگاہ امرتسر میں دونوں صاحبوں کا مباہلہ ہوا اور دونوں فریق امن و امان سے واپس آ گئے۔

نتیجہ: اس مباہلہ کا یہ ہوا کہ اس سے ایک سال تین ماہ بعد جب ڈپٹی آتھم والی پیش گوئی کی میعاد پوری ہوئی اور آتھم کی وفات نہ ہوئی اور چاروں طرف سے مرزا قادیانی پر پھٹکار ہوئی تو مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مباہل نے اشتہار دیا۔ جس کا عنوان "اثر مباہلہ عبدالحق غزنوی برغلام احمد قادیانی" اس اشتہار میں غزنوی مباہل نے مرزا قادیانی کی ناکامی اور بدنامی اور رسوائی کو اپنے مباہلہ کا نتیجہ قرار دیا اور سند میں مرزا قادیانی کے رسالہ (حجۃ الاسلام ص۶ خزائن ج۶ ص۴۹) کا حوالہ دیا۔ جس میں مرزا قادیانی نے عیسائیوں کے جواب میں لکھا تھا۔ میری سچائی کے لئے یہ ضروری ہے کہ میری طرف سے بعد مباہلہ ایک سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہوں۔ اگر نشانی ظاہر نہ ہو تو پھر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔

آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے مباہل کی موجودگی میں مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ کو فوت ہو گئے اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی امرتسری مرزا قادیانی سے پورے ۹ سال بعد ۲۳ رجب ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۶ مئی ۱۹۱۷ء کو فوت ہوئے۔ پس حقیقت میں مرزا قادیانی ہی کذاب تھے اور مولانا مولوی عبدالحق مرحوم صادق تھے۔ خدا تعالیٰ نے صادق کی زندگی میں ہی کذاب کو اٹھا لیا۔

عمر مرزا

(کتاب سراج منیر ص ۷۹، خزائن ج ۱۲ ص ۸۱) پر لکھا ہے:

۱..... یہ تیسری پیش گوئی ہے۔ جیسا کہ میں ازالہ اوہام میں لکھ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری عمر اسی برس یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوگی۔ (اس فقرے میں لفظ کم یا زیادہ کا ہے) ظاہر ہے کہ خدا کو بھی اچھی طرح معلوم نہیں۔ (بقول مرزا قادیانی) "میں تجھے اسی برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا۔"

(تریاق القلوب ص ۱۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۲)

۲..... کتاب (منظور الٰہی ص ۲۲۸) پر لکھا ہے: "تیس سال سے زیادہ عرصہ گذرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر اسی برس یا دو چار اوپر نیچے ہوگی۔"

۳..... "سو اس طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم زیادہ تیری عمر کروں گا۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۲۹۳)

۴..... "چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن موت کی تمنا کریں گے تا یہ نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا تھا۔ تبھی جلد مر گیا۔ اس لئے پہلے ہی خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: "ثمانین حولاً او قریباً من ذالک او تزید علیہ سنیناً وتری نسلاً بعیداً" یعنی تیری عمر اسی برس کی ہوگی یا دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل دیکھے گی۔"

(اربعین نمبر ۳ ص ۲۹، ۳۰، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۸، ۴۱۹، ضمیمہ گولڑویہ ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۲۶)

پیدائش مرزا

(کتاب البریہ ص ۱۵۹ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷) پر لکھا ہے کہ: "میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔"

اور کتاب (نور الدین ص ۱۷۰) پر لکھا ہے: "سن پیدائش حضرت صاحب المسیح موعود مہدی مسعود ۱۸۳۹ء کی ہے۔" (اخبار بدر ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۵، اخبار الحکم مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۷) پر یوں لکھا ہے: "مرزا قادیانی کا جنم ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ہوا تھا۔" مندرجہ بالا تحریروں سے معلوم ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء یعنی ۱۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

نوٹ: مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہوئے تھے۔ (مسل مصفیٰ ج ۲ ص ۶۰۷)

پس آپ کی عمر ۶۹ سال کی ہوئی۔ ان تمام دلیلوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر ۷۳ سال سے کم ہوئی۔ حالانکہ وہ لکھ چکے تھے کہ: ”جو ظاہر الفاظ کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ وہ چوہتر اور چھیاسی کے اندر اندر کی عمر کی تعیین کرتے ہیں۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۸)

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) پر لکھا ہے: ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

قرآنی کسوٹی اور مرزا قادیانی

چونکہ انبیائے کرام تمام بنی نوع کے لئے رہنما اور نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لئے انبیائے کرام کا اخلاق کریمہ بھی اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کی شان کی بابت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں۔ ”وانک لعلیٰ خلق عظیم (القلم:۳)“ (یعنی اے محمد ﷺ آپ خلق عظیم پر ہیں۔) مرزا قادیانی فرمان الٰہی سے لاکھوں کوس دور پڑے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

ہفوات مرزا

۱… ”جو شخص اپنی شرارت سے باربار کہے گا اور کچھ شرم و حیا کو کام میں نہیں لائے گا اور بغیر اس کے کہ ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رو سے جواب دے سکے۔ انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو واقعی طور پر رد کرے۔ جو میں نے پیش کی ہے۔ ورنہ حرامزادے کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔“ (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹

۳۱

ص۲۱)

۲۔ "میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔" (نجم الہدیٰ ص۱۰، خزائن ج۱۴ ص۵۳)

۳ "کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا" یعنی سب مسلمان مجھے قبول کرتے اور میری دعوت کو مانتے۔ مگر حرامزادے نہیں مانتے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص۵۴۷، خزائن ج۵ ص ایضاً)

اب میں بھی وہی سوال قادیانیوں سے کرتا ہوں جو کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری فاتح قادیان نے اپنے رسالہ موسومہ (تعلیمات مرزا ص۳۳، مشمولہ احتساب قادیانیت ج۹ ص۲۱۵) پر کیا ہے۔ ایک شخص بہت عرصہ تک؟ عیسائی کا مخالف رہا۔ اتنا عرصہ حرامزادہ رہا مگر بحکم انقلاب وہ بجائے منکر کے معتقد ہو گیا۔ کیا اب وہ حلال زادہ ہو جائے گا۔

دعویٰ مرزا

۱۔ "میں محدث ہوں۔" (توضیح المرام ص۱۸، خزائن ج۳ ص۲۰)

۲۔۔۔ "مجدد ہوں۔" (حقیقت الوحی ص۱۹۴، خزائن ج۲۲ ص۲۰۱)

۳۔۔۔ "مسیح موعود۔" (ازالہ اوہام ص۳۹، خزائن ج۳ ص۱۲۲)

۴۔۔۔ "مثیل مسیح ہوں۔" (توضیح المرام ص۱، خزائن ج۳ ص۵۱)

۵۔۔۔ "مہدی ہوں۔" (تذکرۃ الشہادتین ص۲، خزائن ج۲۰ ص۴)

۶۔۔۔ "ملہم ہوں۔" (تریاق القلوب ص۱۹۸، خزائن ج۱۵ ص۲۳۶)

۷۔۔۔ "محدث موعود ہوں۔" (ازالہ اوہام ص۹۰۰، خزائن ج۳ ص۱۰۴)

۸...... "رجل فارسی ہوں۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۱۸، خزائن ج ۱۷
ص ۱۱۵)

۹...... "اوتار کرشن ہوں۔" (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳، خزائن ج ۲۰
ص ۲۲۸)

۱۰...... "خاتم الانبیاء ہوں۔" (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸
ص ۲۱۲)

۱۱...... "خاتم الاولیاء ہوں۔" (خطبہ الہامیہ ص ۳۵، خزائن ج ۱۶ ص ۷۰)

۱۲...... "خاتم الخلفاء ہوں۔"
(تریاق القلوب ص ۱۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۳، کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷)

۱۳...... "چینی الاصل ہوں۔" (تحفہ گولڑویہ ص ۲۵، خزائن ج ۱۷
ص ۱۲۷)

۱۴ - "معجون مرکب ہوں۔" (تریاق القلوب ص ۳۴، خزائن
ج ۱۵ ص ۲۷۳)

۱۵...... "عیسیٰ مسیح کا ایلچی ہوں۔" (تحفہ قیصریہ ص ۲۲، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۵)

۱۶...... "مسیح ابن مریم سے افضل ہوں۔" (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸
ص ۲۳۳)

۱۷...... "حسین سے بہتر ہوں۔" (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸
ص ۲۳۳)

۱۸...... "رسول ہوں۔" (دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸
ص ۲۳۱)

۱۹...... "مظہر خدا ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۱)

۲۰...... "مانند خدا ہوں۔" (اربعین نمبر ۳ حاشیہ ص ۲۵، خزائن ج ۱۷
ص ۴۲۳)

۲۲...... "بروزی محمد و احمد ہوں۔" (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۶)

۲۳. . "آخری نبی ہوں۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۰، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۷)

۲۴ "حجر اسود ہوں۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۵، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۵)

۲۵. . . "نوح ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۲۶ "ابراہیم ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۲۷..... "یوسف ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۲۸. ... "موسیٰ ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۲۹. .. "داؤد ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۳۰. . "سلیمان ہوں۔" (نزول المسیح ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲)

۳۱ "یعقوب ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۳۲ "تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

۳۳. .. "تمام انبیاء سے افضل ہوں۔" (نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

۳۴. .... "احمد مختار ہوں۔" (نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

۳۵. .. "اسمہ احمد کا میں ہی مصداق ہوں۔" (نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

۳۶ "مریم ہوں۔" (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)

۳۷ "میکائیل ہوں۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۲۵، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۳)

۳۸ "بیت اللہ ہوں۔" (اربعین نمبر ۳ ص ۱۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۵)

۳۹ .. "آریوں کا بادشاہ ہوں۔" (تتمہ حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۲)

۴۱۔۔۔ "امام الزمان ہوں۔" (ضرورۃ الامام ص۲۴، خزائن ج۱۳ ص۴۹۵)

۴۲۔۔۔ "نبی ہوں۔" (خطبہ الہامیہ ص۵۶، خزائن ج۱۶ ص ایضاً)

۴۳۔۔۔ "مسیح ہوں۔" (حقیقت الوحی ص۱۸۰، خزائن ج۲۲ ص۸۴)

بشارت نبی احمد ﷺ

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔ "مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد" کہ میرے بعد ایک رسول ہوگا۔ جس کا نام احمد ہوگا۔ ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اسم احمد کے حقیقی مصداق حضرت نبی کریم محمد مصطفی ﷺ تھے۔

(مسند احمد ج۴ ص۱۲۷، ۱۲۸، ج۵ ص۲۶۲)

اس کے علاوہ کتب حدیث تفاسیر کے اندر صاف لکھا ہے کہ اسم احمد کے حقیقی مصداق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اس پیش گوئی کے بارے میں مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالہ اوہام ج۲ ص۶۷۳، خزائن ج۳ ص۴۶۳) پر لکھتے ہیں: "اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے۔ وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ "ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد" مگر ہمارے نبی کریم صرف احمد ہی نہیں ہیں بلکہ محمد بھی ہیں۔ یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے۔ بھیجا گیا ہے۔"

اسی طرح مرزا قادیانی کے صاحبزادے لکھتے ہیں: "پس اس آیت میں رسول احمد والے نام کی خبر دی گئی ہے۔ وہ آنحضرت ﷺ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ تمام نشانات جو اس احمد نامی رسول کے ہیں۔ آپ کے وقت میں پورے ہوں۔ تب بیشک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مراد احمدیت کی صفت کا رسول ہے۔ کیونکہ سب نشان جب آپ میں پورے ہو گئے تو پھر کسی اور پر چسپاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔" (انوار خلافت ص۲۴)

میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا کامل یقین ہے کہ اسم احمد کے اصلی مصداق نبی ﷺ ہیں۔ کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ مگر پھر بھی آپ کو بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

۱۔۔۔۔۔ "عن جبیر بن مطعم قال سمعت النبی ﷺ یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی (مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۵، باب اسماء النبی وصفاتہ)" {یعنی حضرت جبیر بن مطعمؓ سے مروی ہے کہ کہا سنا میں نے نبی کریم ﷺ سے فرماتے تھے۔ تحقیق میرے لئے نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو اور میں حاشر ہوں۔ اٹھائے جاویں گے لوگ میرے قدم پر اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔}

امام نوویؒ نے فرمایا کہ ان ناموں کے علاوہ نبی کریم ﷺ کے اور بھی نام ہیں اور ابن عربی نے احوذی شرح ترمذی میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اسی طرح رسول خدا ﷺ کے بھی ہزار نام ہیں۔

۲۔۔۔۔۔ "وعن ابی موسیٰ الاشعری قال کان رسول اللہ ﷺ یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبۃ ونبی الرحمۃ (رواہ مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسمائہ ﷺ)" {روایت ہے ابی موسیٰ اشعریؓ سے کہا تھے رسول اللہ ﷺ نام بیان کرتے تھے۔ ہمارے لئے اپنی ذات شریف کے واسطے نام پس فرماتے۔ میں ہوں محمد اور احمد اور مقفی اور حاشر اور نبی توبہ کا اور نبی رحمت کا۔}

مرزائی لٹریچر

جب مسیح نے پیشگوئی کی تو احمد کے نام سے کی۔ کیونکہ وہ خود جمالی شان رکھتے تھے۔ یہ وہی نام ہے جس کا ترجمہ فارقلیط ہے اور پھر "اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم" اس لفظ میں ابلیس بھی آ گیا۔ جس کے معنی شیطان کے ہیں۔ بہرحال فارقلیط آنحضرت ﷺ کا نام ہے اور میں پیچھے عبارت نقل کر چکا ہوں کہ احمد کے معنی ہیں۔ فارقلیط مطابق اس تحریر کے اسم احمد کے مصداق آنحضرت ﷺ ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ناظرین کی آگاہی کے لئے ایک تحریر مرزا نقل کرتے ہیں۔

"حضرت رسول کریم ﷺ کا نام احمد وہ ہے۔ جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے

کہا۔ ”یاتی من بعد اسمہ احمد“ ”من بعدی“ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی جو میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ بلکہ انہوں نے ”محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء“ میں حضرت رسول کریم ﷺ کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کا نام محمد بتایا ﷺ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام احمد بتایا۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ (ملفوظات احمدیہ ڈائری ص ۱۷۷)

جس بات کے ہم متلاشی تھے۔ وہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ہی بتادی۔ اب جو لوگ اسمہ احمد کا مصداق مرزا آنجہانی کو مانتے ہیں۔ یہ محض ان کی ہٹ دھرمی ہے۔

عقلی دلیل

یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد تھا۔ غلام احمد نام ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ احمد کوئی پہلے گذر چکا ہے۔ یہ شخص اس کا غلام ہے۔ زمانہ حال کے اندر جتنے لوگ غلام احمد نام اپنی اولاد کا رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ احمد ﷺ جو گذر چکے ہیں۔ یہ لڑکا ان کا غلام ہے۔ یعنی تابعدار!

محمدی بیگم یار محمد ہے

یہ سرخی دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ میں اصل حقیقت آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔

ایک شخص یار محمد وکیل ہوشیار پوری اس کا دعویٰ ہے کہ محمدی بیگم میں ہوں۔ نکاح سے مراد بیعت میں میرا داخلہ ہے اور مرزا قادیانی کے بعد گدی کا حقدار میں ہوں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ: ”قدرت ثانیہ کا مظہر وہ ہے جو میری خو پر ہوگا۔“ چنانچہ یہ علامت مجھ میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔ مرزا محمود کے متعلق میں تقریباً پچاس رسالے لکھ چکا ہے۔ جن میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر مسند خلافت پر چونکہ میاں محمود صاحب قابض ہیں۔ اس لئے اس کی

تبلیغ سے غرض وجود میں نہیں آئی۔

سبحان اللہ! خدا کی شان کا کرشمہ ہے کہ ایک یہ بھی زمانہ آنا تھا۔ جس کے مرد آدمی عورتیں بن رہی ہیں۔ یار محمد صاحب نے کوئی انوکھی بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ خود آنجہانی نے اپنے آپ کو حیض آنے اور مریم بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوالہ پیچھے گذر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو:

ولادت مسیح علیہ السلام

عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مگر قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ مگر افسوس کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ کوئی معمولی سا انسان بھی کوئی دعویٰ کر بیٹھے۔ خواہ اس کا دعویٰ اسلام کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے ناعاقبت اندیش لوگ اس کی آواز پر لبیک پکار دیتے ہیں۔ مثلاً فرقہ نیچریہ جس کے بانی مبانی سرسید احمد خان علی گڑھی تھے۔ تمام اہل اسلام قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبوی کو بھی حجت اور شرعی دلیل تسلیم کرتے ہیں۔ مگر یہ فرقہ سوائے قرآن کریم کے کسی دوسری چیز کو حجت نہیں مانتا۔ اب تو ہمارے شہر امرتسر کے اندر بھی چند ایک ہستیاں ایسے خیال کی پائی جاتی ہیں۔

۲...... دوسرا فرقہ چکڑالوی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ اس فرقہ کے بانی مبانی مولوی عبداللہ جن کا اصلی نام غلام نبی تھا اور ضلع کیملپور کے باشندے تھے۔ وہاں سے دہلی جا کر حدیث پڑھی۔ کچھ عرصہ تک مسجد اہل حدیث چینیاں والی لاہور میں مقیم رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے سے روکا اور قرآن مجید پر ہی عمل کرنے کی تاکید کی۔ سوائے قرآن کے کوئی چیز قابل حجت نہیں۔ بعد میں آ کر حدیث کو بہت برا بھلا کہا۔ آخر کار کچھ لوگ مولوی صاحب مذکور کی آواز پر لپٹ ہی گئے۔

اب مسجد چینیاں والی کے اندر روزانہ نماز کے متعلق جھگڑا ہونے لگا۔ پہلے اہل حدیث کی جماعت ہونے لگی اور بعد مولوی صاحب کے ہم خیال لوگوں کی۔ مولوی صاحب کی جماعت میں سب سے بڑے رکن میاں محمد بخش جعفر تھے۔ انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب فاتح قادیان کو ایک چٹھی لکھی تھی۔ جس میں دس بیس ہزار روپیہ مولوی صاحب کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بشرطیکہ مولوی صاحب اپنا مذہب چھوڑ کر اہل عیال کو لے کر ہمارے پاس آ جاویں اور ہمارے مذہب کی

تبلیغ کریں۔ جس کے جواب میں مولانا صاحب نے لکھا کہ میں نے یہ مذہب کسی لالچ وغیرہ کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ بلکہ سچا مذہب سمجھتا ہوں۔

آخرکار مولوی عبداللہ صاحب واپس اپنے وطن میں جاکر فوت ہوگئے۔ ان کی ایک جماعت گوجرانوالہ کے اندر پیدا ہوگئی۔ ایک جماعت شہر گجرات کے اندر کھڑی ہوگئی۔ جنہوں نے نماز میں صرف تین ہی فرض بتائے۔ کچھ جماعت امرتسر کے اندر خواجہ احمد الدین نے امت مسلمہ کے نام سے قائم کی۔ امرتسر سے اس جماعت کا ایک ماہوار رسالہ البلاغ نکلتا ہے۔ اب ہم اصلی مقصد پر پہنچ گئے ہیں۔ مولوی محمد علی ایم اے امیر جماعت احمدیہ لاہور، خواجہ احمد الدین وغیرہ کا نصاریٰ کی طرح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ذریعہ پیدا ہوئے اور یہی عقیدہ تھا سرسید احمد علی گڑھی کا۔ یہ شخص حضرت مسیح کی وفات کے بھی قائل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: ”ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون (آل عمران:۵۹)“ یعنی بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہیں۔ ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ پھر ان کو حکم دیا کہ موجود ہوجا۔ پس وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوگئے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت ابن مریم کا باپ کوئی نہ تھا۔ یعنی نہ خدا تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ حضرت مریم صدیقہ کا خاوند ثابت کرنا سوائے کذب بیانی کے اور کچھ نہیں۔

۲... ”کانا یاکلان الطعام“ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ مائی مریم صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس جگہ بھی باپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس جگہ پر آپ کے باپ کا ذکر نہیں۔ ہم صرف اس فقرے پر بحث کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہت کیوں کہا اور یہ کیوں نہ کہا کہ حضرت عیسیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا باپ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی باپ نہ تھا۔ اس لئے کسی دوسری نبی کی مشابہت نہیں کہا۔ صرف اسی پیغمبر کی مثال کہا۔ جس کا باپ نہ تھا۔ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا۔ مولانا محمد علی ایم اے۔ امیر جماعت احمدیہ

لاہوری کی تسلی کے لئے ہم ان کے گھر کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ قرآن حدیث کی شہادت کو قابل تسلیم نہ سمجھیں۔ ہماری غرض تو صرف اصلاحیت ہے۔ اس لئے ہم ان کے گھر کی شہادت پیش کرتے ہیں۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

”ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ سے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور نیچری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا۔ وہ بڑی غلطی پر ہیں۔“

(اخبار الحکم ج ۵ نمبر ۲۳، مورخہ ۲۴ر جون ۱۹۰۱ء ص ۱۱)

معراج جسمانی

اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ معراج کو جسم عنصری گئے تھے۔ جہاں قرآن مجید پارہ ۱۵ میں معراج کا ذکر ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عبد اس حالت میں بولا جاتا ہے۔ جب کہ روح اور جسم دونوں چیزیں موجود ہوں اور اگر صرف روح موجود ہو جسم نہ ہو۔ تو ہم تب بھی عبد نہیں کہہ سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ معراج جسمانی کی قائل نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ معراج جسمانی کے وقت ابھی مائی صاحبہ شیرخوار تھیں۔ کیونکہ معراج ہجرت سے ایک سال پیشتر ہوا۔ مائی صاحبہ جو روحانی معراج کی قائل ہیں۔ اس معراج سے واقعی روحانی مراد ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کو معراج جسمانی کے سوا کئی دفعہ معراج روحانی ہوا تھا۔ اب ہم مرزائی دوستوں کی تسلی کے لئے خود ان کے امام کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے امام کے قول کو تو رد نہیں کر سکتے۔ شاید وہ قرآن اور حدیث کی دلیل کو تسلیم نہ کریں۔ لہذا ہم معراج جسمانی کے متعلق مرزا قادیانی کا فیصلہ پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا ثابت کیا گیا ہے۔ وہ دو ہی ہیں۔ ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرا مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“

(توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲)

یہ تاویل بالکل غلط ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہوائی اور ناری کرے ہیں۔ کسی بشر کو وہاں سے گذرنا دشوار ہے۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی شخص کو مع جسم عنصری

آسمان پر اٹھا سکتا ہے۔ اب تو خدا تعالیٰ نے کافروں کی یہ دلیل بھی توڑ دی۔ کیونکہ موجودہ زمانہ کے اندر ہوائی جہاز سینکڑوں من لوہا اور آدمی لے کر اڑ سکتا ہے۔

معراج جسمانی کے اثبات میں علمائے متقدمین کا مذہب

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب

چنانچہ فقہ اکبر کی شرح میں لکھا ہے: ''وخبر المعراج ای بجسده المصطفیٰ ﷺ یقظة الی السماء ثم الی ماشاء الله تعالیٰ فی المقامات العلیٰ حق ای حدیثه ثابت بطرق متعددة فمن رده ای ذالک الخبر ولم یؤمن بمقتضی ذالک الاثر فهو مبتدع ضال مبتدع ای جامع بین الضلالة والبدعة (شرح فقه اکبر ص ۱۳۵)'' یعنی رسول اللہ ﷺ کو بیداری کی حالت میں مع آپ کے جسم کے آسمان تک پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بلند مقاموں تک معراج کا ہونا احادیث متعددہ سے ثابت ہے۔ جس نے اس کے وقوع کا انکار کیا اور اس کے صحیح ہونے کا اقرار نہ کیا وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ یعنی اس میں بدعت اور گمراہی دونوں جمع ہیں۔

مولانا شاہ ولی اللہؒ کا مذہب

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ''واسری به الی المسجد الاقصیٰ ثم الی سدرة المنتهیٰ والی ماشاء الله وکل ذالک بجسده ﷺ (حجة الله البالغه ج ۲ ص ۱۹۰)'' یعنی (ای: شام میں) آپ کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور جہاں تک خدا کی مرضی تھی سیر کرائی گئی۔ یہ تمام امور حالت بیداری میں جسم کے ساتھ واقع ہوئے۔

جمہور علمائے محدثین کا مذہب

خاتمۃ الحفاظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ''فمنهم من ذهب الی ان الاسراء والمعراج وقع فی لیلة واحدة فی الیقظة بجسد النبی ﷺ وروحه بعد المبعث والی هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثین والفقهاء والمتکلمین وتواردت علیه ظواهر الاخبار الصحیحة (فتح الباری ص ۱۵۳، پ ۱۵)'' یعنی سلف میں سے بعض لوگ اس طرف

گئے ہیں کہ آپ کو اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں مع روح اور جسم کے ایک ہی رات میں واقع ہوئی ہیں اور اسی طرف گئے ہیں۔ تمام علماء محدثین میں سے اور فقہا اور متکلمین میں سے اور اسی پر ظاہر اخبار صحیحہ اور وہی بھی پایا جاتا ہے۔

علامہ ابن القیمؒ کا مذہب

آپ فرماتے ہیں: "ثم اسری برسول اللہ ﷺ بجسده علی الصحیح (زاد المعاد ج ۱ ص ۳۰۰)" یعنی صحیح مذہب یہ ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج اسی جسم کے ساتھ ہوگیا۔

علامہ قاضی عیاضؒ کا مذہب

آپ فرماتے ہیں: "والحق ... انه اسری بالجسد والروح فی القصة کلها وعلیه تدل الآیة وصحیح الاخبار والاعتبار ولا یعدل عن الظاهر والحقیقة الی التاویل الا عند الاستحالة (شفاء: ۸۵)" یعنی تمام قصہ میں صحیح قول یہ ہے کہ اسراء (اور معراج) روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھی۔ اس پر آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ اور اعتبار دلالت کرتے ہیں اور ایک کھلی ہوئی حقیقت اور ظاہری بات کی بغیر اشکال کے تاویل کرلی جائے نہیں۔

مولانا عبدالحق دہلویؒ کا مذہب

آپ فرماتے ہیں: "صحیح آنست که وجود اسراء و معراج همه در حالت بیداری و بجسده بود جمهور علماء از صحابه و تابعین و اتباع من بعدهم از محدثین و فقهاء متکلمین برایں اند و متواتره است بریں احادیث صحیحه و اخبار صحیحه (مدارج النبوة)" یعنی صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو معراج حالت بیداری میں مع جسم کے ہوئی۔ جمہور علماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کل فقہا اور متکلمین اسی عقیدہ پر ہیں اور صحیح حدیثیں اور خبریں اسی پر متواتر ہیں۔

یہاں تک علماء محققین کے ارشادات معراج جسمانی کے اثبات میں تحریر کئے گئے ہیں۔ اب یہاں سے عقل پرستوں کی خاطر چند دلائل عقلیہ لکھے جاتے ہیں جو اصحاب عقلی امور کو ہر حال میں ترجیح دیتے ہیں، وہ بغور مطالعہ فرمائیں اور فیصلہ اپنے دلوں پر چھوڑ دیں۔

معراج جسمانی کے عقلی دلائل

جس قادر ذوالجلال نے پرندوں کو طاقت طیران (پرواز) بخشی ہے اور وہ باوجود

[illegible]

بطلان مرزا

حضرت مولانا محمد اسحاق امرتسری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ من لا نبی بعدہ:

پہلے مجھے دیکھئے!

لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدائے تعالیٰ وحدہ لاشریک کا جو قہار و جبار ہے۔ جس نے مجھے اپنے خاص مذہب یعنی دین اسلام کا خادم بنایا اور جس نے مجھے اتنی توفیق بخشی کہ میں اس وقت جب کہ مسلمان برائے نام ہی مسلمان رہ گئے۔ اس وقت مجھ کو دین کی سمجھ عطاء کی۔ مجھ کو اس نے اتنی طاقت عنایت کی کہ فرقہ ضالہ جدیدہ مرزائیہ جو کہ نہایت ہی خطرناک فرقہ ہے۔ میں اس کی تردید کر سکوں۔ تالیف کا سلسلہ میں نے محض اس لئے شروع کر رکھا ہے کہ امت مرزائیہ جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے اپنے ایمانوں کا ستیاناس کر چکی ہے۔ اس کی اصلاح کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کی تردید میں چند رسائل لکھے اور ان کو صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت دی۔ خدا کی مہربانی سے میری تصنیف کتاب حالات مرزا پر پنجاب کے بڑے بڑے علماء کرام حنفی اور اہل حدیث نے ریویو لکھے۔ جن میں سے خصوصاً فخریہ حضرت مولانا شیر پنجاب سردار اہل حدیث ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخبار اہل حدیث امرتسر مولانا محمد عالم صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج امرتسر اور سید محمد شریف صاحب گھڑیالوی کا نام پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام نے بھی رسالہ مذکورہ پر ریویو لکھے ہیں جو کہ ملاحظہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

مرزائی احباب کرام نے میرے رسائل مذکورہ کا جواب نہ دیا ہے اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ انشاء اللہ اتنی تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسالہ ہذا کے سرورق پر میں نے لکھا ہے کہ اس رسالہ میں مرزا قادیانی اور امت مرزائیہ سے مرزا قادیانی کی تردید کی گئی ہے۔ سو میں انشاء اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرنے کی حتی الامکان ضرور کوشش کروں گا۔

(وباللہ التوفیق نصرتہ)

بطلان مرزا

ناظرین کرام! مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”میرا کام ہے جس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑوں اور تثلیث کی جگہ توحید پھیلاؤں۔ حضور ﷺ کی جلالت دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر مجھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں

نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کر رہی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح علیہ السلام یا المہدی نے کرنا تھا تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔"

{اخبار بدر قادیان مورخہ ۱۹؍ جولائی ۱۹۰۶ء}

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مرزا قادیانی ۲۶؍ مئی ۱۹۰۸ء بموقع میلہ بھدر کالی کولا لاہور کے مقام پر فوت ہوئے۔ سرسری نظر سے بھی اگر دیکھا جائے کہ کیا مرزا قادیانی اپنی پیش کردہ تحریر کے اندر ثابت قدم نکلے تو صاف جواب نفی میں دینا پڑے گا۔ کیونکہ قرآن مجید تو علانیہ ڈنکے کی چوٹ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پیشتر تمام اہل کتاب ان پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آویں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی پر ایک بھی عیسائی جو کہ مرزا قادیانی کا سخت جانی دشمن تھا۔ یعنی {عبداللہ} مرزا قادیانی کی اشد کوشش کے باوجود بھی مرزا قادیانی پر ایمان نہ لایا۔ جس کی بابت مرزا قادیانی نے یوں پیش گوئی بھی فرمائی تھی۔ جس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الٰہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب کہ پیش گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔"

{جنگ مقدس ص ۲۰۹، خزائن ج ۶ ص ۲۹۱}

اور اسی طرح اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں۔ "بلکہ پیش گوئی میں یہ صاف شرط موجود تھی کہ اگر وہ عیسائیت پر مستقیم رہیں گے اور ترک استقامت کے آثار نہیں پائے جائیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ثابت نہیں ہوگا۔ تو صرف اس حالت کے میں پیش

گوئی کے اندر فوت ہوں گے۔'' (انجام آتھم ص ۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳)

ناظرین کرام! ان مقرر کردہ پندرہ ماہ کی میعاد ۶ ستمبر ۱۸۹۴ء کو ختم ہوئی تھی۔ مسٹر آتھم قریباً ۲ سال بعد مرا۔ آتھم کی وفات کا سن خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''مسٹر عبداللہ آتھم صاحب مورخہ ۲۷/جولائی ۱۸۹۶ء کو بمقام فیروزپور فوت ہوگئے۔'' (انجام آتھم ص ۱، خزائن ج ۱۱ ص ۱)

مگر افسوس جب مرزا قادیانی اس پیش گوئی میں کلی مات ہوئے تو اپنے رسالہ کشتی نوح میں لکھ دیا: ''پیش گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کے رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو وہ مجھ سے پہلے مر گیا۔'' (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱۹ ص ۶)

صحیح بخاری جس کو مرزا قادیانی بھی (کشتی نوح ص ۶۵) پر صحیح کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں صریح الفاظ میں لکھا ہے: ''وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد (بخاری ج ۱ ص ۴۹۰، باب نزول عیسیٰ بن مریم)'' {حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عنقریب تم لوگوں میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ ایک باانصاف حاکم ہوں گے۔ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے اور جنگ جو کافروں سے ہوتی ہے۔ اسے موقوف کر دیں گے۔ اور مال بہا بہا پھرے گا۔ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔}

ناظرین کرام! امید ہے کہ آپ نے حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی ہوگی۔ مرزا قادیانی کی تحریر ہے کہ: ''جو کام مسیح یا مہدی نے کرنا تھا وہ کام اگر میں نے کر دیئے تو میں صادق ہوں نہیں تو اس کا الٹ۔'' اب مندرجہ بالا تحریر جو آپ کی آگاہی کے لئے لکھی ہے۔ اس سے اظہر من الشمس ہے کہ مرزا قادیانی نے وہ کام نہیں کئے جو مسیح یا المہدی نے کرنے تھے اور ان کی فوتگی جو سب سے پہلے گذر چکا ہے۔ وہ بھی آپ غور سے ملاحظہ فرمادیں۔

مرزا قادیانی کی منکوحہ آسمانی

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں: ''یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جز (نکاح محمدی بیگم) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔''

“اے احمقو! یہ انسان کا افترا نہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔” (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

مرزا قادیانی نے ایک عورت محمدی بیگم سے نکاح کی پیشگوئی جمائی تھی۔ جس پر کئی الہام اور تحدیاں بھی کیں۔ مگر اس عورت محمدی بیگم سے آپ باوجود کوشش و سعی کے محروم رہے۔ برخلاف اس کے اس عورت کے والد نے اپنی لڑکی کی شادی پٹی میں کر دی۔ وہ آج مورخہ ۲ فروری ۱۹۴۵ء تک پٹی ضلع لاہور کے اندر صحیح سلامت موجود ہے اور مرزا قادیانی آج سے قریباً ۲۷ سال گذرے کہ رحلت ہو گئے۔ جب یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو امت مرزائیہ کو لوگوں نے چاروں طرف سے مجبور کرنا شروع کیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود لکھ چکے ہیں کہ: ”ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

تو مرزائی امت خصوصاً حکیم نور الدین خلیفہ اول قادیان نے یہ تحریف کی کہ محمدی بیگم اور مرزا قادیانی بذات خود مراد نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کے گھر لڑکا در لڑکا اور عورت کے گھر لڑکی در لڑکی کہیں نہ کہیں جا کر ان کا نکاح ہو جائے گا۔

یہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ مگر درحقیقت یہ تاویل کسی حد تک صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے خود دستخط موجود ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ: ”اس پیش گوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے۔ ”یتزوج ویولد لہ“ یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳ حاشیہ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷)

تحریر صاف ہے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نکاح سے محروم رہے۔ لہٰذا مسیح نہ ہوئے۔

اور دوسری جگہ کرشن قادیانی لکھتے ہیں: ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ (نہ ٹلنے والی تقدیر) اس کا انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری کردے گا۔“ (انجام آتھم ص ۳۱ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱)

اب ہم مرزا قادیانی کا ایک اور حوالہ سپرد قلم کرتے ہیں: ”پس دیکھئے پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا۔ یہ تقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح بھی ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الٰہی میں یہ فقرہ موجود ہے۔ ”لا تبدیل لکلمات اللہ“ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوجاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھادوں گا۔ جو اس کے نفاذ سے مانع تھیں۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۳)

ان ساری تحریروں کا لب لباب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ محمدی بیگم ضرور بالضرور میرے نکاح میں آجاوے گی اور اگر نہ آئی تو میں جھوٹا ہوں۔ اب جو نتیجہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو سوائے ناکامی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور خود ہی اپنی تحریروں کے نیچے آکر جھوٹے نکلے۔ کیونکہ محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا اور بغیر نکاح ہونے کے مرزا قادیانی دنیا سے تشریف لے گئے۔

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں
زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعاں کا

حالات مرزا

اپنے رسالہ میں زیر عنوان مراقی خاندان ہم نے مضمون لکھا ہے۔ جس میں مرزا قادیانی اور اقارب مرزا سے مرزا قادیانی کو اور میاں محمود خلف مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کی

بیوی کو مراق ثابت کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر اس جگہ بھی مراق کے متعلق ذکر کیا جائے تو امید ہے کہ مفید ثابت ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: "دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی۔ جو اس طرح وقوع پذیر ہوئی۔ آپ نے یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو وہ زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔"

(اخبار بدر قادیان ۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۵)

آپ کے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ اس تحریر کو زیر قلم لانے کی کیا وجہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاجز نے سرورق پر وعدہ کیا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی اور امت مرزائیہ سے آنجہانی کی تردید کی گئی ہے۔ لہٰذا وعدہ مذکورہ کو ایفا کرنے کی غرض سے یہ تحریر سپرد قلم کی گئی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مراقی شخص ملہم یا نبی نہیں ہو سکتا۔

اگر ہم بذات خود یا کسی طب کی معتبر کتاب سے اس کا ثبوت دیتے تو ممکن تھا کہ اس ثبوت کو قبولیت حاصل نہ ہوتی اور قادیانی احباب ہماری محنت کو ٹھکرا دیتے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی ہی شہادت پیش کی جائے تو بجا ہوگی۔

ڈاکٹر شاہنواز خان صاحب مرزائی اسسٹنٹ سرجن لکھتے ہیں: "ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مالیخولیا، مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کو بیخ و بن سے اکھیڑ دیتی ہے۔" (رسالہ ریویو بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء ص ۶، ۷)

اور اسی رسالہ کے پرچہ بابت ماہ نومبر ۱۹۲۹ء کے ص ۹ پر تحریر ہے کہ: "ہسٹریا کے مریض کو جذبات پر قابو نہیں ہوتا۔" بلکہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں: "مگر یہ بات تو بالکل جھوٹا منصوبہ اور یا کسی مراقی عورت کا وہم تھا۔" (کتاب البریہ ص ۲۴۰ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۲)

ناظرین کرام! غور کا مقام ہے۔ جب مراقی عورت کی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تو مراقی آدمی کی بات کیونکر قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔

ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب پٹیالوی

جو عرصہ بیس سال تک مرزا قادیانی کے مرید رہے اور بعد میں مرزائیت کو ترک کر دیا۔ ڈاکٹر موصوف نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب (چشمہ معرفت ص ۳۲۱، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۶) پر لکھتے ہیں: "ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا۔"

اور (چشمہ معرفت ص ۳۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۷) پر لکھتے ہیں۔ "اس نے (یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم) یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اس کی پیش گوئی پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے [illegible] رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔"

اس مقابلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی بتائی ہوئی پیش گوئی کی مدت کے اندر ہی اندر مرزا قادیانی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو وفات پا گئے اور ڈاکٹر صاحب آخر ۱۹۱۹ء تک زندہ رہے۔ پس مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔

مرزا قادیانی کے آنے کا مقصد

ناظرین مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "میرے آنے کے دو مقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ وہ تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں۔ وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور عیسائیوں کے لئے کسر صلیب ہو۔ اور دنیا اس کو بھول جائے اور خدا تعالیٰ واحد کی عبادت ہو۔" (اخبار الحکم قادیان مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۵ء ج ۹ ص ۵)

مرزا قادیانی کی اصل تحریر جو ہم نے نقل کی ہے۔ ناظرین کرام! اسے پڑھ کر غور سے

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

قادیانی مذہب

اور

علامہ اقبال کا قول فیصل

جناب ڈاکٹر صوفی نذیر احمد

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیش لفظ

قادیانی امت سکھوں کے دور سے جس دن سے پاکستان میں آگھسی ہے۔ مسلمان کا بہروپ بھر کر زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے۔ کیونکہ عام مسلمان مرزائی عقائد سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اس لئے اپنی کمی معلومات کی وجہ سے ان کے شاطرانہ تبلیغی جال میں گرفتار ہو کر انہیں مسلمان سمجھنے لگتے ہیں۔ اندریں حالات جماعت مسلم لیگ کے کارکنوں کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو بالعموم قادیانی مذہب کے عقائد مزعومہ سے باخبر کرنے کے لئے احمدی کتابوں سے چند اقتباسات پیش نظر ہیں۔

مرزا قادیانی حقیقی رسول اور نبی

”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص۱۱، خزائن ج۱۸ ص۲۳۱)

”میں کوئی نیا نبی نہیں۔ مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آچکے ہیں جن دلائل سے کسی نبی کو سچا سمجھتے ہیں۔ وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔“ (ملفوظات احمدیہ ج۱۰ ص۲۱۷،۲۱۸)

”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“ (ملفوظات احمدیہ ج۱۰ ص۱۲۷)

”میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جو اس دنیا سے گذر جاؤں۔ یہ خط حضرت مسیح موعود نے اپنی وفات سے صرف تین دن پہلے یعنی ۲۳؍مئی ۱۹۰۸ء کو لکھا اور آپ کے یوم وصال ۲۶؍مئی ۱۹۰۸ء کو اخبار عام میں شائع ہوا۔ پھر اسی پر بس نہیں کہ مسیح موعود نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بلکہ نبیوں کے سرتاج محمد مصطفیٰ ﷺ نے آنے والے مسیح کا نام نبی اللہ رکھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم سے ظاہر ہے۔ پس ان تین عظیم الشان شہادتوں کے ہوتے ہوئے کون ہے جو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی نبوت سے

انکار کرے۔" (کلمۃ الفصل مندرجہ ریویو آف ریلیجنز ص ۱۱۰ نمبر ۳ ج ۱۴)

"شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔" (حقیقت النبوۃ ص ۱۷۴)

مرزا قادیانی امتی نبی نہیں

"مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی گروہ میں سمجھنا آنحضرت ﷺ کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے۔ جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۹ جون ۱۹۱۵ء، ملفوظ محمودیہ ص ۲۱)

مرزا قادیانی محمد و احمد

"اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی نہ پرانا۔ بلکہ خود محمد رسول اللہ ﷺ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔" (خطبات ج ۲ ص ۲۰۳)

"ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد" قرآن کریم میں جو احمد کی بشارت ہے وہ احمد میں ہوں۔ (ازالہ اوہام ص ۶۷۳، خزائن ج ۳ ص ۴۶۳)

"تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۰۵، ج ۱۴ نمبر ۳)

"پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۵۸، ج ۱۴ نمبر ۳، مقالہ محمودیہ ص ۱۶)

مرزا قادیانی کی رسول اکرم ﷺ پر فضیلت

"حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روحانیت آخر میں یعنی ان دنوں میں (بالکل

مرزا قادیانی) بہ نسبت ان سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۲)

"ہمارے نبی کریم ﷺ کی روحانیت نے پانچویں ہزار........ صفات کے ساتھ ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کے ترقیات کا انتہاء نہ تھا۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت (یعنی مرزا قادیانی) پوری طرح سے تجلی فرمائی۔" (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۷، خزائن ج ۱۶ ص ۲۶۶)

"آتانی ما لم یؤت احد من العالمین" "مجھ کو وہ چیز دی گئی ہے کہ دنیا آخرت میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دی گئی۔" (استفتاء ضمیمہ حقیقۃ الوحی ص ۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵)

"ان قدمی علی منارۃ ختم علیہ کل رفعۃ" "میرا قدم اس منارہ پر ہے۔ جہاں کل بلندیاں ختم ہو چکی ہیں۔" (خطبہ الہامیہ ص ۳۵، خزائن ج ۱۶ ص ۷۰)

"لا تقیسونی باحد و لا احدابی" "میرے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرو۔"

(خطبہ الہامیہ ص ۱۹، خزائن ج ۱۶ ص ۵۲)

مرزا محمود احمد صاحب کے منکر کافر جہنمی اور ذریۃ البغایا

"میرا منکر کافر ہے۔" (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)

"جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔" (معیار الاخیار مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۵)

"فقطع دابر القوم الذین لا یؤمنون" "یعنی جو قوم (مرزا قادیانی) پر ایمان نہ لائے گی اس کی جڑ بنیاد کاٹ دی جائے گی۔" (تذکرہ ص ۶۴۶)

(لیکن مسلمانان ہند کو مرزا قادیانی کے انکار کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا ہے۔ للمؤلف!)

"اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کریم ﷺ کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر

ہونا چاہئے۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے۔ اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر ہو اور دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود آپ کی روحانیت اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے۔ آپ کا انکار کفر نہ ہو۔" (مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز نمبر ۳ ج ۱۴ ص ۱۴۷)

"آپ نے (مسیح موعود) اس شخص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہے۔ مگر مزید اطمینان کے لئے بیعت میں توقف کرتا ہے۔ کافر ٹھہرایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے۔ کافر ٹھہرایا ہے۔"

(ارشاد میاں محمود احمد قادیانی مندرجہ تشحیذ الاذہان ج ۶ ص ۱۴۰)

"کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینہ صداقت ص ۳۵)

"ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔" (انوار خلافت ص ۹۰)

"اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔"

(کلمۃ الفصل ص ۱۳۹ نمبر ۳ ج ۱۴)

"تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودۃ وینتفع من معارفہا ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون" "ان کتابوں کو سب مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجھے قبول کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر بدکار عورتوں (کنجریوں) کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ (بغایا کا معنی خود مرزا قادیانی نے بدکار عورتیں، زنان بازاری، زن زانیہ، قحبہ وغیرہ کیا ہے)

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷ خزائن ج ۵ ص ۵۴۷)

"ہمارے دشمن جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔"

(نجم الہدیٰ ص ۱۰ ، خزائن ج ۱۴ ص ۵۳)

مرزا قادیانی خدا

"رأیت فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ھو فخلقت السمٰوٰت والارض" "میں نے اپنے آپ کو عین خدا دیکھا اور میں یقینا کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے زمین و آسمان بنائے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴،۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ۵۶۴)

"انت من ماءنا وھم من فشل" یعنی اے مرزا تو ہمارے پانی (نطفہ) سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی (مٹی) سے۔ (اربعین نمبر ۲ ص ۳۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۳)

لیکن ارشاد الٰہی ہے۔ "خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب (طارق)"

قادیان کا حج اور روحانیت خانہ کعبہ ختم

"کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا "انا انزلناہ قریب من القادیان" تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔۔۔ تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان۔ یہ کشف تھا کہ کئی سال ہوئے مجھے دکھایا گیا تھا۔"

(ازالہ اوہام ص ۷۷،۷۶ ، مجموعہ خزائن ج ۳ ص ۱۳۸ ، ۱۴۰)

"ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ خدا تعالیٰ نے قادیان کو اسی کام کے لئے مقرر کیا

ہے۔ اب حج کا مقام قادیان ہے۔" (برکات خلافت ص۵، خطبہ جمعہ)

"جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنحضرت ﷺ عین اسی وقت مبعوث ہوئے۔ جب کہ آپ کی اولاد اور تمام دنیا بت پرستی اور فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ یونہی آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) بھی عین اسی وقت مبعوث ہوئے۔ جب کہ آپ کی امت کے بہتر فرقے فسق و فجور اور بت پرستی کی وجہ سے جہنمی بن چکے تھے اور خانہ خدا اپنی روحانی حیثیت کھو کر صفحہ ہستی سے معدوم ہو چکا تھا۔"

(الفضل قادیان مورخہ ۱۴ / جنوری ۱۹۵۰ء ج۴ ص ۲)

مرزا قادیانی کا کلمہ شریف

"اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ وہ (مرزا قادیانی) خود فرماتے ہیں۔ صار وجودی وجودہ نیز "من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنی ومارای" اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت "آخرین منھم" سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔" (کلمۃ الفصل مندرجہ ریویو قادیان ج ۱۴ نمبر ۴ ص ۱۵۸)

مرزا قادیانی اور جہاد

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے

دیں کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۷)

”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے۔ ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔“

(درخواست مرزا قادیانی بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر پنجاب، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۱)

”یاد رکھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۸۴)

مرزا قادیانی اور گورنمنٹ برطانیہ کی خدمت گذاری

”میرا مذہب جس کو میں باربار ظاہر کر چکا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“ (گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ص ج)

”میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اس قدر اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں اور میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر اور شام تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

"بار بار بے اختیار دل میں یہ بھی خیال گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔ اس گورنمنٹ کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔"

(اشتہار مرزا قادیانی مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۲۸، مجموعہ اشتہارات ج ۳۳۵)

"قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دل میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں۔ ..... ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں [illegible] رکھے گی ..... ایسے لوگوں کے نام مع پتہ و نشان یہ ہیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۲۷)

ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید
قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللّٰہی

(مجدد العصر علامہ محمد اقبالؒ)

مرزا قادیانی کے اپنے نام پر جماعت احمدیہ

"ان تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو احمد کے نام سے پکارا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں۔ مسیح موعود بیعت لیتے وقت یہ اقرار لیا کرتے تھے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں۔ بلکہ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس یہ یقینی ہے کہ آپ احمد تھے۔" (کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویو قادیان ج ۱۴ نمبر ۳ ص ۱۳۱)

اور ۱۹۰۰ء میں اپنی جماعت کا نام احمدی رکھنے کا اشتہار و اعلان کیا اور سرکار سے استدعا کی کہ مردم شماری میں اسی نام سے اس فرقہ کو درج کیا جائے۔

مرزا قادیانی کی مسلم لیگ سے بیزاری

"ہمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مسیح حقیقی اور دنیا کے سچے ہادی حضرت مسیح موعود و مہدی

آخر الزمان (مرزا قادیانی) کے حضور میں جب مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور (مرزا قادیانی) نے اس کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر فرمائی تھی۔ پس کیا کوئی کام جسے خدا کا برگزیدہ موعود ناپسند فرمائے۔ مسلمانوں کے حق میں سازگار و بابرکت ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کو اپنے حقیقی نفع و ضرر کی کچھ فکر ہے تو ایسے فضول مشغل سے باز رہیں۔ جن کے نتائج نہ ان کو دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نہ دین کا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کئی سال سے یہ پولیٹکل کانگریس کی نقل ہوتی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۹۰ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۶ء)

مرزا قادیانی کی شان مراقبہ

"مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔" (رسالہ تشحیذ الاذہان، اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء)

"ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔"
(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۵۵ نمبر ۳۶۹)

"ہسٹریا کا بیمار جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو رحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورنہ مردوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ جن مردوں کو یہ مرض ہو ان کو مراقی کہتے ہیں۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۸۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۲۳ء)

"میری بیوی کو مراق کی بیماری ہے۔" (اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

"جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ مرض منتقل ہوا۔

چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی (میاں محمود احمد) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔" (رسالہ ریویو قادیان ص ۱۱ بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ئ)

"ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مالیخولیا، یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔"

(رسالہ ریویو قادیان بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ئ)

مرزا قادیانی اور لاہوری احمدی

"ہم حضرت مسیح موعود اور مہدی معہود (مرزا قادیانی) کو اس زمانہ کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔"

(پیغام صلح ج ۱ نمبر ۳۲، مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۳ئ)

"ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانہ کے سچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے تھے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔ ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضلہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔" (پیغام صلح ج ۱ نمبر ۲۵، مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۱۳ئ)

چوہدری ظفر اللہ خان کا عقیدہ

"چوہدری صاحب کی بحث تو صرف یہ تھی کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ہم کو کافر قرار دینا غلطی ہے۔ باقی غیر احمدی کافر ہیں یا نہیں اس کے متعلق عدالت ماتحت میں بھی احمدیوں کا یہی جواب تھا کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی چوہدری صاحب نے اس کی تائید کی۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۲۱، مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۲۲ئ)

قادیانی جماعت اور مجدد العصر مرحوم کا قول فیصل

جو شخص نبی کریم ﷺ کے بعد کسی ایسے نبی کے آنے کا قائل ہے۔ جس کا انکار مستلزم کفر ہو، وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بیان سے بعض حلقوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے گورنمنٹ سے قادیانی جماعت کو بزور دبانے کے لئے تجویز شدید کی ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ میں نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ مذہبی آزادی ہی ہندوستانی حکمرانوں کے لئے صحیح طریق کار ہے۔ کوئی اور طریقہ قابل عمل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ مختلف دینی حلقوں کے لئے نقصان دہ ہے۔ لیکن اس کے سوا چارہ نہیں اور جنہیں اس آزادی سے گزند پہنچ رہا ہے۔ انہیں خود مناسب طریقوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ میری رائے میں قادیانیوں کو ایک علیحدہ امت قرار دینا ہندوستان کے حکمرانوں کے لئے سب سے اچھی بات ہے۔ ایسا کرنا قادیانیوں کے اپنے نظم و نسق کے عین مطابق ہوگا اور ہندوستانی مسلمان دوسرے مذہبوں کی طرح پھر انہیں بھی روادار رکھیں گے۔"

(نوٹ بحوالہ رسالہ اسلام اور قادیانیزم از مجدد العصر علامہ محمد اقبال مرحوم۔ ترجمہ بلفظہ)

مسلم لیگ اور احمدی اقلیت

"اب تو مسلم لیگ نے بھی جس کے ممبر آزاد خیال اور روادار سمجھے جاتے ہیں اور ہندوستان کی ذاتی روح تصور کئے جاتے ہیں۔ ایک حلف نامہ تیار کیا ہے کہ جو ان کی طرف سے اسمبلی کے لئے امیدوار کھڑا ہو وہ یہ حلف اٹھائے کہ میں اسمبلی میں جا کر احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت منظور کرانے کی کوشش کروں گا۔" (اخبار پیغام صلح ج ۲۴ ص ۱۰، مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۳۶ئ)

حرف آخر

۱..... مرزا قادیانی مستقل اور حقیقی نبی تھے۔

۲..... مرزا قادیانی آخری نبی تھے۔ (تو پھر مسلمان کیسے ہوئے)

۳..... مرزا محمود احمد محمد رسول اللہ تھے۔

۴.. .. مرزا قادیانی کی روحانیت آنحضرت ﷺ سے زیادہ اقویٰ، اکمل اور اشد تھی (نقل کفر کفر نباشد) کیونکہ نبی اکرم ﷺ روحانیت کے پہلے قدم پر تھے اور مرزا قادیانی انتہا پر۔ (حضور پاک ﷺ سے بے ادبی کے بعد کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے)

۵ ... مرزا قادیانی کے منکر کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد ہیں۔

۶..... مرزا قادیانی خود خدا تھے اور خدا کے نطفے سے تھے۔ (ارشاد الٰہی لم یلد ولم یولد ہے۔ اس کھلے شرک کے بعد مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھنے والے کو کون عقلمند کہے گا)

۷..... مرزا قادیانی کی بعثت کے وقت خانہ کعبہ اپنی روحانی حیثیت کھو کر صفحہ ہستی سے معدوم ہو چکا تھا۔ بقول مرزا قادیانی قادیان کا نام اعزاز سے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور ... حج کا مقام قادیان ہے۔ (کعبہ سے روگردانی کفر نہیں تو پھر کفر کسے کہتے ہیں)

۸.. ... مرزا قادیانی کیونکہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس لئے نیا کلمہ شریف بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ احمدی بعثت ثانی کے پیش نظر جو کہ روحانیت میں بقول مرزا قادیانی زیادہ اقویٰ، اکمل اور اشد ہے۔ "لا الٰہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ" مرزا محمد رسول اللہ کے لئے پڑھتے ہیں۔ (پھر مسلمان کس طرح ہوئے)

۹.... مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے اور قادیانیوں کے نزدیک جہاد سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ (پھر قرآن پر ایمان کا دعویٰ خدا سے تمسخر نہیں تو اور کیا ہے)

۱۰ مرزا قادیانی انگریزوں کے خوشامدی، پروردہ تھے۔ حکومت برطانیہ کی خدمت گزاری کی نیت سے مسلمانوں کو فریضۂ جہاد سے برگشتہ کرنے میں مصروف رہے۔

فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلماں کو سلاطین کا پرستار کرے

(فرمودہ مجدد العصر علامہ محمد اقبال)

۱۱ ... مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کو احمدی اپنے نام پر کہا اور مردم شماری میں احمدیوں کو مسلمانوں کی بجائے اسی نام سے درج کرنے کی حکومت برطانیہ سے استدعا کی۔ اس لئے احمدیوں کو اب مسلمان شمار کرنا ملت مسلمہ سے زیادتی اور قادیانی امت سے نا انصافی ہے۔ حکومت برطانیہ نے تو اپنے خود کاشتہ پودہ کی فریاد نہ سنی۔ اب پاکستانی حکومت ہی قادیانی امت کو احمدی قرار دے کر مرزا قادیانی کی آرزو کو بطریق احسن پورا کر دے۔

۱۲ ... مرزا قادیانی مسلم لیگ جماعت کو ناپسند کرتے تھے اور احمدی اسی لئے اسے بے برکت جماعت سمجھتے ہیں۔ لیکن ناپسندیدہ جماعت کا اب رکن بننا چہ معنی۔ اللہ اکبر! خدا تعالیٰ نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لئے سازگار اور بابرکت بنا کر ابطال احمدیت کے لئے پاکستان سا نشان مبرہن عطا کر دیا ہے۔

۱۳ ... مرزا قادیانی اور آپ کی بیگم اور بیٹا (موجودہ جانشین) تینوں مریضان مراق ہیں۔ اس لئے احمدیت کی تردید کے لئے بقول ڈاکٹر شاہنواز صاحب قادیانی کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں کیا ایک اسلامی حکومت کا یہ فرض منصبی نہیں کہ مسلمانوں کو مراقی دست برد سے محفوظ کرنے کے لئے علاج کی فوراً تدبیر کرے۔

۱۴ ... مرزا قادیانی کو لاہوری احمدی بھی نبی اور رسول مانتے تھے اور ان پر ایمان لائے بغیر نجات ناممکن سمجھتے تھے۔ اب یہودیت کی آڑ میں منافقت کا کھیل کھیلنا اسلام دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔

۱۵ ... چوہدری ظفر اللہ کل مسلمانوں کو کافر جانتے ہیں۔

آئینہ مرزائیت

جناب ملک محمد صادق سابق قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

تمہید

حضرات! میں پیدائشی احمدی تھا اور سارا وقت مطالعہ کتب اور تبلیغ میں صرف کرتا تھا اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتا تھا۔ جملہ حالات سے متاثر ہو کر میرے بھائی عبدالحق نیوز ایجنٹ لائل پور نے مختلف قسم کے رسائل اور کتب مرزائیت کے خلاف بھیجنے شروع کئے اور ساتھ ہی بلا تعصب اور غور سے مطالعہ کرنے کی تاکید کی۔ بعد از مطالعہ میرے دل میں بہت سے شکوک پیدا ہو گئے اور میں نے ازالہ شکوک کا مرزائی حضرات سے مطالبہ کیا جس کے جواب میں مجھے کہا گیا کہ مخالف لٹریچر کا مطالعہ چھوڑ دو۔ بھلا ایک طالب حق اس بیہودہ اور غیر معقول جواب سے کب مطمئن ہو سکتا تھا۔ میں نے مرزائیت سے توبہ کر لی اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزائی یا دوسرے لفظوں میں احمدی کوئی مذہب نہیں ہے۔ بلکہ سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اپنا الو سیدھا کرنے، کھانے کمانے، تمام سلف صالحین، انبیاء کی رکیک اور بیہودہ تاویلوں سے توہین کرنے اور دراصل جہالت اور حماقت کا نام ہے۔ چنانچہ میں نے بعض احباب کے اصرار پر مرزائیت کے ڈھول کا پول کھولنے کی غرض سے مختصر رسالہ لکھنے کا تہیہ کر لیا۔ جو آپ کے پیش نظر ہے۔ اگر قارئین کرام اور معاونین نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور فضل ایزدی شامل حال رہا تو بندہ وقتاً فوقتاً مرزائیت کے راز پنہاں اور انکشاف حقیقت سے آپ کو آگاہ کرتا رہے گا۔ آخر میں میں حکیم عبدالرحمن اور بھائی عبدالحق کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری معاونت فرمائی۔

خادم قوم ملک محمد صادق!

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

حقائق مرزا

۱...... ’’یسوع در حقیقت بوجہ بیماری مرگی دیوانہ ہو گیا تھا۔‘‘

(ست بچن ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۰ ص ۲۹۵)

نوٹ: مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع نہیں کہا۔ بلکہ یہ ایک یسوع تھا چنانچہ مرزا قادیانی خود اپنے رسالہ (توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲) پر لکھتے ہیں

کہ ''یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک ہی کے نام ہیں۔''

۲۔ ''یورپ کے لوگوں کو جو شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔''

(کشتی نوح ص ۷۳، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

۳۔ ''عیسائیوں نے یسوع کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ کوئی معجزہ ظہور میں نہیں آیا۔'' (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

۴۔ ''میں مسیح موعود ہوں۔'' (ازالہ اوہام ص ۳۹، خزائن ج ۳ ص ۱۲۲)

۵۔

اینک منم کہ حسب بشارت آمدم
عیسیٰ کجاست تابنہد پا بمنبرم

(ازالہ اوہام ص ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

۶۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

۷۔ خدا نے مرزا قادیانی کو فرمایا: ''آسمان سے کئی تخت اترے۔ سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا۔'' (حقیقۃ الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

نوٹ: یاد رہے مرزا قادیانی کا خدا ہاتھی دانت کا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں: ''ربنا عاج'' (البشریٰ ج ۱ ص ۴۳)

۸۔ ''خدا کے عظیم الشان نشان بارش کی طرح میرے پر اتر رہے ہیں۔ اور غیب کی باتیں میرے پر کھل رہی ہیں۔ ہزار ہا دعائیں اب تک قبول ہو چکی ہیں۔''

(تریاق القلوب ص ۲۶، خزائن ج ۱۵ ص ۱۴۰)

نوٹ: مرزائی دوستو! خدارا ہمیں تفصیل سے تو بتاؤ کہ کون سی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ہم نے تو ایک بھی قبول ہوتی نہیں دیکھی۔

۹… خدا نے مجھے کہا: ''لولاک لما خلقت الافلاک'' مرزا تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ (حقیقت الوحی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

۱۰… ''انما امرک اذا اردت شیأ ان تقول لہ کن فیکون'' اے مرزا تجھے اختیار ہے۔ جب تو کسی چیز کو ہو جا کہے فوراً ہو جائے گی۔

(حقیقت الوحی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

نوٹ: کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا۔

۱۱… مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''خدا نے مجھے کہا۔ ''انت اسمی الاعلیٰ'' تو اے مرزا میرا (خدا کا) بڑا نام ہے۔'' (اربعین نمبر ۳ ص ۳۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۳)

۱۲… ''مرزا قادیانی کا قول ہے۔ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ۔'' (خطبہ الہامیہ ص ۱۹، خزائن ج ۱۶ ص ۱۹)

۱۳… ''میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں۔ جس کے ساتھ جسم نہیں اور سورج ہوں۔ جس کو دشمنی اور کینے کا دھواں چھپا نہیں سکتا۔''

(خطبہ الہامیہ ص ۳۰، خزائن ج ۱۶ ص ۳۰)

نوٹ: مرزا قادیانی! ہم خوب سمجھ گئے کہ آپ کو کیسی آگ لگی تھی۔

۱۳… ''مجھے خدا کی طرف سے دنیا کو فنا کرنے اور پیدا کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔'' (خطبہ الہامیہ ص ۲۱، خزائن ج ۱۶ ص ۵۶)

”میں خاتم الاولیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی ولی نہ ہوگا۔ مگر وہی جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۳۵، خزائن ج ۱۶ ص ۷۰)

نوٹ: حضرات! دیکھا کس طرح لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا الو سیدھا کیا کرتے تھے۔ ذرا ان سے پوچھئے تو کہ آپ کو دعویٰ کرنے کی طاقت تھی۔ مگر اپنے مخالفوں کو تو تباہ کر سکے اور نہ ہی محمدی بیگم کو حاصل کر سکے۔

۱۵...... ”جو کوئی میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت وہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں داخل ہو گیا۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۶ ص ۱۷۱)

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا
منم محمد و احمد کہ مجتبیٰ باشد

(تریاق القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

ترجمہ: میں مسیح زمان ہوں۔ میں کلیم خدا یعنی موسیٰ ہوں۔

۱۶...... ”میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں۔“

(تریاق القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

۱۷......

میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں
نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

(درثمین ص ۱۲۳، براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۱ ص ۱۳۳)

نوٹ: مرزا قادیانی کیا ہوئے معجون مرکب ہوئے۔

۱۸......

کربلائیست سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم

(درثمین فارسی ص ۱۹۶، نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

ترجمہ: میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے۔ سو حسینؓ ہر وقت میری جیب میں ہیں۔

نوٹ: حضرات! مرزا قادیانی کی ان بیہودہ تعلیوں کو دیکھئے کہ کن مکروہ الفاظ اور کس متکبرانہ لہجہ میں حضرت امام حسینؓ سے افضلیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

۱۹ ''میں محبت کا کشتہ ہوں۔ مگر تمہارا حسینؓ دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا اور ظاہر ہے۔'' (نزول المسیح ص ۱۸۱، خزائن ج ۱۸ ص ۱۹۳)

نوٹ: مرزائیو! تمہارے مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کہ میں محبت کا کشتہ ہوں۔ تم بتاؤ کہ مرزا قادیانی کس کی محبت کا کشتہ تھے۔ جواب دیتے وقت اتنا یاد رہے کہ کہیں محمدی بیگم کا نام نہ لے لینا۔

ان سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ جو مرزا قادیانی نے اختیار کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

۲۰ ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہو بہو اللہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ پھر میں نے ایک آسمان بنایا اور زمین بنائی۔''

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴، خزائن ج ۵ ص ۵۶۴)

نوٹ: احمدی دوستو! بتاؤ اور سچ بتاؤ کہ مرزا قادیانی نے خدا ہونے میں کون سی کسر باقی چھوڑی؟ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا۔ ''انا ربکم الاعلیٰ'' بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے ان الفاظ اور فرعون کے مقولہ میں کیا فرق ہے؟ ناظرین! ایسے کمالات والے انسان سے جو جو امیدیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ظاہر ہیں۔

۲۱.... ''عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے توریت پڑھی تھی۔''

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

نوٹ: قرآن مجید کی سورہ آل عمران پارہ سوم کے رکوع نمبر ۱۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ''یعلمہ الکتب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل'' {اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔} قرآن مجید کی کسی آیت اور صحیح حدیث نبوی میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توریت ایک یہودی سے پڑھی تھی۔ یہ محض مرزا قادیانی کا افتراء ہے۔

مراق مرزا

یا ایہا الناظرین! پیشتر اس کے کہ مدعی نبوت اور ملہم کے دعاوی اور الہامات کا مطالعہ کیا جائے۔ دیکھنا چاہئے کہ آیا اس کی صحت درست ہے۔ صحیح الدماغ ہے۔ حافظہ اچھا ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے ایک مرید نے لکھا ہے: ''ملہم کے دماغی قویٰ کا نہایت مضبوط ہونا ضروری ہے۔''
(ریویو آف ریلیجنز ماہ جنوری ۱۹۲۹ئ ص ۳)

''انبیاء کا حافظہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' (ریویو آف ریلیجنز ماہ جنوری ۱۹۲۹ئ ص ۸)

''ملہم کا دماغ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' (ریویو ماہ جنوری ۱۹۳۵ئ ص ۲۶)

بخلاف اس کے اگر نبی یا ملہم کے دماغی قویٰ کمزور ہوں۔ حافظہ کمزور ہو۔ یہاں تک نسیان تک نوبت پہنچ جائے۔ دماغ خراب ہو اور ان تمام عوارضات ردیہ کا باعث مالیخولیا ہو تو ان حالات کی موجودگی میں اس کے دعاوی کی تردید وتکذیب میں کسی اور ضرب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ڈاکٹر شاہ نواز خان صاحب احمدی اسسٹنٹ سرجن فرماتے ہیں: ''ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مالیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ وبن سے اکھیڑ دیتی ہے۔'' (ریویو اگست ۱۹۲۶ئ ص ۶،۷)

برادران! آپ کو نبی کے پرکھنے کی کسوٹی تو معلوم ہوگئی۔ اب ہم آپ کو خود مرزا قادیانی کی زبانی بتلاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نہ تو نبی تھے، نہ مسیح موعود تھے۔ نہ مجدد نہ ولی نہ کرشن بلکہ دراصل مالیخولیا مراق کے مریض تھے۔ اس جگہ ہم مالیخولیا مراق کے اسباب وعلامات بیان کرتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ مالیخولیا کیا چیز ہے۔ غور سے سنیں:

اسباب

۱…… ''یہ تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ورم بارد پیدا کر دیتا ہے یا ماساریقا کی یا اعضاء مراق میں جمع ہو کر ورم پیدا کر دیتا ہے اور اس عضو سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔'' (شرح اسباب ج۱ ص۷۲)

"یا ضعف دماغ، مرض قبض، کثرت مجامعت، حبس، کثرت محنت دماغی، زیادہ جاگنا، نہایت مشکل مسائل کے حل کرنے میں رات دن سوچتے رہنا بھی اس مرض کا سبب ہوتے ہیں۔"

(مخزن حکمت طبع نہم ج ۲ ص ۱۴۵۱)

علامات

"بعض مریضوں میں یہ فساد فکر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھتا ہے اور بسا اوقات ہونے والے واقعات کی خبر پہلے ہی دے دیتا ہے۔"

(شرح اسباب ج ۱ ص ۶۹)

۲...... "اگر سپاہی ہو تو دعویٰ بادشاہی کرتا ہے۔ اگر مریض عالم ہو تو دعویٰ پیغمبری کرتا ہے اور معجزات و کرامات کرتا ہے۔ بعض از خود خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔"

(اکسیر اعظم ج ۱ ص ۱۸۸)

اب ہم مرزا قادیانی کی تحریروں سے ان کے مالیخولیا، مراق، نسیان، دوران سر، سوء ہضم، ذیابیطس، ہسٹریا وغیرہ کے مریض ہونے کا جواز پیش کرتے ہیں۔

۱... "ہمیشہ درد سر اور کمی خواب اور تشنج قلب کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے۔ وہ ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔"

(ضمیمہ اربعین نمبر ۳، ۴ ص ۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۱)

۲...... "دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔" (اخبار بدر قادیان مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء، ملفوظات ج ۸ ص ۴۴۵)

۳ "حضرت اقدس (مرزا قادیانی) نے فرمایا کہ مجھے مراق کی بیماری ہے۔"

(ریویو اپریل ۱۹۲۵ء ص ۳۵)

۴...... حضرت مرزا صاحب نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ: "مجھ کو مراق ہے۔" (ریویو آف ریلیجنز ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۶، ۱۰ اگست ۱۹۲۶ء)

۵ "بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی بار دوران سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔"

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۴، روایت ۱۹)

۶...... "مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروثی نہ تھا۔ بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا۔"

(ریویو اگست ۱۹۲۶ء ص ۱۰)

۷...... ڈاکٹر شاہ نواز صاحب لکھتے ہیں: "جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ مرض منتقل ہوا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔" (ریویو اگست ۱۹۲۶ء ص ۱۱)

نوٹ: چہ خوب شد دو شد۔ باپ تو مراقی تھا ہی بیٹا بھی مراقی نکلا۔

۸...... مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "میری بیوی کو بھی مراق کی بیماری ہے۔"

(اخبار الحکم مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

نوٹ: قیس جنگل میں اکیلا ہے۔ مجھے جانے دو۔ خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔

قارئین! غور فرمائیں کہ جس شخص کا دماغی توازن درست نہیں اور مرض مراق کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا اس کا کوئی قول بھی قابل التفات ہے؟ ہرگز نہیں۔

ایک دفعہ اپنے خلیفہ نور دین کو خط لکھتے ہیں۔ جس کا اقتباس بجنسہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:

۱...... "جس قدر ضعف دماغ کے عوارض میں یہ عاجز مبتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی عوارضہ ہو۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد

ہوں۔ آخر میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر امید اور دعا کرتا رہا۔ سو اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ضعف قلب تو اب بھی مجھے اس قدر ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔''

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۱۳ مورخہ ۲۲ فروری ۱۸۸۸ئ)

۲ ''دوا جس میں مروارید داخل ہیں۔ جو کسی قدر آپ لے گئے تھے۔ اس کے استعمال سے بفضلہ تعالیٰ مجھ کو بہت فائدہ ہوا۔ قوت باہ کو ایک عجیب ثمرہ یہ دوا پہنچاتی ہے اور مقوی معدہ ہے اور کاہلی اور سستی کو دور کرتی ہے اور کئی عوارض کو نافع ہے۔ آپ ضرور اس کو استعمال کر کے مجھ کو اطلاع دیویں۔ مجھے تو بہت ہی موافق آگئی ہے۔'' فالحمد للہ علیٰ ذالک''

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۱۲، خط نمبر ۹)

۳..... ''ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت (جماع) کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ (تیزی عضو مخصوصہ) بکلی جاتا رہتا تھا۔ (خیال رہے یہ ایک نبی کا مقدس کلام ہے) شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی وہ عارضہ بالکل جاتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا حرارت غریزی کو مفید ہے اور منی کو گاڑھا کرتی ہے۔ غرض میں نے تو اس میں آثار نمایاں پائے ہیں۔ واللہ اعلم اگر دوا موجود ہوتی اور آپ دودھ اور بالائی کے ساتھ کچھ زیادہ قدر شربت کر کے استعمال کریں تو میں خواہشمند ہوں کہ آپ کے بدن میں ان فوائد (تیزی عضو مخصوصہ) کی بشارت سنوں۔ کبھی کبھی دوا کی پچھلی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ جو کہ ہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ دوا ختم ہو چکی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زیادہ کھالی ہے۔ اس لئے ارادہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو دوبارہ تیار کی جائے۔ لیکن چونکہ گھر ایام امید ہونے کا کچھ گمان ہے۔ جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک وہ گمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو راست کرے اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چنداں ضرورت میں نہیں دیکھتا۔''

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۱۳، ۱۴ خط نمبر ۱۵)

الہامات مرزا

قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ ''وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ'' یعنی جو نبی بھیجا گیا وہ اپنی قوم کی زبان میں۔ ابتدائے آفرینش سے یہی دستور چلا آیا ہے کہ خدا کے نبی اپنی ہی مادری زبان میں خدا کا کلام لوگوں کو سناتے رہے اور کبھی کسی غیر قوم

کی زبان میں ان پر خدا کا الہام نہیں ہوا اور اس میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ملہم پر اس زبان میں وحی نازل ہوئی ہو۔ جس کو وہ خود نہ سمجھتا ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں: "یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالایطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا؟ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔" (چشمہ معرفت ص۲۰۹، خزائن ج۲۳ ص۲۱۸)

حضرات! اگر مرزا قادیانی کچھ ایسے عظیم العجائب تھے کہ ان پر عربی میں الہام ہوئے۔ فارسی میں ہوئے۔ عبرانی میں ہوئے، اردو میں ہوئے۔ حتیٰ کہ انگریزی میں ہوئے اور نہایت دلچسپ ہوئے اور نہ ہوئے تو ایک اپنی غریب مادری زبان پنجابی میں نہ ہوئے۔ دوسری جگہ خود لکھتے ہیں: "زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔"
(نزول المسیح ص۵۷، خزائن ج۱۸ ص۴۳۵)

اب ہم بطور نمونہ چند الہام درج کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی ان کو خود نہیں سمجھ سکے۔ دوسروں کو خاک سمجھائے۔

"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس میرے خدا اے میرے خدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود مشتبہ رہا ہے اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے ہیں۔" (البشریٰ ج اول ص۳۶)

"پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا۔ "ہو شعنا نعسا" یہ دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔" (براہین احمدیہ ص۵۵۶، خزائن ج۱ ص۶۶۳)

"پریشن، عمر براطوس یا پلاطوس۔ نوٹ آخری لفظ پڑاطوس ہے یا پلاطوس ہے۔ بباعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا اور نمبر۲ میں عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براطوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں؟ اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔" (مکتوبات احمدیہ ج۱ ص۶۸)

"پیٹ پھٹ گیا۔ دن کے وقت کا الہام ہے۔ معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔"

(البشریٰ ج۲ ص۱۱۰)

"خدا اس کو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا۔ معلوم نہیں کس کے حق میں یہ الہام ہے۔"

(البشریٰ ج۲ ص۱۱۰)

"بکر ہو گا کہ اور شادی کریں۔ معلوم نہیں کہ کس کی نسبت یہ الہام ہے۔"

(البشریٰ ج۲ ص۱۲۲)

"بعد ۱۱" انشاء اللہ اس کی تفہیم نہیں ہوئی کہ ۱۱ سے کیا مراد ہے؟ دن یا ۱۱ ہفتے یا کیا کسی حد سے ۱۱ کا بتایا گیا۔" (البشریٰ ج۲ ص۶۵، ۶۶)

"ختم ختم ختم" (البشریٰ ج۲ ص۵۰)

"ایک دم میں رخصت ہوا۔" (البشریٰ ج۲ ص۱۱۷)

"ایک دانہ کس کس نے کھایا۔" (البشریٰ ج۲ ص۱۰۷)

مرزا جی! یہ الہام تھا یا بجھارت تھی۔

"ربنا عاج" ہمارا رب عاجی ہے۔ عاجی کے معنی ہیں ہاتھی دانت یا گوبر۔ یعنی ربنا عاج کے معنی ہمارا رب ہاتھی دانت یا گوبر ہے۔ کیوں اب تو سمجھ گئے نا۔

"آسمان ایک مٹھی بھر رہ گیا۔" (البشریٰ ج۲ ص۱۳۹)

"خاکسار پیپرمنٹ" (البشریٰ ج۲ ص۹۳)

نوٹ: کیوں مرزا قادیانی خاکسار پیپرمنٹ یا امرت دھارا تھا۔

"کمترین کا بیڑا غرق ہو گیا۔" (البشریٰ ج۲ ص۱۲۱)

بیڑا غرق تو اسی دن ہو گیا تھا جب کہ محمدی بیگم کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی تھی۔

"ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔" (البشریٰ ج۲ ص۱۰۵)

اور مرے کہاں بہت پاک جگہ میں؟

ناظرین! آپ نے مندرجہ بالا الہام کا مطالعہ کر لیا۔ اب انگریزی الہام بھی ملاحظہ کریں۔ انگریزی دان حضرات ذرا توجہ سے پڑھیں اور مرزا قادیانی کی انگریزی دانی کی داد دیں۔

"I am quarrier" یعنی میں جھگڑنے والا ہوں۔

(براہین احمدیہ ص ۴۷۲ خزائن ج ۱ ص ۵۴۱)

نوٹ: یہ بات تو آپ کی اظہر من الشمس ہے۔

"I can what I will do." یعنی کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔

(براہین احمدیہ ص ۴۸۱ خزائن ج ۱ ص ۵۵۰)

نوٹ: کیسی اعلیٰ انگریزی ہے۔

The enough all men shall be angry, But God'
"Is with you. Words of God can not exchange. یعنی اگر
تمام آدمی ناراض ہوں گے۔ مگر خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔

(براہین احمدیہ ص ۵۵۴ خزائن ج ۱ ص ۶۶۸)

نوٹ: **"Words of God cannot exchange"** الہامی انگریزی کا نمونہ ہے۔ کیونکہ انگریزی محاورہ میں یہ استعمال نہیں ہوتا۔

نوٹ: مرزائی دوستو! مرزا قادیانی کو جس زبان میں الہام ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی اس زبان کو نہیں جانتے۔ بتاؤ۔ مرزا قادیانی پر یہ مثال صادق آتی ہے یا نہیں۔ ع

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم

نوٹ: بالفرض اگر مرزا قادیانی کا کوئی خواب یا الہام سچا بھی ثابت ہو گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ کیونکہ خواب تو بعض اوقات بازاری عورتوں کے بھی سچے ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵) پر خود فرماتے ہیں کہ: "میرا ذاتی تجربہ ہے کہ زانیہ اور قوم کنجری جن کا دن رات پیشہ زناکاری ہے۔ ان کو دیکھا گیا ہے کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں۔"

"میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔" (البشریٰ ج ۲ ص ۹۵)

کذبات مرزا

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "لعنۃ اللہ علی الکاذبین" یعنی جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جھوٹا آدمی کبھی بھی مقرب بارگاہ الٰہی نہیں ہو سکتا۔ اس

لے مرزا قادیانی بھی جھوٹ کی مذمت میں لکھتے ہیں:

۱...... "جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ معرفت ص۲۲۲، خزائن ج۲۳ ص۲۳۱)

۲...... "جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص۲۰، خزائن ج۱۷ ص۵۶)

۳...... "جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے۔ جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں۔" (الحکم مورخہ ۱۱ر صفر ۱۳۲۲ھ)

۴...... "جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔"

(تتمہ حقیقت الوحی ص۲۶، خزائن ج۲۲ ص۴۵۹)

۵...... "غلط بیانی اور بہتان طرازی نہایت ہی شریر اور بدذات آدمیوں کا کام ہے۔" (آریہ دھرم ص۱۱، خزائن ج۱۰ ص۱۳)

۶...... "نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں۔"

(مسیح ہندوستان میں ص۱۲، خزائن ج۱۵ ص۲۱)

ناظرین! اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ مرزا قادیانی کی خمیر میں داخل تھا اور وہ کتاب اور صفحہ کا حوالہ دے کر بھی جھوٹ بولتے تھے۔ جس سے ان کی جرأت اور دیدہ دلیری دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بتلایئے کیا جھوٹا آدمی نبی ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو انسانیت کے دائرہ سے باہر ہوتا ہے۔

پہلا جھوٹ: "بات یہ ہے کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبہ الٰہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ ومخاطبہ الٰہیہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں۔ وہ نبی کہلاتا ہے۔" (حقیقت الوحی ص۳۹۰، خزائن ج۲۲ ص۴۰۶)

نوٹ: مرزائی دوستو! خدارا مکتوبات کو ذرا غور سے مطالعہ کرو اور دیکھو کہ اس حوالہ میں نبی کا لفظ ہے؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں تو کیوں ایسے جھوٹے آدمی کے پیچھے لگے ہو۔ جو نبوت کے لئے محمد صاحب کی پیروی کے لئے کس افتراء سے کام لے رہا ہے۔

دوسرا جھوٹ: ''اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

نوٹ: اے مرزائیو! یہ قرآن شریف پر بہتان طرازی نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہمت ہے تو کوئی ایک آیت ایسی بتلاؤ۔ جس کا مطلب یہ ہو کہ مسیح کے وقت طاعون پڑے گی۔ ورنہ کم از کم دس مرزائی تو مسلمان ہو جاؤ۔

تیسرا جھوٹ: ''اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے۔ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص (مرزا قادیانی) کو تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

مرزائیو! پڑھو: ''انا للہ وانا الیہ راجعون'' اتنا بڑا جھوٹ کیا کوئی مرزائی بتائے گا کہ کون کون سے پیغمبر نے مرزا قادیانی کے درشن کی آشا کی تھی۔

چوتھا جھوٹ: ''اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔''

(تحفہ ندوہ ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۹۷)

نوٹ: ہے کوئی مرزا قادیانی کا چیلا جو ہمیں قرآن مجید سے کرشن قادیانی کا نام ابن مریم دکھا دے۔ ورنہ جھوٹے آدمی کو نبی کہنا چھوڑ دے۔ کیونکہ جھوٹا آدمی صحیح معنوں میں مؤمن نہیں ہو سکتا۔

پانچواں جھوٹ: ''تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔'' (ازالہ اوہام ص ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۱۴۰ حاشیہ)

نوٹ: اے مرزائیت کے علمبردارو! کیا آپ نے قرآن شریف میں قادیان کا نام تلاش کیا۔ اگر نہیں تو اب تلاش کر کے دکھاؤ اور اگر نہ ملے تو سب مل کر کہہ دو ''لعنۃ اللہ علی

الکاذبین"

چھٹا جھوٹ: "ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔" (البشریٰ ج ۲ ص ۱۰۵)

نوٹ: مرزائی دوستو! ایمان سے کہو کہ مرزا قادیانی کہاں مرے۔ کیا جھوٹ کسی جانور کا نام ہے؟

ساتواں جھوٹ: "میرے زمانہ میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائیں گی۔" (چشمہ معرفت ص ۲۱۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۱)

برعکس نتیجہ تمام ترقی کافور۔ بجائے اس کے کہ تمام دنیا کا مذہب اسلام ہو جاتا۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی کا بیج بو دیا۔ اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کی ترقی کے امکانات عرصہ دراز کے لئے ناپید کر دیئے۔

آٹھواں جھوٹ: "میں مدینہ منورہ میں دفن ہوں گا۔"

(ازالہ اوہام ص ۳۰۰، خزائن ج ۳ ص ۳۰۲)

دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی کی ہڈیاں قادیان میں دفن ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ کر آپ نے ڈینگ ماری تھی اور دیدہ دانستہ جھوٹ کہا تھا۔

نواں جھوٹ: "مرزا احمد بیگ کی بیٹی سے میرا نکاح آسمان پر ہو چکا ہے۔ دنیا میں اگر یہ بیٹی میرے پاس نہ آئے تو میں جھوٹا۔" (شہادت القرآن ص ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶)

خود مرزائی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو اس تمنا کو ساتھ ہی لے کر دنیا سے چل بسے اور پوری نہ ہوئی۔

دسواں جھوٹ: "عبداللہ آتھم ۱۵ ماہ میں ۵/ ستمبر ۱۸۹۴ء تک مر جائے گا۔"

(جنگ مقدس ص ۱۸۸، خزائن ج ۶ ص ۲۹۳)

یہ قول بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ثابت ہوا۔ کیونکہ مسٹر عبداللہ آتھم مورخہ ۲۷/ جولائی ۱۸۹۶ء کو بمقام فیروزپور فوت ہوئے۔

چنانچہ اس پیش گوئی کے نہ پورا ہونے کے بعد مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "جو کوئی پیشین گوئی آتھم کی تصدیق کر کے ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا۔ صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد

الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔" (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

"پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔"

(دیباچہ براہین احمدیہ حصہ ۵ ص ۷، خزائن ج ۲۱ ص ۹)

نوٹ: جھوٹ ظاہر ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

۴..... خلیفہ اول حکیم نورالدین صاحب فرماتے ہیں۔ "مالیخولیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔" (بیاض نورالدین حصہ اول ص ۲۱۱)

۵..... "میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود ان کے کہ دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا ہوں۔ تاہم آج کل کی مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔" (مکتوب منظور الٰہی ص ۳۲۸)

۶..... "میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آسمان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کی سی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے۔ خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا۔ اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔"

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۶، بروایت نمبر ۱۹)

۷..... "بابو الٰہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پاوے۔ مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے الہامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ بچہ بن گیا ہے۔" (تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۴۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

۸..... حکیم محمد حسین قریشی جو مرزا قادیانی کے خاص مریدوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی دوکان کو شہرت دینے کے لئے مرزا قادیانی کے "خطوط امام بنام غلام" شائع کئے

ہیں۔ جس میں سے صرف ایک خط شرابی قارئین کی دلچسپی کے لئے درج کرتے ہیں۔

”**بسم اللہ الرحمن الرحیم! نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!** مجی اخویم حکیم محمد حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خوردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن خود پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ مگر ٹانک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام مرزا غلام احمد عفی عنہ۔“

(خط نمبر ۱۲)

نوٹ: ٹانک وائن سے مراد ایک اعلیٰ درجہ کی ولائتی انگوری شراب ہے۔

عمر مرزا

یادش بخیر! مرزا آنجہانی رئیس قادیانی نے اپنی عمر کے متعلق چند پیشین گوئیاں کی تھیں۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک بھی صحیح ثابت نہ ہوئی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے مرزا قادیانی کے سارے کے سارے کچے چٹھے کا راز کھل جائے گا۔ فرماتے ہیں:

۱...... ”مجھے ایک عربی میں الہام ہوا کہ اے مرزا ہم تجھ کو اسی سال کی عمر دیں گے۔ یا اس کے قریب۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۳۵، خزائن ج ۳ ص ۴۴۳)

۲... ”خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان کاموں کے لئے تجھے اسی برس یا کچھ تھوڑا کم یا چند سال اسی برس سے زیادہ دوں گا۔ (عمر کی میعاد یہاں بھی زیر تجویز ہے۔ مصنف)“ (تریاق القلوب حاشیہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۵ ص ۲۵۲)

۳ ”خدا نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا ۵،۶ سال زیادہ یا ۵،۶ سال کم۔ (یہاں مرزا قادیانی سے چٹی پیلی نے تین وعدے کئے۔ مگر ایلا وعدہ سے گریز کیا اور آپ مفت میں رسوا ہوئے۔ مصنف)“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۹)

۴ ”میری عمر اسی برس یا اس سے ۵،۶ سال کم یا زیادہ ہوگی۔“

(حقیقت الوحی ص ۹۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰)

۵… ”تیس سال سے زیادہ عرصہ گذرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صریح لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر اسی سال یا دو چار برس اوپر یا نیچے ہوگی۔ (اوپر اور نیچے میں فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ مصنف)“ (منظور الٰہی ص ۲۲۸)

۶… ”سو اسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے خلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں ۸۰ برس یا ۲، ۳ برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۹، ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۸)

۷… ”اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ وہ تو ۷۴ اور ۸۶ کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔“ (براہین احمدیہ ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۹)

مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے مختلف وقتوں میں مختلف پیش گوئیاں کر کے بہتیری کوششیں کیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک پیشین گوئی کے مطابق عمر ختم ہو جائے۔ مگر سب کی سب کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور مرزا قادیانی عمر سے اپنی عمر کے چھیاسٹھویں (۶۶ ویں) دور میں چل بسے۔ (جہاں ازخس وخاشاک پاک شد۔ مصنف)

اب بھی کوئی بھائی اصرار کرے کہ مرزا قادیانی صحیح الدماغ انسان تھے تو ان کی تسلی کے لئے سپرد قلم ہے۔ فرماتے ہیں:

۱ ”میری پیدائش اس وقت ہوئی جب ہزار ششم سے گیارہ برس رہتے تھے۔“ (تحفہ گولڑویہ ص ۹۵ حاشیہ، خزائن ج ۱۷ ص ۲۵۲)

۲… ”اب چھٹا ہزار آدم کی پیدائش سے آخر پر ہے۔ جس میں خدا کے سلسلہ کو فتح ہوگی اور روشنی تاریکی کو نگل لے یہ آخری جنگ ہے۔“

(مقدمہ چشمہ مسیحی ص ب، خزائن ج ۲۰ ص ۳۴۶، مورخہ یکم دسمبر ۱۹۰۶ء)

۳… ”موت مرزا، مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء مطابق ۱۳۲۶ھ“

۴… ”ہمارا زمانہ (۱۳۲۰ھ) حضرت آدم علیہ السلام سے ہزار ششم میں واقع ہے۔“ (تحفہ گولڑویہ ص ۹۱، خزائن ج ۱۷ ص ۲۴۵)

۵... ''میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اس دور کے خاتم ہیں اور اگلے دور کے آدم بھی آپ ہی ہیں۔ کیونکہ پہلا دور سات ہزار سال کا آپ پر ختم ہوا اور اگلا دور آپ سے شروع ہوا۔'' (ضمیمہ اخبار الفضل مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۲۸ء)

مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی ہزار ششم سے گیارہ سال رہتے تھے کہ پیدا ہوئے اور ۱۳۲۳ھ تک ہزار ششم ختم نہیں ہوا۔ ۱۳۲۶ھ میں آپ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ۱۳۲۶ھ میں ہزار ششم ختم ہو گیا تو بھی مرزا قادیانی کی عمر زیادہ سے زیادہ ۱۱ سال ختم ہوتی ہے۔ ورنہ اس سے بھی کم۔ اب بھی اگر کوئی سر پھرا مرزا قادیانی کے مراقی ہونے میں شک وشبہ کی گنجائش رکھے تو ہمارے خیال میں وہ خود بھی اس مرض میں مبتلا ہوگا۔ اب مرزائیوں کے لئے دو ہی راستے ہیں یا تو مرزا قادیانی کی عمر ۱ سال تسلیم کر لیں یا ان کے مراقی ہونے کی صورت میں دعویٰ نبوت سے انکار کر دیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود فرما گئے ہیں کہ جب میری عمر ۴۰ برس کو پہنچی تو خدا نے مجھے مامور ومبعوث کیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ مسیح موعود ہزار ششم میں مامور ومبعوث ہوں گے تو اس حساب سے آپ بجائے ہزار ششم کے ہزار ہفتم میں مبعوث ہوئے۔ لہٰذا دعویٰ نبوت غلط ورنہ یہ عمر ماننا پڑے گا۔

ناظرین! ذرا ایک قدم آگے بڑھئے تو یہ حل بالکل واضح ہو جائے گی کہ بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ! مرزا قادیانی کی اپنی عمر ان کے اپنے حساب کے مطابق ۱۱ سال ہوتی ہے۔ مگر میاں بشیر الدین محمود نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہزار ہفتم کا دور ختم کر کے ہزار ششم میں جا نکلے اور خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ہزار ششم سے ۱۱ سال رہتے پیدا ہوا تو اس حساب سے آپ کی عمر ہزار ششم کے ۱۱ سال لے کر اور ہزار ہفتم کا پورا دور شمار کر کے ۱۰۱۱ سال ہوتی ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے ہزار ہفتم کے چند سال بھی اور لے لئے جاویں تو ۱۰۱۱ سے اوپر ہو جاتی ہے۔ ہمیں مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے بیٹے کے مراقی ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ملتی اور نہ ہی ان بھول بھلیوں کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہو سکتا ہے۔ اب ہم فیصلہ مرزائی دوستوں پر چھوڑتے ہیں کہ باپ اور بیٹا میں سے کون سچا تھا۔

فسخ بیعت

خلیفہ قادیان

جناب محمد صادق قریشی قادیانی

نظریہ

ایک مذہبی جماعت کا امام جو اپنے آپ کو خصوصیت سے مقدس اصطلاحوں سے بریکٹ کرتا ہے۔ پھر فضل عمر ہونے کے علاوہ سینکڑوں محدثین سے بڑھ کر بھی اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کی یہ یاوہ گوئی کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ سراسر دھوکہ اور لاف زنی ہے۔ جگہ کی قلت کے پیش نظر مختصر دو مثالیں پیش خدمت ہیں۔ تاکہ اس کی دعاؤں کی حقیقت اور مقبولیت کا اندازہ بآسانی لگا سکیں۔ یہ کہ اس کی بدعادات واطوار جیسے قبیح فعل کے سیاہ اور بدنما داغ کی وجہ سے اس کی چہیتی بیوی اور بیٹی کا کیا انجام ہوا اور پھر اپنی ہی وحی مقدس کتاب (تذکرہ ص۸۸ طبع ۳) پر درج ہے۔

”کلب یموت علی کلب“ (یعنی وہ کتا اور کتے کی موت مرے گا) کا الہام پورا ہونا لازمی امر تھا۔ پوری تفصیل کے لئے (ملک عزیز الرحمن صاحب) حقیقت پسند پارٹی مدن والا کرشن نگر لاہور سے رسائل حاصل کریں۔

۱..... اس کی ایک بیوی جس کا نام مریم ہے۔ ہمشیرہ ولی اللہ شاہ جو اپنے طرز طریق سے حسین وجمیل تھی۔ آتشک جیسی مرض میں مبتلا رہی اور اس کا تمام بدن گل سڑ گیا۔ تمام ظاہری کوششوں کے باوجود فوت ہو گئی۔ جنازے کے وقت بھی بدبو اور تعفن تھا۔ خدا کی پناہ اس بدبو کو دور کرنے کے لئے قیمتی سے قیمتی عطر استعمال میں لایا گیا۔ لیکن یہ عطر بھی اس بدبو کو مستتر نہ کر سکا۔

۲...... پھر جو زنا کے الزام میں ملوث ہو جس کا چلن سوائے غلاظتوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہو اور مذہب کا مقدس لبادہ کی آڑ میں بدنام کیا ہو۔ پھر ایک طویل عرصہ فالج کا شکار رہا ہو۔ ڈاکٹر ڈوئی سے بھی بدتر حالت میں موت واقع ہوئی۔ اس عبرتناک انجام سے ہر احمدی بخوبی واقف ہے۔

”فاعتبروا یا اولی الابصار“

جماعت احمدیہ خالصتاً ایک غیر سیاسی جماعت ہے اور اس نے حکومت کے صوبائی مرکزی ادوار میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی اور نہ کسی سیاسی معاملے میں دخل دیا ہے۔ انشاء اللہ یہ اصول جماعت کا جزو ایمان ہے کہ ہر قائم شدہ حکومت کے ساتھ صرف وفاداری کی جائے۔

بلکہ "تعاونوا علی البر والتقویٰ" کے قرآنی اصول کے مطابق اس کی حمایت کی جائے۔ جماعت کے اس اصول سے تمام دنیا واقف ہے اور گواہ ہے کہ جماعت ہمیشہ اس کی پابند رہی ہے۔ (الفضل مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۷ء)

مندرجہ بالا حوالہ کی روشنی میں کو بغور ملاحظہ کریں۔ کیا یہ مذہبی جماعت کا کردار ہے۔ بہر حال نئی نسل کے عوام اور موجودہ حکومت کی انتظامیہ کے لئے خصوصیت سے قابل غور ہے۔ تاکہ ان کی خفیہ سرگرمیاں اور ریشہ دوانیاں اور خطرناک ارادے سے روشناس ہو سکے۔ جسے مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ روشنی ڈالی جائے گی۔

طالب دعا: محمد مظہر الدین ملتانی
معرفت پوسٹ بکس ۱۰۳۸ لاہور

نقل چٹھی متعلق فسخ بیعت بنام خلیفہ قادیان مورخہ ۲۳ر اگست ۱۹۳۷ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

بخدمت جناب مرزا محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح قادیان   السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

چونکہ میں نے آپ کی بیعت محض دینی اغراض کی وجہ سے کی تھی اور اس لئے میں آپ کا مرید بن گیا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہونے کی وجہ سے سلسلہ احمدیہ کی خدمت کرتے ہیں اور سلسلہ کی عزت وناموس ہر وقت آپ کو مدنظر ہے اور کہ آپ عادل صداقت پسند اور غریب اور امیر کو آپ ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شمولیت حاصل کی ہے اور حضرت مسیح موعود کی نبوت پر ایمان لا کر تن من دھن نثار کر دیا ہے۔ آپ ان کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح کہ میں دل میں گمان کرتا تھا۔ میرا ذاتی تجربہ شاہد ہے کہ آپ میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔ بلکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا معاملہ ہے۔ عملی طور پر آپ ان صفات سے بے بہرہ ہیں اور آپ کا عمل ان کے منافی۔ آپ سلسلہ عالیہ احمدیہ اور اس کے پاک بانی کے ناموس کو بٹہ لگا رہے ہیں۔ غریبوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ شریفوں کو ذلیل کرتے رہے ہیں اور لڑکیوں کو سیاہ وسفید کا مالک بنا کر یا ان کے ساتھ ناشائستہ رعایت کر کے

در پردہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی شرافت اور صداقت کو چھوڑ کر ان کا سا رویہ اختیار کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بناء پر میں آپ کی بیعت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تاکہ آپ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ میں نے بہانہ بنالیا ہے۔ میں ذیل میں آپ کی بے انصافی آپ کے قابل اعتراض رویہ آپ کی دروغگوئی اور آپ کے در پردہ دشمنان سلسلہ احمدیہ و دشمنان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امداد دینے کی چند مثالیں نمونہ کے طور پر درج کرتا ہوں۔

۱۔۔۔۔۔ آپ نے سپرنٹنڈنٹ صاحب دفاتر کو کہہ کر مجھ سے صدر انجمن احمدیہ میں ریکارڈ کیپر نظارت امور عامہ کی آسامی کے لئے درخواست دلوائی۔ لیکن بجائے براہ راست مجھے اس آسامی پر لگانے کے مجھے نیشنل لیگ کا پریذیڈنٹ مقرر کر دیا۔ جو کہ ایک موہوم اور فرضی آسامی تھی اور پھر یہی ظاہر کرتے رہے کہ گویا میں امور عامہ کا ملازم ہوں۔ یہ آپ کی صریح دھوکہ بازی تھی۔

۲۔ چوہدری فتح محمد صاحب سیال نے آپ کے ایماء سے مجھے احراریوں پر جب کہ وہ شروع شروع میں قبرستان و عیدگاہ کے متعلق جھگڑنے لگے تھے۔ تو علانیہ حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ جو کہ بالکل ایک غیر شرعی فعل تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ چوہدری صاحب موصوف نے ایسی ترغیب مجھے دی تھی۔ لیکن مجھے اس کے لئے آمادہ نہ پا کر مزید زور نہ دیا۔ اس وقت میں یہ اس کی ذاتی حماقت سمجھتا تھا۔ لیکن آپ کے باقی حالات اور خیالات کا اندازہ کر کے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ چوہدری صاحب آپ کے مشورہ یا ایماء کے بغیر اس قدر دلیرانہ قدم اٹھاتے۔

۳۔۔۔۔۔ لاہور میں مجھے سیکرٹری آل انڈیا نیشنل لیگ مقرر کر کے بھیجتے وقت آپ نے جو احکام دیئے تھے۔ ان میں سے خاص کر ایک حکم قابل اظہار ہے۔ آپ نے ایک ہزار روپیہ خفیہ کام کے لئے دیا تھا کہ یہ شیخ بشیر احمد کے حوالہ کر دو اور اس کو کہہ دو کہ اس میں سے مبلغ یکصد روپیہ فی الفور اختر علی آف زمیندار کے سپرد کر دیں اور بعد میں ان کو جس قدر رقم کی ضرورت ہو دے دیا کریں۔ اختر علی اور ان کا باپ سلسلہ اور مسیح موعود علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ حضور علیہ السلام (مرزا قادیانی) کو نعوذ باللہ دجال، عیاش، شراب خور وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے پروپیگنڈا کے لئے مومنوں سے وصول کردہ چندہ میں سے زر خطیر

عنایت کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایمانی غیرت اور موعودانہ شان اللہ بچاوے۔

۳. . آپ ہمیشہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں دروغ گوئی اور منافقت سے کام لیا ہے۔ حالانکہ آپ کا رویہ گورنمنٹ کے خلاف باغیانہ ہے اور آپ ہمیشہ سے گورنمنٹ کو دغا کے پردے میں نقصان پہنچانے کے لئے کوشاں رہے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جو خود میرے مشاہدہ میں آ گئی ہیں۔

الف. . نیشنل لیگ کا اجراء بھی آپ نے اس لئے کرایا ہے کہ تا کہ آپ اس طرح گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا موثر طریق سے کر سکیں۔ میں نے جب سب سے پہلے قادیان میں نیشنل لیگ کا چارج لیا تھا تو آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ نیشنل لیگ کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں گے۔ لیکن سب سے پہلا جلسہ جو میں نے کیا اس میں ریزولیشنز پاس کرانے کے لئے آپ ہی نے یحیٰی خان کے ہاتھ بھجوائے جو کہ میں نقل کروا کر اصل کاپی آپ کی ہدایت کے مطابق واپس لے گئے۔ کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ کسی طرح یہ راز افشاء نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی نیشنل لیگ کی باگ ڈور آپ کے ہی ہاتھ رہی۔ نہ پریذیڈنٹ، نہ سیکرٹری کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ آپ جملہ معاملات میں ڈکٹیٹری سے کام لیتے رہے۔

ب. . . جب لاہور میں گولی چلی تو جماعت نے احراریوں کے ساتھ گورنمنٹ کے خلاف بھی سخت پروپیگنڈا شروع کیا۔ چنانچہ بیسیوں اشتہار لکھوائے گئے۔ جن پر غیر احمدیوں کے دستخط کرا کر اور ان کو اس کا معاوضہ دے کر تمام ہندوستان میں شائع کیا جاتا رہا۔ یہ کام آپ گورنمنٹ کے لئے سیاسی مشکلات پیدا کرنے کی غرض سے کر رہے تھے۔ ورنہ جن لوگوں کی طرف سے اشتہارات شائع کروائے جاتے رہے۔ وہ سلسلہ کے جانی دشمن ہوتے تھے۔

ج. . . سید ولی اللہ شاہ صاحب نے لاہور میں گولی چلنے کے متعلق خلاف واقعہ جھوٹے مضمون لکھ کر خفیہ طور پر میرے ذریعے سے شائع کرائے۔ جن میں گورنمنٹ کے خلاف اکسایا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کو آپ ہی نے اس کام کے لئے مامور کیا ہوا تھا۔

د. . . سید ولی اللہ شاہ صاحب نے میرے سامنے سید حبیب آف سیاست کے بھائی سید عنایت شاہ کو اخبار کی پالیسی خریدنے کے لئے مبلغ ایک سو روپے کا نوٹ پیشگی دیا تھا۔ حالانکہ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ سیاست نے کئی بار احمدیت کے خلاف شرمناک طور پر قدم اٹھایا۔

✿

سیاست کی پالیسی اسی میں سے خریدی گئی تھی کہ وہ گورنمنٹ کے لئے شہید گنج کے واقعہ کے موقع پر مشکلات پیدا کرے۔ سید حبیب سیاسی قیدی تھا۔ گورنمنٹ کا مجرم تھا۔ آپ نے اس کی اعانت کر کے گویا گورنمنٹ کے خلاف باغیانہ قدم اٹھایا۔

۵۔۔۔ شہید گنج کے موقع پر ایک طرف تو آپ کے نمائندے نامعلوم شخص پبلک کو گورنمنٹ اور احراریوں کے خلاف جوش دلاتے رہے اور دوسری طرف شیخ بشیر احمد صاحب زر کثیر خرچ کر کے کانگریسی لیڈروں اور اخبار نویسوں کو اپنے مکان پر مدعو کر کے پروپیگنڈا میں شامل کرتے رہے۔ یہ روپیہ غریب مومنوں اور مفلسوں کا خرچ ہوا اور فائدہ کانگریس کو ہوا۔ آپ کے نمائندوں کو الو بنا کر جواہر لعل نہرو کا استقبال کرایا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خدا نے آپ کو اس شرمناک فعل کا کیسا بدلہ دیا۔

۶۔۔۔ محتسبی کے زمانہ میں مثلیں دیکھنے سے یہ امر بھی پوری طرح کھل گیا کہ آپ دکھاوے کے طور پر اس طرح کہتے ہیں کہ جماعت میں کسی ایسے معاملے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جس کی قانون اجازت نہ دیتا ہو۔ مسماۃ آمنہ بنت سنت سنگھ خاکروب نو مسلم کے ساتھ جن دو آدمیوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کی تحقیقات سابق محتسب شیخ محمود احمد صاحب عرفانی سے کرائی گئی۔ انہوں نے تحقیقات کے بعد رپورٹ میں یہ وضاحت سے بیان کیا کہ ان دو آدمیوں نے بھی اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے پیشتر فلاں فلاں نے اس کے ساتھ ایسا فعل کیا ہے۔ آپ نے ناظر صاحب امور عامہ کو حکم دے کر کہا کہ اس رپورٹ کو دوبارہ لکھوایا جاوے اور اس میں سے زنا کا لفظ کاٹ کر یہ لکھ دیا جاوے کہ فلاں فلاں کو لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا ہے۔ اس وقت محتسب میں تھا جب ناظر نے مجھے آپ کا حکم سنا دیا تو میں نے کہا جب مثل میں زنا کا لفظ بار بار آتا ہے تو محض رپورٹ سے اسے نکالنے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ مثل کو ہم تلف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اغوا، چوری، خودکشی کی کوشش وغیرہ کے مقدمات میں امور عامہ میں فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ جن کی تفصیل وقت پر بتائی جا سکے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوئی۔

۷۔۔ جب احرار نے مباہلہ کا چیلنج دیا تھا۔ اس وقت آل انڈیا نیشنل لیگ کو آپ کا حکم ملا تھا کہ قرب و جوار کی جماعتوں کو آدمی بھیجے جاویں اور ان کو تاکید کر دیں کہ فلاں مضمون کا اعلان جب الفضل میں نکلے تو تم فوراً قادیان میں خود بخود آ جاؤ۔ تاکہ گورنمنٹ یہ نہ سمجھ سکے کہ مرکز

نے ان کو بلوایا ہے۔

ج... جب میں آل انڈیا نیشنل لیگ کا سیکرٹری تھا تو مجھے سرحد میں بھیجا گیا کہ ایک تو میں پیغام مندرجہ (ز) ان کو سنا دوں تو دوسرے یہ اگر ممکن ہو سکے تو افغان جرگہ اور سرخ پوشوں سے ساتھ نیشنل لیگ کا اتفاق کرا دوں اور ظاہر ہے کہ یہ جماعتیں گورنمنٹ کے خلاف تھیں۔ افغان جرگہ مخفی طور پر اور سرخ پوش اعلانیہ۔

ھ... جب میں قادیان میں آیا تھا تو میں نے آپ کے اخلاق اور آپ کی بیویوں، لڑکیوں اور لڑکوں اور میاں شریف احمد صاحب اور میاں بشیر احمد صاحب اور ان کے لڑکوں کے اخلاق کے متعلق بہت سی باتیں سنی تھیں۔ لیکن خوش اعتقادی کی وجہ سے میں یقین نہیں کرتا تھا۔ آخر جب میں قادیان آیا تو سب سے پہلے غائب سے ان کے متعلق تحقیق کرنے کی تحریک میرے دل میں ڈالی گئی تو پھر جب میں محتسب ہوا تو آفیشل طور پر بھی میں نے تحقیق کی اور جو جو معلومات مجھے اس بارہ میں ہوئیں۔ وہ میں نے کچھ تو نظارت کی معرفت اور کچھ براہ راست تحریری طور پر آپ کو بھیج دیں۔ مگر آپ نے پرسش تک بھی ان کی پرواہ نہ کی۔ ان معلومات میں سے بعض کا ذکر میں ذیل میں مجمل طور پر کرتا ہوں۔ کیونکہ مفصل طور پر میں رپورٹ کر چکا ہوں اور بعض کی رپورٹ کا موقع نہیں ملا۔

الف... آپ منڈے بازی کرتے ہیں۔

ب... آپ محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔

ج... آپ اپنی بیویوں اور لڑکیوں کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زنا کریں۔ گویا آپ نے ایک حسن بن صباحی باطنی فرقہ بنایا ہوا ہے۔

د... آپ شراب پیتے ہیں۔

ہ... زنا کر کے آپ بغیر نہائے اور وضو کے بغیر نماز پڑھاتے ہیں۔

و... آپ کا لڑکا مبارک زنا کرتا ہے۔ شراب پیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا۔

ز... میاں بشیر احمد صاحب منڈے بازی کرتے ہیں۔

ح... میاں بشیر احمد کے لڑکے منڈے بازی کرتے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے۔

ط... میاں شریف احمد منڈے بازی کرتے ہیں۔ نماز بہت کم پڑھتے ہیں۔

ی... میں نے ایک رپورٹ میں ثابت کر دیا تھا کہ آپ کی بیوی عزیزہ کا شیخ بشیر احمد کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نے نہ کوئی گواہ کو سزا دی اور نہ ہی اپنی بیوی کو اور نہ ہی شیخ بشیر احمد

کے

صاحب کی معافات بدستور ہیں۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

ک... میں نے رپورٹ میں یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ آپ کی لڑکیوں امۃ الحکیم اور امۃ الرشید کا ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نے شہادت بھی لی۔ لیکن طرفین میں سے کسی کو بھی سزا نہ دی۔ ان تمام واقعات کے میرے پاس مکمل ثبوت ہیں۔ جن کو بروقت پیش کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

۲... آپ نے میاں مولا بخش صاحب کی زمین متصل ڈاکخانہ غاصبانہ طریق سے چھین لی۔ اگرچہ اس میں میاں بشیر احمد کو آگے کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ کی منظوری، اجازت یا علم کے بغیر یہ ناجائز کام کیا گیا ہو۔

الف... آپ نے مولوی فخرالدین صاحب ملتانی کے معاملہ میں پبلک کو زبردست دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً اپنے چند آدمی کھڑے کر کے ان کو حلف دلائی کہ بتائیں کہ آیا ان کو فخرالدین کی نگرانی کے لئے کہا گیا تھا یا کہ نہیں۔ آپ نے خود کیوں نہ قسم کھائی کہ میں نے کسی کو بھی ان کا جاسوس مقرر نہیں کیا تھا یا نہیں کرایا تھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں میاں شریف احمد کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس وقت سے دفتر خاص سے قاضی اکمل صاحب، مولوی فخرالدین صاحب، مرحوم مصباح الدین صاحب اور حضرت مولانا مولوی عبدالرحمن صاحب مصری ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے متعلق آپ کے پاس خفیہ رپورٹیں تیار ہو کر بھیجی جاتی تھیں اور یہ سلسلہ اب تک منقطع نہیں ہوا۔

ب... جب کہ آپ ڈاکٹر احسان علی کے رویہ کو اس کے بھائی کے چوری کرنے کے معاملہ میں بری نظر سے دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو بقول آپ کے اس سے دوائی منگوانے سے بھی روکا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میاں بشیر احمد صاحب آپ کی اجازت اور مشورہ کے بغیر اس کو رقم برائے مقدمہ قرض دیتے اور اسی مقدمہ کی خاطر سید منظور علی شاہ صاحب کے لئے رخصت حاصل کرتے۔

ج... آپ نے سید منظور علی شاہ صاحب کی رخصت کے بارہ میں تو ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول اور خود سید منظور علی شاہ صاحب کو قسم دلائی۔ میاں بشیر احمد کو جنہوں نے رخصت دلائی تھی۔ قسم کھانے کا حکم کیوں نہ دیا۔ تا کہ اس کے بعد اگر آپ سچے ہوتے تو کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہ رہتی۔

د... محمد اسحاق صاحب سیالکوٹی نے مجمع عام میں میر صاحب کا قسمیہ بیان غلط

ثابت کر دیا تھا اور آپ کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ نیّر صاحب نے یہ جھوٹ لکھا ہے کہ کمیشن کے دنوں میں انہوں نے ان کو پٹرول کا ٹھیکہ دینے کے متعلق ایک حرف بھی کہا ہو۔ اس سے دو باتوں کا ثبوت مل گیا ہے کہ نیّر صاحب سے یہ بیان جبراً لکھوایا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ واقعی آپ نے ڈاکٹر احسان علی کو پٹرول کا ٹھیکہ دلوایا تھا۔

ہ۔۔۔ آپ نے مجمع عام میں بیان کیا تھا کہ نیّر صاحب کو کہا گیا تھا کہ کسی طرح ڈاکٹر احسان علی سے ٹھیکہ لے کر کسی اور کو دے دیا جائے اور نیّر صاحب کے حلفیہ تحریری بیان میں لکھا تھا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ ڈاکٹر احسان علی کے علاوہ کسی اور کو بھی ٹھیکہ دے دیا جاوے تاکہ وقت پر کام مکمل ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ ان دونوں بیانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

و۔۔۔ اور آپ نے مجمع عام میں بیان کیا تھا کہ عبدالرحمان بہادر احسان علی کے متعلق جب بدظنی پھیلنے لگی تو میں نے کئی بار اس کو باغ میں آنے سے روکا تھا۔ لیکن وہ نہ رکتا تھا۔ یہ کیسا راز ہے۔ ایک طرف تو یہ حال کہ آپ کے کہنے سے "جی حضوریئے" دن کو رات اور رات کو دن کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک شخص جس کے متعلق گمان ہے کہ اس کا تعلق آپ کی لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ وہ بار بار کہنے سے بھی منع نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ اس کو انور صاحب (انچارج تحریک جدید) کے ذریعے منع کرواتے ہیں۔ کیا انور صاحب کا حکم آپ کے حکم سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو دال میں کالا کالا ضرور ہے۔

ز...... محمد حسین بی کام کی شہادت بیان میں تو پڑھی۔ مگر الفضل میں شائع نہ کرائی۔

ح۔.... آپ نے ویسے اس بیان کو الفضل میں شائع ہونے سے اس لئے روکا تاکہ لوگوں کے ذہن سے تفصیلات نکل جائیں اور آپ اس میں سے وہ باتیں نکال دیں جن میں آپ پر الزام آتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

محمد اسحاق صاحب سیالکوٹی نے نیّر صاحب کی دستخطی ثابت کی تھی۔ وہ الفضل میں حذف کرا دی گئی۔ اسی طرح اس واقعہ کے متعلق نیّر صاحب کے حلفیہ بیان میں جو اظہار تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ ان واقعات کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں۔ جن کو فی الحال میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ وقت پر ظاہر کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

الغرض آپ نے حضرت مسیح موعود کی قائم کی ہوئی جماعت کو دنیاوی اور روحانی طور پر بے حد نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو آسمان پر کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ان حالات

میں آپ کی بیعت میں رہنا اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا میں آپ کی بیعت سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے جملہ دعاوی پر میرا ایمان ہے۔ خلافت کا بھی قائل ہوں۔ لیکن آپ کی ذات کو جماعت احمدیہ کے لئے مضر سمجھ کر میں آپ کی بیعت سے علیحدہ ہوتا ہوں۔

خاکسار قریشی محمد صادق، شمیم بی۔اے، سابق محتسب و پریذیڈنٹ مشعل ٹیم قادیان، سیکرٹری آل انڈیا یوتھ لیگ، لاہور مورخہ ۱۳/اگست ۱۹۳۷ء

نئی پود کے لئے مشعل راہ

عصمت کی تجارت ہوتی ہے تہذیب کے قحبہ خانوں میں
ناموس کے سودے چکتے ہیں تقدیس کے بادہ خانوں میں

(ایک مخلص احمدی شاعر کے قلم سے)

یہ تمام سابقہ لٹریچر کا اعادہ اس لئے کیا جا رہا ہے۔ تا آئندہ آنے والی نسلیں مرزا محمود کا بحیثیت خلیفہ تجزیہ کر سکیں۔ وہ کس قماش کا انسان تھا۔ خاص و عام کے تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ نئی نسل کے ذہن میں یہ خیال خام ہے کہ موجودہ پیشوا ایسے ویسے ہیں اور مرزا محمود نہایت پاکباز و متقی تھا۔ تمام مواد کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے۔ صرف نئی پود کی رہنمائی کے لئے سابقہ ریکارڈ خدمت کے بے لوث جذبے کے ساتھ وقتاً فوقتاً منظر عام پر لانے کی سعی کرتا رہوں گا۔ (بشرط زندگی) تاکہ مرزا محمود کی حیات قدسیہ کے گوشے زیادہ وضاحت سے نئی پود کے سامنے آ جائیں کہ اس نے اپنے بد عمل سے مذہب کو کس طرح بازیچہ اطفال بنایا اور مذہب کے مقدس لبادہ کی آڑ میں انسانیت کی قدروں کو کس طرح مسخ کیا۔ وغیرہ وغیرہ!

الغرض اس تحقیقی لٹریچر سے استفادہ کرنا نئی نسل کا کام ہے۔ مجھے تو اس کی ذہنی تربیت انسان کی ہمدردی کی خاطر مقصود ہے۔

بہرکیف اس کی ابتداء مکرمی جناب قریشی محمد صادق شمیم بی۔اے کے چند صفحات کی سطروں سے کر رہا ہوں۔ جس کو ستمبر ۱۹۳۷ء میں رفاہ عام کے لئے سیکرٹری صاحب انجمن انصار احمدیہ قادیان (ضلع گورداسپور) نے شائع فرمایا تھا۔ بعد ازاں حضرت مولانا مولوی فخر الدین ملتانی شہید کو: بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ شائع ہو جائے گا۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ خدمت کا بدستور جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نئی پود کے لئے موجب ہدایت اور مفید نتائج پیدا کرے۔

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

ختم نبوت

ازروئے آیات قرآنی
واحادیث رسول حقانی
واقوال مرزا قادیانی

مولانا نور گھر جاکی

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم!

الحمد للّٰہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ من لا نبی بعدہ!

۱ ...... ”یابنی اٰدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم اٰیتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (اعراف:۳۵)“

۲ ...... ”واذ اخذ ربک من بنی اٰدم من ظہورہم ذریتہم... جمعہم... ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق... واشہد علیکم اباکم اٰدم ان تقولوا یوم القیٰمۃ لم نعلم بہذا... انی سارسل الیکم رسلی... وانزل علیکم کتبی... ورفع علیہم اٰدم علیہ السلام ینظر الیہم... وراٰی الانبیاء فیہم مثل السرج (مشکوٰۃ ص ۲۴، باب الایمان بالقدر)“

سرج الانام الانبیاء ولم یکن
منہم کبدر التم غیر محمد

”قال ادم من ہذا یارب قال ہو اٰخر النبیین من ذریتک (شفاء)“

۳ ...... ”ولقد ارسلنا نوحا وابرٰہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتٰب (حدید:۲۶)“

۴ ...... ”ووہبنا لہ اسحٰق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتٰب (عنکبوت:۲۷)“

۵ ...... ”ولقد اٰتینا موسی الکتٰب وقفینا من بعدہ بالرسل (بقرہ:۸۷)“

۶ ...... ”ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد (صف:۶)“

۷ ...... ”ہذا کوکب احمد قد طلع ہذا کوکب لا یطلع الا بالنبوۃ ولم یبق من الانبیاء الا احمد (دلائل النبوۃ ص ۷۱، کنز العمال)“

۸ ...... حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس دو ورق تھے۔ ان میں لکھا تھا ”محمد رسول اللّٰہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ“

(ابو نعیم، در منثور ج ۳ ص ۱۲۲)

ختم نبوت از روئے قرآن کریم

پہلی آیت

۱...... "الحمد للہ رب العلمین" "سب تعریف ہے اس کے لئے جو تمام دنیا کا رب واحد ہے۔ یعنی پرورش کرنے والا ہے۔ بلا استثناء تمام مخلوقات کا رب ہے۔ کوئی فرد بھی باہر نہیں۔

دوسری آیت

۲...... "وما ھو الا ذکر للعلمین (القلم:۵۲)" "قرآن مجید تمام دنیا کے لئے ہدایت ہے۔ کسی ملک یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ سب کے لئے اس نے اپنے دروازوں کو کھول دیا۔

تیسری آیت

۳...... "ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وھدی للعلمین (العمران:۹۶)"

مکہ شریف تمام دنیا کے لئے قیامت تک ہے۔ دنیا کا ایک فرد بھی اس سے باہر نہیں۔

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا
ازل سے مشیت نے تھا اس کو تاکا
کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدیٰ کا

چوتھی آیت

۴...... "وما ارسلناک الا رحمۃ للعلمین (الانبیاء:۱۰۷)"

جس طرح سب جہان کا خدا ایک ہے .... رب العلمین!
قرآن سب دنیا کے لئے ایک ہے تا قیامت .... ذکر للعلمین!
قبلہ ایک ہے تمام دنیا کے لئے تا قیامت .... ھدی للعلمین!
نبی ایک ہے تمام دنیا کے لئے تا قیامت .... رحمۃ للعلمین!

۵...... حضرت خود محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: "یا ایھا الناس ان ربکم واحد وابائکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی (کنز العمال ج۳ ص۹۳،

روایت نمبر ۵۵۰۵) "کہ اے میری امت کے لوگو! یاد رکھو تمہارا خدا ایک ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے۔ تمہارا دین ایک ہے۔ تمہارا نبی بھی ایک ہی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

۶... حضرت عمرؓ نے فرمایا: "کیف تختلف ہذہ الامۃ وکتابہا واحد ونبیہا واحد وقبلتہا واحدۃ (کنزالعمال ج۱ ص۳۹۸)" کہ یہ امت کس طرح مختلف ہو سکتی ہے۔ جب کہ ان کی کتاب ایک ہے اور نبی بھی ایک ہی ہے اور قبلہ بھی ایک ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ جب دوسرا نبی آ جائے تو امت بھی اور ہو جاتی ہے۔ پہلے نبی کی امت نہیں رہتی۔ دوسرا نبی ماننا باعث اختلاف ہے۔

پانچویں آیت

۷... "قل یایہا الناس انی رسول اللّٰہ الیکم جمیعاً (اعراف:۱۵۸)"
یعنی ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ میں نہ ایک دو کے لئے نہ کسی قوم قوم کے لئے ہوں نہ ہی کسی خاص ملک کے لئے بلکہ دنیا کے ہر گوشے کے لئے اور ہر زمانے کے لئے مبعوث ہو کر آیا ہوں۔

۸... رسول خدا ﷺ نے خود تشریح فرمادی ہے: "انا رسول من ادرکت حیاً ومن یولد بعدی (کنزالعمال ج۱۱ ص۴۰۴، حدیث نمبر ۳۱۸۸۵)" کہ میں ان تمام لوگوں کے لئے رسول ہوں۔ جن کو اپنی زندگی میں پاؤں اور ان کے لئے بھی میں ہی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔

۹... ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ "یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ صرف ایک قوم کے لئے۔" (چشمہ معرفت ص۱۸، خزائن ج۲۳ ص۱۸)

چھٹی آیت

۱۰... "الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی (مائدہ:۳)"
مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "قرآن شریف نے تورات وانجیل کی طرح کسی دوسرے (نبی) کا حوالہ نہیں دیا۔ بلکہ اپنی کامل تعلیم کا تمام دنیا میں اعلان کر دیا اور فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم" (براہین احمدیہ حصہ۵ ص۳، خزائن ج۲۱ ص۵)

اس آیت میں اکمال دین بھی آ گیا اور اتمام نعمت بھی اور اس کے بعد رضیت بھی فرمادی گیا۔ اس لئے آپ خاتم النبیین ہوئے اور آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں۔ جس کو مقام نبوت پر کھڑا کیا جائے۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا دین ناقص تھا۔ جس کے لئے دوسرا نبی مبعوث کیا جاتا ہے اور وہ دین کو پورا کرے۔

۱۱۔۔۔ علامہ ابن کثیرؒ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں: ''ھذہ اکبر نعم اللہ تعالیٰ علیٰ ھذہ الامۃ حیث اکمل اللہ تعالیٰ دینھم ولا یحتاجون الیٰ دین غیرہ ولا الیٰ نبی غیر نبیھم صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ ولھذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء (ابن کثیر ج۲ ص۱۲)'' کہ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس امت پر کہ اس نے ان کے لئے ان کے دین کو کامل فرمایا۔ اب وہ نہ کسی دین کے محتاج ہیں اور نہ کسی دوسرے نبی کے سوا اپنے نبی کے۔ یہ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا۔

۱۲۔۔۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''فلا حاجۃ لنا الیٰ نبی بعد محمد ﷺ'' ہمیں رسول خدا ﷺ کے بعد ہم کو کسی اور نبی کی حاجت نہیں۔

{حمامۃ البشریٰ ص۹۰، خزائن ج۷ ص۳۰۲}

ساتویں آیت

۱۳۔۔۔ ''وما ارسلنٰک الا رحمۃ للعلمین (الانبیاء:۱۰۷)''

ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے: ''یعنی ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لئے نہیں بھیجا۔ بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے۔ پس جیسا کہ خدا تعالیٰ تمام جہان کا خدا ہے۔ ایسا ہی آنحضرت ﷺ تمام دنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت ہیں۔'' (ضمیمہ چشمہ معرفت ص۱۶، خزائن ج۲۳ ص۲۸۸)

آٹھویں آیت

۱۴۔۔۔ ''وما ارسلنٰک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً ولکن اکثر الناس لا یعلمون (سبا:۲۸)''

یعنی ہم نے تجھ کو نہیں مبعوث کیا۔ مگر اس لئے کہ اب تمام دنیا کے لئے ایک ہی نبی کی ضرورت تھی اور دنیا اس بات کی محتاج تھی کہ بجائے متعدد علیحدہ نبی اور رسول آنے کے ایک ہی نبی آئے جو کامل اور مکمل ہو اور آئندہ کے لئے صرف اسی کے وجود پر تمام دنیا کی ہدایت نجات کا مدار ہو۔ جس کے توسط سے لوگ اس خالق حقیقی تک پہنچیں۔ اس لئے ہم نے تجھ کو اس کام کے لئے چنا اور تمام لوگوں کے لئے قیامت تک بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا۔

شاید امت مرزائی کے لئے آپ کی رسالت کافی نہ ہو۔ اس لئے کسی دوسرے نبی کو پنجاب میں جنم لینا پڑا۔

۵

۱۵…… رسول خدا ﷺ نے خود بھی اعلان فرما دیا: ”ارسلت الی الخلق کافة وختم بی النبیون (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹، باب کتاب المساجد)“ کہ لوگو! میں تمام جہان کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں اور تمام نبیوں کا مجھ پر خاتمہ ہو گیا اب کوئی نبی نہ ہو گا۔

نویں آیت

۱۶…… ”ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ (الفتح:۲۸)“ کہ وہ ذات بابرکت جس نے اپنے رسول کو ساتھ ہدایت اور دین حق کے بھیجا تاکہ غالب کرے اس کو اوپر تمام ادیان کے۔

دسویں آیت

۱۷ ”تبارک الذی نزل الفرقان علیٰ عبدہ لیکون للعلمین نذیرا (الفرقان:۱)“ یعنی مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تاکہ تمام جہان والوں کے لئے نذیر بنے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ کی بعثت تمام عالم والوں کے لئے عام ہے اور عموم بعثت سے ختم نبوت کا ثبوت لازم ہے۔

۱۸…… ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے: ”یعنی ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈراوے۔“ (چشمہ معرفت ص ۶۸، خزائن ج ۲۳ ص ۷۶)

گیارھویں آیت

۱۹…… ”واذ اخذ اللّٰہ میثاق النبیین لما اٰتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول (آل عمران:۸۱)“

ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے: ”اور یاد کر کہ جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا۔ تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے وقت پر فوت ہو چکے تھے۔ یہ حکم ہر نبی کی امت کے لئے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاوے۔ جو لوگ آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں لائے۔ خدا تعالیٰ ان کو ضرور مواخذہ کرے گا۔“

(حقیقة الوحی ص ۱۳۰، ۱۳۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳)

اس آیت میں ”ثم جاءکم“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ ان میں نبی کریم ﷺ کے

تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو لفظ ثم کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ اس لئے "ثم جاءکم" کے یہ معنی ہوں گے کہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد سب کے آخر میں آپ تشریف لائیں گے۔

بارھویں آیت

۲۰..... "واذ اخذنا من النبیین میثاقھم ومنک ومن نوح وابراھیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم واخذنا منھم میثاقاً غلیظاً ۰ لیسئل الصدقین عن صدقھم واعد للکفرین عذاباً الیما (احزاب:۸،۷)" اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے اور سب انبیاء سے عہد لیا کہ ہر صادق کو اس کے صدق پر سوال ہوگا اور کافروں کو جہنم کی مار ہوگی۔

۲۱..... اس آیت کی تفسیر خود محمد ﷺ نے فرمائی ہے: "عن ابی ھریرۃ فی قولہ تعالیٰ واذ اخذنا من النبیین میثاقھم ومنک قال النبی ﷺ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرھم فی البعث فبدء بی قبلھم (ابن کثیر ج۵ ص۲۳)"

حضرت ابوہریرہؓ اس آیت کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں پیدائش میں سب نبیوں سے پہلے تھا اور عالم بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ اسی لئے پیدائش کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں میرا نام پہلے لیا ہے۔

تیرھویں آیت

۲۲..... "وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا (الاحزاب:۴۶)"

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے رسول خدا ﷺ کو سورج فرمایا کہ جس طرح آسمان میں ایک ہی سورج ہے۔ اسی طرح زمین میں بھی ایک ہی سورج ہے۔ جس کی روشنی قیامت تک رہے گی۔

۲۳..... مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "واعلم انہ خاتم الانبیاء ولا یطلع بعد شمسہ الا نجم التابعین الذین یستفیضون من نورہ" اور جان لو کہ وہ خاتم الانبیاء ہے اور اس کے سورج کے سوا ستاروں کے جو اس کے صحابی ہیں اور اس کے نور سے مستفیض ہوتے ہیں۔ کوئی اور سورج طلوع نہیں کر سکتا ہے

شمس الھدیٰ طلعت لنا من مکۃ
عین الندیٰ نبعت لنا بحراء

(حمامۃ البشریٰ ص۹۶، خزائن ج۷ ص۳۲۲)

۲۴..... آپ نے فرمایا: "اصحابی کالنجوم" کہ میرے صحاب مانند ستاروں کے ہیں۔ پس آپ کے بعد کوئی سورج طلوع نہیں ہوگا۔

قادیانی دوست کہتے ہیں کہ سورج کے ساتھ چاند بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مرزا قادیانی چاند ہیں۔ اس کا جواب بھی سنئے۔ اس سورج کا تو ایک چاند ہے۔ لیکن نبی ﷺ کے تین چاند ہیں۔ جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا:

۲۵...... ''قالت رأیت ثلثة اقمار (موطا امام مالک ج ۱ ص ۲۰)'' کہ میرے حجرے میں تین چاند اترے ہیں۔ ایک خود اور شیخینؓ۔

چودھویں آیت

۲۶... ''ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللّٰہ وخاتم النبیین وکان اللّٰہ بکل شیٔ علیما (احزاب: ۴۰)''

ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے: ''یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔''

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۱)

۲۷... رسول خدا ﷺ نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے: ''انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوٰۃ ص ۴۶۵، کتاب الفتن)'' کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

۲۸ مرزا قادیانی اس تفسیر نبوی کی تائید فرماتے ہیں: ''ولکن رسول اللّٰہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمی نبینا ﷺ خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا ﷺ فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین'' کیا تم نہیں جانتے (اے بے سمجھ مرزائیو!) کہ خدا رحیم کریم نے ہمارے نبی ﷺ کو بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے اور ہمارے نبی ﷺ نے خاتم النبیین کی تفسیر ''لا نبی بعدی'' کے ساتھ فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور طالبین حق کے لئے یہ بات واضح ہے۔

(حمامتہ البشریٰ ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

۲۹ ''قد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللّٰہ بہ النبیین'' بے شک آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔

(حمامتہ البشریٰ ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

۳۰ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی یہی فرمایا ہے: ''قد انقطع الوحی

وتم الدین'' وحی منقطع ہوگئی اور دین پورا ہو گیا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۹۴)

۳۱...... ام ایمنؓ نے آپؐ کی وفات پر کہا: ''ان الوحی قد انقطع من السماء'' بے شک اب آسمانی وحی منقطع ہوگئی۔ (مشکوۃ ص ۵۴۸، باب وفات النبی ﷺ)

۳۲...... خود رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا: ''ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ج ۲ ص ۵۱، باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات)'' بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔

۳۳...... علامہ ابن جریر فرماتے ہیں: ''ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الذی ختم اللہ النبوۃ فطبع علیہا فلا تفتح لاحد بعدہ الی قیام الساعۃ (ابن جریر ج ۲۲ ص ۱۲)'' ''محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی ایسا رسول کہ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگادی۔ پس وہ آپ کے بعد قیامت تک کسی پر نہ کھولی جائے گی۔

۳۴...... علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ''فہذہ الآیۃ نص فی انہ لا نبی بعدہ (ابن کثیر ج ۸ ص ۹۰)'' ''پس یہ آیت نص صریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

۳۵...... علامہ زمخشری فرماتے ہیں: ''لا ینبأ احد بعدہ (کشاف ص ۲۱۵)'' کہ آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔

۳۶...... امام راغب فرماتے ہیں: ''وخاتم النبیین لانہ ختم النبوۃ ای تممہا بمجیئہ (مفردات ص ۱۴۲)'' ''محمد ﷺ کو خاتم النبیین اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرمایا۔

۳۷...... ''خاتم النبیین ای آخرہم (جامع البیان زیر آیت خاتم النبیین)''

۳۸...... ''خاتم النبیین بفتح التاء بمعنی انہ آخر النبیین (ابن جریر ص ۱ ج ۱۲)''

۳۹...... ''خاتم النبیین ای ختم اللہ بہ النبیین قبلہ لا یکون نبی بعدہ (عہ ص)''

۴۰...... یہ آیت اس امر میں نص ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں

ہوسکتا۔ (ترجمان القرآن ج ۱۱ ص ۳۳۳)

ختم النبوۃ از روئے احادیث

۱..... ”مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر... فکنت انا سددت موضع اللبنة وختم بی البنیان وختم بی الرسل (مشکوٰۃ ص ۵۱۱، باب فضائل سید المرسلین)“ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہوا اور مجھ پر تمام رسول ختم کر دیئے گئے۔

۲..... ”فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (بخاری ج ۱ ص ۵۰۱، باب خاتم النبیین)“ فرمایا کہ نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی ختم کرنے والا ہوں نبیوں کا۔

۳..... ”فجئت انا واتممت تلک اللبنة (درمنثور ج ۵ ص ۲۰۳، زیر آیت ما کان محمد)“ فرمایا کہ میرے آنے سے وہ کمی پوری ہوگئی جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔

۴..... ”ختم بی الانبیاء (ترمذی)“ میرے ساتھ انبیاء ختم کر دیئے گئے۔

۵..... ”کانت بنو اسرائیل تسوسھم الانبیاء، کلما ھلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی (بخاری ج ۱ ص ۴۹۱، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)“ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے خلیفے نبی نہیں ہوں گے۔

۶..... ”فانه لیس کائناً فیکم نبی بعدی (ابن جریر وابن ماجه)“ یعنی بنی اسرائیل میں تو یہ سلسلہ رہا کہ نبی کے بعد نبی آتا رہا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں۔

۷..... علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”تسوسھم الانبیاء ای انھم کانوا اذا ظھر فیھم فساد بعث الله لھم نبیاً یقیم لھم امرھم ویزیل ما غیروا من احکام التوراة (فتح الباری ج ۶ ص ۳۲)“ کہ بنی اسرائیل میں جب فساد ظاہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی نبی بھیج دیتا۔ جو ان کے امور کو درست کرے اور ان تحریفات کو دور کرے جو انہوں نے تورات میں کی تھیں۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل شریعت مستقلہ لے کر نہیں آتے

تھے۔ بلکہ شریعت موسویہ کی اتباع و تبلیغ احکام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی احکام توراۃ کا پابند بناتے تھے۔ اس بناء پر حدیث مذکور کا حاصل صاف یہ ہوا کہ اس امت میں غیر تشریعی انبیاء بھی پیدا نہیں ہوں گے۔

۸..... "انا خاتم النبیین ولا فخر (مشکوٰۃ ص ۵۱۲، باب فضائل سید المرسلین)" فرمایا میں ختم کرنے والا ہوں نبیوں کا اور یہ فخر نہیں۔

۹..... "ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون (مشکوٰۃ ص ۵۱۲، باب فضائل سید المرسلین)" فرمایا کہ میں تمام مخلوق کے لئے بھیجا گیا ہوں اور تمام نبی مجھ پر ختم کئے گئے۔

۱۰..... "انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، باب فضائل سید المرسلین)" فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا گیا ہوں۔ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اس وقت سے کہ جب آدم (علیہ السلام) کا نام ونشان بھی نہ تھا۔

۱۱..... "انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی (مشکوٰۃ ص ۵۱۵، باب اسماء النبی ﷺ)" فرمایا کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

۱۲..... "سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوٰۃ ص ۴۶۵، کتاب الفتن)" فرمایا کہ میری امت میں تیس بڑے جھوٹے ہوں گے ہر ایک ان میں کا ادعائے نبوت کرے گا۔ باوجودیکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

۱۳..... "لا تقوم الساعۃ حتی یخرج ثلاثون کذابا کلہم یزعم انہ نبی (طبرانی)" فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تیس بڑے جھوٹے ظاہر نہ ہولیں۔ ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

۱۴..... ایک روایت میں ہے: "سیکون فی امتی کذابون دجالون" کہ میری امت میں کذاب دجال ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے۔ "وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی (کنز العمال ج ۱۴ ص ۱۹۸، حدیث نمبر ۳۸۳۴۰)" حالانکہ میں ختم کرنے والا ہوں نبیوں کا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ باوجود میری امت ہونے کے دعویٰ نبوت کریں گے اور کہیں گے کہ میں ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔

۱۵۔۔ ”لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی فمن قاله فقتلوه ومن قتل منهم احداً فله الجنة (کنزالعمال ج ۱۴ ص ۱۹۹، حدیث نمبر ۳۸۳۷۴)“ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ ہوں گے تیس دجال بڑے جھوٹے ہر ایک ان میں سے دعویٰ نبوت کرے گا۔ پس جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اس کو قتل کردو۔ جو شخص ان میں سے کسی کو قتل کرے گا اس کے لئے جنت ہے۔

ان احادیث میں دجال کذاب ہونے کی یہی علت ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ دعوائے نبوت کریں گے۔

کبریٰ: جو شخص نبی ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ دجال ہے۔

صغریٰ: مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ نتیجہ ظاہر ہے۔

۱۶۔۔ ”لاتقوم الساعة حتی یخرج سبعون کذاباً (کنزالعمال ج ۱۴ ص ۱۹۸، حدیث نمبر ۳۸۳۶۳)“ فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک کہ ستر کذاب نہ ظاہر ہو لیں۔ جن میں قریباً تیس ایسے ہوں گے جو ایک پہلو سے امتی ہوں گے اور باقی غیر امتی مستقل نبی بنائیں گے۔ جیسے بہاءاللہ وغیرہ۔

۱۷۔۔ ”ان الله لم یبعث نبیاً الا حذر امته الدجال وانا اٰخر الانبیاء وانتم اٰخر الامم۔۔۔ یا عباد الله فاثبتوا! فانه یبدء فیقول انا نبی فلا نبی بعدی (ابن ماجه)“ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ نہیں مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مگر ڈرایا اس نے امت اپنی کو دجال سے اور یاد رکھو کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پھر فرمایا۔ اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا وہ ضرور آنے والا ہے اور کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے۔

اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور ”یا عباد الله فاثبتوا“ کے بعد فرمایا ”لانبی بعدی“ کہ صرف مجھ کو ہی نبی مانو گے اور میرے بعد کسی دوسرے کو نبی نہ مانو گے تو فتنہ دجال سے [illegible]ار رہو گے۔

۱۸۔۔۔ ”انا محمد النبی الامی انا محمد النبی الامی انا محمد النبی الامی لانبی بعدی (کنزالعمال)“ فرمایا کہ میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد

نبی ہی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (فتاویٰ ج ۱ ص ۳۲۰، ابن کثیر ج ۸ ص ۹۱)

۱۹…… ''لا نبی بعدی ولا امۃ بعد امتی (بیہقی)'' کہ نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ میں آخری نبی اور میری امت آخری امت۔

۲۰…… ''نزل أدم بالهند واستوحش فنزل جبريل فنادى بالاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين قال أدم من محمد قال أخر ولدك من الانبياء (كنز العمال ج ۳ ص ۳۰۹) وهو أخر النبيين من ذريتك (شفاء ج ۱ ص ۳۸)'' آپؐ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے تو گھبرائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار کہا۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو بار کہا۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار کہا۔ یہ سن کر آدم (علیہ السلام) نے کہا کہ محمد کون ہے؟ تو جواب ملا کہ انبیاء میں سے تیرا یہ آخری بیٹا ہے۔ یعنی آنحضرت کے بعد کوئی ایسی ماں ہی نہیں جس کے پیٹ سے نبی پیدا ہو۔

۲۱…… ایک روایت میں اس طرح آیا ہے: ''وهو أخر الانبياء من ذريتك (طبرانی)'' کہ وہ آخری نبی ہے تیری اولاد سے۔ یعنی تیری اولاد سے محمدؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ باعتبار نبی و رسول ہونے کے نسل آدم میں آخری ولد ہیں تو اب آپؐ کے بعد نبی کیسا؟

۲۲…… آپؐ نے حضرت علیؓ کو فرمایا: ''انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (مشكوة ص ۵۶۳، باب مناقب علی بن ابی طالب)'' کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون موسیٰ کے ساتھ۔ مگر وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

۲۳…… ایک روایت میں ہے: ''الا انه لا نبوة بعدي (مسلم)'' کہ اے علیؓ حضرت ہارون تو نبی تھے۔ لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

۲۴…… اس طرح بھی آیا ہے: ''الا انک لست نبیا (مسلم)'' کہا اے علیؓ تم نبی نہیں ہو۔

۲۵…… آپؐ نے فرمایا: ''انی أخر الانبياء ومسجدی أخر المساجد (مسلم ج ۱ ص ۴۴۶، باب فضل الصلوٰة بمسجدی مكة والمدينة)'' کہ میں آخری نبی ہوں اور

میری مسجد آخری مسجد ہے۔

۲۶... دوسری روایت میں تفصیل ہے: ’’انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء (کنزالعمال ج۱۲ ص۲۷۰، روایت نمبر ۳۴۹۹۹)‘‘ کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ کسی نبی کی مسجد بنے گی۔ جس کو مسجد نبوی کہا جائے۔

۲۷... ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ اونٹنی چلا رہے ہیں۔ اس نے آپ کو تعبیر پوچھی آپ نے فرمایا: ’’واما الناقۃ التی رایتھا واریتنی ابعثھا فھی الساعۃ علینا تقوم لانبی بعدی ولا امۃ بعدی امتی (ابن ماجہ ص۳۰۲)‘‘ کہ وہ ناقہ جس کو تو نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کو چلا رہا ہوں۔ وہ قیامت ہے جو ہم پر قائم ہوگی۔ نہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا اور میری امت کے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔

۲۸...... آپ نے فرمایا: ’’بعثت انا والساعۃ کھاتین (مشکوٰۃ ص۴۸۰، باب قرب الساعۃ)‘‘ کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا۔

۲۹ آپ نے ابوذرؓ کو فرمایا: ’’اول الرسل آدم وآخرھم محمد (کنزالعمال ج۱۱ ص۴۸۰، حدیث نمبر ۳۲۲۶۹)‘‘ کہ اے ابوذرؓ یاد رکھو دنیا میں سب انبیاء سے پہلے آدم علیہ السلام ہوئے ہیں اور سب کے آخر محمد ﷺ میں ہوں۔

۳۰... مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ: ’’سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر ختم ہوگئی۔‘‘ (مجموعہ اشتہارات ج۱ ص۲۳۰)

۳۱... آپ نے فرمایا: ’’انی عبداللہ وخاتم النبیین (درمنثور ج۵ ص۲۰۴، زیر آیت یایھا النبی انا ارسلنک)‘‘ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمام نبیوں کا خاتم اور آخر ہوں۔

۳۲... اور فرمایا: ’’ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ج۲ ص۵۱، باب ذھبت النبوۃ وبقیت المبشرات)‘‘ کہ رسالت اور نبوت

منقطع ہوگئی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔

۳۳…… آپ ﷺ نے فرمایا: ”انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم (ابن ماجہ ص ۲۰۱، باب فتنۃ الدجال وخروج عیسیٰ بن مریم)“ کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔

۳۴…… اور فرمایا: ”لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (مشکوٰۃ ص ۵۵۸، باب مناقب عمر ؓ)“ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ؓ ہوتے۔

۳۵…… اور فرمایا: ”کنت اول الناس فی الخلق وآخرھم فی البعث (کنز العمال ج ۱ ص ۴۰۴، حدیث نمبر ۳۱۲۶)“ کہ میں باعتبار اصل خلقت کے سب سے پہلا نبی ہوں اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری ہوں۔

۳۶…… آپ ﷺ نے لوگوں کو فرمایا: ”ان تشھدوا ان لا الہ الا اللّٰہ وانی خاتم انبیاء ورسلہ (مستدرک حاکم ج ۳ ص ۲۳)“ کہ اس طرح گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نبیوں اور رسولوں کے ختم کرنے والا ہوں۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے عقیدہ ختم نبوت کو کلمہ شہادت کی طرح جزو ایمان قرار دیا ہے۔

۳۷…… آپ ﷺ نے فرمایا: ”والذی نفس محمد بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ لضللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین (مسند احمد در منثور ج ۲ ص ۴۸، زیر آیت اخذ اللّٰہ میثاق النبیین)“ قسم ہے خدا قدوس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان آجائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تمام امتوں سے میرا حصہ تم ہو اور میں تمام نبیوں سے تمہارا حصہ ہوں۔ پھر مجھ کو چھوڑ کر کیوں غیر کی طرف جاؤ۔ جو میرے سوا کسی اور کو میرے بعد نبی مانتا ہے۔ وہ میری امت سے خارج ہے۔

۳۸…… ایک روایت میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے: ”لو بدالکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیاً وادرک نبوتی لاتبعنی (دارمی مشکوٰۃ ص ۳۲، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)“ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آجائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور میری اطاعت چھوڑ دو البتہ گمراہ ہو جاؤ تم سیدھے راستے سے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ

پاتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔

۳۹ ... ایک روایت میں اس طرح آیا ہے: "ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي (احمد، بيهقي، مشكوٰة ص ۳۰، باب اعتصام بالكتاب والسنة)" کہ آپؐ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو نہیں لائق تھی ان کو مگر پیروی میری۔

۴۰ ... پھر آپؐ نے فرمایا: "لو اتاكم يوسف فاتبعتموه وتركتموني لضللتم (كنز العمال ج ؛" اگر یوسف علیہ السلام بھی آجائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور میری پیروی چھوڑ دو تو البتہ ضرور گمراہ ہو جاؤ۔

مطلب صاف ہے کہ اگر آپؐ کے بعد یوسف اور موسیٰ علیہما السلام جیسا بھی کوئی آئے تو بھی اس کی تابعداری گمراہی کا باعث ہے۔ لہٰذا آپؐ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔

۴۱ ... آپؐ نے حجۃ الوداع میں جس وقت قریباً ایک لاکھ ۴۴ ہزار کا مجمع تھا۔ فرمایا: "یایها الناس انه لا نبي بعدي ولا امة بعدكم" بعد میں فرمایا: "وانتم تسئلون عني (مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۳)" کہا اے لوگو! خبردار رہنا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔ کیونکہ تم آخری امت ہو اور تم کو قیامت کے دن میری نسبت ہی سوال ہوگا۔ کسی اور کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔

گویا آپؐ نے آخری وصیت بھی فرما دی کہ میرے بعد کسی کو نبی نہ بنانا جو بنائے وہ آپؐ کی آخری وصیت کا بھی منکر ہے۔

۴۲ ... پھر فرمایا: "ان ربكم واحد وابيكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد (كنز العمال ج ۳ ص ۹۳، حدیث نمبر ۵۶۵۵)" کہ لوگو یاد رکھو تمہارا خدا ایک ہی ہے اور باپ بھی ایک ہی ہے اور تمہارا دین بھی ایک ہی ہے اور تمہارا نبی بھی ایک ہی ہے۔

سبحان اللہ! آپؐ نے کس کس طریقہ سے امت کو سمجھا دیا کہ اب میرے بعد دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جس طرح تمہارا باپ ایک ہے۔ اسی طرح تمہارا صرف ایک ہی نبی ہے اور میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپؐ کے بعد کسی دوسرے نبی کا قائل ہونا گویا دوسرا باپ بنانے کے برابر ہے جو شرعاً سب و شتم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک!

۴۳ ... اسی واسطے آپؐ نے فرمایا: "انما انا لكم مثل الوالد (جمع الجوامع للسیوطی)" کہ میں تمہارے لئے باپ کی مانند ہوں۔ میرے سوا تمہارا کوئی روحانی باپ نہیں۔

یا یہ مطلب کہ جس طرح تم اپنے باپ کو ایک ہی سمجھتے ہو کوئی دوسرا باپ بنانے کے لئے تیار نہیں۔ اسی طرح مجھ کو بھی سمجھو اور میرے ساتھ کسی اور کو نہ بناؤ۔

۴۴...... اور فرمایا: ''من ادعی الی غیر ابیه وهو یعلم فالجنة علیه حرام (بخاری)'' کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نسبت کرے اس پر جنت حرام ہے۔

ٹھیک اسی طرح اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر اور کوئی نبی بنایا یا اس کی طرف اپنی نسبت کر کے (احمدی وغیرہ) کہلایا تو تم پر جنت حرام ہو جائے گی۔

۴۵... پھر آپؐ نے فرمایا: میدان محشر میں جب تمام انبیاء شفاعت سے انکار کریں گے تو سب لوگ میری طرف آئیں گے اور آ کر کہیں گے: ''یا محمد انت رسول اللّٰه وخاتم الانبیاء'' اے محمدؐ آپ رسول اللہ کے ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جس کے پاس جا کر ہم عرض کریں۔ آپ ہی ہماری سفارش کریں۔ آپ سفارش کریں گے اور سب مومنوں کو بخشائیں گے۔

(بخاری ج ۲ ص ۶۸۵، باب قولہ ذریۃ من حملنا مع نوح، مسلم ج ۱ ص ۱۱۱، باب اثبات الشفاعۃ)

اگر آپ کے بعد بھی کوئی رسول ہوتا تو لوگ ان کی طرف بھی جاتے اور آپؐ کو خاتم الانبیاء بھی نہ کہتے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محمد ﷺ سے لے کر میدان محشر تک کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔

۴۶.... حدیث معراج۔ فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: ''من هذا معک'' یہ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا: ''هذا محمد رسول وخاتم النبیین'' یہ محمد خاتم النبیین ہے۔

۴۷..... جب قبر میں سوال ہوگا۔ ''ومن نبیک'' کہ تیرا نبی کون ہے تو مومن کہے گا: ''محمد نبی وهو خاتم النبیین'' کہ میرا نبی محمد نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔

۴۸..... ''ولو قضی ان یکون بعد محمد ﷺ نبی عاش ابنه ولکن لا نبی بعده (بخاری ج ۲ ص ۹۱۴، باب من سمی باسماء الانبیاء)''

۴۹.... آپؐ نے امت کو یہ درود سکھایا: ''اللّٰهم صلوٰتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین (کنز العمال ج ۱ ص ۱۰۵)''

ختم نبوت از روئے اقوال مرزا قادیانی

خاتم النبیین کے معنی

۱..... مرزا قادیانی ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں: "ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین" یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۱)

۲..... یہی آیت لکھ کر فرماتے ہیں: "الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمی نبینا ﷺ خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا ﷺ فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا ﷺ لجوزنا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقہا وھذا خلف کما لا یخفی علی المسلمین وکیف یجیٔ نبی بعد رسولنا ﷺ وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین" کیا تو نہیں جانتے (اے مرزائیو!) کہ خدا کریم ورحیم نے ہمارے نبی ﷺ کو بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین قرار دیا ہے اور ہمارے نبی ﷺ نے خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی کے ساتھ فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور طالبین حق کے لئے یہ بات واضح ہے اور اگر ہم اپنے نبی ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا جواز قبول کریں تو گویا ہم نے وحی نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ وہ بند ہو چکا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کے بعد کس طرح کوئی نبی آسکتا ہے؟ جبکہ ان کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔

(حمامۃ البشریٰ ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

۳..... "ولا یجیٔ نبی بعد رسول اللہ ﷺ وھو خاتم النبیین" اور رسول ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

(حمامۃ البشریٰ ص ۱۰، خزائن ج ۷ ص ۱۹۹)

۴..... "ماکان اللہ ان یرسل نبیاً بعد خاتم النبیین وماکان اللہ ان یحدث سلسلۃ النبوۃ ثانیاً بعد انقطاعہا" اللہ کو یہ شایاں نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہیں شایاں اس کو کہ سلسلہ نبوت کو از سر نو شروع کر دے۔ بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا

ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۴۰، خزائن ج ۵ ص ۳۴۰)

۵…… "وآمنت بان رسولنا سید ولد آدم وسید المرسلین بان اللہ ختم بہ النبیین" مرزا قادیانی خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، خزائن ج ۵ ص ۳۸۳)

۶…… "وقد ختم اللہ برسولنا النبیین" اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہمارے رسول کے ساتھ ختم کر دیا۔ (تحفہ بغداد ص ۷، خزائن ج ۷ ص ۹)

۷…… "اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔" (تریاق القلوب ص ۱۵۷، خزائن ج ۱۵ ص ۴۷۹)

جو معنی اس جگہ خاتم الاولاد کے ہیں۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کے ہیں۔

رسل سے مراد محدث

۸…… "اور یاد رہے کہ کلام اللہ میں رسل کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے۔" (شہادت القرآن ص ۲۳، خزائن ج ۶ ص ۳۱۹)

۹…… نیز فرماتے ہیں کہ: "مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ہے۔ ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اسی اشارہ کی غرض سے قرآن شریف میں "وقفینا من بعدہ بالرسل" آیا ہے اور یہ نہیں کہ "وقفینا من بعدہ بالانبیاء" پس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد مرسل ہیں۔ خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سید اور رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت ﷺ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔" (شہادت القرآن ص ۲۷، خزائن ج ۶ ص ۳۲۳)

میں نبی نہیں بلکہ محدث ہوں

۱۰…… کسی نے مرزا قادیانی سے سوال کیا کہ آپ نے فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ (الجواب) نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔ جو خدا کے حکم سے کیا گیا۔ (ازالہ اوہام ص ۴۲۱، ۴۲۲، خزائن ج ۳

ص ۳۲۰)

۱۱… "لست بنبی ولکن محدث اللہ" کہ میں نبی نہیں بلکہ محدث اللہ ہوں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، خزائن ج ۵ ص ۳۸۳)

وحی منقطع ہوگئی ہے

۱۲… "وکیف یجیٔ نبی بعد رسولنا ﷺ وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم الله به النبیین" اور ہمارے رسول اللہ ﷺ کے بعد کس طرح کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جب کہ ان کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔

(حمامۃ البشریٰ ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

۱۳… "ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جاوے اور صرف ایک ہی فقرہ جبرائیل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں۔ یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تصریح بیان کیا گیا ہے۔ کہ اب جبرائیل علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی ﷺ کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔"

(ازالہ اوہام ص ۵۷۷، خزائن ج ۳ ص ۴۱۱)

رسول کی ساتھ وحی لازمی امر ہے

۱۴… "رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل کے حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔"

(ازالہ اوہام ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۲)

۱۵… "جس طرح یہ ممکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو۔ اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق اللہ کے لئے آوے اور اس کے ساتھ وحی الٰہی اور جبرائیل نہ ہو۔" (ازالہ اوہام ص ۵۷۵، خزائن ج ۳ ص ۴۱۲)

۱۶… "قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی اور رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ

ہی اب وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔" (ازالہ اوہام ص ۷۶۱، خزائن ج ۳ ص ۵۱۱)

۱۷...... "ختم اللہ برسولنا النبیین وقد انقطع وحی النبوۃ فکیف یجیٔ المسیح ولا نبی بعد رسولنا" اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہمارے رسول کے ساتھ ختم کر دیا اور وحی نبوت منقطع ہو گئی۔ پھر مرزا قادیانی مسیح موعود بن کر کس طرح آ سکتا ہے اور ہمارے رسول کے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں ہے۔" (تحفہ بغداد ص ۷، خزائن ج ۷ ص ۹)

نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی امت اور کتاب ہو

۱۸... "جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے اور خلق اللہ کو وہ کلام سنا دے جو اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہو اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۴۴، خزائن ج ۵ ص ۳۴۴)

مجھ کو نبی کہنے والے مفتری کذاب اور لعنتی ہیں

۱۹۔۔۔ "وبعزۃ اللہ وجلالہ انی مؤمن مسلم واومن باللہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ والبعث بعد الموت وبان رسولنا محمد المصطفیٰ ﷺ افضل الرسل وخاتم النبیین وان ہؤلاء قد افتروا علی وقالوا ان ہذا الرجل یدعی انہ نبی" اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں مؤمن اور مسلمان ہوں اور اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں اور ملائکہ اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ ﷺ سب نبیوں سے افضل اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور ان (قادیانی) لوگوں نے مجھ پر افترا کیا ہے کہ یہ شخص (مرزا غلام احمد قادیانی) نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ (حمامۃ البشریٰ ص ۸، خزائن ج ۷ ص ۱۸۴)

۲۰...... "اگر یہ اعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کلمہ کفر ہے تو بجز اس کے کیا کہیں کہ: "لعنۃ اللہ علی الکاذبین المفترین" یعنی جو شخص مجھے نبی مانتا ہے وہ لعنتی اور مفتری ہے۔" (انوار الاسلام ص ۳۴، خزائن ج ۹ ص ۳۵)

۲۱.... "افتراء کے طور پر ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ

کیا ہے اور گویا ہم معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تمام افتراء ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سید ومولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔“

(کتاب البریہ ص ۱۹۷، ۱۹۸، خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۵، ۲۱۶)

مجھ کو نبی کہنے والے دجال ہیں

۲۲...... ”ویقولون ان ھذا الرجل لا یؤمن بالملائکۃ ونزولھم وصعودھم ویحسب الشمس والقمر والنجوم اجسام الملائکۃ ولا یعتقد بان محمدا ﷺ خاتم الانبیاء ومنتھی المرسلین لا نبی بعدہ وھو خاتم النبیین ٭ فھذا کلھا مفتریات وتحریفات سبحان ربی ما تکلمت مثل ھذا ان ھو الا کذب واللہ یعلم انھم من الدجالین“ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ملائکہ اور ان کے نزول وصعود کو نہیں مانتا اور شمس اور قمر اور ستاروں کو فرشتوں کے اجسام مانتا ہے اور محمد ﷺ کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا۔ حالانکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور وہی خاتم الانبیاء ہیں۔ پس یہ سب مفتریات اور تحریفات ہیں۔ پاک ذات ہے میرا رب میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ سراسر جھوٹ اور کذب ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ (آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو نبی ماننے والے) دجال ہیں۔

(حمامۃ البشریٰ ص ۸، خزائن ج ۷ ص ۱۸۴)

مدعی نبوت کاذب اور کافر ہے

۲۳...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر (دہلی) کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ملائکہ کا منکر بہشت ودوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات نبوی سے بکلی منکر ہے۔

لہٰذا میں اظہارا للحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ختم ہوگئی۔“ (مجموعہ اشتہارات

ج۱ ص ۲۳۰)

مدعی نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے

۲۴۔ ... "اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور نبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔" (آسمانی فیصلہ ص۳ خزائن ج۴ ص۳۱۳)

اس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں مرزا قادیانی کا دشمن اور ان کو اسلام سے خارج کرنا چاہتا ہے۔

مدعی نبوت کافر اور اسلام سے خارج ہے

۲۵۔ ... "وما کان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم الکافرین" "اور میرا یہ حق ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔" (حمامۃ البشریٰ ص۷۹ خزائن ج۷ ص۲۹۷)

مدعی نبوت مسلمان نہیں

۲۶ "فکیف ادعی النبوة وانا من المسلمین" "یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں مسلمان ہو کر نبوت کا دعویٰ کروں۔ کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔"

(حمامۃ البشریٰ ص۷۹ خزائن ج۷ ص۲۹۷)

مدعی نبوت بدبخت مفتری اور قرآن کا منکر ہے

۲۷۔ ... "کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت "ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین" کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے بعد رسول اور نبی ہوں۔" (ضمیمہ انجام آتھم ص۲۷ حاشیہ خزائن ج۱۱ ص۲۷)

مدعی نبوت اسلام سے باہر ہے

۲۸۔ ... "اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے

ہے۔" (کشف راز حقیقت ص۱۴ خزائن ج۴ ص ۲۸.)

مدعی نبوت لعنتی ہے

۲۹۔۔۔ "ان پر (یعنی مولوی غلام دستگیر پر) واضح رہے کہ ہم بھی (آپ کی طرح) نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور "لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے قائل ہیں اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج۲ ص۲۹۷)

مدعی نبوت امت سے خارج ہے

۳۰۔۔۔ "نہ مجھے دعویٰ نبوت وخروج از امت اور نہ میں منکر معجزات و ملائک اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں اور آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔" (نشان آسمانی ص۳۰ خزائن ج۴ ص۳۹۰)

۳۱۔۔۔ "فلا حاجۃ لنا الی نبی بعد محمد ﷺ وقد احاطت برکاتہ کل ازمنۃ" اور ہم کو محمد ﷺ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں۔ کیونکہ آپ کی برکات ہر زمانہ پر محیط ہیں۔ (حمامۃ البشریٰ ص۴۹ خزائن ج۷ ص۲۲۴)

خلاصہ

ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک مدعی نبوت کافر، کاذب، بے ایمان، دائرہ اسلام سے باہر، بدبخت، مفتری، لعنتی، دجال، قرآن کا منکر اور امت محمدیہ سے خارج ہے۔ تلک عشرۃ کاملۃ!

اب جو شخص مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ مرزا قادیانی کا دشمن اور آپ کو اس عشرہ کاملہ کا مستحق سمجھتا ہے اور خود مفتری، کاذب، لعنتی اور دجال ہے۔

مرزا قادیانی کا آخری فرمان

کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری کرنے والے کافر اور قرآن کے دشمن اور بے شرم و بے حیا ہیں۔ وھو ھذا!

۳۲۔۔۔ "اے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو۔ دشمن قرآن نہ بنو اور

خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔" (آسمانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۴ ص ۳۳۵)

اس فتویٰ کے بعد ہمیں تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ مرزا قادیانی کو نبی مانیں۔ بلکہ ہم تو یہی کہیں گے

ے

۲۳..

ہست او خیر الرسل خیر الانام
ہر نبوت را بروشد اختتام

(درثمین فارسی ص ۱۴۳)

ختم نبوت اور صحابہ کرامؓ واجماع امت

۱..... حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے ہیں: "قد انقطع الوحی وتم الدین" کہ وحی منقطع ہوگئی اور دین مکمل ہوگیا۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی)

۲..... حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کے فوت ہونے پر کہا: "بابی انت وامی یا رسول اللہ قد بلغ من فضیلتک عندہ ان بعثک آخر الانبیاء" میرے ماں باپ قربان آپؐ کو خدا نے آخری نبی بھیجا تھا۔ (مواہب ج ۲ ص ۲۱۶)

۳..... حضرت علیؓ فرماتے ہیں: "وھو خاتم النبیین" کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ (شمائل ترمذی ص ۲۰ باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ﷺ)

۴..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پڑھا کرتے تھے: "اللھم اجعل صلوٰتک وبرکتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین" کہ اے اللہ رسولوں کے ختم کرنے والے پر رحمت بھیج۔ (کنزالعمال ج ۲ ص ۲۷۹، حدیث نمبر ۳۰۰۵)

۵..... حضرت ابن ابی اوفیٰؓ فرماتے ہیں: "لا نبی بعدہ" کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (بخاری)

۶..... حضرت انسؓ فرماتے ہیں: "لان نبیکم آخر الانبیاء" کہ آپ آخری نبی ہیں۔ (تلخیص [illegible] ج ۱ ص ۲۹۳)

۷، ۸..... اجماع امت: "وکونہ ﷺ خاتم النبیین مما نطقت بہ الکتب

وصدعت به السنة واجمعت عليه الامة فيكفر مدعي خلفه ويقتل ان اصر (روح المعانی ج ۲ ص ۶۵) "اور آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل سے ہے۔ جس پر تمام آسمانی کتابیں ناطق ہیں اور احادیث نبویہ بوضاحت بیان کرتی ہیں اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔ پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔

۹۔۔۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں: "ومن اعتقد وحياً بعد محمد ﷺ كفر باجماع المسلمين" کہ جو شخص آپ ﷺ کے بعد کسی وحی کا معتقد ہو وہ کافر ہے۔ (فتاویٰ ابن حجر)

۱۰۔۔۔۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: "ودعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع" کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ باجماع کفر ہے۔ (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)

۱۱۔۔۔۔

لم ينزل الروح الامين على امرئ
برسالة بعد النبي محمد

"وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً

(فرقان)"

روز قیامت کہسی حضرت یا رب قوم جو میری
چھوڑیا انہاں قرآن دوبارا خاص کلام جو تیری
نہ اس نال ایمان لیائے نہ کجھ عمل کمایا
ایہہ کہ میری امت وچوں بندے بارٹھایا
کھتی لوح حوالے پڑھ پڑھ عمر بیہادی گالی
روگردانی کرن قرآنوں رہے ایمانوں خالی
کہے قرآن مجید رحمت کاملہ دیتا ساری
ایہہ آکھن اوہ رحمت عرضا عقل انہاں ماری
کہے قرآن مجید سورج غروب کرے روشنائی
انہاں چھوڑ طریقہ میرا حق حد بجائی
کہے قرآن مجید احمد ختم نبوت عالی
انہاں تواں رسول بنایا کرن خیال نہ کوئی
کہے مجھ میں تیسی پچھے دا ہے کرن بکھیرے
تساں نہ ہرگز لنگھے جانا رہنا پچھے پیرے
جو را چھوڑ طریقے نبیاں دا تواں طریق نکالے
اوہ تیں ساڈی امت وچوں کیہڑے دینے والے
لبدے چڑھدے دکھن پہنچے دیکھ لو جگ مرنا
ایسا کوئی رسول نہ لیکھے سوچنا ہی پینا

[illegible]

بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا

یعنی

دیندار انجمن

مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

ایک نظر ادھر بھی

اسلام کو دو قسم کے دشمنوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ ایک وہ جو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور علانیہ اسلام کے خلاف تبرا آزما رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بظاہر اسلام کے مدعی ہوتے ہیں۔ اپنے کو اسلام اور مسلمانوں کا خیرخواہ ظاہر کرتے ہیں۔ مگر در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ بلکہ کافر و مشرک مسلمان کی شکل میں آ آ کر اندر اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مشغول رہتے ہیں۔ پہلی قسم کی بہ نسبت یہ دوسری قسم زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں کفر کے ساتھ نفاق بھی ہوتا ہے۔ یہ مار آستین کی طرح ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ کب ڈسے گا۔

ان خفیہ اور علانیہ سازشوں کا مقابل اگر اسلام کے سوا کوئی اور مذہب ہوتا تو کب کا اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لیکن اسلام کی قیامت تک حفاظت کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ اس لئے اس کے مقابلہ میں دشمنان اسلام کی ایک بھی نہیں چلتی۔ جہاں کوئی فتنہ نمودار ہوا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فوراً متوجہ فرما دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ اس طرف سے کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور پھر ناصرین اسلام و علمائے ربانی کی ایک جماعت سینہ سپر ہو کر زبان و قلم بلکہ تیغ و تفنگ اور ہر ممکن قوت سے ان باطل قوتوں کی سرکوبی میں مشغول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابتداء اسلام سے آج تک کوئی ایسا فتنہ چھوٹا یا بڑا اٹھا نہیں ہے۔ جس کا مقابلہ علماء اسلام نے نہ کیا ہو اور فتح و کامرانی نے ہمیشہ ان کے قدم نہ چومے ہوں۔

اب سے تین ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میرے محسن و مربی حضرت مفتی (رشید احمد لدھیانوی) صاحب مدظلہم نے احقر سے فرمایا کہ دیندار انجمن والوں کے عزائم بڑے خطرناک ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے ان سے متعلق کچھ لکھ کر عوام کو اس فتنہ سے باخبر کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت والا نے قلم برداشتہ زیر نظر رسالہ لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن احقر کے ذہن میں اس بات کی اتنی اہمیت محسوس نہ ہوئی جو ہونی چاہئے تھی۔ اتفاقاً بندہ ایک کام سے اپنے ایک دوست کاتب کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ دیندار انجمن کے موجودہ نگران اعلیٰ سعید بن وحید آج کل اپنے اس مشن کو دوبارہ منظم کرنے اور نشر و اشاعت کے ذریعہ اپنی انجمن کا پروپیگنڈہ کرنے میں معروف ہیں۔ انہوں نے کاتب صاحب کو بعض پمفلٹ دے رکھے تھے۔ اور ان کو اپنے مخصوص انداز میں تبلیغ کر کے ایک حد تک متاثر کر دیا تھا اور ایک کتاب ان کو معروف اجرت سے کافی زیادہ معقول رقم دے کر

کتابت کے لئے دے دی تھی۔ کاتب صاحب کی ہمت قابل داد ہے کہ انہوں نے حقیقت منکشف ہونے پر زیادہ اجرت کی پرواہ کئے بغیر ان کی رقم اور مسودہ مع کتابت شدہ کاپی سب واپس کر کے کتاب لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت والا کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ یہ لوگ مرتد ہیں۔ ان کی رقم واپس نہیں کرنی چاہئے تھی۔ بلکہ کسی مسکین کو دے دیتے۔ دیگر کاتب حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ان دشمنان اسلام مرتدین کی کتابیں نہ لکھیں۔ ان کی یہ تگ و دو دیکھ کر فتن کے نباض حضرت فقیہ العصر مجدد القرن الخامس عشر حضرت مفتی (رشید احمد لدھیانوی) صاحب دامت برکاتہم کی دوررس نگاہ جو بات تاڑ گئی تھی۔ اس کی اب بہت ہی زیادہ اہمیت بلکہ نہایت ضرورت ذہن میں آئی نیز ساتھ ہی اس انجمن کی بعض کتب بندہ کے ہاتھ آ گئیں۔ ان کو دیکھ کر تو اور زیادہ اس کی اہمیت و ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ دوسری اہم مصروفیات کے باوجود ایک ہی ہفتہ میں حضرت والا نے یہ رسالہ مکمل فرما دیا۔ خیال یہ تھا کہ احسن الفتاویٰ کی مکمل مبوب جس کی آج کل ترتیب ہو رہی ہے۔ اس کی کتاب الایمان میں اسے شائع کر دیا جائے گا۔ مگر مضمون کی اہمیت اور اس کی فوری اشد ضرورت کے پیش نظر اس کو الگ بھی شائع کیا جا رہا ہے۔

یہ رسالہ دیندار انجمن کے فتنہ سے متعلق ہے۔ جس کے بانی صدیق دیندار چن بسویشور ہیں۔ جنہوں نے حیدرآباد دکن میں خانقاہ سرور عالم بنائی تھی۔ نیز پیغمبری بلکہ خدائی تک کے دعوے بھی کئے۔ ان کی مکمل تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ ذیل میں ہم ان دعاوی کی ایک مختصر فہرست لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ ایک نظر میں اس انجمن اور اس کے بانی کے نظریات کا خلاصہ بیک وقت آپ کے سامنے ہو۔ دعاوی کی جو فہرست یہاں دی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک ایک آپ کو ترتیب کے ساتھ اسی رسالہ میں جستہ جستہ مل جائے گا۔

چن بسویشور کے دعاوی کی مختصر فہرست

مامور وقت، ایشور، چن بسویشور، پرماتما، مظہر موسیٰ، مثیل موسیٰ، داؤد، یوسف موعود، شنکر، مصلح موعود، دیوان ہیرا محمد، امام الغیب، صدیق حکیم اللہ، سپہ سالار، مجیب، تو محمد جلالی ہے، مہدی آخر الزمان، دشمن چپ، دیندار، محی الدین، صاد جنگ، سری چپ، تاج الاولیائی، فاتح ہندوستان، نور محمد، محمود صدیق، جری اللہ، نبی کریم کے فرزند، سکندر اعظم، عبد الحق ور، عبد اللہ،

سلیمان، مولانا، نگہبان، عیسیٰ، پہلوان، نادر، میراں صاحب، آسمان کا تارا، بی بی فاطمہ کا لعل، احمد جیونی، میراں سید، چراغ دین، سلطان نصر الدولہ، گروہ تیغ، یا منصور، یوسف، بابا صدیق، مناقب الرسول، مظہر اللہ، محمد ﷺ کی بعثت ثانی، بروز محمد، قاضی حشر، حوض کوثر کا قاسم، آخرین کا سردار، تقدیر ثانی، رسول، رحمۃ للعالمین، اللہ، انبیاء کے سردار وغیرہ۔

غرض یہ وہ القاب و دعاوی ہیں جنہیں عام طور پر جین دیشو اپنی ہوس جاہ کو پورا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنے لئے اعزاز و اکرام کے اور عنوان بھی متعدد وقت میں استعمال کئے ہیں۔ جو در حقیقت اعزاز و اکرام نہیں بلکہ ان کی روسیاہی اور جہنم کا ایندھن بننے کے موجب ہیں۔ مثلاً ان کا یہ کہنا کہ جہنم سب کا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم یعنی جین دیشو کی شکل میں آئیں گے۔ قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوا اور اس قسم کے ہزاروں خرافات زیر نظر رسالہ میں حوالہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ جو ہمارے سرسری مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ ان کی کتابوں میں مندرج خرافات کے مقابلہ میں یہ مشتے نمونہ از خروارے بھی کم ہیں۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں بلکہ تمام مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے جو سرکار دو عالم ﷺ کے شیدائیوں کے دل کی آواز ہے کہ:

۱۔ اس کتاب کو شروع سے آخر تک غور سے پڑھیں۔

۲۔ کتاب کو پڑھ کر اپنی الماری کی زینت نہ بنائیں۔ بلکہ کسی اور مسلمان کو پڑھنے کے لئے دے دیں۔

۳۔ خود کتاب پڑھنے پر اکتفاء نہ کریں۔ بلکہ اس فتنہ کو ختم کرنے کی بھرپور جدوجہد کریں۔

۴۔ نیز اس فتنہ سے تمام مسلمانوں کو باخبر رکھنے کی سعی و کوشش کریں۔ آپ کے جو دوست آپ سے دور ہیں۔ ان کو اس فتنہ سے بذریعہ خط و کتابت مطلع کریں۔ ان کے عزائم اور دعاوی سے ان کو مطلع کریں۔ تاکہ وہ ان کی خفیہ سازشوں کے جال میں نہ پھنسیں۔

۵۔ یہ کوشش رہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہ رہے جو ان کے فتنوں سے باخبر نہ ہو۔

۶۔ مصنف کی طرف سے اس کتاب کے چھاپنے کی ہر ایک کو اجازت ہے۔ نیز اسے رسائل و اخبارات والے حضرات اس کتاب کو بعینہٖ قسط وار یا اس کے اقتباسات شائع کریں۔

۷۔ اہل ثروت حضرات اس کتاب کے مزید نسخے طبع کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔

۸۔ ہر مسلمان ہر امکانی کوشش کرے کہ حکومت کے کانوں تک یہ مطالبہ پہنچائے کہ وہ ان کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کرے۔ کیونکہ یہ دراصل قادیانیوں ہی کی ایک شاخ ہے اور نفاق کی وجہ سے قادیانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حکومت پاکستان کے موجودہ قانون کے لحاظ سے ان کا وہی حکم ہونا چاہئے۔ جو مرزائیوں کے دونوں فرقوں (قادیانی اور لاہوری) کا ہے۔

۹…… اس کتاب کے اقتباسات کو الگ شائع کر کے مساجد بلکہ دفاتر اور اسکولوں میں بھی تقسیم کیا جائے۔

۱۰…… کوئی کاتب ان کی کتابیں نہ لکھے اور پریس والوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ سرکار دوعالم ﷺ کی نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والے اس کافر و مرتد گروہ کی کتابیں چھاپ کر اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ اس کے عوض دنیا میں اگرچہ تھوڑی بہت رقم مل جائے گی۔ مگر آخرت میں اللہ کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ "والعذاب الآخرۃ اکبر" دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین! "وما ذلک علی اللّٰہ بعزیز"

دیندار انجمن کا خیرخواہ: احتشام الحق آسیا آبادی

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم!

الحمد للّٰہ وکفٰی والصلوٰۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفٰی اما بعد

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب!

کسی مذہب، ملت یا منظم قوتوں کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ جب مخالفین کسی نظریہ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے طور پر ہزاروں بلکہ لاکھوں حربے استعمال کرتے ہیں۔ مگر سب کا حاصل اندرونی سازش اور بیرونی یلغار ہے اور جب کوئی مذہب یا نظریہ یا کسی بھی مملکت کا ایسا وجود آیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش میں لگا ہوا ہے اور عادۃ اللہ بھی یہی ہے کہ دونوں تقابل کے میدان میں آکر کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔

عام طور پر کسی نظریہ کو عمل کرنے کے لئے ابتدائی خارجی وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں اور جب ان سے نا امیدی ہو جاتی ہے تو اندرونی طور پر ایسے لوگ تیار کئے جاتے ہیں۔ جو اس تحریک کو ناکام بنا دیں۔ امتحان وآزمائش کی ان سخت گھڑیوں میں بعض مات کھا جاتے ہیں اور بعض اس آزمائش سے عہدہ برآ ہو جاتے ہیں۔

اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت انسانی کی صحیح ترجمانی اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ نظریۂ اسلام اور دیگر مختلف نظریات میں جہاں دوسرے فرق ہیں۔ وہاں یہ فرق نہایت واضح ہے کہ وضعی قوانین ونظریات جو غیر اسلامی ہیں۔ وہ ایک خاص طبقہ اور مکتب فکر کے جذبات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ خالص جذبات پر مبنی ہونے کی بناء پر اولاً تو مصالح بشریہ سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور اگر ان میں کچھ مصلحت ہو بھی تو وہ مخصوص طبقہ اور مخصوص زمانے تک محدود ہوتے ہیں۔ بخلاف اسلام کے کہ وہ چونکہ خالق کائنات کا اپنی مخلوقات کے لئے بنایا ہوا ضابطہ ہے جو علیم وخبیر ہونے کی وجہ سے بندوں کے حالات مابعد وماقبل سے بخوبی واقف ہے۔ اس لئے اس ضابطۂ حیات میں جہاں جذبات انسانی کی رعایت رکھی گئی ہے۔ وہاں اس کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ انسان کی طبیعت سلیمہ اور فطرت عالیہ کی حقیقی ترجمانی کرتا ہو۔ ارشاد ربانی ہے:" فاقم وجھک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون (روم)"

ویسے تو ہر فرد بشر جب اپنی ذہنی نہج کی سمجھ بنا لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی معراج اور کائنات کی نجات کا واحد ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہے:" الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فرحون (روم)"

لیکن جب واقعات اور حقائق پر نظر ڈالی جاتی ہے تو لوٹ کر بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ جہاں سے ہم چلے تھے کہ:" الا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر (ملک)"

لیکن ظاہر ہے کہ ایسا عالمگیر مذہب اور جذبات وفطرت انسانیہ پر حاوی ضابطۂ حیات دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس لئے زیر گردوں جب اسلام کا سورج چمکا تو شپرہ چشموں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ اس کو ختم کرنے کی کس قدر سعی لا حاصل کی

گئیں۔ مگر وہ قدم قدم پر اسلام کی ترقی کا موجب بنتی رہیں۔

آخر کار جب ان دشمنان اسلام نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے ان کا داؤ نہیں چل رہا ہے تو انہوں نے دشمنی کا دوسرا روپ اختیار کر لیا۔ چاہیں تو اسے وہ طریقہ کہہ لیں جسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے سرکار دو عالم ﷺ کی عداوت میں شروع کیا تھا۔ یا ہوس نبوت کا وہ تخم زہرناک کہیں جس کی آبیاری مسیلمہ کذاب، اور اس کے جانشینوں سجاح اور طلیحہ اسدی نے کی تھی۔ بہرحال ہیں یہ سب ایک ہی شجرۂ خبیثہ کے برگ و بار۔ "الکفر ملة واحدة" کا قانون اٹل ہے۔ نام اور کام کے رنگ و ڈھنگ کا فرق ہے اور بس ؎

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں
ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

اور شاعر نے ایسی ہی حالت کے مطابق کیا خوب کہا ہے کہ ؎

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

مگر یاد رہے کہ یہ تمام حربے اندرونی ہوں یا بیرونی۔ جس طرح اب تک ان کے لئے غیر مفید رہے ہیں۔ اسی طرح آئندہ بھی ان کا ہر حربہ بے نقاب ہو کر انہیں کے لئے ذلت و رسوائی کا موجب ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی اہمیت کو کم کرنے بلکہ انہیں بے دینی کی راہ پر لگانے کے لئے جہاں دیگر ذرائع کام میں لائے گئے۔ انہی میں ایک فتنہ دعوائے نبوت کا بھی ہے۔ نبی بننے کو ایسا آسان کر دیا گیا کہ جب چاہیں نبی بن جائیں۔ بلکہ حد یہ کر دی کہ ایک احمق کو نبی بننے کا شوق ہوا تو اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں۔ جب دعویٰ نبوت کیا تو لوگوں نے پوچھا کس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے۔ مجھے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرہؓ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے

یوں تو سرکار دو عالم ﷺ کے انتقال کے بعد کتنے لوگوں نے نبی، رسول، مسیح موعود، یوسف موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بلکہ بروز محمد (ﷺ) اور عین محمد (ﷺ) ہونے تک کے دعوے بھی ہوئے۔ لیکن مردم خیزی کا جو شرف ہند و پاک اور خصوصاً سرزمین پنجاب کو نصیب ہوا

ے

ہے وہ دنیا کے کسی اور خطے کو خواب میں بھی نصیب نہ ہوگا۔

اس خطۂ مقدسہ میں غلام احمد قادیانی "لعنۃ اللّٰہ علیہ وعلیٰ من حذا حذوہ" نے جو کاشت نبوت بوئی ہے اور جس کے پودے یہاں پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ شرف کسی اور دشمن اسلام کو کم ہی نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہوسکتی ہے کہ اس کی خمیر میں وہ تمام خباثتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ جو معلم الملائکہ ابلیس "علیہ وعلیٰ اتباعہ اللعنۃ الیٰ یوم الدین" میں اس کی سرکشی کے عوض ودیعت رکھی گئیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ شیطان نے خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن آپ کے شاگرد بھی خدا بن گئے ؎

ایں چہ شوریست کہ در دور قمری بینم

یاالٰہی! میں یہ کیا سن رہا ہوں۔ یا اللہ! یہ تیرا ناپاک گنہگار غلام ہے۔ جو اب خدائی کا دعویدار ہے۔ کبھی تو چہرے سے مکھی بھی نہ ہٹا سکے اور اب جو آپ نے صحت وقوت عطا فرمائی ہے تو تیرے مقابل آ کھڑا ہے۔ "اللّٰھم خذھم اخذ عزیز مقتدر" عجیب اتفاق ہے کہ استاد و پیر (غلام احمد قادیانی) تو درجۂ نبوت سے نہ بڑھ سکے اور مرید (صدیق دیندار چن بسویشور) نبوت سے ترقی کر کے مظہر خدا بن بیٹھے۔ خدا سمجھے [illegible]۔ اکبر الٰہ آبادی مرحوم انہیں سے تو نالاں ہوکر یہ کہہ گئے ؎

صورت فانی سے آخر کیوں نہ پہچانے گئے
مجھ کو حیرت ہے کہ یہ بت کیوں خدا مانے گئے

ان بزرگوں نے بچپن گزارا۔ جوانی کے دن عیش وعشرت میں کاٹے۔ بڑھاپے کے لمحے بسر کئے۔ یہاں تک کہ موت نے آ دبوچا۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ ہم کہاں آئے تھے اور کیا کر چلے۔ اکبر یہاں بھی آ پہنچے ؎

ابھی آ کر پھنسے تھے جن کے کہ سمجھیں راز ہستی کا
پکارا موت نے اور یہ نہیں سمجھے یہ کیوں تھے؟

مگر دوسرے مصرع میں اتنی تبدیلی ناگزیر ہے۔ اکبر مرحوم کی روح بھی ان شاء اللہ اس سے خوش ہوگی ؎

پکارا موت نے اور یہ نہیں سمجھے یہی کیا تھے؟

واللہ یہ اور ان کے پجاری خوب جانتے ہیں کہ خدا جس نے ساری کائنات کو بشمول ان کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ کوئی اور ذات ہے صدیق دیندار چن بسویشور نہ خود خدا ہے نہ اس کا مظہر اور نہ کوئی نیک بندہ۔ بلکہ یہ سب گورکھ دھندا ہے۔ بے وقوف بننے کا شوق ہوا تو سوچا کہ اس طرح سے بھی بے وقوف بنا اور بنایا جاتا ہے۔ ورنہ ؎

کہاں ہم اور کہاں وہ نکہت گل

آج تو بار بار اکبر ہی یاد آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بھی ایسا کوئی بے وقوف ہوگا۔ ارشاد ہے ؎

واعظا ہم بھی سمجھتے ہیں خدا ہے کوئی اور
دل لگی کے لئے ایک بت بھی لگا رکھا ہے

مگر ان بیچاروں کا قصور نہیں۔ ان کو ان کے بڑوں (انگریز) نے یہی سبق سکھایا ہے کہ قسمت آزمائی کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے قرعہ اندازی میں مرزا قادیانی کی مصاحبت کی بدولت خدا بننے کے لئے نام نکل آئے۔ ورنہ نمبروں میں تو شمار ہو ہی جاؤ گے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لئے کہ ؎

عہد انگلش میں ہے ہر چیز کے اندر نمبر
کیا تعجب ہے جو نکلا پیمبر نمبر

مرزا غلام احمد قادیانی کے مریدین میں نبی تو بہت سے بنے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی ہیں جو اپنے گرو سے بھی پانچ انگل آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے جو بیک وقت یوسف موعود بھی ہو، نبی بھی ہو، مثیل محمد (ﷺ) بھی ہو اور مظہر خدا بھی۔ مگر صدیق دیندار چن بسویشور میں یہ تمام صفات متضاد موجود ہیں ؎

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے مرزا بخش

ذیل میں ہم اس مرد مجاہد صدیق دیندار چن بسویشور (لعنہ اللہ) سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں اور یہ سلسلہ کی آخری کڑی نہیں ہے۔ بلکہ فتنہ مرزائیت کے بعد حکومت اور عوام کو اس کی طرف توجہ دینے کی ایک اپیل ہے۔ سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صدیق دیندار کا مختصر تعارف کرا دیا جائے۔

صدیق دیندار چن بسویشور

انسانی تاریخ میں وہ دن کتنا منحوس تھا جس میں صدیق دیندار نے جنم لیا۔ جس نے اپنے خود ساختہ دین کو دیندار کا لیبل لگا کر کفر و ارتداد کی ظلمت پھیلا دی۔ سادہ دل بندوں کو احتیاط، توسع، شوق جہاد اور اتفاق پسندی کے سبز باغ دکھا کر قعر ذلت میں گرا دیا۔ بلکہ جو سادہ لوح مسلمان اس کے دام تزویر میں پورے طور پر پھنس آئے۔ ان کو بھی شیطان نے یہ فریب دے رکھا ہے کہ یہ خدمت اسلام کرنے والے مجاہدین کی ایک تحریکی غلطی ہے۔ حالانکہ کفر و ارتداد کی طغیانی میں یہ خود تو غرق ہو چکے۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو خدانہ کرے ایک دن یہ تم کو بھی بہا لے جائیں گے۔

خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

اس بدبخت کا نام صدیق ہے۔ دیندار لقب ہے۔ عام طور پر اپنے نام کے ساتھ چن بسویشور لکھا کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن میں ان کی رہائش تھی۔ ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۰۳ھ بروز جمعہ دکن ہی میں اپنا منحوس قدم رکھا۔ عام طور پر اپنا نام اور لقب اس طرح لکھا کرتے تھے۔ "صدیق دیندار چن بسویشور"

آصف نگر حیدرآباد میں ان کی خانقاہ کا نام "خانقاہ سرور عالم" یا جگت گرو آشرم تھا۔ جس میں سیرت النبی کے جلسے بھی کراتے تھے۔ خود چونکہ تقریر میں زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس لئے اپنے جلسوں کو رونق افروز کرنے کے لئے بعض دوسرے حضرات کو بھی بلایا کرتے تھے۔ صدیق دیندار صاحب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مکمل ملاپ رکھتے تھے۔ لیکن بشیر الدین محمود خلیفہ قادیان سے جا کر بیعت کی پھر محمد علی لاہوری مرزائی سے جا کر قادیانی تفسیر پڑھی۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد دکن آ کر ہندوؤں کی کتابیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئیوں کو کھینچ تان کر اپنے اوپر چسپاں کرتے ہوئے ہندوؤں کا اوتار چن بسویشور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یوسف موعود، مثیل موسیٰ مظہر خدا کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ خانقاہ سرور عالم واقع آصف نگر (حیدرآباد دکن) میں حضرت محمد مصطفی ﷺ کی دوبارہ بعثت ہوئی ہے۔ نیز اپنے کو اللہ، قیامت کا مالک اور شافع محشر بھی لکھا۔ یہ سب باتیں انشاء اللہ انہی کی کتابوں کے حوالہ سے پیش کی جائیں گی۔

چن بسویشور کی تصانیف میں اب تک مہر نبوت، مخدوم ختم المتقین، جامع البحرین، معراج المومنین اور دعوت الی اللہ کے حوالے ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی تصانیف ہیں جو بہائیوں کی کتاب اقدس کی طرح تقاضا ہونے پر میدان میں آئیں گی۔

موخرالذکر کتاب دعوت الی اللہ ان کے مذہب اور دیگر کتابوں کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کی باقی کتب اور مریدین کی دیگر تصانیف گویا اسی کی تعبیر و تشریح ہیں۔ کتاب کے سرورق پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

”دعوۃ الی اللہ، الہامی تصنیف ام آب حضرت قبلہ مولانا صدیق دیندار چن بسویشور یوسف موعود و سردار آخرین جو باہتمام اراکین دیندار انجمن رزاقی پریس مغل پورہ میں طبع ہو کر ربیع آخر ۱۳۵۹ھ میں حیدرآباد سے شائع ہوئی۔“

دیندار انجمن

صدیق دیندار چن بسویشور نے ۱۹۲۴ء میں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے ایک انجمن قائم کی۔ جس کا نام دیندار انجمن رکھا۔ نام کی فریب سازی نے بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈال کر گرفتار بلا کر دیا۔ اس انجمن کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں ابھاری جائیں جو ان کی نظروں کے لئے جاذب ہوں۔ مثلاً چندہ کی ترغیب، اتفاق و اتحاد کی کوشش وغیرہ اور ان کے نبی چن بسویشور کے جو اصل عقائد ان کی کتابوں میں ہیں۔ حتی الامکان یہ کوشش رہے کہ وہ عوام کے سامنے نہ آئیں۔

آج کل اس انجمن کی تین تحریکیں تین مختلف ناموں سے چل رہی ہیں۔ ان کی وضاحت اس لئے کرنا ضروری ہے کہ کہیں عوام کسی دوسرے نام سے ان کے دھوکہ میں نہ آجائیں۔ پورے ہندو پاک میں ان کے مبلغین پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں یہ تحریک، حزب اللہ دیندار انجمن کہلاتی ہے۔ اس کی ایک شاخ کراچی میں بھی ہے۔

کراچی میں سعید بن وحید بی اے (علیگ) کی امارت میں جمعیت مجاہدین الی سبیل اللہ دیندار انجمن کے نام سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ انجمن آج کل نظراء مبلغین اسلام دیندار انجمن اور زیادہ تر صرف دیندار انجمن کے نام سے کام کر رہی ہے۔ جس کا سربراہ سعید بن وحید ہے۔ اس انجمن کا مرکزی دفتر کورنگی کراچی میں ہے۔ تیسری تحریک مرکزی دیندار انجمن کے نام سے ہے۔ جس کے مبلغین پنجاب اور پشاور وغیرہ میں ظاہر اور پوشیدہ طریقوں سے کام کر

رہے ہیں۔ عوام کو دھوکہ دہی کے لئے ان کے مبلغین کے روپ میں پہنچے ہیں۔ بعض پیش امام بن کر مساجد میں امامت کرتے ہیں اور بعض پیر بن کر اپنے حلقۂ ارادت میں بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں۔ ان کی وضع قطع مخصوص ہے۔ اس لئے اسے بھی لکھا جاتا ہے۔ تاکہ ناواقف مسلمان ان کو وضع قطع سے پہچان کر ان کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔

وضع قطع

دیندار انجمن کے لوگ ہرے رنگ کے عمامے باندھتے ہیں۔ جس کے نیچے عموماً سادہ ٹوپی ہوتی ہے۔ رنگے ہوئے گیروے کپڑے پہنتے ہیں۔ سر پر لمبی لٹیں، لمبی داڑھی اور پراگندہ مست دکھائی دیتے ہیں اور چائے سے مکمل پرہیز۔ زاہد صدیقی صاحب سابق مبلغ دیندار انجمن جو اب تائب ہو گئے ہیں۔ فرمان کراچی فروری ۱۹۵۷ء میں لکھتے ہیں۔

"راقم الحروف نے چار سال کا عرصہ ہوا جمعیت حزب اللہ دیندار انجمن کو ایک تبلیغی ادارہ تصور کرتے ہوئے زندگی وقف کر کے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ اس کے بعد سے مندرجہ بالا تحریک میں ایک سرگرم مبلغ کی حیثیت سے مغربی پاکستان میں دورہ کرتا رہا اور ہزاروں افراد کے مجمع میں اس جماعت کا تعارف کراتا رہا۔ لیکن یہ کسے خبر تھی کہ جنہیں میں نے خدام الدین سمجھا ہے وہ غارت گر ایمان اور منکرین ختم نبوت ہیں۔ صوفیانہ حلیہ، دیندارانہ وضع قطع قرون کے اتحاد کے ختمی دعوے یہ سب انہیں آپ دیکھ کر کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وضع قطع کے لوگ بھی دینداری کی آڑ لے کر بد دینی اور مشرکانہ عقائد کی در پردہ تبلیغ کرتے ہوں گے۔"

اقتباسات

یہاں تک اس انجمن کا اجمالی تعارف کرایا گیا ہے۔ اب انجمن کے بانی صدیق دیندار چن بسویشور کی تصانیف سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ان سے ان کے معتقدات، عزائم اور کئی دیگر خرافات آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور پھر اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ (دیندار انجمن والے) حقیقت میں کیا ہیں اور کس روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان عقائد و عزائم کے حاملین عوام میں جاہ و اعتماد کے زور سے تبلیغ کر کے عوام کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ؎

لباسِ خضر میں یاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں
اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر

لیجئے! اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

چن بسویشور اور مرزا غلام احمد قادیانی

دیندار انجمن کے بانی صدیق دیندار چن بسویشور فرماتے ہیں: "نبوت کے اسرار مجھ پر کھلنے کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ فقیر ۱۹۰۸ء میں فتنہ دجال سے کما حقہ واقف ہو کر جستجوئے مسیح میں تھا۔ ۱۹۱۳ء میں مسیح (مرزا غلام احمد قادیانی) کو پایا اور نہایت مخلصانہ طور پر اٹھائیس سال کی عمر میں ترک دنیا کر کے مزید حصول علم دین کے لئے قادیان پہنچا اور مرزا قادیانی کے تحریر کردہ دس ہزار صفحات سے جن میں تین سو جگہ مسئلہ نبوت کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پورا پورا واقف ہو گیا۔ اس طرح "اسرار نبوت" کے کھلنے کا اس فقیر پر یہ پہلا سبب ہے۔" (سر نبوت ص ۲۵)

اس اقتباس سے تین باتیں معلوم ہوگئیں۔ چن بسویشور کا قادیان جانا، مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود ماننا اور ان کی تصانیف سے استفادہ کرنا اور اسرار نبوت کا کھلنا۔ قارئین حضرات یہیں سے اقتباسات کو ذہن نشین کرتے جائیں اور یہ بات نہ بھولیں کہ یہیں سے دیندار صاحب پر اسرار نبوت کھلنے شروع ہوگئے۔ اس وقت اٹھائیس برس کی عمر ہے۔ آج ترک دنیا کر کے مرزا قادیانی کی کتابوں سے کفریات کی خوشہ چینی میں مصروف ہیں۔ کل کو پتہ چلے گا کہ "اسرار نبوت" کھلے ہیں یا جہنم کے انگاروں سے دامن بھر لیا ہے ؂

آج جو کفر سے مصروف ہیں سرکشی میں
ہوش آئے گا انہیں موت کی بیہوشی میں

(اکبر الہ آبادی)

غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اسرار نبوت نہ کھلے وہاں تو خواہشات نفسانی کے غول بیابانی کمین گاہ میں شکار کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہیں زقوم کے کانٹوں میں بھی پھول ملا کرتے ہیں۔ اب تو جہنم رسید ہونے کے بعد چن بسویشور صاحب دل ہی دل میں پچھتاتے ہوں گے کاش میں وہاں نہ جاتا۔ مگر اب تو "یالیتنی کنت ترابا" کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ؂

مدتوں بیٹھا ترے ہنگامۂ عشرت میں میں
روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں میں
مدتوں ڈھونڈا کیا نظارۂ گل خار میں

آہ! وہ یوسف نہ ہاتھ آیا ترے بازار میں

(علامہ اقبال)

دربار قادیان سے ناامید ہوئے تبھی تو قادیانیوں بالخصوص میاں محمود سے روٹھے اور وہیں مستقل نبوت اور مسیح موعود ہونے کے دعویدار بنے اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے دربار قادیان سے لوٹے کہ ؎

چشم حیراں ڈھونڈتی اب اور نظارے کو ہے
آرزو ساحل کی مجھ طوفان کے مارے کو ہے
چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں
رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں
میں

(علامہ اقبال)

یعنی نبی بننے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ جو آپ کے پاس نہ ملا ؎

اے میرے خضر ختم کب ہوتی ہے مری طلب
اس کو چلا ہوں ڈھونڈنے جو ابھی ملا نہیں

یوسف موعود

صدیق دیندار چن بسویشور نے چونکہ قادیان میں جا کر غلام احمد قادیانی کے علمی خزانے سے کافی استفادہ کیا تھا۔ جس کی وجہ سے اسرار نبوت آپ پر منکشف ہو گئے تھے۔ اس لئے اب دعوائے نبوت کرنے میں کیا دیر تھی۔ بس حیدرآباد پہنچا تھا کہ دعویٰ کر دیا۔ میں یوسف موعود ہوں۔ مامور من اللہ چن بسویشور ہوں، اور اپنے دعویٰ کی وضاحت کے لئے ایک کتاب خادم خاتم النبیین کے نام سے لکھ ڈالی۔ جس میں اکثر و بیشتر مرزا غلام احمد قادیانی کے الہام و پیش گوئیوں سے اپنے دعویٰ کو مبرہن کیا ہے۔ آپ بھی چند اقتباسات سن کر قوت دلیل کا اندازہ کر لیں۔

"اب حق آ گیا۔ اس کی طرف حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) نے اشارہ کیا تھا کہ جب تک کوئی روح القدس سے تائید پا کر کھڑا نہ ہو تم سب مل کر کام کرو اور اس کے بعد اس

کی اتباع کرنا۔ اسی میں نجات ہے۔ اس کام کے لئے اپنی جماعت میں دن رات دعا کرتے رہنے کے لئے کہا تھا۔"

صید سمجھو اے احمدیو تم سب مل کر
منتظر جس کے تھے آج وہ موعود آیا

گذشتہ تین سال میں میاں صاحب کے نام میں نے متعدد خطوط بھیجے اور بار بار لکھا کہ دکن کے اولیاء اللہ (ہندو، مسلمان وغیرہ) کی کتب پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص شمال میں دیو بسنت (اولوالعزم محمود) نامی پیدا ہوگا۔ وشنو (غلام احمد قادیانی) کی گادی پر بیٹھے گا۔

اس کے بعد اور بھی تفصیل ذکر کر کے بشیر الدین محمود کو ہندوؤں کی کتابوں سے موعود انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے متعلق لکھا ہے کہ: "اس کی اصلاح صدیق دیندار چن بسویشور کرے گا۔" (خادم خاتم النبیین ص ۵۰، از دیندار چن بسویشور)

لیجئے! یوسف موعود کا دعویٰ ذرا اور وضاحت سے فرماتے ہیں: "حضرت مرزا (غلام احمد قادیانی) کی بشارت میں جتنی صفتیں یوسف موعود کی آئی ہیں وہ کل درجہ بدرجہ مجھ پر صادق آگئی ہیں۔"

(خادم خاتم النبیین ص ۵۸)

اس کے بعد اسی کتاب میں ص ۵۸ سے ص ۶۸ تک رات کے دو بجے ایک حسین نوجوان لڑکی کا ان کے بستر میں آ کر لیٹ جانے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی فضیلت کی چھ وجوہ ذکر کی ہیں۔

یوسف موعود کے دنیا میں آ کر لوگوں کی اصلاح کرنے کی روایت ہندوؤں کی کتابوں یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات سے کوئی پیش کرے تو کرے، قرآن و حدیث و کتب شرعیہ میں تو اس کا نام و نشان تک نہیں ؎

سر خدا کہ عابد و زاہد کسے نگفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

مامورِ وقت

جب صدیق دیندار نے ہندوؤں میں چن بسویشور کا دعویٰ کیا تو اس سلسلے میں لکھا:

”دکن میں ایک مامور کا انتظار تقریباً آٹھ سو سال سے چلا آ رہا ہے اور اس دھوم سے کہ کرناٹک کا ہر بچہ بڑا واقف ہے۔ نیا انتظار کسی مامور کا مسلمانوں میں نہیں۔ اس کثرت سے نشانات بیان کئے گئے ہیں کہ مہدی اور مسیح کے بھی نہیں۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۱۱۱)

مزید سنئے اور جھومئے۔ یشورع صاحب کے کلام میں مامورت کی بھی داد دیجئے۔ ”میری ماموریت کے انکار کی صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ موعود میں نہیں ہوں تو دوسرا کوئی پیش کرے۔“ (خادم خاتم النبیین ص ۹۵)

ٹھیک فرمایا حضرت دانا نے کیسی دوربیں نگاہ ہے۔ جناب خالی یادیوگیر و ماموریت جیسا اہم عہدہ خالی پڑا رہنا زیب نہیں دیتا۔ ویسے معلوم ہوتا ہے جناب والا کی شان عالیہ میں شاعر کہہ گئے ہیں ؎

دل نفس کا تابع غفلت میں دنیا کی حقیقت کیا جانے
اندھے ہیں فریب امیدوں کے طوفاں میں پڑا ارمانوں کے
تھی عقل زباں پر اے اکبر اور عشق پہ رکھی ہم نے نظر
ممتاز رہے فرزانوں میں سرخیل رہے دیوانوں کے

یوسف موعود ہونے کا دعویٰ ایک اور روپ میں

خدا کرے یہ دلیل کا دعویٰ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سنئے اور سر دھنئے!

”میں تو جلال کے لحاظ سے موسیٰ بھی ہوں اور داؤد علیہ السلام بھی۔ مسیح موعود کی عبارت میں ان دونوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف مصر کے بادشاہ تھے۔ وہ جس قوم پر حکومت کرتے تھے۔ وہ عربی النسل قوم تھی۔ جن کے ظہور اسلام دو ہزار سال کے اندر اندر وہ قوم ہندوستان کے جنوبی علاقے میں آباد ہو گئی تھی۔ ... یہ بچھڑے کے پجاری اور شرک پر قائم رہے۔ ان میں ایک رسول کی بشارت چلی آ رہی تھی۔ جس کو شنکر اوتار کہتے ہیں۔ شنکر کے اصلی معنی شر یا اندھ کا مقابلہ کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ درحقیقت یہ یوسف کا عربی نام ہے۔ قوم لنگایت میں شنکر کو شیو سے پیشتر ۱۲ دفعہ آنا مانا جاتا ہے اور یہ آخری ظہور ہے۔ آج سے آٹھ سو سال پیشتر اولیاء اللہ (ہندو سادھو) نے اس کو جداوجن سے یشورع کے نام سے موسوم کیا ہے۔“

(دو ازالے ص ۲۸)

قارئین حضرات! کیا سمجھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں صرف ایک مرتبہ نہیں آئے۔ بقول چمن بسویشور ان سے قبل ستائیس دفعہ وہ ہندوستان کی قوم لنگایت میں تشریف لا چکے تھے۔ اب اٹھائیسویں مرتبہ ایک ہندو چمن بسویشور کے روپ میں آئے۔ نعوذ باللہ من شر لا لنگا خدا کا پیغمبر اور ہندو کے روپ میں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یاد رہے یہ بدنہادی کی مکمل سیری ہے۔ آگے چل کر خود حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی فوقیت جتلاتے ہیں۔ خاموشی اور انگشت بدنداں رہ جانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئے تو کوئی عرض بھی کرے یہاں پر تو ؎

رنج آسماں میں ہے نہ راحت زمیں میں ہے
اپنے ہی حسن کا جوش ہے سب کچھ ہمیں میں ہے

اپنے قارئین دوستوں کو بس اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں اور اس سے بڑھ کر یوسف دوراں کا تعارف بھونڈی چیز سے نہ کرایا جا سکتا ہے۔ نہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ جس قدر آپ کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حسن مبارک ہوگا۔ اتنا ہی چمن بسویشور کی بدصورتی کا اندازہ کر لیں اور یہ حقیقت ہے مبالغہ آمیزی نہیں۔ ان کو جہنم رسید ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ دیکھنے والے ابھی تک زندہ ہیں۔ در حقیقت ؎

برعکس نہند نام زنگی کافور

مہدی آخر الزمان

جو شخص نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے لئے مہدی آخر الزمان بننا کیا مشکل تھا۔ جب کہ اس سلسلہ میں ایک خواب بھی بطور تائید نظر آیا تھا۔ فرماتے ہیں: "حضور (ﷺ) نے میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے عوام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص اس میں فنا نہ ہوگا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔" (خادم خاتم النبیین ص ۸)

میرے آقا سرور کونین ﷺ کی طرف جھوٹا خواب نسبت کر کے آسمان سے تو پر انداز ہی چکا تھا۔ اب لوگوں کو دھوکا دینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایسی صورت میں دعوائے مہدیت اور بیعت رضوان لینے میں کیا چیز مانع تھی؟ جس سادہ لوح مسلمان نے حضور ﷺ کے نام مبارک کے ساتھ بشارت سنی۔ اپنا تن من دھن قربان کر ڈالا اور مہدی مان کر بیعت کر لی۔ سنئے چمن بسویشور کی اپنی زبانی۔

"نیلی میں ایک عورت میرا وعظ سن رہی تھی۔ روحانیت کا اتنا اثر ہوا کہ جدھر دیکھے مجھ میں بسو یشور نظر آ رہا ہے اور ہر ایک آواز مجھ میں بسو یشور ہے۔ اگر مرغا بانگ دے تو مجھ میں بسو یشور کہتا ہے اور بچہ بھی روتا ہے تو مجھ میں بسو یشور ہی کہتا ہے۔ بخار چڑھا ہوا ہے تو مجھ میں بسو یشور آواز آ رہی ہے۔ کئی دن ایسا رہا۔ اس معاملہ میں وہ عورت گھبرا گئی۔ اپنے خاوند کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے بیعت لے کر دعا کی اب تک وہ اچھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بعد وصلوں کے پکارتے کہ آپ مہدی ہیں۔ بعض نے مہدی مان کر بیعت کر لی۔" (خادم خاتم النبیین ص ۴۸)

ایسے ہی اسی کتاب میں اپنی روحانیت کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وہ (کوئی لڑکی) بے ستور ہو کر رات میں مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔"

یہ ہیں مہدی آخر الزمان کی روحانیت کے کرشمے ؎

دردا کہ راز پنہاں خواہد شد آشکارا

آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اصل میں اسلام کو چھوڑے ہوئے کافی زمانہ گزر گیا ہے۔ اب یاد نہیں رہا کہ مہدی کیا ہوتے ہیں۔ بس سمجھ کی غلطی ہے۔ بیچارہ نے بھی سمجھا کہ مہدی آخر الزمان بھی کوئی جاگیردار کا فرزند ہوگا یا شہزادہ تا الیسا جیون ؎

گھر کو چھوڑے ہوئے مدت ہوئی صیاد مجھے
کس چمن میں تھا نشیمن یہ نہیں یاد مجھے

تعجب ان دیوانوں پر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جنوں تو سب سے پہلا وار ہوش پر کرتی ہے۔ جب عقل و خرد ہی رخصت ہو گئی تو پھر کسی کا کیا رونا۔ مگر تعجب ان مسلمان بھائیوں پر ضرور ہوتا ہے جو ایسی خرافات بکنے والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنا رہبر تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مگر "لکل ساقطة لاقطة" کے قانون پر اس کے بغیر عمل ہی ناممکن تھا ؎

گردش چرخ بدل دیتی ہے دنیا کا طریق
ہو ہی جاتے ہیں سب اہل شعبدہ پرواز کے ساتھ

گل ناز شگفتہ

"اگر میں احمدیوں کا مامور موعود نہیں ہوں تو دوسرا کوئی بتائے کہ جو نہیں وقت یعنی ۱۹۱۴ء میں آیا۔ اگر میاں (محمود) صاحب کے مامور ہونے کا انکار ہے تو وہ بالبداہت غلط ہے۔ پہلے تو اسی بناء پر غلط ہے کہ مامور بھی ایک زبردست جماعت کا خلیفہ نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ مامور کے ساتھ ہونے والوں کو ایمان بالغیب اور امتحانات میں سے گذرنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے حضرت (مرزا قادیانی) نے یوسف موعود کے لئے نطفہ اور علقہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ وہ معمولی انسان ہوگا۔ تمہاری نظریں دھوکہ کھا جائیں گی اور یہی سنت اللہ ہے اس صورت میں نہ خواجہ کمال الدین صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ورنہ مولانا محمد علی صاحب اور نہ میاں (محمود) صاحب یہ کل مشہور انسان ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کام کے لئے مامور ہو جائیں تو خدا کی سنت میں فرق آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اپنی سنت کے مطابق جماعت احمدیہ کے ابتلاء کے زمانہ میں صدیق کا انتخاب کیا۔ دیگر آمد و رداء و دوبارہ آمد کا وعدہ پورا کیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ ذکر آگے آئے گا۔

ہر لفظ پیشگوئی کا تغیر پر چھپا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ نشان کہ وہ نطفہ علقہ کی طرح ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کی نظر دھوکہ کھائے گی۔ وہ اس طرح کی پیدائش کے لحاظ سے بھی میرا یہ حال ہے کہ میں سات درجہ کا کمزور پیدا ہوا تھا۔ رونے کی آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ والدہ نے یہ کہا کہ یہ بچہ کیا جیتا ہے؟ کوڑے پر پھینک دو۔ والدہ نے کہا کہ بچی جان ہے۔ دودھ پلاؤ .. اللہ جماعت احمدیہ سے کام لینا چاہتا ہے۔ ان میں مخلص لوگ کثرت سے ہیں...... اللہ اس جماعت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دوبارہ مشکل ہوا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) نے لکھا ہے کہ جب تک کوئی روح حق پا کر لکھوا نہ ہو سب مل کر کام کرو۔ اس روح حق والے کی طرف ہو جاؤ۔ ورنہ وہ صدیقی رنگ میں ہے۔ نطفہ اور علقہ کی طرح ہے۔ حقیقت نظر آئے گا۔ دھوکا نہ کھانا۔ غرض اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔" (خواجہ تمام الحق ص ۱۸)

ٹھیک فرمایا آنجناب نے واقعی آپ احمدیوں (قادیانیوں) کے مامور موعود ہیں۔ جو شک کرے کافر ہوگا۔ "اشهد انك من القاديانيين متنبيهم لعنة الله عليك وعلى شيخك غلام احمد وعلى من هذا حذوكم الى يوم التناد واخذكم الله تعالىٰ اخذ عزيز مقتدر" بڑا افسوس ہوا آپ کے خلیفہ سعید بن وحید کی تھی کتاب ختم نبوت کا قرآنی مفہوم دیکھ کر اس نے صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے آپ کو اور آپ کی جماعت کو قادیانی جماعت

سے الگ بلکہ بیزار ظاہر کیا ہے۔ بے شک آپ قادیانی نہ ہونے کے الزام سے بری ہیں۔ بلکہ پکے قادیانی ہیں۔

جن ن ویشور کی روح صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ اس ناخلف خلیفہ کو جو کورنگی میں رہتے ہیں، جلدی دستبردار کردیں ورنہ یہ تمہارے مذہب ہی کو مٹا دینے کو تیار ہیں۔

ان تمام دلوں کے کھنڈر پہ بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر

جن ن ایشور نے اپنے مامور وقت ہونے کے دعویٰ کے سلسلہ میں ہندوؤں کی کتابوں سے بھی بعض پیش گوئیاں درج کی ہیں۔

شکتو خود دنیا کی ایک سو ایک ذاتوں کو عام کرنے آئے گا۔ دن اوتار کے رنگ میں خود گھوڑے پر سوار ہو کر ملک ملک پھرے گا.... جو پربھو جی انسان کو بھگوان کا انکار کرے اس سے بات مت کرو۔ ۔ دائم قائم رہنے والا پرماتما خود تراب کے مجرے دکھائے گا۔۔ ایشور کے روپ والا۔۔ دنیا میں ایشور آتا ہے کوئی دیر نہ ہوگی۔ ۔ دنیا کا ایشور جن ن ایشور دنیا کے کھیل اور فریب فاش کرے گا۔ شکتو زمین پر اترے گا۔ (حوالہ الذکر ص ۱۰،۱۰)

دیکھا آپ نے جن ن ایشور قائم دائم رہنے والا ہے۔ یعنی "ھو الحی القیوم" بہت خوب، یہ عجیب "الحی القیوم" ہے کہ مدت ہوئی جہنم رسید ہو گئے۔ شکتو تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ ایشور کی حضرت نے تشریح کر دی کہ وہ جن ن ایشور ہے۔ مگر یہ پتھر اور پرماتما سمجھ میں نہیں آیا کیا بلا ہیں۔ ویسے حسن ظن تو یہی رکھتے ہیں کہ وہ آنجہانی ہیں اور دن اوتار جن کے رنگ میں ایشور صاحب کا ظہور ہوگا اور وہ ملک ملک پھرے گا۔ اس کی تشریح ابھی رہنے دیتے ہیں۔ اس کا عقدہ کوئی اور دوست انشاء اللہ کھول دے گا۔۔۔ اچھا بھئی! یہ پربھو جن کا یہاں ذکر ہے کہ وہ آپ کو انسان سمجھیں گے۔ اس نے تو واقعی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ ننگ انسانیت کو انسان سمجھنا یہ تو واقعی ان کی نا سمجھی ہے۔ مگر یہ نہیں پتہ چلا کہ موصوف پربھو ہے کون؟

حضور ﷺ پر تہمت

نبوت اور مامور ہونے کی تائید میں اگر غلام احمد قادیانی کے الہامات اور متعدد سادھوؤں کی پیش گوئیوں پر استدلال کرتا تو تعجب نہ ہوتا کیونکہ وہ اسی زمرے میں شمار ہیں۔ مگر سرکار دو عالم ﷺ پر بھی اپنی تائید کی جو تہمت لگائی اس میں جھوٹ اور دیدہ دلیری کی حد کر دی ہے۔

"حضور ﷺ نے جو تاریخ پیدائش میری بتائی ہے اور حالات بتائے ہیں۔ وہی اولیاء ہنود (سادھوؤں) نے بتائے ہیں اور انہوں نے جو تاریخ پیدائش اور حالات بتائے ہیں وہی حضرت مرزا کی کتب میں نظر آتے ہیں۔" (خادم خاتم النبیین ص ۱۶)

جھوٹ، سفید جھوٹ۔ حضور ﷺ نے یہ کہاں فرمایا؟ نبی کریم ﷺ پہ یہ اتنی بڑی تہمت ہے کہ اس پر جو بھی بڑی سے بڑی سزا تجویز کی جائے وہ اس جرم کی بہ نسبت کم ہے ؎

سر خدا کہ عابد و زاہد کسے نہ گفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

غلطی سے ان کو بادہ فروش کہا۔ ورنہ یہ ہیں بادہ نوش

مثیل موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

"مسیح موعود نے بھی میری نسبت فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ ایک موسیٰ ہے میں اس کو ظاہر کروں گا۔" (روح القدس ص ۲)

سچ فرماتے ہیں۔ میں بھی تائید کرتا ہوں کہ آپ مثیل موسیٰ بلکہ عین موسیٰ ہیں۔ لیکن پتہ ہے کون سا؟ وہی موسیٰ جس کے بارے میں ارشاد ہے ؎

فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر

(اس عبارت میں موسیٰ سے مراد سامری ہے۔ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا۔ مرتب)

آپ کا کوئی قصور نہیں۔ مرزا قادیانی کا الہام سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے اور یہ اجتہادی غلطی ہے۔ آپ کے شیخ الشیخ حضرت مرزا علیہ ما علیہ سے بھی ایسی ہی غلطی ہوئی تھی۔ شیطان نے دل میں وہم ڈالا تو وہ سمجھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش

مجدد کی کرسی کو ہوس نبوت جب بڑھی تو اپنے نئے مختلف نام تجویز فرمائے اور ہونا بھی چاہئے۔ اس لئے کہ صرف جمن، بدھو، یوسف موعود، مثیل موسیٰ، مسیح موعود، مصلح موعود، ماموروقت، مجدد اور یہ تمام وغیرہ کے دعوؤں سے کہاں تسلی ہوئی۔ چنانچہ اپنے الہامی ناموں کا اعلان کر دیا۔

"یعنی آج چھبیس سال سے مجھ سے مکالمہ الٰہیہ جاری ہے اور میرے اعزازی نام یہ ہیں: اے پیران پیر، امام الغیب، صدیق، کلیم اللہ، سپہ سالار، محبوب، تو محمد جلال ہے، مہدی آخر الزمان، کرشن جی، رودر گوپال، امدین، صادق جنگ، سری پتی، اے تاج الاولیاء، تاج

ہندوستان، نور محمد، محمد صدیق، جری اللہ، اے نبی کے فرزند، سکندر اعظم، عبدالقادر، عبداللہ، موسیٰ، سلیمان، مولانا، نگہبان، اے عیسیٰ، اے پہلوان، عادل، میران صاحب، اے میرے آسمان کے تارے، بی بی فاطمہ کے لعل، عبد جیلانی، میرے صابر، چراغ رہبر، سلطان نصر العدول، گرو ناتھ، یا منصور اور بھی کئی نام ہیں۔ ان ناموں کے علاوہ مجھے بار بار یوسف پکارا گیا اور مجھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف ہے بابا صدیق اور کہا تو ہی چمن بہ شور ہے۔" (ذوالحق الاسلامی ص ۲۵)

ایک ہی شجر کے برگ و بار

خلیفہ قادیان کے بارے میں لکھا ہے: "اے خلیفہ جماعت احمدیہ میں آپ کو ایک زمانے سے جانتا ہوں کہ آپ نبی ضرور ہیں۔" (خادم خاتم النبیین ص ۶۷)

اسی صفحہ پر مزید لکھتے ہیں: "بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب دیر بعثت (اولو العزم محمود) دکن تشریف لائیں گے۔ میں میاں محمود احمد صاحب کو دکن کی بشارتوں کی بناء پر خلیفہ جماعت احمدیہ مانتا ہوں۔ گو لاہوری جماعت مخالف ہی کیوں نہ ہو۔"

حقیقت یہ ہے کہ صدیق دیندار کی جماعت ہو یا قادیانی یا لاہوری سب ایک ہی درخت کے برگ و بار ہیں۔ صدیق دیندار اور اس کی کتابوں سے جہاں قادیانیت کو تقویت پہنچی تھی وہاں انہی کے ذریعہ لاہوریت کا پرچار بھی رہا۔ چنانچہ محمد علی لاہوری کے بارے میں لکھتا ہے: "حضرت مولانا محمد علی امیر جماعت احمدیہ نے ایک خط میں مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ سے ہماری جماعت کا ہر فرد خوش ہے۔" (صفحہ ۱۱)

ایک ایسا ہی خط قادیان سے آیا ہے اسے بھی ذیل میں درج کرتے ہیں:

مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عرض یہ ہے کہ مجلس مشاورت کے بعد آئندہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف وفد بھیجنے کی کوشش کی جائے گی..... بہرحال آپ کام کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے۔ مزید برآں یہ عرض ہے کہ بوجہ مالی تنگی اس علاقہ کی طرف توجہ نہ ہوسکی..... کام کی رپورٹ براہ کرم بھیج دیا کریں اور مشکلات و نتائج سے آگاہ کرتے رہیں۔

والتسلیم، دستخط عبدالرحیم نیر نائب ناظر دعوۃ و تبلیغ قادیان

(منقول از کتاب خادم خاتم النبیین ص ۴۸)

جس کتاب سے یہ حوالے دیئے جا رہے ہیں وہ خود بانیٔ انجمن صدیق چن بسویشور کی تصنیف ہے۔ ان اقتباسات بالخصوص مذکورہ خط سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیندار انجمن باقاعدہ ایک شاخ کی حیثیت سے اپنے مرکز قادیان میں کام کی رپورٹ اور نتائج بھجوایا کرتی تھی۔ اس لئے جماعت کے بعض افراد کا یہ کہنا کہ ہمارا قادیانیوں سے نہ نظریاتی کچھ تعلق ہے اور نہ کسی اور قسم کا، بدیہی البطلان ہے۔

دیندار انجمن والوں کا امتحان

عوام کی دھوکہ دہی کے لئے دیندار انجمن کے مبلغین یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا قادیانیوں اور ان کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہماری انجمن کے بانی چن بسویشور کے وہ عقائد نہ تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تھے اور یہ کہ وہ نبوت کے مدعی نہ تھے۔ وغیرہ!

یہ سب فریب اور ملمع سازی ہے۔ جہاں تک ان کے مرزائیت کی دونوں جماعتوں قادیانی اور لاہوری سے تعلقات کا معاملہ ہے۔ اس سے متعلق ہم پیچھے خود بانیٔ جماعت کی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت قادیانی جماعت کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ چن بسویشور کا اتفاق اور غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود وغیرہ ماننے کی تصریحات بھی پیچھے ذکر کی جا چکی ہیں اور خود بانی کے دعوئ نبوت سے متعلق بھی بعض عبارتیں پیچھے آ چکی ہیں اور بعض آئندہ آ رہی ہیں۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ ان کا انکار کسی طرح نہیں کیا جا سکتا۔

اگر واقعۃً ان مبلغین حضرات کو ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ خوشی کا مقام ہے۔ مگر صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں بلکہ جن لوگوں نے جیسے صدیق چن بسویشور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان سب کو علی الاعلان تقریراً و تحریراً کافر کہیں اور ان کی کتابوں کو میدان میں رکھ کر جلائیں ان کی جماعت سے اپنی براءت کا اظہار کریں۔ اگر اس کے لئے تیار نہیں بلکہ بانیٔ انجمن کے نام لیواؤں میں اپنے کو شمار کرتے ہیں۔ ان کی تحریک کو آگے بڑھانے میں مصروفِ عمل رہتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو چھاپتے اور ان کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہمارا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ جس طرح بانیٔ جماعت چن بسویشور اپنے عقائد کفریہ کی بنا پر دجال اور دائرۂ اسلام سے خارج شمار کیا جاتا ہے۔ یہی حکم ان کا بھی ہوگا۔

قارئین حضرات! اس کا تجربہ کریں۔ جب بھی بھیڑ کی صورت میں کسی بھیڑیئے کو دیکھیں۔ لمبی لٹوں اور سبز پگڑی والے کسی خوش صورت منافق سے ملاقات ہو تو اتنا تو ان سے

ملعون چہرہ ہی پر اس کی دل کی ظلمت نمایاں ہوگی۔ مزید تجربہ کے لئے اس سے مرزا قادیانی اور ختم نبوت سے متعلق دریافت کریں تو وہ مرزا سے سخت بیزاری اور ختم نبوت پر ایمان کی تقریر کرے گا۔ اگر آپ اس سے ملعون قادیانی اور چن بسویشور کی تکفیر کے اعلان کا مطالبہ کریں تو وہ اس پر ہرگز تیار نہ ہوگا۔

آج سے تقریباً بیس برس قبل غالباً ۱۳۹۷ھ میں مجھے دارالعلوم کورنگی میں اطلاع ملی کہ لانڈھی ماچس فیکٹری کی مسجد میں دیندار انجمن کا ایک منافق امام ہے۔ میں نے دارالعلوم سے ایک طالب علم کو چن بسویشور کی کتابوں کے حوالے مہیا کر کے جمعہ کے روز اس مسجد میں بھیجا۔ انہوں نے بوقت نماز جمعہ عوام کے سامنے اس مردود امام کے نفاق کا پردہ چاک کیا۔ لوگوں نے اس ملعون کو انتہائی ذلت کے ساتھ مسجد سے نکالا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کا دیندار انجمن اور قادیانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ پکا مسلمان ہے۔ بالآخر یہاں تک کہا کہ میں آپ کے سامنے اسلام قبول کرتا ہوں اور مرزا قادیانی اور چن بسویشور کو کافر کہتا ہوں۔ آپ میری امامت بحال کرا دیں۔ میں نے کہا کہ آپ جمعہ کے روز اسی مسجد میں یہ اعلان کریں۔

”میں پہلے مرتد تھا۔ اب دوبارہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں غلام احمد قادیانی اور صدیق دیندار چن بسویشور اور ان کی جماعت کو کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ میں آئندہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔“

تحریری اعلان اخبار جنگ اور انجام میں بھی شائع کریں۔ اس کے بعد آپ کو مسلمان قرار دیا جائے گا۔ باقی رہا امامت کا مسئلہ تو آج ہی کوئی سکھ اسلام قبول کرے اور فوراً اسے امامت کا منصب بھی دے دیا جائے یہ نہ عقلاً قابل تسلیم ہے نہ شرعاً۔ ایک سال تک آپ کے حالات اور دیندار انجمن سے قطع تعلق کا جائزہ لیا جائے گا۔ اطمینان ہونے کے بعد آپ کو امام بنایا جا سکتا ہے۔

اس منافق نے جب دیکھا کہ یہاں اس کا کوئی داؤ نہیں چل رہا تو راہ فرار اختیار کی۔ کسی دوسری مسجد میں جا کر امامت کی صورت میں عوام کے ایمان پر غارتگری شروع کر دی ہوگی ۔

بھیڑیئے پہنے ہوئے پھرتے ہیں بھیڑوں کا لباس

حضور ﷺ کی بعثت ثانی

اپنی کتاب مہر نبوت میں لکھتے ہیں: "الحمد للہ اعلان نبوت جناب احمد یاں مسیح موعود کی شہرت کا باعث بنا اور یہ شہرت قیامت کے قائم ہونے کی ایک عظیم الشان حجت تھی۔ یہی اعلان قیامت بعثت ثانی کے ثبوت میں بینات بن کر ہمالیہ کے پہاڑ کی طرح سربلند اور مستحکم کھڑا ہے۔"

(مہر نبوت ص ۵۶)

اس عبارت سے تسلی نہ ہو تو مزید تشریح سنئے: "جب بعثت ثانی میں ان کے باپ حضرت محمد مصطفی ﷺ تشریف لائے ان کو چھوڑ کر احمدیوں نے رسول اللہ کی حقیقت کو قائم رکھنا چاہا تو ان کو ٹکڑوں میں جدا کر دیا۔" (مہر نبوت ص ۳۶)

میرے خیال میں حضرات قارئین نہیں سمجھے ہوں گے۔ یہ دقیق فلسفہ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو نبی برحق ہے تو یہ احمدی (قادیانی) تجھے کیوں نہیں مانتے؟ جواب یہ دیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے تو اکثر عیسائیوں نے نہ مانا۔ اسی طرح مسیح موعود کے بعد جب دوبارہ حضور کی بعثت ثانی بشکل محمود جلوہ گر ہوئی تو ان احمدیوں نے بھی عادت سابقہ کی طرح نہ مانا۔

اگلی عبارت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ ملاحظہ ہو: "دوسرے الفاظ میں اس ولی کے وجود میں بذاتہ قیامت حضور منبع انوار خود تشریف لائے ہیں۔ اس حقیقت کی وجہ سے یہ بروز محمد کہلاتا ہے۔ اسی وجود کی تشریف میں مسیح ظاہر ہوتا ہے۔ جو "انہ لعلم للساعۃ" کی حقیقت منکشف کرنے کے لئے بجلی کی طرح چمک دکھا دے کر معرفت کا طوفان مچاتا ہے۔ قیامت کا مصدر بننے کے لئے اس کی بدنامی مقدر ہوتی ہے۔" (مہر نبوت ص ۴۴)

قارئین حضرات! اس عبارت میں آخری فقرہ "بدنامی مقدر ہوتی ہے" کو دوبارہ ملاحظہ فرمالیں۔ کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ خدانخواستہ آپ کی بدنامی مقدر ہو۔ یقیناً نہیں تو کیا جو خدا کا نبی یا بروزی نبی ہوگا۔ اللہ کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کی بدنامی ہی مقدر ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رسوا سر بازار کو امتحان و آزمائش اور بدنامی میں امتیاز نہیں۔ لیکن اچھا ہوا اپنے ہی قلم سے تقسیم مناصب کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب اور نبی ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ اسے

آزمائش میں ڈالتے ہیں ؎

آزمائش ہے نشان بندگان محترم
جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم

اور جو نبی نہیں بلکہ متنبی (جھوٹی نبوت کے دعویدار) ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لئے بدنامی مقدر ہوتی ہے۔ چمن نسویشور کو اپنی حقیقت کا علم تو تھا ہی اس لئے حقیقت ظاہر کردی کہ وہ ایسا بروز محمد ہے کہ بدنامی اس کے لئے مقدر ہے۔ "مسود اللہ وجہہ یوم القیامۃ"

بروز محمد کی تشریح

پچھلی عبارت میں بروز محمد (ﷺ) کی تشریح اگرچہ آچکی ہے کہ اس ولی کے وجود میں حضور ﷺ انوار خود آتے ہیں۔ لیکن اس کی مزید تشریح اشعار میں بھی کردی ہے۔ اسے بھی ملاحظہ فرمالیں۔

بروز محمد ہے نبیوں کا حاکم
ہے مظہر خدا کا قرآں کا ہے عالم ہے قاضی حشر حوض کوثر کا قاسم

(مہر نبوت ص ۳۳)

سرور دو جہاں ﷺ نے اپنے کو جو بھی فخر نہیں فرمایا: "سید ولد آدم" تو فرمایا ہے لیکن حاکم الانبیاء نہیں فرمایا۔ اس لئے یہاں بروز محمد کی جو تشریح کی ہے وہ ایسا بروز ہے۔ جو حضور ﷺ سے بھی قدر و منزلت میں بڑھا ہوا ہے۔ بلکہ قاضی حشر یا مالک حشر تو صفات خداوندی ہیں۔ اس لئے بلا مبالغہ بروز محمد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا جو صفات محمدیہ کے ساتھ متشکل ہو.....

چمن نسویشور آیا ہے۔ وہی بندہ نواز ہے ؎

خرد کو جنوں کہہ دیا جنوں کو خرد
جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے

مذہب چمن نسویشور میں اس کے اندر کوئی استقلال نہیں۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک مسلمان کا درجہ نبی کے برابر ہے اور جو جامع الانبیاء ہو وہ ظاہر ہے کہ کم از کم خدا تو ہوگا ہی۔ مسلمان اور نبی کا درجہ برابر ہے۔ اس سلسلے میں خود چمن نسویشور کے الفاظ سنیے ؎

۴۳۵

نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کچھ کم

(مہر نبوت ص ۲۱)

یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ورنہ عام مسلمانوں کے برابر ہوتا۔ العجب ثم العجب!

بسویشور کے دربار میں نبیوں کا اجتماع

ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوعِ انساں کو

حد ہوگئی ہوس جاہ کی، مامور وقت سے لے کر مہدی آخر الزمان اور یوسف موعود وغیرہ خیالی مراتب تک پہنچنے کے بعد اب بھی ہوس پوری نہیں ہوئی تو سمجھنے لگا کہ تمام انبیاء میرے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔

فرماتے ہیں: ”بروز محمد سے مطلب بعثت ثانی میں ”آخرین منہم“ کے مالک اور آقا ہیں..... یہی وقت اجتماع انبیاء کا ہوگا۔ جب کل انبیاء جمع رہیں گے ان پر حاکم ایک امتی ثانی ولی رسول ہوگا۔ جو بروز محمد کہلائے گا۔“ (مہر نبوت ص ۴۲)

جب محمد بروز محمد ہوگئے محمد ﷺ کی بعثت ثانی بشکل چن بسویشور ہوگئی۔ بیت المقدس کی بجائے حیدرآباد دکن میں انبیاء کرام جمع ہوگئے۔ حاکم بسویشور صاحب مقرر ہوگئے۔ اب آسمان سے نزول قرآن کے خیالی تصور میں کیا دیر لگتی۔ اس لئے ارشاد ہے: ”علم قرآن جب [illegible] عروج میں اولیاء کی بعثت کے زمانہ میں بتدریج ایک ہزار سال کے اندر آسمان پر چڑھ جائے تو دوبارہ وہ ذات بابرکت تشریف لائیں گے۔ ان پر علم قرآن نازل ہوگا۔“

(مہر نبوت ص ۴۳)

عجیب وہ قرآن جس کا نزول سرکار دو عالم ﷺ پر مکہ و مدینہ میں ہوتا تھا۔ آج ہندوؤں کے اوتار چن بسویشور پر اس کا نزول حیدرآباد دکن میں ہوگیا ؎

واے رے قرآن مظلومی تری

بھائیوں کی کتاب اقدس دنیا میں عمل کے لئے آئی تھی۔ فضا سازگار نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ کر چھپ گئی۔ فضا سازگار ہوگی تو پھر نزول کرے گی۔ اس دشمن خدا کے نزدیک قرآن بھی ایک ہزار سال تک بھاگ کر آسمان پر چھپا رہا۔ اب چن بسویشور کی موجودگی میں حیدرآباد کی فضا سازگار

ہوئی تو وہ اتر آیا ؎

ہائے ناکامی متاعِ عقل ہی غارت گئی

ارے دشمن خدا! ہوش کے ناخن لے کہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بھاگا کرتی ہے۔ کتاب اللہ تو اس لئے آتی ہے کہ بے عمل کے زمانے میں لوگ اس سے عمل سیکھیں۔

دریدہ دہنی کی انتہا کر دی

پہلے مسیلمہ کذاب کی یہ جملہ سن کر داد دیں۔ ” یہ فقیر تو فنا فی الرسول ہے اپنے اندر سے حضور شمع انور کی قدسی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے میرے سامنے نہیں بلکہ حضور شمع انور کے سامنے کل انبیاء زانوئے ادب طے کئے بیٹھے ہیں۔ “ (مہر نبوت ص ۲۴)

دیکھ لیا من تو شدم تو من شدی کا عجیب و غریب مظاہرہ کہ کل انبیاء میرے سامنے زانوئے ادب طے کر کے بیٹھے ہیں۔ مگر چونکہ میں بروز محمد ہوں۔ اس لئے درحقیقت حضور کے سامنے انبیاء ادب سے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسا عجیب منطقی جمع ہے۔ نبوت بھی اپنی ایجاد اور منطق بھی۔

یہ مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج نہیں تو اور کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ایسی توہین کہ وہ ایک ہندو کذاب کے سامنے زانوئے ادب طے کئے بیٹھے رہیں۔ اس انجمن کی کوئی تصنیف اس قسم کی خرافات سے خالی نہیں۔ ضرور ان حرکات شنیعہ کے پس پردہ کوئی شقی ہاتھ کام کر رہا ہے مگر ؎

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں
کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے

جنت نہیں بیکار خانہ

تصور آخرت، جہنم کا خوف، جنت کی طلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کو عمل کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اس لئے اس دشمن خدا کے دل میں یہ شرارت پیدا ہوئی کہ پہلے اس تصور کا خون کر دیا جائے تاکہ آگے مختلف رد و بدل کر کے اپنی ہوس پوری کی جا سکے اور تصور آخرت دل سے مٹ جانے کے بعد مسلمان محض نفس بن کر اس کی ہوسناکیوں کو برداشت کر لیں۔ ارشاد ہے:

"جب دنیا میں گناہوں کا زور ہوتا ہے تو جنتی ارواح کو غیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے اذن سے بصورت اولیاء اللہ آ کر کام کرتی ہیں۔ ورنہ یہ خیال کیا جائے کہ جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں پڑے رہتے ہیں۔ اس سے تو جنت نہ ہوئی۔ بیکار خانہ ہوا۔ بیکاری انسان کی بیکاری کا باعث ہوا کرتی ہے۔ بیکار انسان جنتی نہیں کہلا سکتا۔" (معراج المومنین ص ۵۶)

برادران اسلام اس طرز فکر کو سمجھئے مرنے کے بعد انسان کامل کہاں جاتے ہیں؟ وہ بارہ لوٹ کر گناہوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں؟ لوٹنے سے قبل کہاں تھے؟ بیکار خانہ جنت میں جن نہ پیشور کے عقیدہ کے مطابق اب ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد حضور کی بعثت ثانی ہوئی۔ لیکن اس ساڑھے تیرہ سو سال میں حضور کہاں تھے؟ کیا نعوذ باللہ بیکار خانہ میں رہے؟ اگر نہیں تو فرمایئے اس درمیانی وقفہ میں کہاں رہے؟

مسلمانو! ہوش میں آ ؤ کچھ سمجھے، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جن نہ پیشور تک ہے۔ تصور آخرت غلط ہے۔ جنت بیکار خانہ ہے۔ حضور ﷺ بیکار خانہ میں رہ نہیں سکتے۔ اس لئے آپ اسی دنیا میں بلباس دیگر تشریف لائے ہیں۔ جب تمہارا نبی اس بیکار خانہ میں رہنے کو پسند نہیں کرتا تو تم جنت کی فکر میں لگ کر کیا حماقت کر رہے ہو؟

یہ چہرے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں کس قدر منہمک ہیں اور ستم بالائے ستم یہ کہ مسلمانوں سے چندہ کر کر کے اسلام کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر دل و دماغ بے قابو ہوئے جاتے ہیں۔ اے کاش کہ اس وقت میرے ہاتھ میں بجائے قلم کے تلوار ہوتی اور حضور اکرم ﷺ فداہ ابی وامی کی توہین کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے ان جھوٹے نبیوں، بدعقیدہ انجمن والوں اور ان تمام لوگوں کی گردنیں قلم کرنے میں مصروف ہوتا جو ان دجالوں کو چندہ دیتے ہیں۔ مگر ؎

یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری

؎

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

راز کھل گیا

اسلام پر مرمٹنے والو! خوب سمجھ لو۔ چن بسویشور کو حضور اقدس ﷺ کے ساتھ محبت نہیں کہ آپ کا بروز اور فنافی الرسول بنا رہا ہے۔ بلکہ یہ سازش انگریز نے سوچ سمجھ کر تیار کی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے عشق کے درجہ تک محبت ہے اور اس کو کم کرنے کی اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو ان کی نظر انتخاب اس پر پڑی کہ لوگوں کو پہلے یہ باور کرایا جائے کہ حضور کا بعینہٖ اپنی تمام صفات کے کسی دوسرے انسان میں حلول ہو جاتا ہے اور پھر چند بداخلاق خفتہ ان کو اس دعویٰ پر تیار کر دیا۔ تاکہ مسلمان یہ دیکھ لیں کہ ہمارا نبی جس پر ہم مرمٹنے کو تیار ہیں۔ وہ ان اخلاق و عادات کا مالک ہے۔

لیکن اس بد دماغ کو یہ نہیں معلوم کہ جو منافق ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اسلام کو ان کی ضرورت نہیں بلکہ اچھا ہوا کہ ان کے ذریعہ کھرے کھوٹے الگ ہو گئے اور جو مسلمان ہیں۔ ان کو حضور کی صفات عالیہ و اخلاق حمیدہ کا درس رب العزت نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید میں دے دیا ہے: ''وکان خلقہ القرآن (حدیث)'' {آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔}

یہ سبق مسلمانوں کو اس قدر یاد ہو چکا ہے کہ بھولے سے نہیں بھولتا۔ تمہاری اس سازش کا صرف یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو منافق بشکل مسلمان اسلام کے ٹھیکیدار بنے تھے۔ وہ الگ ہو گئے۔ فللہ الحمد علیٰ ذالک!

مچھ اوتار

چن بسویشور کے متعلق حقیقت حال خود اس کی زبانی معلوم ہوگئی کہ وہ اپنے کو مسلمانوں کا پیغمبر نہیں ہندوؤں کا اوتار کہتا ہے۔ مہر نبوت کی عبارت ملاحظہ ہو: ''ہے کوئی دنیا میں نبی ایسا جس کے دربار میں انبیاء جمع ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء اور مچھ اوتار سے لے کر گوتم بدھ اوتار تک کل انبیاء جمع ہوں۔'' (مہر نبوت ص ۶۲)

پھر وہ ایسا نبی کون ہے۔ اس کی خود تشریح فرماتے ہیں: ''یہ پیغمبر ثانی الرسول اپنے بعد سے حضور شمع انوار کی قدسی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے میرے سامنے نہیں بلکہ حضور شمع انوار کے سامنے کل دنیا زانوئے ادب طے کئے بیٹھے ہیں۔'' (مہر نبوت ص ۶۲)

پچھلے کئی صفحوں میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ انہوں نے ہندو سادھوؤں کو اولیاء اللہ کہا ہے۔ پہلے تو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ ہندوؤں کو اولیاء اللہ کیسے کہا۔ مگر جو خود کو ہندوؤں کا اوتار کہے

ظاہر ہے وہ ہندوؤں کو اولیاء اللہ ہی کہے گا۔ ایسی تحریریں دیکھ کر بے ساختہ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے گرو ہندوؤں کا اوتار ثابت کر رہے ہیں۔ مگر سوائے اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ؎

عجب فقط آسماں ہی نہیں
یہاں پہ عجائب نظارے بہت
فلک پہ ہی دمدار تارا نہیں
زمیں پہ بھی دمدار تارے بہت

نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کچھ کم

دل پہ انتہائی جبر کر کے لکھ رہا ہوں۔ ورنہ تو قلم ایسی عبارتیں نقل کرنے کو تیار ہے۔ نہ ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی کفریات کو نقل کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ایسی توہین آمیز عبارتیں دیکھ کر جذبات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جگر قاش قاش ہوا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں کو ان کے مکائد سے بچانے کی خاطر یہ مذہب ان کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ورنہ ان خرافات کا نقل کرنا تو درکنار میں ان کو دیکھنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔

چمن زمن بھیشور نے بے ساختہ اپنے مریدین کی بھی آخرت تباہ کر ڈالی۔ ان کو سبز باغ دکھا کر ان کا ضمیر مول لیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پیر صاحب تو محمد ثانی بن بیٹھیں اور مرید بیٹھے منہ تکتے رہیں اس لئے اپنے مریدین کو انبیاء کا معزز لقب دے کر انہیں الو بنا دیا۔ قارئین حضرات کو یاد ہوگا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے چیلوں کو صحابی کا لقب دیا تھا۔ لیکن یہاں تو ایں خانہ ہمہ آفتاب است والا معاملہ ہے۔ ارشاد ہے ؎

بروز محمد ثانی از سر ما
ہمہ انبیاء را رفیقہای ہم

جہاں اپنے مریدین کو خوش کرنے کے لئے انہیں نبی کا خطاب دیا۔ وہاں عام مسلمین کی دلجوئی کے لئے عام قانون بنا دیا کہ ؎

نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کچھ کم

چلتے لگے ہاتھوں، چمن زمن بھیشور کی اپنی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ''جو مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی قدم میں کسی نہ کسی نبی کا مثیل بننے کی بالقوۃ طاقت رکھتا ہے اور

دوسرا المیہ حضرت مسیح موعود کا مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے کہ کسی مسلمان کو خیال تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی بچے کا نام کسی نبی کی غلامی میں رکھے۔ جیسے عام طور پر غلام محمد، غلام احمد، غلام علی، غلام دستگیر نام رکھتے ہیں۔ اس طرح غلام ابراہیم، غلام موسیٰ، غلام عیسیٰ نہ رکھنے کا کسی مسلمان کو خیال نہیں ہوتا۔ کیونکہ ؎

نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کم

{مہر نبوت ص ۲۰۹، ۲۱۰}

اس خامہ فرسائی کو دیکھ کر ان کی عقل پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ یہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا رد کرنے کے لئے کاغذ ضائع کیا جائے۔ لیکن اس کی آڑ میں مرزائی انجمن کے موجودہ گورنر اعلیٰ سعید بن وحید نے کشمیر میں سیرت النبی کے جلسہ میں کہا تھا کہ "جہاں سے نبوت ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے تو مومن کے کمال کا آغاز ہوتا ہے اور کوئی مومن اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبہ سے نیچی بات کا دعویٰ کرتا ہے۔"

دریدہ دہنی کی انتہا ہو گئی کہ مومن نبی سے بڑے درجے کا ہوتا ہے۔ نبی اگر مومن سے کم درجہ ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ انبیاء مومن نہیں اور جب انبیاء کے لئے مومن ہونا ضروری نہیں تو وہ کافر ہی ہوں گے۔ عجیب کہتے ہیں، بے شعور صاحب عجیب منطق چلا رہے ہیں۔ نبوت اتنی سستی کر دی کہ ایمان کی شرط بھی نہ رہی۔ اگر نبوت بے ایمانی اور بے غیرتی کا نام ہے تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو ؎

رقیب سر بکف ہیں تو عشق ہو تسلیم
یہی ہے عشق تو اب ترک عاشقی اولیٰ

{اکبر الہ آبادی}

حقیقت کچھ اور ہے۔ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دراصل غلام احمد قادیانی کی بدولت مسیح موعود، مہدی آخر الزمان اور نبوت کے دعوے کو کھلی چھٹی ملی۔ چنانچہ سینکڑوں جھوٹے نبی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بھی شوق ہوا کہ چلو ہم بھی انہی کے ساتھ ؎

نہیں معلوم منزل ہے کدھر کس سمت جاتے ہیں
چلا ہے قافلے میں شور ہم بھی چل جاتے ہیں

{اکبر الہ آبادی}

جن سہ پشور نے اپنی تصانیف میں بار بار مقام مسلم کو مقام نبوت سے اعلیٰ و افضل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی تصنیف مہر نبوت کے شروع میں رقمطراز ہیں ۔

نبوت کے اسرار بے انتہا ہیں
بفضل خدا اس کے در مجھ پہ وا ہیں
کہوں رازداری کے اسباب کیا ہیں
میں ان کی جگہ ہوں وہ میری جگہ ہیں
کہ عیسیٰ تلک جس قدر انبیاء ہیں
وہ رفقاء کار رسول خدا ہیں
فنا فی الرسول خدا جو ہوا ہے
وہ از ریب حق میں فنا ہوگیا ہے
کہ نبیوں سے دربار اس کا کھرا ہے
ہیں رفقاء نبی یہ عجب ماجرا ہے

نیز اسی کتاب کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ۔

ہے فائق ہمارا ولی ہر نبی پہ

انتہا کر دی جن سہ پشور کے شاگرد مولوی غازی ابوالکلام عبدالغنی نے۔ پیر نے تو صرف اپنے رفقاء کی انبیاء پر فضیلت ثابت کی۔ مگر عبدالغنی سود اللہ وجہہ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ جن سہ پشور کا مبعوث ہو کر محمد ﷺ کی امت میں آ جانا دوسرے انبیاء کے لئے باعث معراج ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لکھتے ہیں ۔

محمد کی امت میں پھر ان کا آنا
نبیوں کا گویا ہے معراج پانا

(حسن الغنی ص ۲۴)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن سہ پشور مہر نبوت لکھتے وقت یہ قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ انبیاء کی توہین جس قدر ہو سکے اس میں کوئی کسر نا اٹھا رکھیں گے۔ لکھا ہے: "ان کا ایک وجود کئی انبیاء کو اپنے اندر رکھتا تھا۔ اسی وسیلہ سے انبیاء اقوام عالم جن پر صرف سلام تھا۔ رحمۃ اللہ اور رضی اللہ کے حقدار ہو گئے۔" (مہر نبوت ص ۳۴)

ستم بالائے ستم

توہین نبوت کا جو کردار جیش بن بشیر نے ادا کیا ہے۔ اس کو نوک قلم پر لاتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کے مرید ابوالکلام عبدالغنی نے توہین نبوت کا جو بیڑا اٹھایا ہے۔ بلاشبہ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو تو وہ اس بدبخت کا سر کچلنے کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے۔

لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنبش تھے

اے کاش کہ میرے مسلمان بھائیوں کو ان کی خرافات کا پہلے سے علم ہوتا۔ تاکہ مجھے نقل کفر کی ضرورت نہ پیش آتی اور خدا شاہد ہے کہ نقل کفر کفر نباشد کو سامنے رکھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ عبدالغنی مذکور کی عبارت ملاحظہ ہو۔

"جماعت دیندار ان کو خطابات من جانب اللہ ملے ہیں۔ دو سو سے زیادہ مرد میدان اکثروں نے نبیوں کے منازل طے کئے۔ وہ متعدد انبیاء کے ناموں سے پکارے گئے۔ وہ دوبارہ بروز محمد (خاتم و سرور عالم آصف گھر دکن) میں جمع ہیں۔ صرف رام اور کرشن اوتار ہی ایک درجن سے زیادہ ہیں۔" (شمس الضحیٰ ص ۱۰۰)

غور فرمایئے! کیا یہ چیلا اپنے گرو سے سبقت نہیں لے گیا؟ واقعی لائق انعام ہے۔ چٹکیوں میں جماعت کے درجنوں افراد کو ہندوؤں کا رام اور کرشن اوتار بنا دیا۔ کئی حضرات کو آن واحد میں نبی بنا دیا اور جو مستحق نبوت ہیں۔ ان کو خطابات من جانب اللہ تقسیم کر ڈالے۔ بخدا یہاں تو قادیانیت بھی شرما رہی ہے۔ وہاں تو جہان تین کے بعد نبوت ملا کرتی تھی۔ مگر یہاں تو منازل نبوت بہت جلدی طے ہو جاتے ہیں۔

ادھر تو یہ ظالم قوم کا لاشہ کو اپنا سامان طرب بنا کر رقص کر رہے ہیں۔ ادھر مجموعہ تابنہ میں خرافات بکی جا رہی ہیں اور وہ لوگ جن کو نبوت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔ انتظار میں بیٹھے بندروں کی طرح ان بدبختوں کی ڈگڈگی پر رقص میں مصروف ہیں۔

صحابہ کی گروہ بندی

سرور کائنات ﷺ کے صحابہؓ کو جو اعزاز حاصل ہے۔ اب جیش بن بشیر اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے لوگوں کا بھی وہی مرتبہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح صحابہ کے دو دور ہو جاتے ہیں۔ اس خوش کن گروہ بندی کو ذکر کر کے دو قرنوں سے متعلق لکھتے ہیں: "اب تک یہ وعدہ دو دفعہ پورا ہو چکا۔ (۱) حاجب قرن اولیٰ (۲) حاجب قرن اخریٰ۔"

(مہر نبوت ص ۴۴)

یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بے شعور صاحب تو شور مچائیں اور باشعور صاحب خاموش منہ تکتے رہیں۔ اس لئے گرو کی لے میں لے ملا کر عبدالغنی باشعور فرماتے ہیں۔

عیاں قرآن اولیٰ میں تھی ان کی حکمت
عیاں قرآن اخریٰ میں ہے ان کی حکمت

(شمس الضحیٰ ص ۷۸)

شمس الضحیٰ

اس کتاب کا مصنف ابوالکلام عبدالغنی ہے۔ جس کی کتاب کے متعدد حوالے پیچھے گزر چکے ہیں۔ اس کتاب پر وحیدہ انجمن کے بانی چمن بسویشور کی تقریظ ہے۔ اس تقریظ کی وجہ سے کتاب کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ چمن بسویشور اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں: "مصنف کتاب ہذا مولوی غازی ابوالکلام عبدالغنی صاحب مصنف میثاق الانبیاء نے مضامین تبلیغ کو مسدس کی صورت میں منضبط کیا ہے۔ وہ کتاب میری نظر سے گذری۔ انتہائی معقولیت سے کام لیا ہے۔ ہماری انجمن کے جذبات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ درحقیقت وہ جذبات کیا ہیں۔ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ یہ کتاب ہر مسلم کو ہدایت کا باعث ہوگی۔ شفاعت کا باعث ہوگی۔ پڑھنے والوں کو صراط مستقیم پر لائے گی۔" (دیکھا چمن بسویشور الرقوم مورخہ ۲۵ رجب المرجب ۱۳۶۵ھ)

یعنی صاحب تقریظ یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت اور صراط مستقیم پر لانے کی غرض سے تصنیف کی گئی ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کتاب کی چند عبارات اور چمن بسویشور کی تصنیف کی خرافات کو سامنے رکھ کر قارئین حضرات خود فیصلہ فرمائیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تو تمام انبیاء چمن بسویشور کو یوسف موعود، مثیل موسیٰ، مسیح موعود، مامور وقت، امام الناس، مالک قیامت، بروز محمد اور رسول اللہ بشکل چمن بسویشور مان لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک!

لتنذر قوماً لدّا

کہتے ہیں شیطان کی آنت بہت لمبی ہوتی ہے۔ ان کی لغویات کا بھی عالم ہے کہ بیان کرنے والا تھک جاتا ہے۔ مگر ان لغویات کا عشر عشیر بھی نہیں کہہ پاتا۔ لیکن لتنذر قوماً لدّا کی جو تفسیر کی ہے۔ وہ تو دریائے معرفت ہے۔ خاص کر اس پر جو عبارت ثبت کر کے اس آیت کی وضاحت کی ہے۔ وہ تو بے نظیر ہے۔ جلدی سے سن لیجئے۔ اسکی بے بہا لعنت اور کمی

سے نہیں ملتی۔

”وہ کس قدر خوش قسمت ہیں کیسے آ سکتے ہیں۔ جن کے سینے میں قرآن پڑھنے کا جذبہ ہو۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے آسان زبان میں یعنی صدیقی کی زبان سے قرآن پڑھ کے سمجھے۔ صدیقی کی زبان در اصل محمدؐ کی زبان ہے۔ جس سے محمد پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم نے محمدؐ کی زبان سے پڑھنے کی قید لگائی ہے۔ ”فانما یسرنٰہ بلسانک“ اور آگے ہے ”لتنذر قوماً لدّاً“ یعنی آپ آخر زمانے میں قرآن آسان کرنے کے لئے تشریف لائیں گے۔“
(حسن اتفاق ص ۴۲)

مصنف کو اختلاط کا مرض ہے۔ صدیقی کی زبان سے جو کتاب تم پر آسان کی گئی وہ قرآن نہیں بیہودوں کی وید ہے۔ جسے تو نادانی سے قرآن سمجھا ہے۔ ارے جس نے قرآن دیکھا ہو وہ تو یہ بیان کرے۔ اپنے گردے سے پڑھ کر تو آئے وید اور تفسیر کرنے بیٹھے قرآن کی

صورت لکھی نہ دیکھی پڑھ لیا دیوان میر
شاعری ان کو نہیں آئی زباں داں ہو گئے

تبلیغ و ہجرت حرام

کتاب حسن اتفاق کے دیباچہ میں غازی عبدالغنی لکھتا ہے: ”اب ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ جہاد۔ جو بھی موجود اور شریعتوں کی بنا پر گذر گیا۔ مستقبل بھی موجود ہے وہ بھی گذر جائے گا۔ آئندہ اس قسم کی تبلیغ، ہجرت اور غزوات تیرہ سو سال تک نہیں ہوں گے۔“ (دیباچہ حسن اتفاق)

جہاد کی حرمت کا حکم تو ان کے گرو غلام محمد قادیانی پہلے سے کر چکے تھے۔ اب چیلے نے آ کر تبلیغ اور ہجرت پر بھی بندش لگا دی۔ مگر برعکس نہند نام زنگی کافور کے مطابق غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت بجا فرماتے ہیں۔ جس تبلیغ کے لئے وید صاحب تشریف لائیں کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آ کر تبلیغ شروع کر دے۔ یہ میراث تو انہی کو ”اباً عن جد“ ملی ہوئی ہے۔ اس پر دوسروں کی دست اندازی جائز نہیں۔

گھن چکر

مسلمانو! کبھی تم نے گھن چکر کے معنی سمجھے اور پھر دیکھے ہیں۔ بشیر صاحب کس طرح گھن چکر بن کر خود نمائی دعوے پر جتے ہیں: ”حضور (یعنی م۔ بشیر) نے فرمایا۔ میرا کام ختم ہو گیا۔

میں ایک طوفانی دورے پر جانے والا ہوں۔ میں ہمیشہ آتا رہوں گا۔ واللہ بڑا کٹھن چکر ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ کسی کی سمجھ میں آ گیا تو وہ خدا ہی نہیں۔" (شمس الضحیٰ ص ۹۰)

برادران اسلام! یہ باتیں عالم ادب میں نہیں کی جا رہی ہیں۔ کسی مجذوب کی بڑ نہیں ہیں۔ یہاں ہر بات سوچ سمجھ کر تصنیف کے لیے فارغ ہو کر مصنف قلم سنبھالے اپنے گرو کی باتیں تبرک سمجھ کر لکھ رہا ہے۔ کسی نے آج تک کسی بدمعاش، شرابی اور چرسی کو نشے میں بھی ایسی باتیں بکتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پر طرہ یہ کہ دیندار انجمن والے ایسی بھول بھلیوں پر خوشی سے جھومے جاتے ہیں اور بعض خود کو مسلمان بلکہ بہتر کہتے ہیں۔ جن کو مسلمانوں میں یہ امتیاز ہے کہ دیندار کہلاتے ہیں۔

سوچ لو

اے میرے فریب خوردہ بھائیو! اب بھی ہوش سے کام لو۔ ہمارا تمہارا دین ایک، خدا ایک، نبی ایک، قرآن بھی ایک، آؤ کلمہ شہادت پڑھ کر دوبارہ نبی کی آغوش رحمت میں آرام کرو۔ ان دھوکہ بازوں کے کٹھن چکر میں آ کر اپنا دین و ایمان، مال و آبرو برباد نہ کرو۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے پوچھ لو۔ خود بھی ذرا عقل سے کام لو۔ یہ عقل ایسے ہی مواقع پر کام میں لانے کے لیے دی گئی ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ؎

ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر
وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا

تفسیری موشگافیاں

صاحب شمس الضحیٰ سورۃ بلد کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "اس کے علاوہ اس سورۃ میں ایک متقیوں کی جماعت کا بھی ذکر ہے۔ جو اسلام کے لئے مصائب جھیلنے والی ہے اور اپنے عمل سے صبر اور رحمت کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ انہی کو اصحاب میمنہ یعنی غازیان اسلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی مخالفت میں آنے والی قوت کو اصحاب مشئمہ یعنی بدبخت گروہ بتایا گیا۔ ان کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آگ میں دھکیل دیئے جائیں گے۔ جس کو نار موصدۃ کہا گیا ہے۔ یعنی اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے "لا اقسم بہذا البلد" کہہ کر ام القریٰ والے بلد امین کی قسم کھائی ہے۔

"انت حل بهذا البلد" میں کہ حضور کے ایک دوسرے بلد میں حریت آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ جو "انت حل" سے ظاہر ہے۔ "و والد و ما ولد" یعنی "بلد امین" کو باپ قرار دے کر بعثت ثانی میں دوسرے بلدہ کو اس کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ جو روئے زمین میں شہر حیدرآباد دکن بلدہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی اپنے بلدہ کا بیٹا ہے۔ جس میں بعثت ثانی کے لئے حضور سرور عالم نے بھی اس آنے والے موعود کو رجل من اہلی او من ولد اہلی تک کہا ہے اور وہ وجود حضرت مولانا صدیق دیندار چن بسویشور کا ہے۔ جنھوں نے جسمانی ۹۶ اور اخلاقی ۹۶ شباہت کے ساتھ یہ دوسرے بلدہ میں نزول فرمایا۔ "ولقد خلقنا الانسان فی کبد" یعنی ایک ایسے انسان کو بعثت ثانیہ کی جا رہی ہے۔ جو اپنے مقصد کے حصول میں انتہائی مشقت اٹھانے سے گریز نہیں کرتا۔ لیکن وہ بلدہ اللہ سے محروم ہے۔ وہ دل کڑا رکھنے کے باوجود رعایت سے بے بہرہ ہے۔ حضور سرور عالم کے بیان اس لئے دوسرے بلدہ میں نزول کو نہیں مانتے اور وہ وجود قاسم رضوی کا ہے۔ "ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد" یعنی انسان پر یہ بعثت ثانیہ کی گئی ہے۔ وہ کیوں اپنے اقتدار میں اس قدر نازاں ہے۔ کیا اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ شاید کسی اور کو اس پر قدرت حاصل ہو؟ یہ وہ ظلم جتایا گیا ہے۔ جب کہ سید قاسم رضوی پوری حیدرآباد ریاست پر حکومت و اقتدار کے نشہ میں چور تھا اور یہ سمجھتا کہ ان کی سیاست اور قوت ہمیشہ رہے گی۔ حضرت صدیق دیندار اور ان کے فقراء کو نظر میں بھی نہ لاتا تھا۔ لیکن آگے بتلایا گیا ہے۔ "یقول اھلکت مالاً لبدا" یعنی بہت آخر وہ شخص اپنے ہاتھوں اپنا بہت سامان برباد کرے گا۔ قوم کی ساری دولت کو اپنی غلط رہبری سے ہلاکت کے گڑھے میں دے دے گا۔"

(شمس الضحیٰ ص ۸۵)

قرآن کریم کی ایسی بیہودہ تحریف کر کے مطالب قرآنی سراسر مطالب نفسانی کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔

قارئین حضرات یہ نہ سمجھیں کہ قرآن تو چن بسویشور صاحب پر دوبارہ نازل ہوا ہے۔ ان پر علوم قرآنی وا ہیں۔ یہی تو قرآن کی ایسی تفسیر کی ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جھوٹے ظالم نے بھی ایسی تفسیر نہیں کی۔ جو خالص نفسانی خواہشات پر مبنی ہو۔ مگر یاد رہے کہ یہ جھوٹ فریب آخر تا کجے

جھوٹ کا بازار تھوڑے روز ہے

بعد اس کے حسرت دل سوز ہے

عدو شرے برانگیزد کہ خیر ما در آں باشد

سورۂ بلد کی تفسیر میں قاسم رضوی کی نسل کو انتہائی ذلت آمیز الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے دریدہ دہن عبدالحق نے لکھا ہے: "اولیاء اللہ کی مخالفت میں دو ہی قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کی نسل صحیح نہ ہو، پھر وہ جو نسل کا تو صحیح ہے لیکن گنہگار ہے۔ سید قاسم رضوی نے بحیثیت صدر اتحاد المسلمین ہمارے متعلق صدر اعظم کو توالی کو لکھ دیا ہے کہ غدار، چور اور ڈاکو ہیں۔ گداگری کرتے پھرتے ہیں۔ اب کیمونسٹوں کے حملے کے موقع پر لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ یہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان، نہ پارسی، یہ بے دین ہیں۔ ان کو بہادر یار جنگ مرحوم ختم کرنا چاہتے تھے۔ افسوس وہ ختم نہ کر سکے۔ میں ان کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ان کو ختم کر ڈالو۔ جہاں پاؤ پکڑ کر سخت سے سخت سزا دو۔ یہ دو سو کے قریب ہیں۔ یہ ختم ہو گئے تو دوسرے نہیں۔" (شمس الضحیٰ ص ۱۰۰)

نیز آپ پر ایک شعر قاسم رضوی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔

گئی بزم میں خود ہی خرطوم تیری
گئی حیف بیکار ہر بوم تیری

(حوالہ بالا)

مصنف نے جس مقصد کے تحت یہ عبارت نقل کی ہے۔ جس میں بہادر یار جنگ کا ان دینداروں کے بارے میں نظریہ اور قاسم رضوی کا ان کو ختم کر دینے کا ذکر کیا ہے۔ وہ تو مصنف ہی بہتر جانتے ہیں۔ مگر اس عبارت سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ اس تحریک سے متعلق دو ایسے حضرات کی رائیں معلوم ہو گئیں۔ جو ان کو قریب سے دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کے دعووں اور دیگر عملی اور اخلاقی کیفیات سب پر واقف ہونے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے۔

نزول قرآن

قارئین حضرات کو یاد ہوگا کہ چن بسویشور صاحب پر نزول قرآن تو بعثت ثانی میں ہو گیا تھا۔ لیکن اس دعوے میں ایک کسر باقی تھی کہ نزول اول کے بعد صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں جمع قرآن بھی ہوا۔ لیکن نزول ثانی میں اس کا ذکر ہی نہیں۔ اس لئے چن بسویشور کے چیلے نے یہ کسر

بھی پوری کر دی ملاحظہ فرمائیں: "انا علینا جمعہ وقرآنہ" یعنی قرآن کا جمع ہونا اور اس کا پڑھنا ایک خاص وقت پر ہوتا ہے اور وہ وقت معین ہے۔ یہ عمل حضور سرور عالم (ﷺ) کے ظہور پر ہوا یا پھر حضرت مولانا صدیق دیندار قدس سرہ العزیز کے وجود نے اس عمل کو پورا کیا۔"
(شمس الضحیٰ ص:۲)

حضور ﷺ کے بعد سے صدیق کے ظہور تا مسعود تک قرآن پاک کا پہلا نزول اور جمع وترتیب باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ اگر اس عرصے میں وہی منزل قرآن مرتب موجود رہا تو نہ چن بسویشور پر نزول کی ضرورت رہی اور نہ چن بسویشور کے جمع وترتیب کی حاجت۔ اور اگر حضور ﷺ کے بعد قرآن ختم ہو گیا۔ العیاذ باللہ! تو فرمایئے کہ اس تیرہ سو برس میں مسلمانان عالم جس قرآن کو قرآن مانتے آئے وہ کیا تھا؟ اس عرصے میں جب قرآن ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو تھا وہ قرآن کے علاوہ تھا۔ اس کی تشریح دیندار انجمن والوں سے مطلوب ہے۔

وشٹ

اب حضرت والا سچ بولنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں: "ہم میں تقریباً تمام ہندوستان کے اوتار ہیں۔ ہم سے ہندوستان کو امن ہوگا۔ دشمنوں کے تیر بھی مت آئے۔" (دیباچہ شمس الضحیٰ)

خیر کوئی بات نہیں دشمنوں کا تیر بعد میں سہی۔ مگر آنجناب نے بات بڑے پتے کی بتادی۔ ایک اوتار کے لغویات کا تحمل بھی مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کے یہی تھی یا خود آپ میں ہندوستان کے تمام اوتار جمع ہیں تو ایسی صورت میں نہ جانے ان خرافات ولغویات کا کتنا بڑا انبار لگا ہوگا اور بلاشبہ یہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے چند اقتباسات اس رسالہ میں بھی ملاحظہ فرما لئے ہوں گے۔

قارئین حضرات! یہ نہ سمجھئے کہ اوتار کی اصطلاح مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہ ہندو سادھوؤں کی اصطلاح ہے۔ ہندوؤں کا خدا کہئے یا موجودہ مذہبی رہنمائی۔ بہرحال اسلام کا دامن ان اوتاروں سے پاک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصنف بیچارے کا میلان ہندوؤں کی طرف زیادہ ہے۔ جس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی نبوت اور دیگر دعاوی کے دلائل بھی انہی کی کتب سے ماخوذ ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ان کی دلجوئی کی خاطر ان کی طرف کچھ بھی جھکاؤ نہ رہے تو یہ نمک حرامی ہوگی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں شوق سے ہندوؤں کا نمک ادا کریں۔ مگر اسلام کو بالکل الگ کریں۔

مقام محمود پر ڈاکہ زنی

میاں بشیر محمود کے چیلے عبدالحق نے اپنی کتاب شمس الضحیٰ میں ایک شعر لکھا ہے ؎

زمانے میں قرآں مشہود ہے اب
کہ ذات محمدی محمود ہے اب

حاشیہ میں اس شعر کی طویل تشریح کی ہے اور ایسی تاویل کی ہے کہ بلاشبہ لفظ تاویل بلکہ لفظ شرم کو بھی شرم آتی ہے۔ لکھتے ہیں: "چونکہ سارے اولیاء حضور کی مدح میں گم تھے۔ لیکن کسی ولی کو مقام محمود حاصل نہیں ہوا۔ اس لئے کہ وہ دور آگے تھا۔ جیسے کہ اس آیت سے روشن ہے۔ "عسیٰ ان یبعثک مقاماً محمودا" آیت کے اس تیسرے حصہ میں حضور ﷺ کی ذات کو مقام محمود پہ لانے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ دور آخر ہے۔ جو موعود ہے۔ حضور نے اسی مقام محمود والی بعثت کے لئے مسلمانوں کو بعد اذان دعا سکھائی۔ جس کی تعمیل میں ہر مسلمان "وابعثہ مقاماً محمودا" کے الفاظ دہراتا ہے۔ ادھر نماز کے قعدہ میں شہادت کی انگلی اسی بعثت ثانی کی شہادت میں اٹھائی جاتی ہے۔ جس کا انکار مسلمانوں میں ہے۔ وہی بعثت مقام محمود والی بعثت ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ پر تیرہ سو سال کے بعد ایک امتی کی قبا پہن کر جلوہ گر ہوں گے۔ اسی لئے قعدہ میں "السلام علیک ایھا النبی" کہا جاتا ہے کہ جس سے حضور سے مخاطبت ہوتی ہے۔ "ایھا النبی" کی مخاطبت غائب کی نہیں ہے۔ بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کی حجت پیش کرتی ہے...... بہرصورت یہ بعثت ثانی کس رنگ میں ہوگی۔ بعثت ثانی میں وہ اپنا نام کیا پائے گی۔ اس کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور سے دعا کرنے کے لئے کہا ہے۔ وہ یہ ہے۔ "قل رب ادخلنی مدخل صدق... سلطانا نصیرا" حضور کے سارے کمالات روحانی کا اگر کوئی وجود متحمل ہو سکتا ہے تو وہ وجود صدیق اکبر کا ہے۔ بعثت اول میں بھی صدیق تھے۔ بعثت ثانی میں بھی صدیق ہی ہیں...... پس اب ظاہر ہوا کہ حضور شاہد و مشہود بھی ہیں اور روز قیامت میں محمود بھی اور اس طرح جب آپ کا اعادہ ہوتا ہے تو موعود بھی ہیں...... حقیقت یہ ہے کہ یہ آخری بعثت ہے۔ جس کو "والبعث بعد الموت" بھی کہا گیا ہے۔ حضورؐ کے سوا کوئی دوسرا وجود اس امت کی اصلاح کے لئے کھڑا نہ ہوگا۔ یعنی اسی امت میں ہی ایک کامل انسان بروز محمد کی شکل میں مبعوث ہوگا۔" (اقتباسات از کتاب شمس الضحیٰ)

ص ۳۰،۲۱)

ولادت سے متعلق اشعار بھی ان لفظوں میں فرماتے ہیں ؎

یہ خود محمود کر آئے مولود ہوکر
شہادت میں خود اپنی مشہور ہوکر

(حسن اکمل ص ۱۲)

نیز ارشاد ہے ؎

نبی بن کے قرآن کے مشہور آئے
قیامت کی بعثت میں محمود آئے
ولادت میں اپنے وہ مولود آئے
غرض دور آخر کے مقصود آئے

(حسن بلیغ ص ۱۵)

مسلمان کے کسی بچے سے پوچھئے وہ بھی کہے گا کہ ہم جانتے ہیں:- یشور کی بعثت کے لئے یہ دعا نہیں کرتے۔ پھر یہ کہنے کی تمہیں کیسے جرأت ہوگئی کہ حضور ﷺ نے تمہاری بعثت کے لئے بعد اذان دعا سکھلائی۔ جس کی تعمیل میں ہر مسلمان "وابعثه مقاما محمودا" کے الفاظ دہراتا ہے۔ یعنی:- یشور کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ مسلمان تیری بعثت کے لئے دعا کررہے ہیں۔

اُف غضب کر دیا بدبخت نے یہ کہہ کر کہ ادھر نماز کے قعدہ میں شہادت کی انگلی اسی بعثت ثانی کی شہادت میں اٹھائی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ حضور ﷺ کے ایک امتی کی شکل میں آنے کی شہادت کوئی مسلمان دے سکتا ہے؟

خدا غارت کرے کہتا ہے کہ حضور کا تیرہ سو سال بعد کسی کی شکل میں ظاہر ہونے کا مسلمانوں میں انتظار ہے۔ مسلمان تو بیچارے خواب میں بھی ایسا گمان نہیں کر سکتے۔ بلکہ دیندار انجمن والے جو بااتفاق کافر اور منافق ہیں۔ وہ بھی اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے فتویٰ لیں کہ کیا واقعی تمہیں کسی کی شکل میں حضور کی بعثت ثانی کا انتظار تھا۔ یقیناً دل سے یہی فتویٰ ملے گا کہ نہیں یہ تو اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد سے تمہارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا جھوٹ کا پلندہ ہے۔

بعثت ثانی پر دلیل کا طریق جو مصنف نے پیش کی ہے۔ وہ یہ کہ قعدہ میں "ایھا النبی" سے حضورؐ کی طرف مخاطبت ہے اور یہ مخاطبت کسی غائب کی طرف نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کی حجت پیش کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملے لکھتے وقت ہمارے مصنف کی عقل کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ کچھ جام معرفت پی لیے ہوں گے۔ کیونکہ ذہن مبارک ایسی بھول بھلیوں کا شکار ہے۔

حضور! فرمایئے کہ بعثت اول اور بعثت ثانی کے درمیان جو تیرہ سو سال آپ بھی مانتے ہیں۔ ان میں کیا مسلمان نماز کے قعدہ میں "ایھا النبی" نہیں کہتے تھے؟ اب فرمایئے کہ اس زمانے میں مخاطبت نے آنکھوں سے دیکھنے کی یہ حجت پیش کی اور اب چن بسویشور کے جہنم رسید ہو کر طوفانی دورے پر جانے کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے مخاطب کہاں موجود ہے اور جس زمانے میں یہ خدا کے غضب کا مظہر چن بسویشور اپنی تمام نحوستوں سمیت آصف نگر حیدرآباد دکن میں موجود تھا۔ اس وقت باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے "ایھا النبی" نے کون سی حجت پیش کی۔ یہ سب سوچ کر اس سے استدلال کرتے۔ ایسے ابوالکلام کو اور کیا کہا جائے۔ سوائے اس کے کہ ؎

اب اگر کچھ شرم ہے تو ڈوب کر مر جائیے
افتراء پردازی و بہتان سے باز آئیے

مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ سادہ دل بندے ایسے بوسیدہ جال میں کس طرح پھنس گئے کہ اگر ذرا سی پھونک ماریں تو ان کے جال کے پرخچے اڑ جائیں ؎

مسلمانو! ذرا سوچو تو دل میں
پھنسے ہو کس طرح تم آب و گل میں

یہ میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفی ﷺ پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ آپ کی دعاء "رب ادخلنی مدخل صدق" میں صدق سے مراد صدیق دیندار چن بسویشور ہے۔ خدارا کم از کم اپنی ہی جان پر رحم کرتے۔ بہتان طرازی کی ایسی مثال ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ دیندار انجمن کا کوئی بھی فرد حضور ﷺ سے اس روایت کو ثابت کر کے دکھا دے۔ ورنہ اس دریدہ دہنی سے توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز میرے آقا کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑا کر

دیا جائے اور حضور ﷺ کی یہ حدیث سنا کر جہنم کے انگاروں میں جھلسنے کے لئے بھیج دیا جائے۔ "من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار" جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

ہلاکت قیصر و کسریٰ

قیصر و کسریٰ کی ہلاکت سے متعلق لکھتے ہیں: "قرن اولیٰ میں ہلاکت کسریٰ والی پیش گوئی حضرت عمرؓ سے پوری ہوئی اور ہلاکت قیصر والی پیش گوئی ساڑھے تیرہ سو سال بعد حضرت صدیق کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ وہ اس طرح کہ قوم انگریز جو قیصر ہند کہلاتی تھی۔ آپ کی حجت سے وہ اپنے مشرقی جزائر کو چھوڑ گئی۔ آج نہیں تو کل آنے والی نسلیں ضرور اس بین حقیقت کو تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکیں گی۔ جیسے کہ یوم الجمعہ میں تمام انبیاء کا اجتماع حضور کے دربار میں ہوا تھا۔ وہی ادارہ اسلام کی صورت میں بعثت یوم الجمعہ بصورت انبیاء کی جماعت کے ساتھ لوٹ آیا۔"

(حسن یقینی ص۱۴)

معاف کیجئے مہاں غلام صاحب! آپ کی نظر تاریخ سے ناواقف ہے۔ قیصر ہند اور ہے قیصر روم اور۔ یہ قیصر ہند آپ کی اصطلاح ہے۔ حضور ﷺ کی نہیں۔ وہ قیصر تو تمہارے جھوٹے حضور کے جہنم رسید ہونے سے برسوں پہلے جہنم رسید ہو چکا ہے۔ ذرا کسی سے تاریخ کے الف بے تے پڑھ لیجئے تو اچھا ہے تاکہ شیطان کے الہامات صحیح سمجھ سکیں۔

ایک مشورہ

ربوہ والی انجمن کے مخترعی کذاب (عبدالغنی) کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ جھوٹ اور فریب کی باتیں باقی چھوڑ جاتے تاکہ آپ کے بعد جو دوسرے مدعی نبوت آئیں گے تو ان کے کام آجائیں گے۔ ورنہ وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ آپ کی یہ ناانصافی ٹھیک نہیں ہے۔

تصور قیامت

قیامت سے متعلق بھی ان ربوہ والوں کی رائے سن لیجئے: "قیامت صغریٰ مسیح محمدی (مرزا غلام احمد قادیانی) کا ظہور ہے۔ جسے نشأۃ اوّل کہا گیا ہے۔ نشأۃ ثانی قیامت کبریٰ کو پیش ہے۔ جو حضور کی ذات کو پیش کرتی ہے۔ اسی کو نشأۃ اخریٰ کہا گیا ہے۔ "وان علیه النشاة الاخریٰ" یعنی دوسری بعثت لازم قرار دی گئی۔ جس طرح اوّل میں ہوا۔ آخر میں ہوگا۔"

(حسن یقینی ص۱۹)

قیامت حشر و نشر اور جزا و سزا کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کے لئے اس قسم کی بکواس بکے جا رہے ہیں۔ تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ جس قیامت سے ہم ڈرتے ہیں۔ جس کے خوف سے کتنی معصیات سے ہم بچے رہتے ہیں۔ وہ قیامت یہ ہے جس میں سے ہم گذر رہے ہیں۔ اس میں نہ جنت ہے نہ دوزخ۔

رحمۃ للعالمین

سارے خطابات تو پیر صاحب نے خود اپنے آپ کو دے دیئے تھے۔ لیکن وہ خود کو رحمۃ للعالمین کہلانے سے بھول گئے۔ اس لئے مرید نے یہ کسر بھی پوری کر دی۔ فرماتے ہیں: "پہلی دفعہ آپ مخلوق پر رحم فرما کر رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے اور مخلوق کو ہر بلا سے بچایا۔ اب دوبارہ آپ ہی تشریف لائے ہیں۔" (شمس الضحیٰ ص ۷)

آپ مخلوق کے لئے رحمت کیا لائے۔ ہاں کفر و ضلالت، الحاد و زندقہ اور بے دینی کے امڈتے ہوئے سیلاب لا کر مخلوق خدا کو گمراہ بنانے کا شیطانی کردار ادا کر دیا اور یہ گشت نامراد ہو کر چلے گئے۔

شفاعت اور قیامت کا مالک

ختم نبوت کی اتنی بات کر دی کہ شفاعت کے ٹھیکیدار بن گئے اور اس پر طرہ یہ کہ یہی دکن پنجی مہ دار جی۔۔ وہ بسویشور قیامت کے مالک بھی بن گئے۔ لکھتے ہیں: "قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز زندہ نبی کی حیثیت سے آئے گا اور سزا و جزا کے فیصلے سنائے گا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ بروز حشر حضور اکرم ﷺ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بعثت ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام میں ختم نبوت کا مسئلہ مسلم ہے۔ اس لئے کوئی شخص حضور کے بعد دعویٰ نبوت نہیں کر سکتا۔ اس لئے امت کی شفاعت آپ ہی کریں گے۔ وہ بلباس دیگر ہوگی۔ وہی بعثت بروز محمد کہلائے گی۔ وہ قیامت کے مالک بن کر آئیں گے۔ وہ وجود حضرت مولانا صدیق دیندار چن بسویشور صاحب کا ہے۔" (شمس الضحیٰ ص ۲۷)

شفاعت کا مسئلہ تو الگ ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قیامت کے مالک بن کر آئیں گے۔ اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں کہ قیامت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اگر چن بسویشور قیامت کا مالک ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خود خدا ہے اور اس کا چیلا عبدالغنی مصنف شمس الضحیٰ اس کو خدا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ یہ مغالطہ بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں ختم نبوت کا

مسئلہ مسلمہ ہے۔ عجیب امر ہے کہ ختم نبوت مسلمہ ہے۔ اس لئے اب بروزی نبی کی حیثیت سے آ جایا کرو۔ یا خدا بن کر آیا کرو۔

فلاح کی راہ

چن بسویشور اپنے اندر لوگوں کے فنا ہونے کو شرط لازم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بعد محمد وحدت کے میں تمام بنی نوع انسان خصوصاً مسلمانوں کو دین کی گردن پر تبلیغ کا جوا ہے۔ وہ کسی صورت سے نکل نہیں سکتا۔ اس کتاب (دعوۃ الی اللہ) کے ذریعہ مطلع کرتے ہوئے کہ کوئی گروہ اور کوئی فرد، جو موجودہ زمانے میں اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک وہ مجھ میں فنا نہ ہو۔ یہ میرے من کی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضور سرور عالم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ لاکھوں کروڑوں ذات احدیت مآب پر سوال سال پیشتر آپ نے اس فقیر کی روحانی تشریف لا کر اس فقیر کو یہ مرتبہ عطاء فرمایا۔ سننے والوں کو یہ بہت شاق گذرتی ہوگی۔ نخوت اور بڑائی کی کوئی بات نہیں۔ یہ حقیقت ہے کوئی شیخی اور فخر نہیں۔ کوئی خود غرضی و خود نمائی نہیں۔ ایسے مقام والے موجود انسان کم ہوتے ہیں۔"

(دعوۃ الی ص ۳)

خدا تک رسائی کے لئے چن بسویشور میں فنا ہونے کا نمبر بعد میں آئے گا۔ مگر ذرا یہ بتا دیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد مبارک جو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ حضور ﷺ آپ کے اندر فنا ہونے کا کیوں فرماتے۔ آپ تو اپنے اندر فنا ہونے کا بھی حکم نہیں دیا۔ یہی فنائیت ہے جس نے دیندار انجمن والوں کا ایمان فنا کر دیا۔ مگر اب وہاں جیل جانے پر بھی ان بے حسوں کو ہوش نہیں آ رہا۔

اللہ کا مظہر اور خدائی اختیارات

اب تک تو چن بسویشور نبوت اور اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ مگر اب پوری خدائی پر قبضہ جمانے کے خوابوں میں مست ہیں۔ ارشاد ہے: "یہ کلی بے نوری اور خدا سے دوری۔ اسی وجہ سے ہے کہ انفرادیت اور انتشار کی حالت والا تقسیم نعمت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ وہ جو مع الناس، دین کا مالک، قیامت قائم کرنے والا، حشر برپا کرنے والا۔ تیسری دفعہ "لا تثریب علیکم الیوم" کہنے کے لئے یوسف کے لباس میں جیتا جاگتا ہوا۔ چڑیاں پکڑا ہوا نور کے بطن سے صدیق اور چن بسوا کا نام پر زمین و آسمان کے ۲۴ نشانوں کی شہادت کے ساتھ جسمانی اور اخلاقی ۶۲ نشانوں کے ساتھ غیر فانی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ کامل "متبع رسول الثقلین ﷺ" اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے "ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ

یداللہ فوق ایدیھم" کی بشارت کے ساتھ دوبارہ شان اسلام کو دنیا کے کناروں تک چمکانے کے لئے کامل بشارتوں کے ساتھ اللہ کا مظہر صدیق دیندار چن بسویشور آیا ہے۔ اب اس کی محبت میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک پہنچتے ہیں۔" (دعوت الی اللہ ص ۲)

مثل اور جوتیوں سے اس طرف اشارہ ہے کہ جیسوں ان کے چونکہ جدائی ان کے لئے مقدر ہے۔ اس لئے جس طرح دنیا میں وہ سزا پاتے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی وہ سزا پاتے رہیں گے۔

چن بسویشور صاحب اللہ کا مظہر بنے ہیں۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کے گرو غلام احمد قادیانی اس وصف میں ان سے آگے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے خلیفہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان کی شان میں لکھتے ہیں: "فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء"

(تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۰۰، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱)

چن بسویشور صاحب لاکھ اپنے پیرو مرشد کی نقل اتاریں۔
مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی

العیاذ باللہ

"حدیث رویت اللہ میں آیا ہے کہ اللہ محشر کرنے آئے گا۔ وہ غیر کی صورت میں رہے گا۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ غیر مسلم کے نام ولباس سے آئے گا۔ یعنی چن بسویشور کے نام سے آئے گا۔ مسلمان نعوذ باللہ منکر کہیں گے۔ واقعی میرے دعوے چن بسویشور پر مسلمانوں نے بدعقیدہ اور گمراہ سمجھ کر نعوذ باللہ منکر کہا۔ پندرہ سال کے بعد اب ان کے امام اور احمدیوں کے موعود یوسف کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوں۔ اس سے خوش ہیں۔ اب ضرور "انت ربنا" کہیں گے۔"

(دعوت الی اللہ ص ۱۴)

اس عبارت میں دو جگہ خود چن بسویشور نے اپنے غیر مسلم ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مخالفین کو کافروں کی صورت میں مسلمان ذکر کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ غیر مسلم کی شکل میں آئے گا۔ یعنی چن بسویشور کے نام سے آئے گا۔ اس میں اپنے غیر مسلم ہونے کی صراحت کردی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آپ قادیانیوں کے یوسف موعود ہیں۔ یہ مسئلہ قادیانی صاحبان ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا یوسف موعود کون ہے۔

خدا بصورت چن بسویشور (علیہ ما علیہ)

۳۷

یہ جملے آپ کو کتنے ہی ناگوار گذریں۔ مگر پڑھ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت تو شفیع حشر کی مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ ابوالکلام عبدالغنی اپنے ہادی کی یعنی: یوسف علی کا ایک خواب نقل فرماتے ہیں: "میں نے خواب میں دیکھا۔ حشر بپا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیع کی حیثیت سے آیا ہے۔ ایک بلند تخت پر بیٹھا ہے۔ جزا و سزا کے فیصلے دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری صورت میں ہے۔" (حرم بخش ص ۷۲)

مسلمانو! اب بھی نہ سمجھے اور ان کی بیخ کنی کے لئے تیار نہ ہوئے تو ان دشمنانِ خدا کے ہاتھوں عذاب بھگتنے کا انتظار کیجئے۔

ناپاک عزائم

زاہد صدیقی صاحب جو پہلے اس انجمن کے ایک سرگرم مبلغ تھے۔ جو بعد میں ان کی حقیقت منکشف ہونے پر تائب ہو گئے۔ لکھتے ہیں: "اے منکرینِ انبیاء اور ختم نبوت کے دعویدارو! سنو!! اگر تم نے اب بھی نہ سنا اور نہ مانا اور مخالفت کی تو وہ یہ ہے۔ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں۔ اس میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ مخالفین کے بارے میں اس جماعت کے عزائم انتہائی خطرناک اور ظالمانہ ہیں۔ کیونکہ صدیق دیندار چن بسویشور کی وصیت ہے۔ مخالفت کرنے والے مولویوں کو چار مینار پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا مخالفت دب جائے گی۔"

(فاران کراچی فروری ۱۹۵۷ء)

خدا کا دیدار آصف نگر حیدرآباد دکن میں

دشمنِ خدا، خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے دیدار کے لئے بلا رہا ہے۔ چنانچہ "صراط الذین انعمت علیہم" کے متعلق لکھتا ہے: "صراط الذین انعمت علیہم کی دعا یہاں سنی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہے وہ آئے یہاں دیکھے ہر بات کا آرام و اطمینان یہاں ہے۔ بہشت یہاں ہے۔ مقربان یہاں ہیں۔ گلشن اولیاء مہکتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہے۔ اے طالبانِ حق! آؤ۔ اے عاشقانِ رسول آؤ۔ اے عاشقانِ علی! آؤ۔ بڑے انتظار کے بعد یہ روحانی دربار کھلا ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر کھلا ہے۔ تشنگانِ دید آکر برکات و آثار سے فیضیاب ہو جائیں۔" "وما علینا الا البلاغ" "صدیق دیندار" (دعوت الی اللہ ص ۹۲)

یوسف موعود جناب خدا بنے ہیں اور اپنے دربار کو دربار خداوندی قرار دے کر لوگوں کو

بارے میں۔ ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ دیکھ کر عقل کو حیرت کہنے کی اصطلاح یاد آنے لگی۔

اللہ چن بسویشور کے روپ میں

چن بسویشور صاحب نے جب خدائی کا دعویٰ کر کے رسول بھیجنے اور قیامت برپا کرنے کا کاروبار شروع کیا تو خیال آیا کہ کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، ایسے بے تکے اعلان و دعویٰ کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ اس لئے چن بسویشور " من کل الوجوہ اللہ " نہ بنے بلکہ اپنے اندر خدائی صفات کے ضمن میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق تمام انبیاء علیہم السلام نے جس عقیدہ کی تبلیغ فرمائی ہے کہ وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ اس سے متعلق عوام کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی جو تشریح کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: " لم یکن شیئاً مذکوراً ظاہر کرتا ہے کہ ایک وقت انسان کا ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا بیان انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یعنی ذات واجب الوجود احدیت کے مقام پر تھا۔ جب اس ذات غفور نے اپنی ذات واجب الوجوب سے تجلی کر کے شہادت میں آنے کا ارادہ کیا۔ عقل کل میں آ کر ٹھہری۔ عقل کل سے عالم ارواح کا روپ لیا۔ پھر وہی ذات عالم مثال میں آئی۔ پھر عالم اجسام یا شہادت کا جامہ پہن کر رحمۃ للعالمین کی صورت اختیار کی۔ " (معراج نامہ حقیقی ص ۱۳)

یہ فلسفہ یونان کی فکری آزاد فریبیاں ہیں۔ جن کا اسلام کے ساتھ جوڑ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جس طرح قدیم ہیں۔ عقل کل بھی یعنی نبی بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ عالم شہادت یعنی چن بسویشور کی صورت میں عقل کل کے محتاج ہوئے۔

آخرین کا سردار

مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری خلیفہ مانتے ہوئے لکھتے ہیں: " اسلام کے آخری خلیفہ نے آخری فرقہ بنایا۔ اس طرح دین قیم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔۔۔ چونکہ بیج اپنی شاخوں کا مصدق ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ آخرین کا سردار چن بسویشور جملہ فرقہ ہائے اسلام کی تصدیق کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اولین کے سردار حضرت محمد مصطفی ﷺ نے آخری فرقہ کے سردار مسیح ناصری کی تصدیق کرنے پر آپ کی قوم نے آپ پر تالیاں بجائی تھیں اور کہا تھا کہ یہ عیسائی ہو گیا ہے۔ اسی طرح آخرین کے سردار کے لئے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ آخری فرقہ کے سردار مسیح موعود کی تصدیق کرنے پر اس کی قوم تالیاں بجائے اور کہے کہ یہ احمدی (قادیانی) ہو گیا ہے۔ "

(دعوۃ الی اللہ: ۲)

استدلال کا یہ طریق گرچہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا کہ خود واقعات بنا کر کسی کی طرف منسوب کریں۔ پھر وجہ نسبت کی تحسین کریں۔ اپنے خود ساختہ کلام سے خود ساختہ واقعات کی روشنی میں اپنے دعاوی پر استدلال کریں۔ بس وہی بات ہے کہ ؎

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

اس پر طرہ یہ کہ اس پر داد و داد بھی خود کریں۔ آخر میں یہ نہ بھولئے گا کہ آخرین کے سردار اور آخری فرقہ کے سردار مسیح ناصری میں جو عینیت کا فرق نکالا ہے۔ وہ قابل داد ہے۔ عجیب ما اشکال لی۔

قادیانیوں سے قدیم تعلقات

آج کل دیندار انجمن والے اپنی ناک بچانے کے لئے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات قابل التفات تو اس لئے نہیں کہ بانی انجمن نے بار بار غلام احمد قادیانی کا ادب و احترام سے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اپنے اساتذہ و شیوخ میں شمار کیا ہے۔ حتی کہ اس ملعون کو مسیح موعود ماننے کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ ان ناقابل تردید حقائق کے ہوتے ہوئے مزید ان کے آپس کے تعلقات کے لئے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم اس مقصد کے لئے ان کی ذیل کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیے: ''غرض یہ کہ یوسف موعود (چن بسویشور) اس وقت موجود تھا۔ جس وقت جماعت قادیان اور جماعت لاہور کی مخالفت کا بازار گرم تھا۔ جس نے مئی ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۲ء تک یعنی تقریباً آٹھ سال بحیثیت مبلغ بن کر مرزا قادیانی کی صحبت میں کام کیا۔ تقریباً تمام اضلاع پنجاب کی احمدی جماعتوں کا دورہ کیا۔ اس زمانہ میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس قدر جوش صدیق میں کیوں ہے۔ اس راز کا علم خود صدیق کو بھی نہیں تھا۔ جب صدیق کی چالیس سال کی عمر پہنچی۔ یعنی ۱۹۲۲ء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے بشارت دی کہ اے یوسف آخر تو ہی چن بسویشور ہے۔'' پھر الہام ہوا۔ ''یوسف ہے بابا صدیق۔'' غرض بابا یوسف اور صدیق کا نام الہامات میں آنے لگا۔''

(دعوۃ الی اللہ: ۴۴)

سوچ لیں وہ سادہ لوح مسلمان جن کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیندار انجمن کا قادیانیوں اور ان کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کسی کی صحبت میں

کام کرنے کے معنی مخالفت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ "فشتان بینهما" حقیقت یہ ہے کہ ان دو شیطانوں کے باہم بہت قریبی مراسم اور تعلقات پائے جاتے ہیں۔ خاص کر صدیق دیندار تو اپنے ہر دعویٰ میں غلام احمد قادیانی کے مسیح موعود وغیرہ ہونے کی تصدیق بھی ملا لیتا ہے۔ پھر یہ بے ربطی کہاں رہی؎

ربط ہے ربطیِ حسن و عشق کیا کیجے بیاں
بام سے زینہ ہے وہ یہ زینہ سے بام ہے

قادیانی اختلافات

قادیانی اور لاہوری دو جماعتوں کے اختلافات کے بارے میں دیندار فیصلہ مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "جیسے مسیحیوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ آسمانی حکم سے ہوا۔ احمدیوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ بھی آسمانی حکم یوسف موعود (چن بسویشور) سے حل ہوگا۔ جس کی آمد کو قرآن کریم اور احادیث اور بشارات مسیح موعود (مرزا قادیانی) اور بشارات اولیاء دکن (ہندو سادھو) اور خود یوسف موعود کے الہامات میں اللہ کا آنا کہا گیا ہے۔ ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی اللّٰہ" (دعوۃ آنی الشدی ص ۵)

کیا اصلاح کی؟ جس چیز پر آپس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اس پر خود قبضہ جما لیا۔ کیا آسمانی فیصلہ یہی ہوا کہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس لئے تم خود جا کر نبی بن جاؤ۔ ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ چن بسویشور کو تو جہنم رسید ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ قادیانیوں، لاہوریوں کا آپس کا اختلاف تو اب تک باقی ہے۔ پھر کیا فیصلہ کیا حضرت والا نے؟ صرف اتنا کرم کیا کہ ان کی خباثت میں مزید خباثت ملا کر "فزادتهم رجسا الی رجسهم" کے مصداق بن گئے۔

خود گرو تو جہنم رسید ہوئے عرصہ گزر گیا ہے۔ لیکن ان کے متبعین اور دیندار انجمن کے سربر آوردہ افراد ابھی زندہ ہیں۔ ان سب کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں کہ کسی ایک قرآنی آیت میں یوسف موعود کے آنے کی خبر دکھا دیں۔ ورنہ صاف کہہ دو کہ گرو نے جھوٹ بولا ہے۔ یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس میں جہاں اولیاء دکن کا نام آتا ہے کہ انہوں نے میری بشارت دی ہے۔ ان سے خود ان کی مراد دکن کے ہندو سادھو ہیں۔ اس سے یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ ان کے نزدیک ہندو لوگ پکے دیندار ہیں۔ بلکہ اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے۔ آخر میں جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا آنا کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد وہی ہے جو ابھی پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کی

چنن بسویشور کی شکل میں آئیں گے۔

خلیفہ قادیان کی اصلاح

خلیفہ قادیان میاں محمود کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”اولیاء دکن (ہندو مسلمان بزرگوں) نے آج سے تقریباً آٹھ سو سال پیشتر فیصلہ کیا ہے کہ خلیفہ قادیان کے عقائد غلط رہیں گے۔ وہ اس طرح کہ میاں محمود احمد صاحب کو دیو بسنت کہا گیا ہے اور دیو بسنت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ غلط عقائد پھیلاتا رہے گا۔ اس کے عقائد کی اصلاح کے لئے چنن بسویشور آئے گا۔“ (دعوۃ الی اللہ ص ۳۵)

عقائد کی یہ اصلاح کی کہ ان کے گرو غلام احمد کو آخری فرقہ کا سردار بتلا دیا۔ اپنے آپ کو آخرین کا سردار اور کوئی اصلاح سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لئے کہ چنن بسویشور تو خود اپنی اصلاح کے لئے خلیفہ قادیان میاں محمود سے بیعت ہوا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں مرید پیر کی اصلاح کرتا ہو، نہ کہ پیر مرید کی۔

لنگایت؟

لیجئے! ایک نہ شد دو شد۔ پہلے تو صرف احمدیوں کے موعود تھے۔ اب لنگایت کے بھی موعود ہونے کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہیں۔ لکھتے ہیں: ”اس وقت میں اپنے موعود کی منتظر جماعتوں یعنی لنگایت اور احمدیوں میں پوری طاقت سے پیش ہو رہا ہوں۔ وہ بھی ایک بشارت کی بناء پر ہے۔ اس میں کامیابی دکھائی گئی ہے۔ اس میں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ لنگایت ہندوؤں میں اور احمدی مسلمانوں میں یہ دونوں ہر حیثیت سے زبردست جماعتیں ہیں۔ ان کی توجہ بڑے زوروں سے خصوصاً ہندوستان کے مختلف مذہبوں کی طرف ہونی چاہئے۔“ (دعوۃ الی اللہ ص ۵۴)

بہت خوب، آپ لنگایتوں کے اوتار ہیں۔ یہ راز اب تحقیق ہو کر کھل گیا کہ آپ ہندوؤں میں سے ہیں۔ اچھا ہے، مسلمان جس سے ملوث تھے جناب نے اسے رفع کر دیا۔

مسیح گرو اور اس کی خانقاہ

حضرات قارئین! پیچھے مذکورہ تفصیل کو خوب ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب سے کچھ مزید انکشافات ہونے والے ہیں۔ آج کل کے حافظے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لئے مختصراً پچھلا سبق دہرا کر آگے چلتے ہیں۔ صدیق دیندار چنن بسویشور پہلے عام آدمی تھے۔ پھر قادیانی مغضوب کے پاس پہنچے۔ پھر خلیفہ قادیان سے بیعت ہوئے۔ پھر مہدی آخر الزمان،

پھر یوسف موعود، پھر کئی انبیاء کے مثیل، بروز محمد اور عین محمد ﷺ یہ تمام مدارج بآسانی طے کرنے کے بعد مظہر خدا، مالک حشر، انبیاء کے حاکم، قاضی حشر ان خدائی صفات کے مالک ہوگئے۔ حتیٰ کہ یہ شیخ چلی خود خدا بن گیا۔

اچھا جناب عالی! یہ سب عہدے مبارک ہوں۔ مگر کیا کسی ہوس کے بندے اور حب جاہ کے بھوکے کا پیٹ صرف ان دعاوی اور ان کے برابر کے دیگر دعووں سے بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انجمن سرفروشان خدا تو بن ہی گیا تھا۔ اب رسولوں کے بھیجنے میں کیا دیر لگتی اور ویسے بھی یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ انجمن سرفروشان خدا بننے کے باوجود رسولوں کے بھیجنے کا بندوبست نہ کرے تو مخلوق کے گمراہ ہوجانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے رسول بنانے کے لئے ایک تربیتی کورس شروع کردیا۔ اس کا مرکز جہاں سے مکمل رسول بننے کا سرٹیفکیٹ عنایت ہوتا ہے۔ اس کا نام مسلمان نبی بننے والوں کے لئے خانقاہ سرور عالم ﷺ اور ہندو نبی بننے والوں کے لئے جگت گرو آشرم رکھا۔ دو جہانوں کے بیک وقت پیغمبر اور خدا نے یہ اعلان بھی کردیا کہ اب کسی اور کو یہ اختیار نہیں کہ پیغمبر اور رسول بھیجنے کی جسارت کرے۔

سنئے انجمن سرفروشان کی عبارت ملاحظہ کیجئے: ”حسب بشارت گمنام مقام سے صحابیوں میں ایک ایسی طاقت (انجمن سرفروشان) کو کھڑا کیا گیا۔ جو مسیح گر ہے۔ (نبی بنانے والا) اور وہ وجود رسولوں کو جمع کرنے والا ہے۔ جس کی خانقاہ میں وارث انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ مریم بن کر آ بیٹھے ہیں۔ مسیح بن کر نکلتے ہیں۔ جو بیٹھے آسمان سے ساتویں آسمان تک سیر کرائی جاتی ہے۔ کوئی نوح علیہ السلام، کوئی ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی یحییٰ اور کوئی ہارون ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام اور کوئی جامع جمیع کمالات کا خطاب پایا ہوا ہے۔ کوئی ہرپیا اور کوئی شیو اور کوئی ترسی داس ہے۔ چونکہ ابتداء میں یہ روحانیت تھی۔ آخرت میں بھی وہی روحانیت ہے۔ تاکہ مماثلت پوری ہو۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی خانقاہ کا یہ حال ہو۔ (العیاذ باللہ خدا دوسروں کو اس سے [illegible] رکھے) کیا کوئی روحانیت کے دعویدار گدی نشین کو مسیح گر ہونے کا دعویٰ ہے۔ کیا ان کی خانقاہوں میں مثیل انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہر گدی اور خانقاہ کا رخ زمین کی طرف ہے۔“

(دعوت الی اللہ ص ۳)

نبی ساز یونیورسٹی

محترم قارئین! مسیح گر کی ترکیب پر غور فرمائیں۔ زرگر کے معنی ہیں سنار۔ آہنگر کے معنی ہیں لوہے کا کاروبار کرنے والا اور مسیح گر کے معنی ہیں نبی بنانے والا۔ یہ نیا عہدہ مبارک ہو۔

لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس مسیح گر (خدا) کے رسول ابھی تک دنیا میں زندہ ہیں اور خود خدا صاحب جہنم رسید ہو گئے۔ چودھویں صدی کے مکار انگریز کو بھی ایسے خداؤں کی ضرورت بھی تھی۔ جو رسول اور نبی کا کورس پڑھانے کے قابل ہوں۔ تاکہ خود ہمارے انگریز کو اس کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ ایک عدد ایسا جامع جمیع کمالات پروفیسر ملا مگر اول تو اتنی بڑی نبی ساز یونیورسٹی کو چلانے کے لئے ایسے کئی پروفیسروں کی ضرورت تھی۔ دوسری یہ اور مصیبت آ گئی کہ وہ ایک نبی ساز پروفیسر بھی جلدی مر گیا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کا یہ شعر انگریز کی اس ہندی نبی ساز یونیورسٹی پر پورا صادق آ رہا ہے۔

دفتر تقدیر تو کھولا گیا ہے ہند میں
فیصلہ قسمت کا اے اکبر مگر لندن میں ہے

اس عبارت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس انجمن کے انبیاء کو چوتھے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک کی سیر کرائی جاتی ہے۔ پہلے تین آسمانوں کی سیر کیوں نہیں کرائی جاتی؟ شاید اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ یا پھر ان میں کوئی سیر کی جگہ ہی نہیں۔

بطور مثال مساوات

اس یونیورسٹی سے جو انبیاء تیار کئے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں بھی ذکر کی ہیں اور اپنی انصاف پسندی کا بھی خوب مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نبی ساز یونیورسٹی جس میں بیک وقت ہندو اور مسلم انبیاء تیار کئے جاتے ہیں۔ اس میں بننے والے انبیاء کی مثال میں چار مسلمان انبیاء کے نام ذکر کئے ہیں اور چار ہندوؤں کے نام پیش کئے ہیں اور ایک مشترک یعنی جامع جمیع کمالات یعنی مسلمان، عیسائی، یہودی، بت پرست وغیرہ اس طرح سے مثالی انبیاء میں مساوات کر کے ہندو مسلم اتحاد کی داد حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ اس یونیورسٹی میں مہدی اور مامور سے لے کر سر بشور تک کے عہدے کے انبیاء اور رجال کار ہوتے تھے۔ صرف ایک عہدہ یعنی سربشور ہے۔ اس کی تیاری یہاں نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ منصب خود حضرت والا کا ہے اور گول مول عبارت میں اس دعویٰ پر صراحۃ قدغن لگا دی گئی ہے۔ "ولا عند اشد الضرورۃ" جس کا فیصلہ براہ راست لندن یونیورسٹی سے اس مقصد کے لئے رکھے ہوئے ماہرین امور شیطنت کر لیا کریں گے۔ آج کل جناب سربشور کے واصل جہنم ہونے کے بعد سے یہ منصب خالی پڑا ہے۔ صاحب ضرورت حضرات اپنی درخواستیں بھیج دیں۔ لیکن یاد رہے کہ ماہرین امور شیطنت کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ جس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔

جبریل امین اور نبی کے درمیان واسطہ

پچھلے زمانے میں لوگوں میں ذہانت اور شوق و ذوق اس قدر زیادہ تھا کہ اشاروں سے بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ مگر ہمارے زمانے میں جہاں دوسری چیزوں میں انحطاط آ گیا ہے۔ وہاں ذہانت میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ جس کی انتہا یہ ہے کہ جن دانشوروں کی محولہ بالا عبارتوں میں ایک اہم مسئلہ جس کی صراحت کر دی گئی ہے۔ ہمارے قارئین اسے بھی نہیں سمجھے۔ شاید اب وہ ہمارے قائم کردہ عنوان سے سمجھ گئے ہوں گے۔

معزز قارئین! یہاں دراصل ایک اہم عقیدہ کو حل کرنے کے لئے جن دانشوروں نے نبی ساز اکیڈمی کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ رسول اور نبی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اصلی، دوسری نقلی جو بعینہٖ اصل کے مطابق یا اس سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس براہ راست جبرئیل علیہ السلام آتے ہیں اور بعض وہ جن کے پاس جبرئیل براہ راست نہیں آتے۔ بلکہ وہ باقاعدہ نبوت کا کورس پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے نگران اعلیٰ کے پاس جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور یہ آگے اس دوسری قسم کے انبیاء تک یہ پیغام وحی پہنچاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی قسم کی وحی میں جبرئیل علیہ السلام کا نزول بلا واسطہ ہوتا ہے اور یہاں سند تو متصل ہے۔ مگر بیچ میں نبی ساز یونیورسٹی کے چانسلر کا واسطہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سے اس مسئلہ کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ کتاب جواہر معصومیہ میں روضہ قیومیہ کے حوالے سے اکبر بادشاہ اور مجدد الف ثانیؒ کے فرزند خواجہ محمد معصومؒ کا واقعہ لکھا ہے کہ خواجہ صاحب ذی لیاقت عالم اور ارکان سلطنت اکبری کے مرد ممتاز اور معتمد علیہ تھے۔ بادشاہ کو آپ پر بڑا بھروسہ اور کامل اعتماد تھا۔ گفتنی و ناگفتنی امور میں آپ کو راز دار رکھا جاتا تھا۔ اسی زمانہ میں بادشاہ کے مقرب شیخ ابو الفضل نے بنا اپنی مصلحتوں کے بادشاہ کو باور کرایا کہ آپ مہدی کے اوتار ہیں۔ ایک اوتار کا دنیا میں آنا جو باقی تھا۔ اس کی سب علامتیں بموجب وید کے آپ میں موجود ہیں۔ بعض آیتیں بھی فرشتے نے آپ کے لئے مہیا کر دی ہیں۔ چنانچہ ان میں ایک آیت یہ ہے: "یا ایہا البشر لا تذبح البقر وان تذبح البقر فماواک السقر" پھر تو بادشاہ کے خیال میں یہ بات اچھی طرح سما گئی کہ حقیقت میں وہ اوتار میں ہی ہے اور ابوالفضل فیضی وغیرہ اس کے اصحاب ہیں۔

ایک ایسی کتاب بھی ترتیب پا چکی ہے جس میں وہ آیت جو وقتاً فوقتاً نازل ہوئیں، جمع ہوتی رہیں۔ ہاں "تحریک کارسازی و لیاقت و کارگزاری بادشاہ نے اپنا نبی سمجھ کر اس خدمت کو

خواجہ صاحب کے سپرد کر دیا۔

خواجہ محمد معصوم ان تحریروں کو جو ابوالفضل کے واسطے سے دستیاب ہوئی تھیں۔ لکھنے بیٹھے آیات کے لئے قلم ہاتھ میں لئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو بادشاہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کتاب لکھئے۔ آپ نے کہا کہ جبرائیل کا منتظر ہوں۔ وہ لائے تو لکھوں، بادشاہ نے سمجھایا کہ خود تو لکھو۔ مگر آپ نے کہا کہ آسمانی کتاب کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ویسے ہی لکھ لی جائے۔ بہرحال اکبر بادشاہ یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اپنی شرمندگی دور کرنے کے لئے پنجاب کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ آخر میں جب بادشاہ کا ارتداد مشہور ہوا تو ان کو مخالفت کی وجہ سے شہید کرا دیا۔

چن بسویشور صاحب یہاں بھی ایسا ہی کاروبار چلانا چاہتے تھے۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں کہ یہاں ایک مہینہ بلکہ ہفتہ میں لوگ اتنے مدارج طے کرتے ہیں کہ نبی بنتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے بلا واسطہ انبیاء بنا بھی دیئے۔ جن میں سے ایک ابوالکلام عبدالغنی صاحب محسن الملکی بھی ہیں۔ جن کی کتاب پر چن بسویشور کی تقریظ بھی ہے۔ ایسے چکر بازوں سے متعلق کسی نے کہا ہے

تعجب ہے کہ ہے بوالفضل مردک
فرشتہ نے نہ پائی راہ شہ تک
کتاب اتری تو اسکی لغو و مختل
ہر ایک آیت ہے جس کی محض مہمل

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفس و شیطان کی چالوں سے [illegible] رکھیں۔ ہر طرف شیطان کے جال ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ حفاظت مشکل ہے۔

۳۱۸ قطب انبیاء

دیندار انجمن کے بانی کی مجموعہ چالبازیوں میں ایک ۳۱۸ کا چکر بھی ہے۔ اسے غور سے پڑھیے: ”حدیثوں میں بشارت ہے کہ ہر دور نسل انسانی مسلم میں تین سو اٹھارہ قطب انبیاء ناسخ کے درجے ہیں۔ قرن اولیٰ میں ان کا مجموعہ تھا۔ شیخ احمد کے زمانہ میں بوجہ فرقہ بازی قطوب منتشر تھے۔ قرن آخری چونکہ حشر کا زمانہ ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام قطوب انبیاء، ناسخ آخری امکن کی صورت میں خانقاہ سرور عالم حیدرآباد دکن میں جمع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے سردار صدیق (چن بسویشور) کی پیدائش کا مقام اس ریاست میں ہے۔ یہ شہر جامع جمیع کمالات ہے اور جلال

وجنوں کو کافی سامان ملتا ہے۔" (ہمدانی ہادی ص ۳)

مقام پیدائش کا نام ظاہر نہ کرنے میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن دیندار انجمن والے ۱۸۱۳ قطب انبیاء ماسبق پیغ اعوج بورا ان (انبیائی) کے سردار صدیق کے مطلب کی وضاحت کریں۔ کیا دیندار انجمن کے بکواس بکنے والے مبلغین کے لئے اب بھی یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی ہے کہ چن بسویشور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو انبیاء کے سردار کیسے بنے؟ ان کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن یہ دیندار انجمن والوں کی صریح منافقت بھی ہے کہ اپنی کتابوں اور رسالوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں اور تبلیغی جلسوں میں عوام کے سامنے کیا کچھ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عوام تو ایسے منافقوں کو بس یہی جواب دیا کریں کہ ؎

معاف رکھیں ہمیں خدارا انجمن کو ہو انجمن مبارک
ہم ایک گوشے میں اپنے اچھے بھلے پڑے ہوئے ہیں

مردوں کو زندہ کرنے والے

اپنی شان مبینولی کے بارے میں لکھتے ہیں: "آج قرینا کے سردار صدیق دیندار کی صحبت سے کئی مثیل انبیاء بنے اور بن رہے ہیں۔ خانقاہ میں جو زندگی وقف کر کے بیٹھتا ہے وہ مریم بن جاتا ہے۔ جب وہ میدان میں آتا ہے تو مسیح بن جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے والے ہماری خانقاہ سے نکل رہے ہیں۔ گونگے بول رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے مثیل نوح اور موسیٰ پکارا۔ وہ بھی میرے بیعت کردہ ہیں اور قائم مذہب جن کی منزلت نوح کی ہے وہ بھی میری بیعت میں ہیں۔" (ہمدانی الہادی ص ۵)

دیندار کی صحبت سے کئی مثیل انبیاء بنے اور کئی بن رہے ہیں۔ نبی گری کی یہ صنعت بڑی اچھی ہے۔ کسی طبی کالج کے چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا کالج ماشاء اللہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یہاں کئی لوگ اچھے اچھے ڈاکٹر بنے اور کئی ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ کیا خیال ہے دونوں باتوں میں اچھا جوڑ ہے۔ ہم نے جو نبی ساز یونیورسٹی لکھا تھا۔ اس کا اب یقین آ رہا ہوگا۔ گویا نبی بننا ایک کھیل تماشا ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ دنیا میں جس طرح صنعت وحرفت ایک پیشہ ہے جو آدمی اس میں لگ کر محنت کرتا ہے۔ اس کی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو اپنی لائن کا کوئی منصب مل جایا کرتا ہے۔ جس سے وہ اپنا کسب معاش کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی اور رسول کو سمجھ کر وہ کسب معاش یا گزر اوقات کے طریقے میں قادیان کے تمام

انبیاء نے نہ صرف اس مقصد کے تحت اپنی نبوت کو استعمال کیا۔ بلکہ اپنے اقوال و افعال سے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ نبوت بھی اس قسم کا کاروبار ہے۔" "اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے والے ہماری خانقاہوں سے نکل رہے ہیں۔"

اس عبارت کو غور سے دیکھئے اور پھر ربوہ اور انجمن والوں سے پوچھئے کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والو! امت کے اپنے نبی اور خدا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے آؤ۔ تاکہ تمہاری اصلاح کر دیں اور امت کی بھی اصلاح ہوگی۔

بزم مشاورت

چمن بسویشور نے ایک اہم راز کا انکشاف کیا ہے۔ لکھتے ہیں: "یہ (اہل اللہ) اہم معاملات میں قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد خداوند کریم کے دربار میں مشورہ کرتے ہیں۔" (معراج المومنین ص ۳۳)

یہ اصطلاح نہ بھولیں کہ چمن بسویشور کے ہاں اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہندو سادھوؤں کو کہا جاتا ہے اور بالفرض مسلمان اولیاء اللہ ہی مراد ہوں تو قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ اہل اللہ، اللہ کے دربار میں جا کر مجلس شوریٰ منعقد کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اللہ کے دربار سے چمن بسویشور کا دربار مراد ہے۔ جہاں سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مگر یہ اہل اللہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان اہل اللہ سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ درحقیقت یہ ابلیس کی بزم مشاورت ہے اور یہ اولیاء اللہ کی صورت میں اولیاء الشیطان ہیں۔

علوم شرعیہ میں صفر

چمن بسویشور مامور وقت کے عہدے پر تو شروع ہی سے قابض ہو گئے اور علوم دینیہ سے ماشاء اللہ مس بھی نہیں ہوا۔ اس لئے اس شبہ کا ازالہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: "معلوم ہوتا ہے کہ مامور وقت یعنی فنافی الرسول ظاہری علوم میں مشہور و معروف نہیں ہوتا۔"

(معراج المومنین ص ۳۶)

مامور وقت کون؟

اوپر کی عبارت میں مامور وقت کا ذکر تھا۔ مگر اس کی تشریح نہیں کی کہ وہ کون صاحب ہیں۔ اگلی عبارت میں اس کا کچھ اتا پتا بھی دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: "فقیر نے گاندھی جی اور محمد علی

مرشد نے کہا تھا کہ تم سب میری اطاعت کرلو۔ انشاء اللہ دس سال کے اندر سوراج دلاتا ہوں۔"

(معراج المؤمنین ص ۲۷)

امتی بننے کے لئے بادشاہ صاحب کی نظر انتخاب بڑی اونچی شخصیتوں پر پڑتی ہے۔ اچھا کیا ہوا کہ آپ کی تجویز کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ فرما رہے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو۔ جیسے "اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول" میں اطاعت خدا و رسول کا حکم ہے۔

پردہ میں رہنے والے

مامور وقت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "معلوم ہوتا ہے کہ مامور وقت یعنی نبی اور رسول انسان ظاہری علوم میں مشہور نہیں ہوتا ورنہ وہ سرکاری ملازمتوں اور عہدوں پر مامور نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا مقرر کردہ انسان ہوتا ہے۔ دربار سرکار میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ ایک پردہ میں رہتا ہے۔ تاکہ اللہ کے کام کے لوگ ہی اس کے قریب آسکیں۔"

(معراج المؤمنین ص ۳۲)

اپنا مبلغ علم جو کچھ چاہیں بیان کریں۔ مگر یہ بھونڈی دلیل کہ اللہ کے مامور لوگ پردہ میں رہتے ہیں۔ جیسا پردہ نشین عورت ہو کرتی ہے خدا کے پیغمبر میدان میں آتے ہیں۔ جہاں اعلائے کلمۃ الحق اور آپ جیسے بھولے بھالے لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ نیم ساز پیر یا جعلی مسیح گھر سے ہی نہیں دو ماسور بن کر نکلتے ہیں۔ وہ ضرور پردہ نشین ہوتے ہیں۔ اس لئے بقول آپ کے "مامور پردہ میں رہتے ہیں۔" (۲/۱
ابن الفضل ص ۳)

یہ ایک ایسا تعارف اور اقتباس ہے جو ذہنوں کو ابہام اور الجھنوں یا غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔

سنکی بوجھ پہیلی

جس دور کی طرف سے ایک گورکھ دھندہ پیش خدمت ہے۔ اس پہیلی کو حل کریں۔ فرماتے ہیں: "یہ قلب زندہ ہیں۔ یہ جسم کثیف بھی نہیں، لطیف بھی نہیں، اور وہ عقل بھی نہیں، اطمینان بھی ہیں۔ یہ کسی ایک دوسرے کے ماتحت ہیں۔ یہ کسی کے ماتحت نہیں۔ یہ کل ضائع ہونے والے ہیں۔ یہ فنا سے خالی ہیں۔ خدا کو غائب کر کے مظہر خدا بنے ہیں۔" (معراج المؤمنین ص ۴۲)

چیستان، مہملات، واہیات

جن درویشوں کی جس کتاب سے یہ حوالے دیئے گئے ہیں۔ اس کا نام ہے "معراج المومنین" اس کتاب کا پیش لفظ ایک اور دیوانے مولوی ابواحمد دستگیر نے لکھا ہے۔ اس میں کئی عبارتیں ایسی مہمل ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ نہ وہ خود سمجھے ہیں کہ ان سے ان کا مقصد کیا ہے۔ نہ ان کے گرو کو ان کے مطالب معلوم ہیں۔ عام انسان تو کیا خاک سمجھیں گے۔ ایک دو ایسی عبارتیں آپ کے سمجھنے کے لئے لکھتا ہوں۔

"جس طرح جہاد مردوں پر فرض ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ذات وحدۃ الوجود رحمۃ للعالمین پر فرض ہے۔"

آگے ارشاد ہے: "اسی حقیقت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ جب بھی روح کے نزول کا ذکر کرتا ہے تو وحدت کا اظہار کرتا ہے۔"

اور جب روح کے اظہار کا ارادہ نہیں فرماتا تو کیا کثرت کا اظہار کرتا ہے؟ اس چیستان کا حل مطلوب ہے۔ آگے فرماتے ہیں: "ایسے زمانہ میں حضور شیخ انور ﷺ کا رہنا ضروری ہے۔ کہ جہاد و بدر گرم کریں۔ اس دربار مبارک کی شان بھی فرضیت قرآن سے ظاہر ہے۔"

فرضیت قرآن اور وحدت و کثرت کی یہ اصطلاحات ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ کیونکہ یہ شیطانی الہامات ہیں۔ جن سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ "اللھم لا ملجاء ولا منجا منک الا الیک"

تین کو چار کرنے والا نبی

۱..... "میں بھائیوں کے لحاظ سے بھی چوتھا ہوں اور بہنوں کے لحاظ سے بھی چوتھا۔ چھوٹوں میں بھی چوتھا ہوں اور بڑوں میں بھی چوتھا ہوں۔"

۲..... "میری پیدائش کی گھڑی چوتھی ہے۔ دن چوتھا ہے۔ تاریخ چوتھی ہے۔ صدی بعد ہزار کے چوتھی ہے۔ سال چوتھا ہے۔ یعنی ۴ رمضان بدھ کا دن ۱۳۰۴ھ میں پیدا ہوا۔"

(خادم خاتم النبیین ص ۵)

یہ دو دلیلیں واقعی بڑی اہمیت رکھتی ہیں نبوت پر استدلال کے لئے اندھے کی لاٹھی چلائی ہے۔

قادیانی نشان

اپنی نبوت پر استدلال میں لکھتے ہیں: "۱۹۲۵ء جولائی کے ماہ میں قادیان گیا ہوا تھا۔

وہاں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ نے بطور نشان بے موسم بارش بھیجی۔ وہ اس طرح کہ ایک رات کے اندر اطراف قادیان کے تالاب ہو گیا۔ شہر اور رستے بند ہو گئے اور کمر سے کمر پانی راستہ پر ان برابر ٹھہرا تھا۔ لوگوں کی زبانی سنا گیا کہ شاید ہی کسی زمانے میں ایک رات میں اتنی بارش آئی ہو اور اس بارش میں مزید نشان یہ ہوا کہ قادیان کا مشہور کتب خانہ جس میں ہزار ہا روپیہ کی نایاب کتب تھیں۔ ایک حصہ دیوار سمیت گر گیا۔ اور رات کا وقت تھا۔ بارش زوروں کی تھی۔ کوئی شخص خبر نہ لے سکا۔ تو صبح تک تمام الماریاں کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تمام کتابیں بری طرح بھیگی ہوئی۔ صبح یہ نظارہ اپنی زبان حال سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ جو کتب خانہ قادیان کی عظمت کے فخر کا باعث تھے۔ چمن نسو ویشور کے تصرفات نے اس علم پر پانی پھیر دیا۔ لطف یہ کہ وہ کل کتب دوپہر کے وقت جب دھوپ میں کھول کر ڈال دی گئیں تو وہیں ڈالی گئیں جہاں فقیر نے تکیہ لگایا تھا۔ فقیر بیٹھا ہوا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور خدائے قدیر کے احسان کا اعتراف کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتب خانہ زبان سے پکار کر کہہ رہا ہے۔ اے صدیقی! قادیان والوں نے ہمارے الفاظ کے غلط معنی کر کے دنیا میں دھوم مچائی ہے۔ ہم آپ کے پاس فریاد لائے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار لهم البشری فی الحیوۃ الدنیا و الآخرۃ" (خادم [illegible] الصدیقین
ص ۳۵)

ایک سے ایک بات کو لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے اپنی نبوت پر استدلال کرنے والا کس قدر پانی میں ہے۔ ہر دلیل سے چمن نسو ویشور کی ایک ہی بے وقوفی کا علم ہو جاتا ہے۔ چمن نسو ویشور قادیان کے کتب خانہ کے بھیگنے سے جس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے۔ یہ ان کا قصور فہم ہے۔ قادیان کی کتابوں کا بھیگنا اور بھی ایسے وقت جب کہ جناب چمن نسو ویشور وہاں رونق افروز ہوں۔ یہ بے معنی نہیں ہے۔ لیکن وہ اس کا مطلب غلط سمجھے ہیں۔ درحقیقت مطلب یہ تھا کہ: "اے چمن نسو ویشور! جن کتابوں کو تم اپنا مرکز وہم فقط خیال کرتے ہوئے آئے ہو۔ جن کے حوالے رات دن اپنی تقاریر اور کتابوں میں لکھتے ہو۔ جن سے اپنی نبوت چمن نسو ویشور یوسف موعود اور مأمور وقت ہونے پر استدلال کرتے ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ آج ان سب کتب و دلائل پر پانی پھر گیا۔ یہ سب دلائل و کتب ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں۔ کیا بے وقوف بنے ہوئے ہو کہ ان سے استدلال کر رہے ہو۔ یہ تھی ان کتابوں کی آواز جو زبان حال سے نکل رہی تھی۔
فاعتبروا یا اولی الابصار لهم خزی الدنیا و عذاب الاخرۃ"

چمن نسو ویشور اور خلیفہ قادیان

قادیانیت کے ساتھ تعلق کی ابتدا یوں ہوئی ہے۔ ''مختصر حال یہ ہے کہ یوں تو قطع
۱۹۱۰ء ہی میں قادیان آیا تھا۔ اس وقت اس مسئلہ کی طرف توجہ نہ ہوئی۔'' (ندہم نذیر تحسین ص ۵)
جی ہاں اس وقت نبوت کے راز سربستہ کہاں کھولے ہوں گے۔ مزید ارشاد ہے:
''میری نیک نیتی اور خلوص دیکھو۔ میں نے تلاش حق میں خود میاں محمود صاحب خلیفہ قادیان کی خلافت مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور قادیان پہنچ کر نیک نیتی سے تحقیقات کرتا رہا اور ان کا عقائد میں غلو کرنا پسند نہ آیا۔ رہ گئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو بچانا چاہتا تھا۔ وہاں سے نکلا بیعت فسخ کر دی اور لگاتار اس عقیدے کی تردید میں ۱۲ سال کام کیا اور بڑے شدومد سے کام کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تقریری دعا کو سنا اور ان کی (قادیانیوں کی) جماعت کا ستیاناس کر دیا۔ (دریں چہ شک۔ مؤلف) اس سے دینی کام مجھ کو اپنے روحانی تقاضا کے ماتحت ملتا رہا ہے۔ جو اس سے پیشتر بزرگان دین (غلام احمد قادیانی و دیگر صاحب وغیرہ۔ مؤلف) سے کام لیا تھا۔ اور کثرت سے نشانات ظاہر کئے اور قدرت کو کامل اور بے پردہ طور سے ثابت کر دیا۔''
(قادمن تم المحسنین ص ۲۵)

واقعی نیک نیتی اور اخلاص کے یہ نتیجے ہیں کہ پہلے بیعت کر لی۔ بعد میں حقانیت کی صحت و بطلان کی تحقیق کرتے رہے۔ پھر نبوت کی گدی پر خود قبضہ جما لیا اور بول آخر خدا بن بیٹھے۔ مزید ارشاد ہے: ''میں اس ذوالفضل والجلال (جو درحقیقت ذوالفضل والجلال ہے۔ مؤلف) کی بے حد منت کا اظہار ہی سے عاجز ہوں۔ جب وہ مجھے دنیادار سمجھ کر سیدھے کام سامنے لائے۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا۔ (پہلے ٹیڑھے تھے۔ مؤلف) اور کہا دوات قلم لے آؤ۔ میں بھی لکھوا رہا ہوں۔ ہر دو قلم لکھوا رہا ہوں کہ میں پکا قادیانی ہوں (بلا شک و شبہ۔ مؤلف) کو نقد لے کر اپنی تحریر لکھوا دی۔ صدیق دیندار پکا احمدی ہے۔ قادیانی سلسلہ تو یہاں سے میاں محمود نے جو جاری کیا ہے۔ اس کا سخت دشمن ہوں اور عقائد جو میاں محمود نے جاری کئے ہیں۔ ان کی بیخ کنی کرتا رہوں گا۔ صدیق دیندار چن بسویشور۔'' (تیاہم
المحسنین ص ۴۹)

آگے اور وضاحت کرتے ہوئے اپنے اور ان کے نشانات ذکر فرماتے ہیں: ''اس بات کو وہ تقریباً تمام دنیا کی اقوام ہیں۔ ان کی مبارکوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پہلے دو بعثت (والوالعزم محمود) ظاہر ہوگا۔ اس کے خیالات سے عالم میں پریشانی ہوگی۔ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے دور کرنے کے لئے چن بسویشور ظاہر ہوگا۔ ان بزرگوں نے ان دونوں کے

وجود کی تاریخ ظہور و نشانات بتائے ہیں۔ اس کی کوئی تردید کردے تو میں ہر شرط منظور کرنے کو تیار ہوں۔ گویا پیشگوئیوں نے اس وجود کے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا ہے کہ یہ چن بسویشور ہے اور یہ دیر بسنت چن بسویشور کے علامات سے آپ کو ایک حد تک علم ہوا ہے۔ صرف اب دیر بسنت کے نشانات بطور ثبوت روز روشن پیش کر کے چیلنج دیتا ہوں کہ اگر نشانات والا دیر بسنت میاں محمود احمد خلیفہ قادیان کے سوا دوسرا کوئی ہے تو ثابت کردے تو ایسی صورت میں ہر شرط منظور۔ دیر بسنت (اولوالعزم محمود) والی ایک علیحدہ کتاب تیار ہے۔ اس میں تفصیل وار بیان ہے۔ ... ان نشانات کے علاوہ اور بھی بہت سے نشان ہیں۔ مگر اب میں جماعت قادیان اور تمام سے سوال کرتا ہوں کہ دھرم قدیم کتب اولیاء میں یہ پیشگوئیاں موجود اور دھرم مولود تمام (یعنی میاں محمود خلیفہ قادیان) موجود ہے۔ پھر آپ کو شک میں ڈالنے والی وہ کون سی چیز ہے۔ ان پیشگوئیوں کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ دیر بسنت مسلمانوں کو قرآن کریم کے الفاظ کے غلط معنی کر کے بتائے گا اور ایشور اوتار جس کو رحمۃ للعالمین کہتے ہیں۔ ان کی ہتک کرے گا۔" (خادم خاتم النبیین ص ۸)

مزید لکھتے ہیں کہ: "اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا محض عقائد میں غلطی پر رہے گا۔ اس کی اصلاح صدیق دیندار چن بسویشور سے ہوگی اور صاف لکھا ہے کہ دیر بسنت (اولوالعزم محمود) قرآن کے الفاظ کے غلط معنی بیان کرے گا . اور لکھا ہے کہ چن بسویشور کے عقائد درست رہیں گے اور چن بسویشور کے ذریعہ سے دیر بسنت کے عقائد کی اصلاح ہوگی۔"

(خادم خاتم النبیین ص ۱۰)

ہم خود بسویشور کی عبارتوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ سے ان کی مراد ہندو سادھو ہیں اور اب یہ حضرت نبی کی کتب قدیمہ کے حوالے سے اپنی اور میاں محمود کی علامات پیش فرما رہے ہیں۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں۔

چار مشہور وید یعنی رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید، دس اپنشد اور مہابھارت، ہندوؤں کی جدید کتب میں ہندو ازم، ستیارتھ پرکاش، سوامی اور ویدارتھ پرکاش وغیرہ جیسی کتابیں ہیں جن سے چن بسویشور کو اپنی نبوت کے لئے مزید نشانیاں مل سکتی تھیں۔ اگر یہ کتابیں ان کو مل جاتیں تو نہ جانے ان کی خواہشیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتیں۔

منجملہ اور باتوں کے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ چن بسویشور کے ذریعہ میاں محمود کے غلط عقائد کی اصلاح ہوگی۔ دوسری باتیں کہاں تک پہنچ سکیں۔ ہمیں فی الحال ان سے بحث نہیں۔ لیکن قارئین حضرات بلکہ خود دیندار انجمن کے افراد ایمانداری سے بتائیں کہ میاں محمود کے

جو عقائد کہ اس وقت تھے۔ کیا ان کی اصلاح ہوگئی۔ یا ویسے کے ویسے رہے۔ بلکہ ان کے عقائد میں روز بروز مزید خباثتیں شامل ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ جہنم رسید ہو گئے۔

میاں محمود کی مزید تقدیس

میاں محمود کی مزید تقدیس بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''فقیر (چمن بہ پشور) جانتا ہے کہ وہ (میاں محمود بحیثیت خلیفہ قادیان) ایک مرد حق ہے اور بڑی بشارتیں دینے والا ہے۔ ان سے ہمارا جھگڑا صرف مذہبی چند فروعات میں ہے۔ جن کی غفلت سے اصول ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مخالفت کی۔ اب مخالفت نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ وہ قریب میں ہمارے عقیدے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جس کے آثار گزشتہ چند ماہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔'' (خادم خاتم النبیین دیباچہ ص ۵ مصنفہ حکیم چمن ۱۹۲۷ء)

دروغ گو را حافظہ نباشد

مندرجہ بالا عبارت میں میاں محمود سے متعلق لکھا ہے کہ: ''ان سے ہمارا جھگڑا صرف مذہبی چند فروعات میں ہے۔''

یاد رہے کہ یہ کتاب خادم خاتم النبیین چمن بہ پشور نے ۱۹۲۷ء میں لکھی ہے اور اس کی تصریح انہوں نے خود اپنی سب سے پہلی کتاب دعوۃ الی اللہ کے ص ۳۳ میں کی ہے اور دعوۃ الی اللہ ان کے دعویٰ مامور وقت و یوسف موعود کے ابتدائی زمانہ یعنی ۱۹۲۳ء میں لکھی گئی ہے۔ یہاں تو یہ لکھتے ہیں کہ میاں محمود سے ہمارا اختلاف چند فروعات میں ہے۔ لیکن اس سے قبل دعوۃ الی اللہ ص ۵۳ میں لکھا ہے کہ میاں محمود کے عقائد غلط ہوں گے۔ نیز اسی کتاب خادم خاتم النبیین کے ص ۸، ص ۱۰، ص ۱۲۵ اور ص ۲۹ میں صراحتاً یہ لکھا ہے کہ ان کے عقائد بھی خراب ہوں گے۔ وہ غلط عقائد پھیلائے گا۔ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ قرآن کے الفاظ کے غلط معنی بیان کرے گا۔ وغیرہ! سچ ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد۔ اور یہ تضاد بطور نمونہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ ع

یہاں پہ عجائب نگارے بہت

نیز وچھار: چمن والوں کے پیغمبر نے محولہ بالا عبارت میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ''مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ وہ (قادیانی) قریب میں ہمارے عقائد کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جس کے آثار گزشتہ چند ماہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔''

۲۴۳

اس سے دیندار انجمن میں غلطی سے پھنسے ہوئے سادہ لوح حضرات خوب سمجھ لیں کہ ان کے موجودہ پیشوا اپنے کو بظاہر قادیانیوں سے الگ ظاہر کر کے ان کو کس طرح دھوکہ دے رہے تھا۔

۳۲۵۴ جھوٹ

اپنی کتاب خادم خاتم النبیین کا ذکر کرتے ہوئے کذب بیانی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے:

"اس کے بعد ۱۹۲۱ء میں میں نے ایک کتاب خادم خاتم النبیین لکھی جو اس کتاب کا مقدمہ تھا۔ جس کا ذکر اس کتاب کے ص ۵۸، ۵۱ پر ہے۔ اس زمانہ سے اب تک ۳۲۵۴ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے بھی اس دعویٰ کا تاریخی، قدرتی اور شہادتی ثبوت ملا۔ یہ کتاب "دعوۃ الی اللہ" سنت انبیاء کے مطابق "انی مغلوب فانتصر" کے زمانہ میں لکھی جا رہی ہے۔" (دعوۃ الی اللہ ص ۳۳)

جھوٹ کا ریکارڈ توڑ دیا

۳۲۵۴ جھوٹ بول کر خاموش نہیں ہوئے۔ بلکہ مزید یہ ستم کیا کہ یہ تمام جھوٹ قرآن واحادیث میں تاریخی، قدرتی اور شہادتی طور پر ثابت ہیں۔ ان سب کو تلاش کرنے کی آپ کو کہاں فرصت ہے اور مزید جھوٹ بھی بولتے ہیں مگر کچھ فرصت نکال کر ان میں ایک جھوٹ قرآن یا حدیث سے دکھا دیں تو کرم ہوگا ؎

جھوٹ کا بازار تھوڑے روز ہے
بعد اس کے حسرت دل سوز ہے

چند یسو یشور کو ماننے والے دجالوں کی مختصر فہرست

اس سلسلہ میں اپنی کتاب (دعوۃ الی اللہ ص ۵۶، ۵۴) میں کئی قادیانی دجالوں کے نام ذکر کئے ہیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یا بیعت ہو کر مان لیا ہے۔ ایک مختصر فہرست چند مشہور عالم دجالوں کے نام کی ان کی اپنی عبارت میں ملاحظہ ہو: "اہل بصیرت کے لئے میرا دعویٰ سورج کی طرح روشن ہے۔ سعید ارواح کو جب میری خبر پہنچ جاتی ہے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آمنا وصدقنا کہتے ہیں۔ حسب ارشاد مسیح موعود (مرزا قادیانی) سلسلہ احمدیہ کے بڑی عمر پانے والوں میں سے جن لوگوں نے میری تصدیق کی ہے۔ ان میں سے مشہور اور بڑی اثر

اشخاص کے چند نام ذیل میں دیئے جاتے ہیں۔"

۱..... زبدۃ الحکماء مرزا خدا بخش صاحب مصنف عسل مصفیٰ نے میری تصدیق کی۔ (دعوۃ الی اللہ ص ۵۶)

۲.... سلسلہ احمدیہ کے دوسرے مشہور ذی اثر اخبار میں مشہور انسان ڈاکٹر سید حسین شاہ صاحب جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ لاہور، شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ مصلح موعود کا ہے۔ میں نے کہا: ہاں۔ کہا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ ... میں آپ کے اصول وعقائد کو امت مرحومہ کے لئے باعث برکت سمجھتا ہوں۔ میں نے مولوی محمد علی صاحب (امیر قادیانی جماعت لاہور) کو بھی آپ کی نسبت میرے ہم عقیدہ پایا۔ (دعوۃ الی اللہ ص ۵۷)

اس پر کوئی تبصرہ کرے تو کیا کہے۔ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ؎

عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

یہ فتنہ پھر اٹھایا جا رہا ہے

ناظرین! آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ انجمن کے بانی دین محمد شیخو اور دیگر بڑے افراد جہنم رسید ہوگئے تو اب فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ فتنہ اسی زور شور سے پھر سر اٹھا رہا ہے۔ جس طرح بانی انجمن نے شروع کیا تھا۔ بلکہ یہ فتنہ شروع میں تو کفر وارتداد کی کھلی دعوت کے ساتھ پھیلایا جا رہا تھا۔ جس سے عوام کو اکثر وبیشتر ان کی حالت معلوم ہو جاتی تھی۔ مگر اب تو یہ کفر وارتداد کے ساتھ ساتھ نفاق، دھوکہ فریب اور نہایت خفیہ عزم لئے میدان میں آ رہا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے یہ قطعی ظاہر کیا جاتا کہ ہم ان عقائد کے حامل ہیں۔ جن دین محمد شیخو کے پیرو ہیں۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم سچے غلام سرکار دو عالم ﷺ کے شیدائی ہیں۔ مسلمانوں کی بری حالت کو دیکھ کر ہم ان کی اصلاح کو نکلے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ سادہ مسلمانوں سے دین کے نام پر چندہ لے کر انسانیت سوز کتابوں کی نشر واشاعت میں لگاتے ہیں۔

شوگر کوٹیڈ مبلغین

صورت زاہد سے اس کو خضر سمجھا تھا مگر
جب اٹھا پردہ تو ابلیس لعین آیا نظر

دیندار انجمن والے عام طور پر مسلمانوں میں اتحاد، جوش جہاد، اسکولوں اور کالجوں کی اصلاح وغیرہ سے متعلق تبلیغ کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم مبلغین اسلام ہیں۔

ہمارے تبلیغی مشن کے یہ ابتدائی خاکے ہیں۔ اس طرح سے جاہل عوام خصوصاً نوجوان جنہیں دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ جلدی سے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے نشر و اشاعت کا منظم کام شروع کر دیا ہے۔ عام طور پر کتابیں اس منافقانہ انداز میں لکھ کر چھاپتے ہیں کہ عوام ان سے برا تاثر نہ لیں۔ چنانچہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ادھر ادھر کی صحافیانہ باتیں لکھتے لکھتے بیچ میں ایک آدھ جگہ اپنے بانی انجمن کی کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں۔ یا ان کی جانب اشارہ کر جاتے ہیں۔ جس کا اثر یہ ہوگا کہ عوام اور نوجوان طبقہ ان دجالوں سے اس انداز سے متعارف ہوگا کہ ان کافروں دجالوں کے ساتھ ان کا حسن ظن پیدا ہوگا۔ پھر رفتہ رفتہ جماعت میں داخل ہو گئے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ایمان سوزی کے ساتھ جب غیرت سوزی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ تب ان کو اصل کتابیں جو مقصود ہیں بالترتیب پڑھنے کے لئے دے دی جاتی ہیں اور خبیث ترین لٹریچر جو اصل بانی انجمن کا ہے۔ سب سے آخر میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ جو دیندار انجمن کے فریب اور بے دینی سے مطلع ہو کر ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کی انجمن میں بحیثیت مبلغ کام کیا ہے۔ لیکن تین چار سال تک ان کی اصل کتابیں ہم کو نہ دی گئیں۔ اس کے بعد جب ہم پر پورا اعتماد ہو گیا کہ یہ ہر طرح سے ہماری بے غیرتی برداشت کر سکیں گے۔ تب انجمن کے بانی کی کتابیں ہم کو دی گئیں۔ جن کی خباثتوں کو دیکھ کر ان سے متنفر ہوئے اور ان سے برأت اور توبہ کا اعلان کیا۔

نشر و اشاعت میں دیندار انجمن کی مکاریوں کی ایک مثال

سعید بن وحید جس کا ذکر اس کتاب میں پیچھے متعدد دفعہ آیا ہے۔ اس مہم میں پیش پیش ہے۔ کراچی میں دیندار انجمن کے نگران کی حیثیت سے یہ خباثتیں تصنیف و تالیف کی صورت میں پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں سے اکثر احقر کی نظر سے گذری ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کتاب "ملی مسائل کا قرآنی حل" کو لیجئے۔ اس میں اس نے بڑے درد انگیز اور دلیرانہ لہجے میں نظریہ پاکستان وغیرہ سے بحث کی۔ کئی خامیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ کتاب ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کے ۵۸ صفحات لکھنے کے بعد اب مقصد کی طرف لطیف اشارات شروع کر دیے ہیں اور بڑی مکاری سے مقصود اصلی چمن بسویشور کی طرف آیا ہے۔ چونکہ دیندار انجمن والے چمن بسویشور کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ مامور وقت بھی کہتے ہیں۔ اس لئے خدائی امداد اور تعین شخصیت کے دو مختصر عنوان قائم کر کے ان میں چند مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد مقصد کی طرف یوں لطیف اشارہ کیا ہے۔ غرض قرآن پاک میں ایسی کئی مثالیں

موجود ہیں۔ جو کہ جناب الشفقہ پر اسرار اور حسین شخصیت کا پتہ دیتی ہیں۔

(حل مسائل کا قرآنی حل ص ۲۰)

اس کے بعد ماورائے عقل کا عنوان قائم کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ لوگ اگرچہ ایسی شخصیتوں کو پاگل کہا کریں گے۔ مگر یہ اللہ والے ہیں۔ پھر آگے چل کر انتہائی چالاکی سے اس مامور شخصیت کا نام اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ مصنف جس کا تحقیقی فیصلہ سناتا ہے۔ چنانچہ "بشری للمؤمنین" کا عنوان لکھ کر یہ عبارت لکھی ہے۔

ہندوستان تمام مسلمان ہونے والا ہے۔ الہام بانی دیندار انجمن۔

(حل مسائل کا قرآنی حل ص ۲۱)

بانی انجمن کا یہ الہام اصحاب نے جلی اور خط کشیدہ جس طرح سے لکھا ہے کہ انکی عبارات کے لئے عنوان کا بھی کام دے۔ مامور شخصیت کا یہ الہام "بشری للمؤمنین" ہے۔

چن بسویشور جس نے نبوت اور خدائی تک کے دعوے کئے ہیں۔ اس کا نام کتاب حل مسائل کا قرآنی حل میں اس طرح اعزاز و اکرام اور تعظیم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ "بانی دیندار انجمن حضرت مولانا صدیق دیندار چن بسویشور قدس اللہ سرہ العزیز۔" (حل مسائل کا قرآنی حل ٹائٹل ص ۳)

دنیا کے اس بدترین کافر کا نام اس اعزاز کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ جس نے یوسف موعود، مہدی آخر الزمان، نبی، بروز محمد بلکہ خدائی تک کے دعوے کئے۔ اس کے باوجود دیندار انجمن والے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔

ختم نبوت کی تشریح

مسلمان تو ختم نبوت کی یہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفی ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خواہ وہ نبی مستقل ہو یا ظلی و بروزی۔ لیکن سعید بن وحید نے ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "کیونکہ اعلان ختم نبوت کا منشاء یہی ہے کہ اسلام اور صرف اسلام ہی دنیا کا واحد دین ہو۔" (حل مسائل کا قرآنی حل ص ۲۲)

اس عبارت سے عوام الناس کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی لکھی ہے۔ مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی تشریح جو بالکل واضح ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو چھوڑ کر اس تشریح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ اس تشریح کی

دہ سے اگر کوئی مستقل نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ بلکہ ظلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اس کا مذہب اسلام ہی ہے تو وہ چونکہ اسلام کو دنیا کا واحد دین مان رہا ہے۔ اس لئے اس کا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

حکومت سے اپیل

ہم سطور بالا میں دیئے گئے حوالجات کی طرف اپنی عوامی حکومت کو توجہ دلاتے ہوئے تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ چونکہ حضور ﷺ کے بعد جن بسویشور مدعی نبوت ہے۔ نیز یوسف موعود اور مأمور وقت اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مثیل ہونے اور ان سے بھی بڑھ کر اپنے اندر حلول خدا کا مدعی ہے۔ اس لئے جن بسویشور کافر و مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو نبی یا بزرگ بلکہ مسلمان سمجھنے والے بھی کافر ہیں۔ دیندار انجمن والے جو اپنے کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کو اپنا دینی پیشوا مانتے ہیں۔ وہ بھی مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

جس طرح حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو کافر و مرتد قرار دے کر غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور یہ موجودہ حکومت کا عظیم کارنامہ ہے کہ وجود پاکستان سے آج تک حکومت پاکستان میں اتنا اہم کارنامہ انجام نہیں پایا۔ اسی طرح دیندار انجمن والوں کو بھی کافر و مرتد قرار دے کر ان کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا اعلان کرے۔

دراصل یہ قادیانیوں ہی کی ایک شاخ ہے۔ جس کو ہم پچھلے باب میں ثابت کر چکے ہیں۔ مگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد یہ چال کی ہے اپنے کو قادیانیوں سے الگ ظاہر کر رہے ہیں۔ تاکہ جو حکم قادیانیوں پر ہوا ہے۔ یہ اس سے خارج رہیں۔

ہمیں امید ہے کہ حکومت اس معاملہ پر غور کرے گی اور ناموس خاتم النبیین سید المرسلین ﷺ کی حفاظت کرنے کا یہ دوسرا اعزاز حاصل کرے گی۔

عوام سے اپیل

جیسا کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ دیندار انجمن والے اور ان کا پیشوا کافر و مرتد ہیں اور یہ اسلام کے لئے زہر قاتل ہیں۔ اس لئے سرکار دو عالم ﷺ کی ناموس مبارک کی حفاظت کی خاطر اس معاملے میں ہر ممکن کوشش سے گریز نہ کریں۔ اس مسئلہ کو جتنا ہو سکے عام کریں۔ عوام کا کوئی مجمع بلکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ چھوڑیں جہاں یہ آواز نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں ہر قسم

کا تعاون کریں۔ اس کے منتظر نہ رہیں کہ آپ سے کوئی اس کی اپیل کرے۔ ان کے خلاف پمفلٹ اور رسالے وغیرہ چھپوا کر تقسیم کریں۔ تا کہ سرکار دو عالم ﷺ کے سامنے قیامت کے روز یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ "تمہارے سامنے میری نبوت بلکہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس وقت تم کیوں خاموش رہے۔"

دیندار انجمن والوں سے ہمدردانہ گذارش

ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس انجمن میں جہاں بعض بدبخت جان کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کچھ ایسے سادہ دل بندے بھی ہیں جو محض اسلام کے نام پر ان کی چرب بیانی سے متاثر ہو کر خدمت دین کے لئے اس انجمن میں داخل ہو گئے ہیں۔

ان سطور میں ہم ایسے ان بھائیوں کو ہمدردانہ نصیحت کرتے ہیں کہ خدارا ان کے عقائد اور مکر و فریب کو سمجھیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ اپنی عاقبت برباد کر چکے ہیں۔ تمہاری بھی عاقبت برباد کرنے کی فکر میں ہیں۔

میرے بھٹکے ہوئے دوستو

کیا اسلام کا وہ طریقہ آپ کے لئے ناکافی ہے۔ جسے سرکار دو عالم ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پیشتر پیش فرمایا تھا۔ جس کو صحابہ کرام، محدثین اور ائمہ مجتہدین نے بحفاظت ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ جن، دیوتا اور دیندار انجمن کی گود میں آ کر پناہ لے رہے ہیں۔ خدارا اپنی جانوں پر رحم کھائیں۔ اب بھی وقت ہے۔ اسلام کی رحمت میں اب بھی آپ کو سایہ مل سکتا ہے۔ اپنی گذری ہوئی کوششوں سے توبہ کر کے اسلام کے عقائد کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ارتداد کے اس جال سے نکالنے کی کوشش کرو۔" وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین"

رشید احمد عفا اللہ عنہ وعافاہ!

۲۳ ربیع الاول ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۳ مارچ ۱۹۷۷ء

زبردست شہادت

کتاب "بھیڑ کی صورت میں بھیڑیے" کی کتابت مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد زاہد صدیقی صاحب سابق مبلغ دیندار انجمن کی کتاب "ہندو اوتار" کے آخر میں ایک زبردست شہادت

[illegible]

مسلمانوں کی تکفیر

جناب سعید قریشی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

قارئین کرام! حوالہ جات مرزا غلام احمد زندیق بانی جماعت احمدیہ کی خود تحریر کردہ کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں۔ آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ان حوالہ جات کو توجہ سے پڑھیں۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ سیاسی گروہ مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انگریز نے اس سیاسی گروہ کو کیوں جنم دیا؟ وہ ان سے کیا خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس میں بات یہ ہے کہ اسلام میں جس قدر اتحاد اور اخوت کی تعلیم ہے۔ دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انگریز سمجھ گیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ نہیں کیا جائے گا۔ تب تک وہ مسلمانوں پر زیادہ عرصہ تک اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے اس کو ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو اس کے سیاسی اغراض کو بروئے کار لا سکے۔ آخر کار مغرب کی ذرخیز سرزمین سے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے مسلمانو! خدا نے قرآن میں جس نبی سابق کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ میں ہوں اور مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اور اگر نہیں آؤ گے تو خدا تمہیں قیامت کے روز نہیں بخشے گا اور تم جہنم میں جاؤ گے۔

اور اس طرح مرزا قادیانی کاذب نے تمام عالم کے مسلمانوں کو کافر اور جہنمی قرار دے دیا۔ جہاد جیسے اہم فریضہ کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے سب مسائل اور اصول بدنام کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دے کر قرآن کریم سب سے بڑا اہم ترین اور اسلام کے روح پرور ایمان افروز مسئلہ کو منسوخ کر دیا ہے کہ فرنگی اور کفار جہاد کے نام ہی سے لرزتے تھے خوش ہو کر مرزا قادیانی اور اس کی امت پر اپنی نوازشات کی بارش کرتے رہیں اور ملت اسلامیہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پھیلائی ہوئی گمراہی میں پھنس کر جہاد جیسے اہم فرض کو خیرباد کہہ دے اور پھر زندہ قوموں میں شمار نہ ہو سکے اور انگریزی حکومت قائم و دائم رہے۔ تاکہ مسیلمہ کذاب کا جانشین سادہ نوع انسان کی وحدت کا قاتل رہا۔

چونکہ اس سیاسی گروہ کو انگریز نے بیشمار فوائد سے نوازا ہے۔ اس لئے انگریز کی اطاعت اور جاسوسی اس قوم یعنی قادیانی کے مذہب میں شامل ہے۔ انگریز کی خدمت کا جذبہ بھی ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ (خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ستارہ قیصریہ ص۳، خزائن ج۱۵ ص۱۱۳) میں لکھا ہے: "مجھ سے (مرزا قادیانی سے) سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل واشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے اسلامیہ ممالک میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ اس لئے مسلمان کا فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے) اور اب بھی فرقہ قادیانی کے امام مرزا بشیر الدین اور چوہدری سر ظفر اللہ اس پروگرام میں مصروف عمل ہیں۔ تاکہ مرزا بشیر امام جماعت احمدیہ کا الہام سچا ثابت ہو سکے۔ جو انہوں نے اپنی علم وعرفان کی محفل میں اپنا رویا یعنی الہام کو بیان کر دیا تھا کہ: "اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہندوستان اکھنڈ رہے اور اگر خدانخواستہ تقسیم ہوئی تو یہ عارضی ہوگی۔" چنانچہ پاکستان کے اعلان کے چند روز پہلے مرزا بشیر یہ کہتا ہے کہ ہم اصول تقسیم کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس لئے ہم تقسیم کو مجبوراً قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان اور ہندوستان کو پھر ایک کر دیں۔

(الفضل قادیان ج۳۵ نمبر۸۱، مورخہ ۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

حضرات! اب آپ سے دوسری گذارش یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹریکٹ کے پڑھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچیں کہ واقعی یہ قوم ایسی ہے کہ اس کی موجودگی ملت اسلامیہ کے لئے مضر ہے تو آپ کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو ان سے خبردار کریں اور اس قوم کو اقلیت قرار دلوانے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اور اس مطالبہ کی خود بھی حمایت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی حمایت کرنے کی تبلیغ کریں۔ تاکہ حضرت علامہ اقبالؒ کی روح کو ثواب پہنچایا جائے۔ جنہوں نے سب سے پہلے ۱۹۳۳ء میں کہا کہ قوم چونکہ نبوت سے باغی ہیں اور احمدیوں نے اپنی الگ بنالیا ہے۔ اس لئے حکومت کو چاہئے کہ احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دے۔

نوٹ: مرزائی حضرات سے میری گذارش ہے کہ وہ اس کو ہر قسم کے تعصب سے بالا

ہو کر پڑھیں اور مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ مسیلمہ کذاب کا جانشین جو اپنے آپ کو خدا، محمد، احمد، عیسیٰ، موسیٰ اور کرشن وغیرہ لکھتا ہے۔ وہ نبی تو کجا ایک ادنیٰ شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا۔

سعید قریشی!

قادیانی نبی

آنچہ من بشنوم ز وحیِ خدا　　بخدا پاک دانمش ز خطا
ہمچو قرآں منزہ اش دانم　　از خطاہا ہمیں است ایمانم
انبیاء گرچہ بودہ اند بسے　　من بعرفاں نہ کمترم ز کسے
آنچہ داد است ہر نبی را جام　　داد آں جام را مرا بتمام
کم نیم زاں ہمہ بروئے یقین　　ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(درثمین ص ۲۸۷)

زندہ شد ہر نبی بہ آمدنم
ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۶۵، مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۲۳ء)

''اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص (یعنی مرزا قادیانی) کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔''

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

''(ملک عبدالرحمن) خادم صاحب (مرزا قادیانی) نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے چالیس حوالے پڑھ کر سنائے جن میں حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا اور نبوت کا غیر مشروط دعویٰ کیا ہے۔''

(اخبار الفضل قادیان ج ۳۰ نمبر ۱۲۳، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۴۲ء)

''خدا تعالیٰ نے ''جری اللہ فی حلل الانبیاء'' (یہ مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ للمؤلف) تمام نبیوں کے قائم مقام ایک مبعوث فرمایا جو یہودیوں کے لئے موسیٰ، عیسائیوں کے

لئے عیسیٰ، ہندوؤں کے لئے کرشن، مسلمانوں کے لئے محمد و احمد ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۱۱۱ مورخہ ۹ مئی ۱۹۱۶ء)

"ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں (یعنی ہندوؤں کو) دیا گیا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔"

(مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز ج ۳ نمبر ۱ ص ۱۰ منقول از رسالہ تبلیغ ہدایت ص ۳۰۶)

"ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ...... ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضلہ نہیں چھوڑ سکتے۔"

(اخبار پیغام صلح نمبر ۳۵ ج ۲ مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۱۳ء، از اخبار الفضل قادیان ج ۸ نمبر ۳۵ ص ۳ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۲۰ء)

رسول عربی احمد نہیں بلکہ مرزا زندیق احمد ہے؟

"مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد مرقوم ہے۔ ان الفاظ میں مسیح نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشگوئی کی ہے کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا آنا میرے بعد ہوگا۔ اس کا نام احمد ہے۔ پیشگوئی میں آنے والے رسول کا اسم احمد بتایا گیا ہے۔ جس کا مصداق آنحضرت (محمد رسول اللہ ﷺ) اس لئے نہیں ہو سکتے کہ قرآنی وحی میں کسی مقام سے آپ کا نام نامی احمد ثابت نہیں ہوتا۔ (قادیانی مغالطہ ملاحظہ ہو۔ مؤلف) ہاں محمد آپ کا اسم گرامی ضرور ہے۔ جیسا کہ آپ قبل از بعثت محمد ہی کے نام سے مشہور تھے اور ایسا ہی قرآنی وحی میں بھی آپ کو بار بار محمد ہی کے نام سے یاد فرمایا گیا ہے اور تورات میں بھی آپ کی پیشگوئی میں آپ کا نام محمد ہی بتایا گیا ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۲۵ مورخہ ۱۹ / اگست ۱۹۱۵ء)

"اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یونہی نہیں کر دیا۔ بلکہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح اوّل (حکیم نورالدین) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ (مرزا غلام احمد قادیانی) صاحب احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درسوں کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت "اسمہ احمد" کے مصداق حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) ہی ہیں۔" (انوار خلافت ص ۲۱)

تمام عالم اسلام کے مسلمان مرزا غلام احمد
مسیلمہ کذاب کے جانشین کو نبی نہ ماننے والے کافر اور جہنمی ہیں؟

"خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۵ء)

"مجھے الہام ہوا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہو گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۵ تبلیغ رسالت ج ۹ ص ۲۷)

"آپ نے (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے) اس شخص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہے مگر مزید اطمینان کے لئے اس بیعت میں توقف کرتا ہے کافر ٹھہرایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل سے سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے کافر ٹھہرایا ہے۔" (رسالہ تشحیذ الاذہان ج ۶ نمبر ۴ بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ء منقول از [illegible] احمدیہ ص ۱۰۸)

"ایک شخص نے خلیفۃ المسیح اوّل (حکیم نورالدین) سے سوال کیا کہ حضرت

مرزا صاحب کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔"

(رسالہ تشحیذ الاذہان نمبر ۱۱ ص ۳۲، بابت ماہ نومبر ۱۹۱۳ئی مندرجہ اخبار پیغام صلح ج ۱۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۱۳ئی)

"کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔"

(آئینہ صداقت ص ۳۵)

"پس اس آیت کے ، تحت ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو تو مانتا ہے پر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لئے "اولئک هو الکافرون حقاً" فرمایا ہے۔" (کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویو ج ۱۴ نمبر ۳ ص ۱۱۰)

"جری اللّٰہ فی حلل الانبیاء" (یہ مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ مؤلف) سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت احمد (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) ایک عظیم الشان نبی اللہ ہیں اور ان کا انکار موجب غضب الٰہی اور کفر ہے۔" (سوانح احمد آفتاب الہام ص ۱۰)

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود کا (مرزا غلام احمد قادیانی) اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے الہام میں احمد نام رکھا ہے۔ اس لئے آپ کا منکر کافر ہے۔ کیونکہ احمد کے منکر کے لئے قرآن مجید میں لکھا ہے۔ "واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون"

(کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویو نمبر ۳ ج ۱۴ ص ۱۴۱)

چوہدری سر ظفر اللہ خان کی نظر میں عالم اسلام کے مسلمان

"چوہدری (یعنی سر ظفر اللہ خان قادیانی) کی بحث تو صرف یہ تھی کہ ہم احمدی مسلمان

ہیں۔ ہم کو کافر قرار دینا غلطی ہے۔ باقی غیر احمدی (یعنی مسلمان) کافر ہیں یا نہیں اس کے متعلق عدالت ماتحت میں بھی احمدیوں کا یہی جواب تھا کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور ہائیکورٹ میں بھی چوہدری ظفر اللہ نے اس کی تائید کی ہے۔'' (اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۲۱ مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۲۲ء)

مفتی کا فتویٰ

(اخبار بدر ج ۲ مورخہ ۹ مارچ ۱۹۰۶ء) میں ملک مولا بخش آف گورالی نے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت مرزا قادیانی کو مسیح موعود نہ ماننے والے کو کافر ماننا چاہیے۔ حضرت مفتی (محمد صادق) قادیانی یہ جواب لکھتے ہیں: ''خدا تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا شرائط اسلامی میں داخل ہے۔ ایک شخص آدم سے لے کر نبی کریم ﷺ تک سب پر ایمان لاتا ہے۔ درمیان میں سے ایک رسول کو (بالفرض مسیح ابن مریم ہی کو سہی) نہیں مانتا۔ کہتا ہے وہ تو کافر تھا۔ بھلا وہ شخص یہودی کہلائے گا یا مسلمان۔ حضرت مرزا قادیانی بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ جو خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ آپ ہی بتائیے مگر انصاف شرط ہے۔'' (مولوی محمد علی کے ایک ساتھ تحریرات کے متعلق جوابات پر نظر ص ۱۳۳)

مسلمانوں کو دھوکا

قادیانی اپنی تحریر میں تقریر میں بالعموم مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ قادیانی درحقیقت ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہم وگمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ۔ لفظ کچھ ہے اور معنی کچھ۔ چنانچہ لفظ مسلمان کی قادیانی تفسیر سنئے اور بیداد کی داد دیجئے۔

''چو دور خسروی آغاز کردند
مسلماں را مسلماں باز کردند

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

عقائد قادیانی منظوم

مولانا مشتاق احمد چرتھاولی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

مقدمہ

مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں علمائے اسلام نے قابلِ آفرین جدوجہد سے مکالمہ مرزائیہ کی اصلی شکل کھول کر مسلمانوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد مرزائیوں نے مختلف جماعتوں میں ہو کر اس قدر شور و شر پھیلایا کہ از سرِ نو ان کی سرکوبی کی ضرورت محسوس ہوئی۔

خصوصاً محمد علی ایم اے اور کمال الدین لاہوری نے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تاویل کر کے قوم کی بدگمانی دور کرنے اور اشاعت مرزائیت کے لئے خود مسلمانوں ہی سے امداد حاصل کرنے میں اپنی چالاکی و اہل فریبی سے کام لیا کہ علماء کی مشکلات میں چند در چند اضافہ ہو گیا۔ مگر خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ علماء ربانی نے اس چالاک جماعت کی مکاریوں کا راز فاش کرنے میں بھی پوری مستعدی سے کام لیا اور مرزائی دعویٰ نبوت سے تاویلوں کا پردہ اٹھا کر لاہوری مرزائیوں کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اور در اصل اس چالاک جماعت کی تردید میں یہ طریقہ نہایت موثر ثابت ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے باطل دعوؤں کو بیان کر کے تمام مرزائیوں کا کفر مسلمانوں پر ظاہر کر دیا جائے۔

اسی لئے خاکسار نے بھی بحیثیت ایک ادنیٰ خادم اسلام ہونے کے مرزائی عقائد کو سلیس اردو میں نظم کر دیا ہے تاکہ معمولی سمجھ کا مسلمان بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب اور اس کے تمام مریدوں کو مرتد و خارج از اسلام یقین کرنے میں تامل نہ کرے اور اس چالاک جماعت کے فتنہ [illegible] رہے۔ واللہ الہادی!

مندرجہ ذیل کتابوں سے قادیانی عقائد نقل کئے گئے ہیں

حقیقت الوحی، ازالہ اوہام، اعجاز احمدی، دافع البلاء، نزول المسیح، اربعین نمبر ۳، ۴، ضمیمہ تحفہ گولڑویہ، مکتوبات احمدیہ، کتاب البریہ، البشریٰ، آئینہ کمالات اسلام، کرامات الصادقین، منارۃ المسیح، اعجاز المسیح، اخبار بدر، مارچ ۱۹۰۰ء۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

عقائد قادیانی منظوم

ہوا کیسی ہے رخ خدایا چلی ہے کہ پژمردہ ہر اک چمن کی کلی ہے
یہ ہر سمت کیسی پڑی کھلبلی ہے کہ ہر فرد کو قوم کے بیکلی ہے
نہ ہے چین دن کو نہ شب کو ہے آرام پریشان رہتے ہیں اب اہل اسلام
ہدایت نے دنیا سے باندھا ہے بستر کھلے جابجا ہیں ضلالت کے دفتر
بنایا ہے اب اہل مطلب کو لیڈر جو ہیں ناجزان ان کو سمجھا ہے رہبر
قیامت کے سارے کھلے ہیں یہ آثار ہے اب اہل اسلام کو جینا دشوار
عقائد میں پھیلی ہوئی ابتری ہے کوئی اہل قرآں کوئی نیچری ہے
سلف سے انہیں دعویٰ ہمسری ہے نئی بات کہنے میں ہر اک جری ہے
نہ کچھ حق و باطل کا معیار ہے اب ہر اک اپنے مذہب کا مختار ہے اب
گئی شرم و غیرت ہوا دین برباد جسے دیکھئے ہے وہ مذہب سے آزاد
خودی کا سبق ایسا ازبر کیا یاد کہ بن بیٹھے ہیں آپ ہی اپنے استاد
سمائی دماغوں میں بادنئی ہے زمانہ میں پھیلی نئی روشنی ہے
ہوا ان کے نزدیک قرآن بیکار ہوائی ہوئیں سب احادیث واخبار
ہے فتنہ کا اب ہر طرف گرم بازار نئے دین کے سب ہوئے ہیں خریدار
کسی ہے تمنا کسی آرزو ہے نئے دین کی رات دن جستجو ہے
ہے ایک فرقہ پنجاب میں قادیانی سنو اب ذرا مجھ سے اس کی کہانی
ہے مرزا قادیانی اس جماعت کا بانی ضلالت میں جس کا نہیں کوئی ثانی
دکھا کفر کا نام اسلام اس نے کیا قوم کو خوب بدنام اس نے
مصنف سے پہلے مجدد بنا وہ کچھ ایام گذرے تو مہدی ہوا وہ
مسیحا پھر اپنے کو کہنے لگا وہ غرض جو چلے چال الٹی چلا وہ
نیا دین تھا اس کا مذہب جدید تھا نہ تھی شرم اس کو نہ خوف خدا تھا

امام زماں وہ مسیح موعود
مجدد صدی کا وہ مہدی مسعود
تھا ملعون دنیا کا عقبیٰ کا مردود
غرض سارے اوصاف تھے اس میں موجود
کہوں کیا میں تم سے کہ کیا کیا بنا وہ
تھا بندہ خدا کا خدا بن گیا وہ
کبھی ابن مریم سے خود کو بڑھایا
کبھی سارے نبیوں سے افضل بتایا
عجب خبط تھا اس کے دل میں سمایا
سماں جیسا دیکھا وہی راگ گایا
نیا رنگ ہمیشہ بدلتا رہا وہ
نئی سے نئی چال چلتا رہا وہ
بچھایا عجب مکر کا جال اس نے
کیا دین احمد کو پامال اس نے
کی تجدید دعویٰ کی ہر سال اس نے
بتایا برا قوم کا حال اس نے
نہ تھا خوف عقبیٰ کے سود و زیاں کا
فقط دھن تھی یہ ہو نبی قادیاں کا
لکھا کہ تھے عیسیٰ کے ناپاک اطوار
تھی ماں اور نانی بھی اس کی زناکار
شرارت میں مرزا سے شیطاں گیا ہار
مگر یہ نہ ہرگز ہوا اس سے بیزار
نبی پہ یہ تہمت غضب ہے خدا کا
مزہ خوب چکھے گا اس کی سزا کا
بڑا بے ادب ہے بہت بے حیا ہے
ہر ایک بات اس کی سلف سے جدا ہے
بھلا اسکی جرأت کی کیا انتہاء ہے؟
حقیقت میں یہ صاف دعویٰ کیا ہے
کہ جو جو نعم ہر اک نبی کو ملا تھا
خدا نے وہ یکجا مجھے دے دیا تھا
کہا جتنے گذرے نبی ہیں و پیمبر
امام و ولی پیشوا اور رہبر
ہوئے گدلے ان سب کے پانی سراسر
کبھی میرا چشمہ نہ ہو گا مکدر
مجدد نبی برگزیدہ ہوں مرسل
بنایا خدا نے مجھے سب سے افضل
مرا رتبہ ہے سب سے بالا و برتر
میں ہوں سارے نبیوں کا سالار و افسر
کئی تخت اترے سما سے زمیں پہ
مرا تخت لیکن بچھا سب سے اوپر
میں ختم الرسل اشرف الانبیاء ہوں
مرے نور سے سب میں نور خدا ہوں
میں ہوں باعث خلق و ایجاد عالم
بدولت مرے ہوئی تخلیق آدم
جہاں میں جو موجود ہے خشک اور نم
زمیں آسمان اور عرش معظم
مرے ہی سبب سے یہ پیدا ہوئے ہیں
مکین و مکاں سب ہویدا ہوئے ہیں
یہ دنیا میں جتنے شجر اور حجر ہیں
گل و خار جو کچھ کہ پیش نظر ہیں

درخشاں ستارے ہیں شمس و قمر سب
یہ سب میرے ہی نور سے جلوہ گر ہیں

اگر میں نہ ہوتا خدائی نہ ہوتی
خدا کی یہ جادو نمائی نہ ہوتی

مری ذات پہ امر کن کا کھلا راز
مجھی سے ہے ہر شے کا انجام و آغاز

خدا کی میں ہر آن سنتا ہوں آواز
ہے مرے سے ہر کام کا ساز و پرداز

ارادہ مرا ہے خدا کا ارادہ
ہے سب علم میں میرے کم اور زیادہ

خدا نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا
برابر کا ساجھی پھر اپنا بنایا

یقیں جان اس میں نہیں شک ہے اصلا
جو منکر ہے میرا وہ منکر خدا کا

خدا بھی ہوں میں اور ابن خدا بھی
اکیلا ہوں پیوستہ اس سے جدا بھی

کہا اس نے اک دن ہوا مجھ پہ الہام
خدا کی طرف سے کہ اے نیک انجام

مبارک ہو تجھ کو ہمارا یہ پیغام
تو ہے مجھ سے میں تجھ سے پاتا ہوں آرام

احد اور صمد میں ہوں توحید تو ہے
میں فرد و یگانہ ہوں تفرید تو ہے

چلی اس کی آخر یہاں تک دلیری
کہی بات وہ جو نہ ہم نے سنی تھی

ہے ہر شے تو تسبیح کرتی خدا کی
خدا عرش پہ حمد کرتا ہے میری

جہاں کے لئے میں سراپا ہوں رحمت
تمام انبیاء نے دی میری بشارت

جو القاب خیر الوریٰ کے تھے شایاں
کئے اسنے سب ذات پہ اپنی چسپاں

نہ پاس ادب تھا نہ کچھ پاس ایمان
یہ طالب تھا شہرت کا اور بندۂ نان

کہے سخت الفاظ حضرت کی شان میں
نہ گستاخ ایسا ہوا ہے جہان میں

کہا کافروں نے رسول خدا سے
کہ دعوائی میں اپنے اگر تم ہو سچے

دکھاؤ ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے
تو ہم تابع ہو جائیں گے سب تمہارے

تمہاری رسالت کا یہ امتحان ہے
نہیں اس میں گنجائش این و آں ہے

کیا انگلی کا جب نبی نے اشارہ
طرف چاند کے ہو گیا وہ دو پارہ

جو قدرت خدا کی ہوئی آشکارا
تو کفار نے اس کو جادو بتایا

اسی معجزے کا ہے شق القمر نام
تہ دل سے ہیں مانتے اہل اسلام

سنو اب کہ مرزا کی بکواس کیا ہے؟
کھلے معجزے کو وہ کیا لکھ رہا ہے؟

گہن تھا نہیں چاند ہرگز پھٹا ہے
قصیدہ میں یہ صاف لکھ دیا ہے

۵

کبھی نام رکھا ہے شق القمر کا — کھلاتا ہے رتبہ جو خیر البشر کا
کہا یہ کہ اس کے لئے کیا ہوا تھا؟ — فقط چاند ہی کو گہن لگ گیا تھا
مگر مجھ پہ دو چند ہے فضل رب کا — ہوئے دو گہن چاند و سورج کے پیدا
نبوت کا میری ہوا صاف اظہار — کیا اب بھی باقی تمہیں عذر و انکار؟
ہوئی تھی جو معراج حضرت کو اک شب — مع جسم اطہر گئے تھے سوئے رب
ملا تھا نہ پہلے کسی کو جو منصب — تھے اس کے لئے آپ اولیٰ و انسب
احادیث و قرآں میں یہ سب عیاں ہے — ہر اک واقعہ کا مفصل بیاں ہے
مگر کہتا ہے مرزا بہ طبیعت — شب و روز اس پہ خدا کی ہو لعنت
تھی معراج کیا کشف تھا در حقیقت — ہوئے ہیں مجھے کشف ایسے بکثرت
میں اس کشف میں صاحب تجربہ ہوں — یہ ہے آپ بیتی جو میں کہہ رہا ہوں
ہے اللہ کی مجھ پہ ہر دم حمایت — نوازش کی اس کی نہیں حد و غایت
اترتی ہے وحی اس کی ہر ایک ساعت — نہیں ہے احادیث کی مجھ کو حاجت
میں بے حی و زندہ سے لیتا ہوں امداد — روایت سے مردوں کی تم سب ہو دلشاد
جو آتی ہے وحی خدا مجھ پہ ہر آں — وہ ہے مثل توریت و انجیل و قرآں
یقیں ہے مرا اس پہ اور ہے یہ ایماں — کہ اصلاً نہیں کذب کا اس میں امکاں
ہے ترک احادیث آساں و لیکن — یقیں کو میں چھوڑوں نہیں ہے یہ ممکن
احادیث کا ہے جو مجموعہ انبار — ہے دراصل کذب و بناوٹ کا طومار
رطب اور یابس کی ہے اس میں بھرمار — سمجھتا ہوں میں اس ذخیرے کو بیکار
ہو بے واسطہ مجھ پہ جب حق کا الہام — تو جھوٹی حدیثوں سے کیا پھر مجھے کام؟
میں آیا ہوں بن کر حکم اور مامور — نہیں ہوں حدیثوں کے لینے پہ مجبور
خصوصاً جو ہو مدعا سے مرے دور — کسی طرح مجھ کو نہیں ہے وہ منظور
حدیثوں کے لینے میں مختار ہوں میں — جسے چاہوں پھینکوں جسے چاہوں لوں میں
دکھائی پھر اس نے یہ اپنی سفاہت — غلام ہو کے آقا پہ دی یوں فضیلت
کہ جن جھگڑوں کی ہے کچھ روایت — صحابہ نے بھی دی ہو ان کی شہادت
حدیثوں میں وہ صرف کی سرخیاں ہیں — ولیکن مرے پاس سو لکھ نشاں ہیں

نہ سمجھایا حضرت نے ہے کون دجال — بتایا نہ یاجوج و ماجوج کا حال
چلے گا زمیں کا وہ کیا جانور چال؟ — نہ واضح کیے یہ رہا اس میں اجمال
غرض آج تک تھے یہ الفاظ مجمل — حقیقت کھلی ان کی مجھ پہ مفصل
صحابی جو تھے ابن مسعود ذیشاں — بتایا انہیں ایک معمولی انساں
کشادہ بتایا تھا اپنا گریباں — کہ رکھتا تھا وہ سو سخن اس میں پنہاں
غبی اس کے نزدیک تھے بوہریرہ — ہے جن کی روایت کا دنیا میں شہرہ
سنو اس سے بھی طرفہ تر ماجرا تم — کہ سنتے سے جس کے ہو عقل و خرد گم
چھپایا تھا دنیا میں جس نے تلاطم — بپا تھا جہاں جس سے تا چرخ ہفتم
جو کچھ بھید کھلنے سے باقی رہا تھا — وہ اس واقعہ نے عیاں کر دیا تھا
کہا پیدا ہوگا میرے ایک فرزند — جو ہوگا ذہین و ذکی و خرد مند
ولادت سے اس کی جہاں ہوگا خورسند — کرے گا وہ رنج و مصیبت کے دربند
بشیر عنموائیل ہے نام اس کا — بہت ہوگا دنیا میں اکرام اس کا
وہ ہے پیاری اور موتی شکل والا — کہ ہے نور کے گویا سانچے میں ڈھالا
وہ اوصاف میں اپنے ہوگا نرالا — زمانہ میں پھیلے گا اس سے اجالا
بہت جلد نشو و نما پائے گا وہ — عجب شان دنیا کو دکھلائے گا وہ
زمیں کے کناروں میں مشہور ہوگا — جہاں فیض سے اس کے معمور ہوگا
وہ سب ظلمتوں کے لئے نور ہوگا — وہ علم اور حکمت سے بھرپور ہوگا
اسے دیکھ کر بول اٹھیں گے زباں سے — کہ گویا ہے اترا خدا آسماں سے
فیوض اس کے ہر چار سمت ہوں گے جاری — کٹھن مشکلیں ہوں گی آسان ساری
اسیروں کو مل جائے گی رستگاری — کرے گا غریبوں کی وہ دستیاری
وہ باعظمت و شوکت و جاہ ہوگا — وہ شاہان عالم کا بھی شاہ ہوگا
ہوا جب وہ مولود موعود پیدا — مریدوں کو مرزا نے مژدہ سنایا
رواں کئے تار و خط اس نے ہر جا — کیا آن کی آن میں خوب چرچا
کیا تھا بڑی دھوم سے یہ تہیہ — نہ رکھا تکلف میں باقی دقیقہ
مگر ایک لڑکے نے کی بے وفائی — دیا جلد مرزا کو داغ جدائی

ے

پھر سر پیٹتے رہے باپ بھائی
ملی عزت سے پر نہ اس کو رہائی

نہ ہاتھ آیا مرزا کو جز رنج و حسرت
ملی خاک میں اس کی ساری نبوت

مرا نظم لکھنے سے یہ مدعا تھا
کہ دجال جو قادیان میں ہوا تھا

غضب آہ! ظالم نے کیسا کیا تھا؟
کہ حضرت محمدؐ سے افضل بنا تھا

میں سب مکر و فن اس کے تم کو بتاؤں
جو چالیں چلا تھا وہ سب کچھ سناؤں

ہوا مختصر حال اس کا بیاں سب
سنائی نہیں کفر کی داستاں سب

یہ مشتے نمونہ ہے ورنہ کہاں سب
سمائے نہ دفتر میں گر ہو بیاں سب

کی عمر بھر ایسی بکواس اس نے
کہ دیں کا کیا ستیاناس اسنے

لگاتا تھا مسلم کے ہر آن وہ نیش
کبھی دیکھتا ہی نہ تھا کچھ بھی و پیش

بچا کوئی عالم نہ صوفی نہ درویش
کہ مرزا نے اس کا کیا ہو نہ دل ریش

بہت عالموں کا دل اس نے دکھایا
بہت پیشوایان دیں کو ستایا

محمدؐ ہیں سچے نبی اور مرسل
ہوا ہے نہ ہوگا کوئی ان سے افضل

جو ہم رتبہ ان کا بنے کوئی اجہل
نہایت کمینہ ہے وہ اور ارذل

میں ایسے کمینہ سے رکھتا ہوں نفرت
ہمیشہ کیا کرتا ہوں اس پہ لعنت

ذرا آپ انصاف کیجئے خدارا
نبیؐ کی ہو توہین کیسے گوارا؟

ہے ان کی شفاعت کو ہم کو سہارا
اگر وہ راضی نباشد تے قسمت مارا؟

کیا ہوگا دل جس نے حضرت کا ناشاد
کرے گا خدا اس کو عقبیٰ میں برباد

نبیؐ کی رضا کا طلب گار ہوں میں
دل و جان سے ان کا خریدار ہوں میں

شراب محبت سرشار ہوں میں
جو ہو بے ادب اس سے بیزار ہوں میں

ہے عشق محمدؐ مرے دل میں بے حد
سراپا بنا ہوں میں مشتاق احمدؐ

جو احباب ہیں کل اصاغر اکابر
مرا حال ان پہ ہے ظاہر و باہر

کہ شعر و سخن میں نہیں ہوں میں ماہر
نہ منشی ہوں اور نہ کوئی شاعر

نہ عالم نہ فاضل نہ پیر و ولی ہوں
میں اک طالب علم چھوٹا ولی ہوں

محمد شفا

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

قتل دجال

مولانا عبدالرزاق انقلابی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱)

ہزارہا فتنے اس جہاں میں بپا ہوئے ہیں تو ہوتے ہیں
کبھی نشانے ہیں عقل کے سیدھے اور کبھی وہ خطا ہوئے ہیں
بعد ختم نبوت آئے منافقین رونما ہوئے ہیں
حقیقتاً اقتصادی چالاکیوں کے ابواب وا ہوئے ہیں
نماز روزہ الگ ہے ان کا زکوٰۃ و حج ۔ سجے آستاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲)

نبی خاتم انبیاء محمدؐ حق تعالیٰ بتا چکے ہیں
رسالت حق کے دشمنوں کو نبی کے ساتھی مٹا چکے ہیں
ہوا جو فتنہ مسیلمہ کا صحابہ اس کو دبا چکے ہیں
بقائے ایماں کی خاطر اپنی عزیز جانیں کٹا چکے ہیں
ہے اہل تجسس کا اک نمونہ مسیح دجال قادیاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۳)

رسول کے نازنین کی توہین کی نہ آئی حیا ذرا بھی
حسینؓ جس نے کہ خوں سے اپنے کی دین برحق کی آبیاری
نماز تیری میں ناز جس کے سے ہوئے نازل رضا الٰہی
بہشت کے سب جوانمردوں کا ہے وہ سردار کربلائی
جہاد و ایمان کی مکمل حسینؓ تصویر ہے زماں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۴)

وہ پاک حسنینؓ کہ جن کا خوں ایک دوسرے سے ملا جلا ہے
وہ سیدہ پاک جس کا پیکر نبیؐ کے خوں پاک سے بنا ہے
وہ شیر مولیٰ لقب ہے جس کا اور انت منی جسے عطا ہے
نفوس پاکاں کہ جن سے ظاہر رسول اقدس کی ہر ادا ہے
وہ ننگ انسانیت کو آتے تھے دیکھتے بدتریں مکاں ہیں؟
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۵)

وہ غنچۂ گلشن نبوت نبیؐ جو سردار کل نساء ہے
ملائکہ کی نظر تھی تکتی کہ دختر ختم انبیاء ہے
مثال جس کی بھلی نہ ہوگی وہ ہمدم شاہ مرتضیٰ ہے
خطاب خاتون جنت اس کا وہ ام حسنین بے مرا ہے
یہ جسم ناپاک واجب القتل بک رہا ہے کچھ اس کی شان میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۶)

بڑا ہی گستاخ بے شقی ہے رذیل و اخبث ہے بدزباں ہے
کمینگی گمرہی کی حد ہے یہ بے حیا اور پلید جاں ہے
یہ کرم مرزائیت جہنم میں ملیا میٹ اور بے نشاں ہے
مٹا وہ دنیا سے نام مرزا یہ دائرۂ ارض و آسماں ہے
میں قوم اپنی کو دیکھتا ہوں وہ کیسے اترے گی امتحان میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۷)

یہ آدمیت نما شیاطیں کہ جن کی خاطر بنا جہنم
یہ ان صحابہ کے ہیں مشابہ جو تھے نبیؐ کے جلیس و ہمدم؟

مرکب اسلام کی عمارت میں جن کی قربانی اور دم خم
جہاد و تبلیغ سے کیا ہے جنھوں نے اونچا ہلالی پرچم
ملے گی کیونکر ہدایت ان کو جو آئیں شیطاں کی دکاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۸)

خبر بھی ہے کچھ؟ جو انبیاء تھے وہ گلشن دیں کے باغباں تھے
وہ کلمۂ حق کے پاسباں تھے خدا کی باتوں کے رازداں تھے
زباں پہ جن کی تھا حق اترتا جہاد و ایماں کی داستاں تھے
انھی کی کرتا ہے موشگافی جو غیب و حاضر کے نکتہ داں تھے
انھی پہ اس کی زباں درازی کہ جن کا چرچا ہے آسماں میں
غلام اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۹)

وہ ابن مریم کہ جس کی تعریف سے ہے لبریز پاک قرآں
وہ جس کی عصمت کی دے رہا ہے گواہی اب تک خدائے
یزداں
مدد تھی روح القدس کی جس کو جو آسماں پہ ہے زندہ تاباں
نبیؐ کے روضہ کا مستحق ہے وہ بازوئے اسلام کا ہے نازاں
ہے مرقد عیسیٰ خالی اب تک پڑا ہے دجال مردگاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۰)

نساء عالم میں چیدہ بی بی خدا کی وہ برگزیدہ مریم
مطہرہ جس کو بولا رب نے نہ دیکھا تھا جس نے غیر محرم
خدا نے پھونکی تھی روح جس میں بشکل روح مسیح اعظم

وہ خاندان نبوت آرا ہوئے ہیں جس میں رسول یتیم
یہی ہے کذاب ومفتری متنبی اور ملعون خانماں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۱)

میں سید ولد آدمیت مگر مجھے فخر کچھ نہیں ہے
وہ سردار کائنات ہے اور اسی کی خاطر فلک زمیں ہے
وہ آیہ خاتم النبیین اس کی تخصیص بہترین ہے
خدا نے بعد اپنے دی فضیلت اسے وہ رحمت للعالمیں ہے
جو شان اس کی نہ سمجھے کیونکر وہ آئے گا اس کے سائباں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۲)

کہاں وہ احمد امیر سب کا، حبیب رب کا، نبی عرب کا
کہاں یہ قیدی جو قیدیاں کا غلام پھر غلام زادہ
غلام موصوف لغوی احمد صفت ہے لغوی نہیں اضافہ
یہ ترجمہ ہے غلام تعریف کردہ برطانیہ ہی کا
معاند حق ہے خود اقرار ہے غلامان ولیدیاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۳)

خدا کی حمد و ثنا میں کٹ جائیگی عمر ساری ہے انتہاء کی
خدا کے بندوں مجاہدوں کی ملائکہ اور اولیاء کی
جو پاک ہر ایک عیب سے ہے بھلا رجولیت اس خدا کی
تف اے ملعون وجہول ناشر یہی علامت ہے انکار کی؟
یہی خرافات روز محشر دکھائے گا اپنی داستاں میں

غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۴)

کسی بجاؤ کر گالیاں دینا کس کی تہذیب میں روا ہے؟
نبی تھے اخلاق کے مجسم بھی تو ممتاز اک ادا ہے
کبھی نبی نے کسی طبیعت پہ ایسا بڑھ کر ستم کیا ہے؟
کہاں خدا نے نہ ماننے والوں کو خنازیر و سگ کہا ہے؟
کہی جتنی ہرزہ سرائی ممکن وہ کر گیا ہے نجس زباں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۵)

جن الجھنوں سے چھڑانے آتا ہے کوئی ہادی کسی وطن کو
ان الجھنوں میں پھنسانے آیا یہ ابلہ مکار روح و تن کو
کبھی خدا ہے کبھی نبی ہے کبھی مجدد ہے سخن کو؟
عجب تضاد اس کے دعووں میں ہے بنایا پرخار ہے چمن کو
ہے فرق دونوں گروہوں میں اس کے جتنا فرق ارض و آسماں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۶)

لباس تلبیس و جام ابلیس شیطنت کی پیمبری ہے
تملق و ذلت و غلامی رذالت و کذب و زرگری ہے
فرنگ یاری فریب و مکر و ضلالت و کفر و آزری ہے
نبوت اس کی کتب فروشی جماعت اس کی وہ مشتری ہے
ہے سامریت طریق اس کا ہیں دھوکہ باز اس کے کارواں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۷)

کبھی سنا ہے یسوع فرضی کہ ماں نے فرضی کبھی جنا ہے؟
کسی مؤرخ نے اپنی تاریخ میں یہ فرضی نبی لکھا ہے؟
یہ فرضی پیغمبری کا قصہ نبی فرضی کا معجزا ہے
یہ فرضی اس کی ہے مرضی اپنی، غرض مرض میں اسے روا ہے
خدا بھی فرضی ہے بیٹی بیٹی بھی خود بھی فرضی ہے فرضداں میں
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۸)

بنایا اس نے ہے خواہش اپنی کو اپنا معبود درحقیقت
ہوا ہے نسخ جہاد تحریف میں یہ مقصود درحقیقت
خیال اپنے کو وحی سمجھا نہ چھوڑا بے سود درحقیقت
کریہہ منظر غلط بیانی میں آیا مردود درحقیقت
بڑی ہی تاویل اور تکذیب ہے تضاد اس کے ہر بیاں میں
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۱۹)

شہید کیونکر ہوئے صحابہؓ مسیلمہ گر نبی بنا تھا
بتاؤ سجاحؓ بنت حارث مسیح اسود کا جرم کیا تھا؟
وہ عائشہؓ اور علیؓ کی جنگ میں نبی کا آنا نہ کیوں ہوا تھا؟
حسینؓ و عثمانؓ کی شہادت میں ہل جبریل تھک گیا تھا؟
فرنگیوں کی مدد کی خاطر نبی ہوا پیدا تو وہاں میں؟
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۰)

خدا کو غیرت نہ آئی اس وقت جب کہ چنگیزی چھا چکے تھے
ہلاکو خاں نے ستم کیا تو فرشتے رحمت کے جا چکے تھے
ہوا جو لیکن خلل ہم سے نبی نبوت چھپا چکے تھے
جو آئے ہندوستان میں انگریز مرزا مرتد بھی آ چکے تھے

کے

وہ کون سا تھا سبب نہ پہنچے جو بعد چھٹا پیدا اس زماں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۱)

بہاء کو کیوں قتل کر دیا تھا ہوا جو ایران میں نبی تھا؟
عرب کا قاتل ترین احمد جو شاعری کا بڑا دشمن تھا
کلام جس کا سند ادب کی وہ شاعر فی البدیہہ بھی تھا
نبی نہ عربوں نے اس کو مانا غلام احمد تو اعجمی تھا
وہ کون سی خوبی تھی نہ ان میں جو تھے اہل وشم جہاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۲)

نہ کوئی خیر القرون میں حضرتؐ کے بعد کر سکا تھا نبوت
نہ یار غار نبی کا حق تھا نہ کاتب وحی کو مہارت
خدا کا عمرائے فاتح کل حیا و ایماں کو نہ جرأت
ولی امام و فقیہ و غوث و حکیم و اصحاب کو نہ قسمت
یہ سرفرازی تھی اس شر القرون کی قسمت کے کہکشاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۳)

علیؓ و عثمانؓ و عمرؓ و ابوبکرؓ جو محمدؐ کے جانشیں تھے
نزول جبریل دیکھتے تھے جو روز وہ تو نبی نہیں تھے
بتاؤ آیات یا روایات بعثت مرزا کی کہیں ہیں؟
ہوا ہے گمراہ دین عقل یہ فتنہ پرداز و ننگ دیں تھے
خداع و فسق و فجور کا ہے عذاب سب نار جاوداں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۴)

نشانی کوئی نہ ٹھیک اتری وہ بے نکاح محمدی ہے
یہ سحر و باطل کے مجموعے ہیں لکھوکھا گنتی واقعی ہے
زیادہ دس لاکھ سے خرافات وقت اپنے کا سامری ہے
سقر میں اوندھا گرا ہے گمراہ نتیجہ کارکردگی ہے
سزا گناہ عظیم کی پارہا ہے وہ آتش تپاں میں
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۵)

وہ دعوؤں کا پول موت کے وقت تھی غلاظت دبر و دہن میں
یہی نشانی جو ہیضہ کی ہے بڑی نشانی ہے اس کے تن میں
کسی نبی کو نصیب ایسی ہوئی تھی ذلت کبھی کفن میں؟
مسیح موعود کا بھی خاتمہ ہوا اس کے مرد و زن میں
وہ خبث باطن نکل رہا تھا شکم کا منہ کے کھلے نشاں میں
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۶)

نبی کے مسکن میں کوئی مرتد نہ جال اپنا بچھا سکے گا
مدینۂ طیبہ میں منحوس پاؤں کو وہ نہ لا سکے گا
اگرچہ سرسے نار دجال ہو مگر وہ نہ آ سکے گا
یہی سبب ہے نہ پہنچا سواری تو کیسے جنت میں جا سکے گا
بچھائے کیونکر خبیث کانٹے رسول خاتم کے گلستاں میں
غلام احمد گر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۷)

یہ تخم فتنہ اگا ہوا ہے عراق نجد و تنا ہوا ہے
فرنگی محمود کاشتہ ہے پودا کہ شاخوں سے پھل ہوا ہے
ہیں سچے بدکار کی کتابیں گروہ مفسد تنا ہوا ہے
یہ بار فتنہ چلی ہے ایسی کہ باغ وحدت اجڑا ہوا ہے

جو گل کر دیتے قمقمہ گر کو بہار و فصل آتی کیوں خزاں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۸)

ثنا خدا کی عطا خدا کی وہ دونوں امرتسری ہیں مرشد
دیا ہے آب حیات ملت کو چونکہ امرت ہے ان کا مولد
ظفر علی خاں ظفر بمیداں زباں مجاہد قلم مجاہد
غلام ہادی غلام انگریز کرم درگور و خون فاسد
پلا بڑھا ہے یہ کرم الحاد و زندقہ گوروں کی اماں میں
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۲۹)

نہ فرق کچھ تیر اور کماں میں نہ فرق ہے پیر اور جواں میں
نہ بدھا اچھوت اور مگن مست میں نہ فرق ارزاں میں اور گراں میں
نصاریٰ ہندو بھی ہیں مسلماں نہ فرق تثلیث اور وحداں میں
یہودی زرتشتی بابکی یہ پارسی سکھ ہیں کس گماں میں؟
صد صنم کے پجاری بچارے کیوں پڑے بحث رائیگاں میں؟
غلام احمد اگر ہے مسلم تو کوئی کافر نہیں جہاں میں

(۳۰)

اقلیت اب قرار دو ان کو چھوڑ دو ان سے بولنا بھی
تعلقات ان سے ختم کر دو یہ لین دین اور تولنا بھی
بدل دو سب اصطلاحیں ان کی کتب نہ ان کی ٹٹولنا بھی
نہ دو کلیدی مناصب ان کو وہ قفل تالے کا کھولنا بھی

[illegible]

فتح مبین

مولانا قاضی عبدالصمد سربازی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

گنبد خضراء

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

منبع جود و سخا مظہر فیضان اینجا است — مطلع نور و ضیاء نیر تاباں اینجا است
رحمت عالمیاں صفوت جن و انسان — فخر ہر دو جہاں خسرو شاہاں اینجا است
سید جملہ بشر شافع یوم محشر — خاتم جملہ رسل رموز فرقاں اینجا است
آنکہ شاہاں جہاں فخر غلامیش کنند — کمترین چاکر وے سرور و سلطاں اینجا است
آنکہ در عشق جمالش شدہ صدہا مجنوں — آں پری چہرہ حسین بہتر خوباں اینجا است
آنکہ یعقوب زہجرش شدہ ام دیدہ سفید — آں دلآرام جہاں شاہد کنعاں اینجا است
مجرم خوں ہا شدہ چوں ناوک زابرو رخ او — آں کماں ابرو و سرو گل خنداں اینجا است
جعد مشکیں مسلسل کہ کمند دلہا است — قد دلجوئی حسین سرو خراماں اینجا است
وصف چشم و رخ و زلفش زمن زار مپرس — نرگس و سرخ گل سنبل و ریحاں اینجا است
بلبل سوختہ دل زار چرائی نالی — مخزن غنچہ و گل روضہ رضواں اینجا است
شرط عشق است کہ سوزم و نہ آہے نکشم — آنکہ پروانہ بپیش شمع شبستاں اینجا است
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کہ بداست — رہبر خضر حسین شاہ سلیماں اینجا است
زلف سوداء رخ بیضا قد زیبا دارد — معجزہ حسن کہ شب مہر درخشاں اینجا است
چشم گریاں دل بریاں تن لاغر دارم — آنکہ دردش بمریضاں شدہ درماں اینجا است
آں حبیب عربی جانب جگر خشدہ رود — معدن در و گہر لعل بدخشاں اینجا است
بین کہ بسمل شدہ سربازی از ایں درد و فراق — کو دو درد و دواں راحت جاناں اینجا است

نعت سرور کائنات ﷺ

دلم جلائے جمال محمدؐ — خرد فروغ ہنر کمال محمدؐ
جہاں نمو حیرت نشاں رسالت — چہ گویم زعز و جلال محمدؐ
نہ بینی با اخلاق و اوصاف ہرگز — بدنیا و عقبیٰ مثال محمدؐ

شفیع کریم رؤف رحیم جسیم وسیم خصال محمدؐ
ہزاران چو پروانہ سوزند سازند زہے عاشقان جمال محمدؐ
خوشا قسمت آن درخشندہ طالع خود بہرہ ور از وصال محمدؐ
خدایش خلق عظیم آفریدہ نہایت حسین خدوخال محمدؐ
بعرش بریں زد قدم تا بہ قوسین شنو رفعت بے مثال محمدؐ
نبوت بروختم شد تا قیامت ہمیں دولت لازوال محمدؐ
سلاطین دنیا و شاہان عالم نیرزند موئی بلال محمدؐ
ہمہ مکتب و مدرسہ خانقاہے بود ذوق قیل و قال محمدؐ
صلوٰۃ و سلام ای دل زار ہردم عیال محمدؐ بہ آل محمدؐ
الٰہی تو سربازی تشنہ لب را بنوشان ز آب زلال محمدؐ

انتساب!

بندۂ ہیچ مہرز ہیچ مدان این ہدیہ مختصرہ را بنام نامی و اسم گرامی آقائی خود سرکار دو عالم شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ منسوب کردہ از آنچہ کریما التماس دربارگاہ رحمتش التماس مجاہد کنہ "یاایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا"

پائے ملخی پیش سلیمان بردن
عیب است ولیکن ہنر است از مورے

احقر العباد عبدالصمد سربازی

کہ یکے از کمترین و نالائق ترین امتان حضورؐ پر نور است از بارگاہ رحمتش خواستگار شفاعت است۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

حمد باری تعالیٰ عزوجل

شکر اللہ کہ غلبۂ اسلام گشت بر قادیان بہ انجام
شکر للہ خوشا درین مژدہ گشت تحریک قادیان مردہ
این ہمہ فضل خالق دو جہان اوست دانائے جملہ سرنہان

قادر و کبریائے بے ہمتا آنکہ در ذات خویشتن یکتا
مالک الملک کار ساز جہاں خالق الخلق از زمین و زمان
فتح بر قادیانا میسر شد چہرۂ مومنان منور شد

درود و سلام بر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

صلوات خدائے بر احمدؐ عاقب است آنکہ در عقب آمد
حاشر و حامد است ہم محمود در قیامت مقام او محمود
مدح ماہر محمد عربی بعد از وے نبودہ است نبی
بر محمد سلام مستقیم بدرودش وسیلہ مکرم
بر محمد صلوٰۃ بادو سلام خاتم الانبیاست وخیرالانام
ہم باصحاب او درود و سلام ہم بر ازواج و اہل بیت کرام
بعد حمد خدا و مدح رسول ﷺ قصۂ ظلوم وجہول
قصہ اش را بیان ہمی سازم زانکہ واقف ازیں ہمہ رازم

تعارف مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت

بود مردے غلام احمد نام بہ حقیقت شقی و بد فرجام
مردکے مفتری و گردن جب قادیان جائے اوست در پنجاب
دفتری منشی و کلارک بود لیک مکار و نامبارک بود
گفت اول بحکم عالم غیب ایں صدی را مجددم لاریب
مہدی ایں زماں منم بے شک فیض روح اقدس مرزاست کلک
باز گفتا منم مسیح زماں ابن مریم کجا است درایں آن

ظہور مہدی علیہ السلام در حرم پاک مکہ مکرمہ

مہدی حق نیامدست ہنوز ہست واقف ز راز دیں و رموز
کرد پیوند مہدی و عیسیٰ ہر دو تا را نمود در یک جا
لیک مہدی دگر مسیح دگر ہیں تو پیوند ہر دو تا بنگر

هر یکے با شخصی است جدا   جاهل مطلق است او بخدا
شخص مهدی اگر مسیح اگر   مدعی بے نوائے را چه خبر
هر یکے زین دوتا بوقت آید   نیست واقف ازین خبر شاید
یا یکے صاحب عرض بود یکے   هست مشهور انجمن اکنون
مهدیم در حرم ظهور کند   ارض را بقعه ز نور کند
هست جائے ظهور او حجاز   ز حقیقت خبره هم نه مجاز
چون فدای خلق قتل شود   این جهان پر زان و عدل شود
نام او با حضور هم نام است   وقت او بهترین زایام است
سید است و نسل پیغمبر   مومنان را امام وهم رهبر

محروم شدن مرزا غلام احمد از حرم کعبه و فریضهٔ حج

بیت الله الحرام واز زیارت روضهٔ مطهره در مدینه منوره

مدعی نامراد شد محروم   گشت از کعبه و حرم محروم
بود بدبخت سخت نافرمان   از حرم شد نصیب او حرمان
حج در عمر خود نصیب نشد   هم بارض حرم قریب نشد
فرض اسلام از چه فوت شده   جائے او در گور موت شده
هم مدینه است گنبد خضراء   بین تو شومی طالع بدرا

ورد عویٰ مرزا غلام احمد که خود را عیسیٰ ابن مریم قرار داده هست زیرا که حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیه السلام در ملک شام بر شهر دمشق بعد احترام و اکرام همراه ملائکه کرام بمناره ابیض در جامع مسجد دمشق از آسمان نزول اجلال میفرماید مرزا غلام احمد در تمام عمر ملک شام و شهر دمشق را هم ندیده است بلکه از قریه قادیان قدم بیرون از هندوستان نه نهاده است نیز دجال خروج میکند واز دست عیسیٰ علیه السلام قتل میشود۔

ابن مریم نزول فرماید   اتفاقاً آرے مهدی باید
هم نزولش بملک شام بود   کار اسلام بانظام بود
هست جائے نزول او در شام   از حدیث صحیح خبر تمام

مرکز غازیان شود به دمشق سید شان به پاس محبت و عشق
باز دجال هم خروج کند فتنه در آن زمان عروج کند
سخت جاری شود قتال و جهاد تا که گردد ز بیخ قطع فساد
ابن مریم چو پیش شود ظاهر قتل دجال میکند آخر
قتل کفاری شود بے مزید خاصه از یهودیان پلید
مهدی ما امیر اسلام است آنکه در عدل و جود خوش نام است
ابن مریم شود سپه سالار تا بر آرد دمار از کفار

دعوی کردن مرزا غلام احمد که من کلیم خدا هستم و من محمد مصطفی و احمد مجتبیٰ هستم و توهین عیسیٰ علیه السلام و دیگر انبیاء کرام و فاحشه گفتن جده هائے مسیح علیه السلام و معجزات خود را از معجزات حضور علیه السلام زیاده تر و فائق تر قرار دادن و توهین امام حسینؓ نمودن و در پیدائش ارض و سما بقدرت خداوند عزوجل همسری نمودن۔

گفت خود را منم کلیم خدا احمد مصطفی منم بخدا
ابن مریم کجا است این ساعت در مقابل نباشدش طاقت
کرد توهین انبیائے عظام نیز تحقیر اولیاء کرام
گفت آن مردک لعین خواه از سر کبر و فخر و عزت و جاه
معجزاتم که بے شمار بود مصطفی را دو سه هزار بود
کربلائے است سیر هر آنم صد حسین است در گریبانم
قادر من بخلق ارض و سما میکند هفت آسمان پیدا
بست تهمت به جده هائے مسیح تهمت فحش و سب و شتم قبیح
و از خیانی نموده است بسے گفت من خود نه کمترم ز کسے
آنچه دادند هر نبی را جام داده آن جام را مرا به تمام
کذب بر کذب سر بسر بسته کرده دلهائے اهل دل خسته
کذب او بیش از مسیلمه است لاجرم خوار و زار و دل سیه است

دعوی کردن مرزا غلام احمد که دین محمد مصطفی ﷺ برائے نجات کافی نیست زیرا که دین محمد عربی کهنه و فرسوده شده است لهذا هر که بمن ایمان نیارد کافر و جهنمی است اگرچه او محمدی

ونا بغ باشد و ہر کہ سخن ایمان ندارد حرام زادہ ہست۔

مرسلے را شدہ است دعوی دار   اینچنین نابکار و بد کردار
گفت آن دین مصطفی کہنہ است   تازہ تر دین باتباع من است
اتباع محمد عربی   نیست کافی نجات گر طلبی
اتباع مرا کنید قبول   زانکہ ہستم رسول بعد رسول
گفت ہر کس کہ منکر ہست مرا   کافر است و لعین بہر دو سرا
ہر کہ ایمان ندارد م کہ نبی است   کافر است ارچہ کودک است و صبی است
خلق را گفتہ کافر و مرتد   افترا کردہ بر محمد بے حد
ہر کہ بود ست او عدو وست   زادۂ قحبہ و بغی گفتہ است
خلق بسیار از غلط فہمی   واصل نار شد بہ بے رحمی
کردہ گمراہ عوام را بسیار   وقنا ربنا عذاب النار

شخص واحد دعوی چہار اشخاص را بیکبارگی میکند کہ من مہدی و ابن مریم و کلیم خدا و حضرت محمد مصطفی ﷺ ہستم و این قول او دروغ بے فروغ و بدیہی البطلان است در جہان احمق ترکسے است کہ بر قول او اعتبار کردہ بر وے ایمان بیارد۔

بے وقوفی او گذشت از حد   دعوی او ست بر چہار عدد
مہدی ابن مریم و موسیٰ   احمد مجتبیٰ رسول خدا
شخص یک تن چگونہ است چہار   پس بہ ہفوات او اعتبار مدار
پس بگوئید کیں چہ طوفان است   مذہب جملہ بے وقوفان است
مذہب او بدیہہ بطلان است   بلکہ بازیچہ زطفلان است
گر ہمیں کیش و ہمیں ملا   کار طفلان تمام شد واللہ

تحریف کردن آیات قرآنی را و ناواقفیت او از حدیث نبوی

آنکہ تحریف کفر و طغیان بود   بلکہ غارت گرے ز ایمان بود
کرد تحریف آیت قرآن   پیش او نے دلیل و نے برہان
گفتۂ او خلاف قرآن بود   قول او بے دلیل و برہان بود

ے

نیز او از حدیث پیغمبر بے خبر بود ناقص و ابتر
بے خبر از حدیث و از قرآن خود مرو بے نگاه و نافرمان
نے ز قرآن رموز دانسته نے کسے او درحدیث شناخته
فرق اجماع هست مذهب او نیست قولے معین مشرب او
گاه موسیٰ دگر شده آدم کرد تبدیل ذات خود هر دم
گاه یعقوب گاه ابراهیم بیش از آل یوسف و نعم
گاه کرشن گفت خود نام را بهر دنیا فروخت ایمان را
کفر و اسلام کے شود یکجا کذب او ظاهر است در هرجا
متحد کے شود ظلمت و نور همه کذب و فریب و مکر غرور
باز گفته که تابعش شدم چوں ز نسخے پیش مرد فرش شدم
مرد کے را که حیض کی آید گر تو عقلی نگویش شاید
لیک آن کس که بے شعار بود بے حیا و ذلیل و خوار بود

حضور اکرم ﷺ پیغمبر آخرالزمان است وخاتم الانبیاء است

گفت سید که لا نبی بعدی کیست دعوی کند به آزادی
خاتم الانبیاست خواجه ما جان ما بر روان اوست فدا
خواجه ام ختم مرسلین باشد شافع جمله مذنبین باشد
بعد آن مرسل صدوق و امین نیست پیغمبری بروئے زمین
آنکه او هست سید و سرور بعد از و نیست هیچ پیغمبر
نه بروزی نه ظلی است پدید باطن مدعی خبیث و پلید
خواجه ماست ساقی کوثر باشد او نیز شافع محشر
گرچه ما عاصی و گنهگاریم نیک از او امیدها داریم
خوش بگفته است سعدی خوشگو رحمت حق بهاد برسراو
کس نیاید بزیر سایه بوم ور هما از جهان شود معدوم
پس عیانست آن ظلوم وجهول بعد احمدؐ نیامده است رسول
باب پیغمبری شده مسدود آنکه مدعی شده مردود

این نبوت بموجب باشد از خداوند مرحمت باشد
کس نباشد بزور پیغمبر تا نباشد اجازت از داور
نیک این منصب شده مسدود ہرکہ دعوی کند شود مردود

فتنہ پردازی مرزا غلام احمد در اسلام و آلہ کار بودن او مر انگریزان را

الامان از غلام پرز فساد تاج آقاے خود بسر بنہاد
الحفیظ از چنین غلام شریر کرد گمراہ بمکر خلق کثیر
انتشار و فساد و بدمستی کرد قائم بعالم ہستی
کفر و اسلام باہم جنگ شدہ آلہ کار از فرنگ شدہ
کفر را بودہ است دست نہال با مسلمان ہمیشہ جنگ و جدل

مدح سرائی مرزا قادیانی مر کفار را و پر شدن پیمانہ المنزی

در مدح و تعریف حکومت انگریزی بقول خود

مدح کفار از و شدہ پیشہ تیغ اسلام برزدہ تیشہ
مدح خوان حکومت کفار آنچنین مدعی ناہنجار
بہر مدحت بہ محنت و خواری پر کردہ پیمانہ المنزی
باز دعوی کند نبوت را ببین تو بے شرم و بے مروت را
مدح خوبی بیشاہ نصرانی در کتاب ہے چنین تو خوانی
کے رسولے کہ شاہدی بکند با ہمہ مومنان بدی بکند
کس نگوید کہ آن خلیل خدا مدح نمرود کردہ است بجا
بلکہ فرمود حضرت ابراہیم ما چنین بادشہ نخواہیم
کس نگوید کہ آن کلیم خدا وصف فرعون کردہ است عیا
بلکہ فرمود آن کلیم اللہ غرق فرعون بکن تو یا اللہ
ہمہ ایشان بکردہ اند جہاد تا کہ از بیخ بر کنند فساد
قصہ آن خلیل با نمرود ہست اندر کتابہا موجود
بحث نمرود با خلیل اللہ ہست موجود در کتاب اللہ
ذکر فرعون و حضرت موسیٰ آنکہ بد صاحب ید بیضا

آنکہ غالب شدہ است بابرہاں قصہ اش جا بجا است در قرآن

دعوی پیغمبری او محض برائے حاصل کردن متاع و اسباب دنیوی بود

مدعائش متاع دنیا بود بہ تسلی زروزر تسلی بود
کاذب پر فریب دجالے مکر و بے نصیب و بدحالے
نزد او جملہ مؤمنان کافر خود او گشتہ کافر و فاجر
علماز مقابلہ گروہ بہر ناحق مجادلہ کرد
در مجالس شکستہا خوردہ گشتہ خوار و ذلیل پژمردہ
بہر دنیائے دوں شدہ مغرور در ہمہ جلسہا شدہ مقہور
گفت اکنوں جہاد گشت حرام بعد ازیں کار دین شدہ است تمام
محسن و حاکم واولوالامرست طاعتش از خدا بجا امرست
سایہ انگریز ظل الٰہ دادہ بار اجزیہ ظل پناہ
آنکہ نزدش جہاد گشت حرام کے شود پیشوائے در اسلام
دین ما ذروۃ الاسلام جہاد میشود از جہاد رفع فساد

غلط بودن پیشین گوئی مرزا غلام احمد دربارہ محمدی بیگم

مولانا ثناء اللہ امرتسری

یک دو تا پیشین گوئیش بشنو صدق و کذبش شنو تو از سرنو
گفت بے شک محمدی بیگم مقدمن آید اشوہر بے غم
ہست در حسن چوں بہشتی حور در بغل گیرم و شوم مسرور
پیش گوئی او غلط بودہ جملہ دعوی بریں غلط بودہ
درنکاحش نیامد آن بیگم تاکہ رفت از جہاں بحسرت و غم
بے مراد از جہاں ہلاک شدہ ای بسا آرزو کہ خاک شدہ
گفت با مولوی ثناء اللہ بود مخلص ز جملہ اہل اللہ
زیں دوتا ہر کہ مفتری باشد میرد آن دگر بری باشد
فوت شد قبل از ثناء اللہ گشت کاذب بقول خود واللہ
قول او جملہ ضد اسلام است لاجرم نامراد و بدنام ہست

ہست مشہور نور الحق سخن   گفتہ آں بے شرم شوخش تا سخن

جاری ساختن اصطلاح امہات المؤمنین واصحاب وبہشتی مقبرہ

برائے زنان و یاران مرزا غلام احمد و قبرستان ایشان

جنتی مقبرہ ہست قبرستان   ہست در قادیاں بہ ہندوستان
مادر مومنان زنان او   بد تمیزی بہر یاران او
ہمنشینان او شوند اصحاب   بے ادب گشتہ ہست در ہر باب
تاب آئین مرتبہ شدہ بے باک   دادہ تشبیہ پاک یا ناپاک
حیف گفتہ اند این سخن   بے حیا باش ہرچہ خواہی کن

رفتن مرزا غلام احمد از دنیا ومقرر شدن جانشینان او یکے بعد دیگرے

خود برفت از جہاں کون و فساد   مفتری نابکار زشت نہاد
ہر کہ آمد عمارتے او ساخت   رفت ومنزل بدیگرے پرداخت
تخم طرح فساد درا گذاشت   بہر خود یک خلیفہ بگذاشت
بعد از وشد خلیفہ نور الدین   کرد گمراہ خلق را از دین
نور دین کرد زندگی را گم   پسر دجال خلیفہ دوم
بعد ازاں مرزا بشیر الدین   آنچناں بود فاسق و بے دین
پس خلیفہ است مرزا ناصر   از ہمہ گشت خوب وقاصر
ہم بدینہ است خائب وخاسر   ہم بدین است ناقص وقاصر

ابتداء برانگیختن فساد قادیانیان وحملہ ایشان بر طلبہ

نشتر کالج ملتان دراسٹیشن ربوہ

در زمانے ولے انقلاب آمد   انقلابے کہ باصواب آمد
ثمر انقلاب درانجام   گشت نقصش نصیبۂ اسلام
ربوہ و قادیاں ہر دو بُدے   در یکے بودش بجوہ خلے
قادیاں بود اولیں مرکز   ابتداءش زانچہ بود ہنوز
آخریں مرکزش کہ ربوہ بود   در یکے بودش چہ شبہ بود

زائل ربوہ شروع گشت فساد   ترد ایشاں حرام بود جہاد
حملہ سخت زیں گروہ فضول   بعض مجروح بعض شدہ مقتول
مشتعل گشت ہر مسلمانے   آتشے دردل بداشت ایمانے
مجتمع گشت قوت اسلام   از ہمہ سوستاں چہ خاص وچہ عام
متحد گشتہ اند پیر وجوان   متفق بودہ اند خرد و کلان
دادہ قربانی از برائے خدا   بہر ناموس پاک محمد وراء
بعض محبوس بعض گشتہ شہید   باد رحمت برو جہانے سعید
انقلابے عظیم گشت پدید   آنچنیں انقلاب کس تقلید
درہمہ گوشہائے پاکستان   درہمہ شہر و قریہ و میدان
مرکز انقلاب در پنجاب   ضرب دلی است قید و بند عتاب
شورشے تابصوبہ سرحد   رونما شد بہوستان بے حد
شور افتاد در بلوچستان   زلزلہ شرزہ جذبہ ایمان
اثرش در قلات و در خضدار   گشت ظاہر بہ جملگی یکبار
اہل مستونگ ہم دریں میدان   بردہ سبقت بقوت ایمان
ہم بکوئٹہ شہید شمس الدین   کرد سرہا فدا براہ دین
بود او در اسمبلی کوئٹہ   سرگروہ زبان خود گوہ
چوں باباں بود اتکیر   بود او خوش بیاں وخوش تقریر
نوجوانے زقوت شکن   عالم باعمل محب وطن
مرد میدان مجاہد و غازی   بردہ از شہسوارہا بازی
او نخست از ہمہ شدہ قربان   بہر دین وحفاظت قرآن

مقصد فساد از قادیانیاں این بود کہ بر ریاست پاکستان قبضہ کردہ حکومت قادیانی براں مسلط باشد

احتمالے زائل ربوہ بود   تاکہ اسلام راکند نابود
بود از اہل ربوہ منصوبہ   غلبہ حاصل شود بہر صوبہ
کوششے سخت ترکی باید   تا ریاست بدست ما آید

تا بعالم شود تسلط ما   کار تبلیغ ما شود ہر جا
لیک تبلیغ کفر و بے دینی   خود پرستی و کبر و خود بینی
فاش شد راز اندرون شان   سازش قادیان بعد بے جاں
راز ہائے درون کہ چاک شدہ   اں ہمہ آرزو کہ خاک شدہ
نصرت حق بجانب اسلام   سازش اہل ربوہ شد ناکام
عاقبت پاس گشت ایں آئین   قادیانی است کافر و بے دین
پاس گشتہ بحکم رب ودود   مذہب قادیان شدہ مردود
قادیانی گروہ لاہوری   ہر دو یکساں بکفر و دیجوری
ایں گروہ بدرست زاہل کتاب   غیر مسلم اقلیت بحساب
بعد احمدؐ نیامدہ ست نبی   مدعی ہست کور فہم و غبی
کافر است ہر کہ مدعی باشد   آنکہ دعوائش از نبی باشد
پاس شد در اسمبلی قانون   مدعی ہست کافر و ملعون
کافرست او بہر دانش ہم   ذوقش گشت درہم و برہم

تاریخ منظوری اسمبلی بہ غیر مسلم اقلیت قرار دادن قادیانیان

ہفت تاریخ از ستمبر بود   ایں ہم اعجاز از پیمبر بود
چار ہفتاد و نوزدہ صد بود   مذہب قادیانیاں مردود
ختم شد قصہ نود سالہ   از بزرگاں بزاری نالہ
بود ایں دور ذوالفقار علی   ضرب گردن بہ ذوالفقار علی
بود در عہدہ ایں وزیر نخست   در ہمہ کاروبار دنیا چست
ہر مسلمان پر از مسرت شد   امت قادیاں بحسرت شد
جشنہائے خوشی بہر جا بود   فتنہ قادیان شدہ نابود
فتنہ بود بس عریض و طویل   ختم گشتہ بحکم رب جلیل
منتے مر خدائے رحمان را   کرد مقہور کفر و طغیان را
عقدہ بود از مسلماناں   ہر مصیبت کشیدہ اند بجاں
چونکہ در قوم اتحاد بود   شرش رائج فساد بود
چونکہ ایں غیرت از قدیر بود   عاقبت تیغ کہ سخت گیر بود

جانبِ غیرت خدائے قدیر ماندہ خاموش او سمیع وبصیر
فتنۂ قادیاں بے بنیاد منقطع شد بحکم رب عباد
گفت فتنہ زبیخ استیصال ایں بقربان قادر متعال
ہست ایں شیخ شیخ دینِ متین شیخ پیغمبر صدوق وامین
در حرم بخدش براست ایشان نیست رہ کافران وبدکیشان

پیش گوئی حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ در مرض موت خود بر رفتن انگریزان از ہند و پاکستان استیصال قادیانیان و ترویج اسلام بروایت حضرت مولانا طفیل احمد صاحب مدظلہ العالی بانی مدرسہ تعلیم الاسلام مجاہد آباد کراچی۔

پیش گوئی شنو ز ولی حق نیست شبہ بصدق آن مطلق
من شنیدستم از طفیل احمد ذاکر و عابد یست و ہم ارشد
روز و شب فیض او بود جاری کار او بہر خلق غمخواری
اہل دل ہست و نیز اہل طریق ہست در فکر دین محو و غریق
صاحب مسجد است و مدرسہ است رونق مسند است و خانقہ است
او روایت کند ز انور شاہ عالم دین بود و حق آگاہ
قبل تقسیم ہند و پاکستان بود در دیوبند ہندوستان
پیش از موت آن ولی اللہ گفت قولے ز جانب اللہ
انقلابے عظیم می خیزد انگریز از دیار بگریزد
پس نماند انگریز یکے نیست در قول راست ہیچ شکے
است قادیان شود بدحال قادیانی زبیخ استیصال
ختم گردد بفضل حق تمکین فتنۂ قادیان زروی زمین
شرع انور شود رواج پذیر در ہمہ ملک برصغیر و کبیر
دور دور نظام اسلامی وانچہ خوش بختی است و خوش نامی

دعوت ظفر اللہ قادیانی خان قلات را (موجودہ گورنر بلوچستان) بقادیانی بودن وجواب خان قلات، ظفر اللہ خان را و شرمندہ شدن ظفر اللہ قادیانی از جواب او۔

گفت بابا جناب خان قلات ہست پابند دین ز صوم و صلوٰۃ
بود با من دوسری بزرگ دگر آمدہ بود از عجم سفر

گفت رفتم یورپ و مغرب چون میرس از مصیبتم صاحب
بود با من رفیق ظفر الله رستگاری دهادو الله
گفت با من که خان احمد یار گفتم گوش گیرو نیز بدار
هست میرزا رسول و پیغمبر او بدنیا است آخری رهبر
پس بگویم ترا که احمد یار کلمه اش را بخوان و ایمان آر
بار بار این سخن بمن گفته سینه ام را به تیرها سفته
از سخنهائے او شدم رنجور درجوابش بگفتم ای بے نور
شنواز من جواب فیصله کن پس مگو بعد ازین تو هیچ سخن
گر بفرض آن حضور پیغمبر که بدنیا و دین ما رهبر
گویمت رو بروئے احمد یار بر سر میرزا تو ایمان آر
دست بسته بشاه میگویم یا رب معذرت همی جویم
گویم ای سید و شه خوبان دل و جانم بود بتو قربان
بهر هر حکم تو فدا سازم دل و جان را بمخبری نازم
که تو آقا و من غلام تو ام سید من فدا بنام تو ام
لیک ازین کلام معذورم تو مگوئی سخن که مجبورم
چون توئی سید و حبیب خدا خاتم الانبیاء بهر دوسرا
خود تو گفتی که لا نبی بعدی بعد ازین از کجاست آزادی
من بگویم غلام را که نبی خواجه ما رسول مطلبی
گفتم آخر معاف دار مرا زین سخن تو مکلف مدار مرا
زین جواب عجیب و فرخنده قادیانی بگشت شرمنده
پس جوابم که با صواب شده فکر کردم که لاجواب شده
پس بگفتم که شکریه الله ختم کردم سوال ظفر الله
خوش بگشته میهمان بزرگ که رهائی شد از دهان گرگ

مداخلت شیطان ڈاکٹر محمود قادیانی در جلسہ مسلمانان منعقدہ در کوئٹہ و اعتراض آوردن بر علماء او و مشتعل شدن اہل جلسہ بخلاف قادیانی مذکور و سنگسار شدن او از عوام الناس۔

در یکے جلسہ بپا کردند مردم کوئٹہ واعظ آوردند

بود آن جلسہ جلسۂ دینی   اندر آن رد کفر لادینی
درمیان بود ڈاکٹر محمود   ڈاکٹر شاہ قادیانی بود
اعتراضے بیانش آورد   ہم عالم با احترام نبرد
آنکس ازیں مردمان بدقصد   قادیانی است برسرش چونکہ
بارش سنگ و چوب براہ بود   تاکہ از زندگی بجد نابود
اولاً رہسپار شد ز آنجا   بعد ازاں سنگسار شد آنجا
گرچہ ہر سو گریخت راہ ندید   تاکہ زو قوت شد ز ضرب شدید
قادیانی ازیں بدقصد   کہ مسلماں بدیں خود مستعد
ہمت قادیانیاں شد پست   راہ تبلیغ مذہب شاں بست
شکر اللہ کہ در جوانان   ہست مضبوط قوت ایمان

ذکر بعض ممتاز علماء کرام و مشائخ عظام کہ در قلع و قمع فتنہ قادیانیت جدوجہد کردہ قوم را صحیح رہبری نمودند۔

چونکہ بیدار گشت قوم زنوم   پس بنوری بگفت رہبر قوم
شیخ اسلام ہست و شیخ حدیث   قاطع فتنہ گروہ خبیث
نام نیک و مبارکش یوسف   در معیت [illegible] گاہے الف
ہست شاگرد سید انور شاہ   عالم دین بود ز حق آگاہ

* * *

باز محمود قائد ملت   جہد کردہ بدفع این علت
ہمچو محمود غزنوی مجاہد   ہست شیخ الحدیث و نیک نہاد
پس لسانش چو تیغ برّان است   ہم بتقریر شیر قرآن است
نیز شیخ الحدیث عبدالحق   ہم بایوان بگفت کلمۂ حق
چوں بمیدان حق سخن پرداخت   زلزلہ در اسمبلی انداخت
نیزش راست گو مفتی بحق   نیست خوف ز ملامتش مطلق

* * *

آن امیر جماعت عبداللہ   شیخ درخواستی ولی اللہ

عالم دین عارف کامل بود دراین جہان ہمہ خوش دل
شیخ قرآن و مفتی سنت خدمت دین اوست بے منت
مجد اشرف حکیم المنبر جان دانش فدائے پیغمبر
پسر نوجوان او خالد شائق ایں جہاد چو والد
ہست راست چنیں بود عجب پسر نیک بخت از نیک نہاد
ہم محمد شفیع مفتی ما داد فتوی بلطف الٰہی بقا
عالم دین مفتی اعظم بصفات و کمال او دائم
ہم محمد تقی عثمانی دادہ در راہ دین قربانی
باپدر در جہاد ہم دوش است سینہ از عشق دوست پر جوش است

… … …

حضرت ما جناب افغانی از کمالات او چہ شیدائی
عالم دین جناب شمس الحق شیخ وقت ہست و مظہر حق
ہم مفسر محدث ہست جلیل ہم حکمت بیان سخن بحسب

… … …

حضرت خوش بیان نظام غوث خدمت دین از عہد سن ہوش
عمر صرف شد بتبلیغ و جہاد دورہ دین دیکھتن فرمود
در رہ حق مجاہدہ کردہ رنج و غم را مشاہدہ کردہ
تھانوی صاحب احتشام الحق واقف دین و عالم برحق
رہبر دین خطیب پاکستان مرکزی سیرت ہمرہ ارمغان

… … …

عالم نیک مرد ولی اللہ شیخ انور میاں عبید اللہ
با رفیقان صالح و محترم خدمت دین ترجمان اسلام
خوش بیان و مال کردہ نثار آن فدائی سید ابرار

… … …

عالم راست باز زینت دین محترم زین العابدین بے تمکن

سنی حق پرست ازیں پہ   سید اش پہ بود حکمت و نور
کردہ ہر وقت قوم راہشیار   قوم پہ احسان از او بسیار

◆ … ◆ … ◆

عالم فاضل آں غلام اللہ   شغل او درس در کتاب اللہ
شیخ قرآن در لقب مشہور   اہل بدعت ز دست او مقہور
سیف قاطع شدہ است در تقریر   گوئی سبقت ربودہ در تحریر
بے شمار از مجاہدین کرام   علماء دیدہ زگہائے مقام
یک دل یک زبان دریں میدان   رحمت حق بہار بریشان
مشتی از خصوصہ خردوار   گفتم ورثہ دادہ ام بسیار
یا الٰہی توئی غفور و رحیم   بفضل آنکہ شافع است و کریم
بہ امید است از تو سرفرازی   کہ مرا در محشر بنوازی

قافلہ سالار

امیر قافلہ سالار ما نبی عربی است   محمد عربی و ہاشمی و مطلبی است
شفیع جملہ امم خاتم جمیع رسل   برائے جن و بشر مرسل خدا است و نبی است
صفات ذات و کمالات او بروں ز حساب   بہرچہ نسبت او میکنم بے ادبی است
چہ خوش کہ صاحب خلق عظیم و شافع خلق   بذکر وحدت او در لسان ما رطبی است
اطاعتش بہ شمار اطاعت رب است   بدیں رموز نفہمد کسی بجانکہ غبی است
چو او ساخت ازیں پیش جملہ ادیان را   بجاء دین دگر بالیقین زبونی است
چو ختم گشت نبوت بذات اقدس او   گمان مبر بکسی کو بروزی است و نبی است
بذات ساقی کوثر امیدہا داریم   بروز حشر کہ فریاد ہا ز تشنہ لبی است
ز قادیانی و پرویزیاں صلاح مخواہ   غلام باقی و تجربے از وچہ بلا عجبی است
غلام باقی او بے نصیب و محروم است   عجب مبر کہ حرمان او ز بدنسبی است
اساس مذہب کہ از خواجگان لندن بود   بجائے مذہب ایشاں ز لعنت ذکی است
تمام مذہب شاں بر بنائے الحاد است   ہمہ دعاوی شاں پر ز کفر و بے ادبی است
غلام خواجہ ہر دو سرا است سرفرازی

مرزائیاں دے
خلق دا شیشہ

جناب عبدالوہاب حجازی

کل تھا جو کافر آج مسلمان بن گیا
فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا

بکلیسا کافر شدم رفتہ چند　　برہمن شدم در مقامات چند

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

توبہ توبہ توبہ توبہ میری بار بار　　توبہ کراں جھوٹھیاں توں میں لکھ تے ہزار وار
گنہگار رب دا رسول توں بھی شرمسار　　توبہ توبہ توبہ توبہ دی دہائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

سمجھ کے تریاق پڑی زہر دی میں کھا گیا　　بھل کے میں دجال دے شکنجے وچ آ گیا
نور اتے کفر دا اندھیر گھیرا پا گیا　　گھٹ الحاد دی ایمان اتے چھائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

دلی سر انجانا تے میٹھے دی گست دا　　ہویا مرزائی عہد بھلیا الست دا
ستی قلوبی تے منہ زور گھوڑی مست دا　　اکی میری ہوش ابلیس نے وتھائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

مرلی تاڑ کربلا دے شہید دی　　کر بیٹھا بھل کے میں بیعت یزید دی
کھوٹے دے روز میں منائی خوشی عید دی　　قتل والی رات میں سہاگ دی بنائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

وقف بھی کیتی میں پیاری جند جان نوں　　کفر توں نثار کیتا دین تے ایمان نوں
سمجھیا میں مکے دی مانند قادیان نوں　　ربوے توں سمجھ مدینہ مصطفائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

سمجھیا میں جس نوں خلیفۃ المسیح ہے　　نکلیا ٹھگ لچ اوہ چار سو تے ویہہ ہے
ذرا تائیں شک نہیں میری بات ایہ صحیح ہے　　فرعون وانگ دعوی ایس دا خدائی ہے
ہن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

فرعون بادشاہ وزیر ہامان ہے   جھکیا جبار اساں ول آسمان ہے
عیسیٰ آکھے اتریا ایہہ جھوٹھ تے طوفان ہے   موسیٰ دے خدا ول کھچی لمیاں دھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

آکھدا اے فضل عمر میرا نام ہے   ابن خطاب وانگ میرا انتظام ہے
مرزا جیہیں ڈب کے حیاء دا مقام ہے   سکوں ایس شرم والی لوئی ہتھوں لائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

عالم پاکیزہ نال نسبتاں کی خاک توں   پاک روحاں نال کیہا واسطہ ناپاک توں
عادل فاروق نال جوڑ کی سفاک توں   توبہ توبہ کفر اسلام دی جدائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

آکھدا اے میں اس وقت دا امام ہے   امیر المومنین انگریز دا غلام ہے
پرافٹ آف انڈیا بھی مشہور عام ہے   کافی امریکی اخباراں دی گواہی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

اتی سو انجا تے مہینہ سی دسمبری   جلسے دے وچ دعویٰ کیتا سی پیغمبری
میں ہاں مسیح موعود دوم نمبری   ویکھو کیسے روز دعویٰ ہوندا خدائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

آج ویکھ کل ویکھ ہور دن چار ویکھ   کل ویکھ بچے کل ولی توں دھار ویکھ
ریل دی سپیڈ ویکھ تیز رفتار ویکھ   مغل پوروں چل کے رسول پور آئی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

آکھدا سی قادیان بیاس تیک ودھناں   ایہہ نہیں جاندا کھاں تے ایتھوں کڈھناں
اللہ جانے پوے کدی ربوہ بھی چھڈناں   ہن الفضل وچ دیندا دہائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

دانال ون گڈیاں سجے ربوہ تے آئیاں ویکھیاں پشاور گڈیاں سجے ہر دو آئیاں
قادیان دے وچ جنہیں ہوئیاں نے ایسے طرح ربوے دی ہوئی تباہی ہے
بربادیاں

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

اپنی زبانی میں بیان کراں وس کے مکھیاں کی حدنیاں دے چکڑ وچ پھس کے
جان جو گواہ گیا تے کسے بچے نس کے لعنتاں دا ہار ایہو گل کے کمائی ہے

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

ربوہ اسی سمندری جہاز دیت باقی انگریزی خواں کاروبار سی ملازمی
کجن پیارے تاکیں ملنا سی لازمی باکی پہاڑا تاکے رشتے دار بھائی ہے

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

اوہدے آکھے لگ کے جو ہویا مرزائی سی سارے ہی جہان توں میں کی کترائی سی
دین بھی گوایا ساری دنیا گوائی سی دلوں ہو کے جاندا میرا ایہو پ مائی ہے

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

اوہی وی سچ پوری پوری لکھو واردات میں کھول کے بیان کراں واضح حالات میں
سینکڑے رو رہیاندے مکاناں کاغذات پھر بھی نہ لکھی جا رہے ظلم دی چڑھائی ہے
میں

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

کرے گا ضرور توبہ جیتوں پکی آس ہے میرے دل وچ بہت اوس دا احساس ہے
انشاء اللہ ہوندا انجیر کم راس ہے مرزے دا اک پیشگوئی میں بھی سنائی ہے

بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

سیز حشری وچ اک اللہ وتا رہائیں سی خان صاحب عبدالمجید بھی اوتھا کیں سی

دل نال ساریاں نے دتیاں صدائیں سی　　لکھ دی چٹھی ہویا ربوے توں راہی سی
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
جان کے میں تخواہ کٹوا سیدا بیٹھا آفت نوں　　ربوے میں آیا طے کر کے مسافت نوں
چٹھی پکڑائی جا کے دفتر ضیافت نوں　　تن دن اوس روٹی لنگروں کھوائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
ایدوں بعد کیتی نا جامیاں گھرنوں　　روٹیاں دا انتظام ہور کتے کرتوں
ربوے شریف وچ بھکھیاں نہ مرتوں　　ربوے دے وچ وات پچھدا نہ کائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
غور کیتا کیا ایہ معاملہ ہے یا اللہ　　احمدی کر کے کوفیاں دا قافلہ ہے یا اللہ
ربوہ شریف ہے کہ کربلا ہے یا اللہ　　جنگل جاہلاں لنگر خانہ مرزائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
اٹھیا ابال میری اندر طبیعت دے　　گیا وچ دفتر تعلیم و تربیت دے
پچھے اوتھے وڈے وڈے رکن احمدیت دے　　اسلام علیکم آن میں نے بلائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
عبدالسلام اختر نال گلیاں　　بولیا کرودھ نال دس اوتے کیہیاں
عرض کیتی ناظر صاحب ربوہ میں جیہاں　　پھر بھی نہ اوس نے زبان ہلائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے
مولوی قمردین جگ دلی عیاں ہے　　چھ چک نواں اہل ضلع ساہی وال ہے
مارکھیانے تے بیڑے دے وچال ہے　　لکھ چٹھی اوس میرے ہتھ پھڑائی ہے
بھن توڑ چھڈیا فتنہ مرزائی ہے

۵

اوتھے سی رسول بخش مرزائی ذیلدار   مشہور دور دور زمیندار مال دار
کیتی اوس گفتار بہت خوب مزیدار   ساڈے پنڈ مولوی دی تو رکھی کائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
بہت تاکیں گیا پر کتے نہ سمایا میں   احمدی گروہ دے جد کسے گھر آیا میں
حال سارا مولوی قمر نوں سنایا میں   چاندنی قمر نے بھی بدلیں چھپائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
ملیا میں پھیر تحریک جدید نوں   وکیل الدیوان دی حبل ورید نوں
محمد شریف صاحب خالد ولید نوں   دنیا میں زندگی بھی وقف کرائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
وقف اوس کیتا میرا نام منظور ہے   وقفین نال اوہنوں دشمنی ضرور ہے
سوہنی تنظیم بہت ہے سوہنا دستور ہے   بہت سوہنی ہوئی میرے حق دی رسائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
ملیا اوتھے میں اک حافظ قرآن سی   اوہدی میری مدتاں دی جان تے پچھان سی
اوہ دوں اگے بوہا نام رمضان سی   وچ رمضان چٹی کھان دی منادی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
اتے وتے مولوی جالندھری نوں ملیا   پرنسپل جامعہ دے منصوری نوں ملیا
احمدی مناظر جنگ بیری نوں ملیا   ساری واردات مضمون اوس نوں سنائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
کہن لگا جامعہ احمدیہ جاری ہے   کراں میں فاضلی دے واسطے تیاری ہے
اٹھ ماہیں دا سکے تعلیم سکھی ساری ہے   کیتی میری ساریاں مرزیاں مزائی ہے
بھن توڑ چھڈے شکنجہ مرزائی ہے
وکھن وچ دو روٹیاں تے چھولیاں دی دال ہے   بھرہ تے کوئی اتوں موسم سیال ہے

پرنسپل تائیں میں سنایا سارا حال ہے   پر کون جاندا مصیبت پرائی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
پرنسپل صاحب سرگودھے سیتوں گھلیا   لکھ چٹھی مرزے عبدالحق نوں گھلیا
قصہ کوتاہ گیا سرگودھے وچ چلیا   چٹھی مرزے عبدالحق صاحب نوں پھڑائی
ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
مرزے عبدالحق جیوں ہور اگے توریا   اگلیاں جواب دتا ساتوں کاہدی لوڑیا
پھیر گھوڑا دل دا پچھاں نوں میں موڑیا   پرنسپل تائیں ساری حالت سنائی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
پرنسپل کہن لگا اگتوں ڈیرہ چاتوں   ساڈے ولوں چھٹے تیری مرضی ہے جاتوں
میر مسلمان نوں حقیقت سناتوں   احمد کر دتی دسدے قصائی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
پھیر روئی دار وچ رووے دے دسیا   ڈاچیاں وچوں نکل کے تے واہن وچ پھسیا
خالد محمد شریف تائیں کہیا   مرگیا میں تھکا سچے نام دی دہائی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
سارا پاندے اگے گھتی رو کے پکار ہے   واسطے خدا دے دسو کوئی کم کار ہے
اوہناں نے بنایا کارکن مددگار ہے   لائبریری دی میری ڈیوٹی لگائی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
خورشید صاحب انچارج لائبریری ہے   گٹ وٹ اوس میتوں کر کے ویری ہے
دوسرا مقرر کیتا بندہ جگہ میری ہے   بہت سوائی گئی اوس میری خیر خواہی ہے
بھن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
ساریاں میں کس طراں سناواں جو بیتیاں   دفتر اندے وچ درخواستاں میں کیتیاں
سب نے شراباں لا ابالی دیاں پیتیاں   ہونے مدہوش ہوش کسے نوں نہ آئی ہے

بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
بہت درخواستاں میں گھتیاں حضور نوں   داستان غم دی سنائی ہے شعور نوں
ماریاں آوازاں صاحب قبور نوں   قبراں دے وچوں نہ آواز کوئی آئی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
رحم دی اپیل کیتی عالم سید نوں   پھر نہیں سندا کسے دی آواز نوں
مردہ نہیں پہنچ دا کسے دی امداد نوں   کجھ نہیں حصول تری طرز دی کمائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
بہہ گیا سمندری میں روضے چھوں آ کے   بہت سارے واقعات چھڈ دتے میں جان کے
طول اے وقت دی تو آئے توں بچاں کے   اختصار نال کیتی فرض دی ادائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
آیا میں سمندری چراغ دین واسطے   ہور کسے لب شمع لائی نہ آس تے
تکیں تے میں سمندری نوں اوتھے کی کاج تے   سوچیا میں ایتھوں نہ مرا بھائی مرزائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
ہاکی دی ہٹی وچ ڈیرہ ڈنڈا لا لیا   اتے چونی گھروں کدی دھیلا ٹکا لیا
اوڑ کدی بازی وچوں جٹیوں نکالیا   ہٹی اوہناں اپنی کرائے تے چڑھائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
ہو گیا تھاں نہ ٹکا نہ رت رکھن نوں   دے نہ سہارا کتے کوڑی لبھی بھن نوں
کوئی نہ تیار مرے نال کون بہن نوں   بھاویں مرزائی بھاویں غیر مرزائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
ہے کوئی مرزائی تہیں تے اس طراں نہ کر دا   تھوڑا بہتا کچھ تے خدا کولوں ڈردا
پر ایہہ عذاب ہی اللہ کر دا   اپنے گناہ دی سزا میں پائی ہے
بھین توڑ چھڈیا قلعہ مرزئی ہے
اسماعیل نام اصولی ہے   اوہدے اگے رت نوں میں پایا منت ترلا
ہے

مرگیا جمن پالے جیہنوں وچ کوئی ٹلا ہے — کہن لگا سارے گھر کپڑا نہ کافی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
دھنا بھریا ڈھانا مرزائیاں دی مصیبت سی — اودھرے نال جیہڑاں کجھ قدرتی پے بہت سی
چودھرے کوہاں کھلیوں نے آون دسے پہلاں سی — ساری رات صف اتے لیٹ کے لنگھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
اک دری اک کھیس ایہو پار چیات سی — ایہو جائداد میری کل کائنات سی
اکھیاں نے جاگ کے گذاری ساری رات سی — سردی نے خوب شان اپنی دکھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
دوجی رات گجیر میں مسیتے لگا سون ہے — نگی بھولی صف اتے جھاڑ کے وچھون ہے
بولیو نیاز شاہ بھائی تسیں کون ہے — عرض کیتی شاہ صاحب آپ دا ہی بھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
کہن لگا تہیوں کوئی تنگی نا تے چاہی دی — عرض کیتی شکریہ ہے مہربانی بھائی دی
کرو تکلیف نہ تسیں چارپائی دی — شاہ صاحب بہت بے تحاشہ ٹھنڈ پائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
وڈے دنیاں ملکوں سورج اڑھیاں — سور کھا کے بے ڈکا بھجریا گیا
تگی کیوں نہیں لیندا اے جو تو ہیاں اٹھے لسیانا — تیز رفتار کار ہی نے چھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
سو دیانتدے اگے کیتی رو کے پکار ہے — چھیتے جہاں آدمی نہ کے درکار ہے
چھیتے جہاں میر جیہا آدمی بے کار ہے — کرو امداد تسیں سارے میرے بھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے
کہے جگہ تسیں کوئی نوکری لوا دیو — پھر اس تے بیکار کے کم تے لگا دیو
دس ویہہ روپے کتوں قرضہ دیو دیو — کر اس میں بھی حق تے حلال دی کمائی ہے
بھن توڑ چھڈیا گلچھ مرزائی ہے

اپنی مسیتے مینوں مولوی بناؤ   صبح ویلے درس قرآن دا کرا لو
پڑھو سارے آپ وی تے بچے وی پڑھاؤ   علم جیسی دولت نہ ہور چیز کائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

میرے کولوں پڑھو تفسیر قرآن دی   صرف نحو پڑھو لغت عربی زبان دی
سکھ لو حدیث سردار دو جہان دی   بہت شوق نال کرو قدر دی پڑھائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

روشن دین کہندا اک مسئلہ سوال ہے   کھل اساں دی مسجدوں قربانی والی ہے
دنیا روپیہ ڈیڈھ اسے تھوڑا خالی ہے   پھڑی اس مولوی نے بہت بے حیائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

خوشیاں نے کاکی مینوں آکھدے سی میاں جی   ہو گئے نے پکے سنگوں الٹیا ہڑ لاں ہے
اونہاں دا قصور نہیں قصور دلوں جاہلاں ہے   منشی مختار سرکار نے سکھائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

ہاشمی آکھے میرے ادب وچ رہندا سی   جدوں بھی بلاوے مینوں مولانا جی کہندا سی
میرے قدم اوس دا چھانج دین لیندا سی   چتاں چھیک ایتھے ہویا مرزائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

پھک لئی کس جدوں قادیان دی پوٹلی بھی   ہاشمی دا بن گیا جھٹ پٹ قول بھی
مولانا دی جگہ اک کہن اوے مولبی   ایسی تہذیب تے لعنت خدائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

لفظ اوے مولبی دا رکھیا چنگا ہاں سی   علم والا آدمی سی سچیا اوقات ہاں سی
کر گیا ترقیاں اگاہاں سکھیں اگاہاں سی   ال میرک ہاشمی نے اوسے نوں پائی ہے
بھن تروڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

جان تے ایمان نالوں ہور شے عزیز کی   مرزے مرزائی ہتھ پھڑنے نے چیز کی
میرا تیرے کے ہے تمیز توں تمیز کی   چھڈ دے تحصیل گل میر یاعدی پائی ہے

بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
محمد حسین صاحب سیکرٹری کمیٹی ہے اوہدے اگے کھولیں میں سچیاں دی پٹی
ہے
کردا میرے واسطے بھی کوئی ہٹی کٹی ہے کہن لگا میرے پاس نوکری نہ کائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
بھلا لوک خان صاحب عبد المجید سی پر بڑی ذات احمدی تے سنیں بھی زمیدی
کئی دفعہ کمیٹی جا کے اوہنوں جا کہیا سی خان صاحب کردا میری مشکل کشائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
خان صاحب ہوراں نے اجیہی چٹ دتی ہے جیہڑی میری اوس توں کلام گئی کٹی ہے
عجب خلق کوئی ہے ٹھگا کوئی ایہو ہٹی ہے میں نے ہزار وار بات آزمائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
اک دن لبھا میتھوں اک اشتہار سی سرخ رنگ حرف سوہنے نقش تے نگار سی
شائع کروائی اوہدی مجلس احرار سی سرخی کولے ہویا اک مرزائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
سوڑے والا مستری غلام رسول ہے اشتہار اہدوں میتھوں کیا فضول ہے
علم والا ہندیاں بھی بہت مجہول ہے سنگھی میری گھٹی گھٹی مارنے دھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
میرے پاس کجھ تھوڑا جیہا سامان سی کوئی میتھوں گھر تے نہ کوئی دکان سی
لیا میں کرائے تے کمیٹی دا مکان سی ڈھلی روٹی ویچی سر نوکری اٹھائی ہے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے
عزتی بے عزتی نوں سمجھیا میں ہیچ سی تھوڑے سے جے منافے اتوں سودا ریڑھے وچ
سی
پھیر پھیر لاوناں نہ کوئی اگا پیچ سی اوہدوں رات کھوئی جہڑی دن دی کمائی سی
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی ہے

گیا میں جانی چک ویکھن نوں روٹیاں   اک مرزائی دیاں نیتاں سی کھوٹیاں
رات میتھوں رکھ کے چھپایاں ست روٹیاں   چوہدری تے مولوی تے پکا مرزائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
تپ دی مسافتاں نے دتا مینوں مار سی   گلی گلی گھمیا تے سر اتے بھار سی
سردی دے پالوں ہوگیا ڈاہڈا بیمار سی   زندگی دی آس میرے دل توں مکائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
پیسے وچ آٹا تے نہ کوزے وچ پانی سی   روٹی نہیں سی لبھدی تے دوا کتھوں کھانی سی
میرے بھانے ہوگیا جہان سارا فانی سی   باراں دن تیک کسے دتی بھی نہ دوائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
تیرھویں دہاڑے جاں افاقہ کجھ آیا سی   ہولی ہولی اٹھ کے بازار ول ودھیا سی
مہر دین جا کیہا سارا ماجرا سنایا سی   علم صفدری دا جیہڑا بیلی ہانی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
رویا اوہدی جان نوں میں ہوگیا بیمار جے   افسوس تساں میری پچھی بھی نہ سار جے
ہوگیا اخیر جدوں دم میرا پار جے   پچھے میری لاش نوں ویچ جاون کمائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
کہن لگا اسیں سمجھے نہ سار ہاں   تینوں کی بتائیے اسی آپ ہی بیمار ہاں
تیتھوں پہلے اسیں آپ مرن نوں تیار ہاں   ویکھیا اے کیسے ہمدرد مرزائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
ہور اک قدرت اللہ نام مرزائی سی   میرے دل وچ اوہدی عزت سوائی سی
روکے حقیقت میں اوس نوں سنائی سی   تسی میرے دکھ سکھ وچ بھین بھائی سی
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے
کہن لگا کراں گے ضرور انتظام جے   پڑھن گے اساڈے شیخ صبح تے شام جے
رکھاں گے سمجھ تینوں اپنا امام جے   اج تیک اوس مڑ شکل نہ وکھائی جے
بھن توڑ چھڈیا شکنجہ مرزائی جے

ماریاں دے دلوں میتھوں ہوئی تسلی ہے   باقی رہندا اک اصحابی ہے
سونہہ میتھوں رب دی او سب تو ٹھگ ہے   سو جھد کیتا پوری اک وی نہ پائی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
کدی آکھے تیتھوں اک مولوی بناواں گے   کدی آکھے تیتھوں کتے منی لگاواں گے
کدی آکھے کسے کارخانے وچ لاواں گے   خواہ مخواہ جہان آباد ایویں ا آبائی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
دن مہیناں مٹھو چلوں چھیاں کے گیاں   میر ستایاں گلاں جھوٹیاں کے مچیاں
جھوٹ جھوڑا بولے اوہدے مرن بچے   ہوندی اخیر کار سچ دی رہائی ہے
بچیاں
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
کوئی مرزائی اٹھے ذمہ وار آوے   میرزے دی جس نے قبول کیتی ہادی
حق دی تحقیق کرنی وچ کاہدی تاوی   لگے میدان وچ کن کے سپاہی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
جھیڑے جھوٹے نام میں رسالے وچ لکھے   سوجھد ہے ساریاں گلاں جانچ کے سچے نے
نے
ہو بچے واقعہ بیان جو میں کیتے نے   حق سچی بات ہے کہ جھوٹھ دی رہائی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
دیکھنے نے تاں میری صداقت دے دلائل ہے   ربوہ تمام میری تاودی دا قائل ہے
دفتراں دے وچ موجود میرے فائل ہے   دیکھ کے چیک کرو حق آزمائی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
دستخط سب توں کرا دے وار وار ہے   ہاں کیتے نے گلاں دا کرادے اقرار ہے
جھوٹھ دی گرفت لئی حضور سرکار ہے   جھوٹے اتے بنی قانونی کاروائی ہے
بھن توڑ چھڈیا کھنبھ مرزائی ہے
کامیاب ہووناں اخیر کار سچ ہے   چھوڑ چور ہووناں اخیر کار سچ ہے

اخیر سچ سچ ہے اخیر سچ سچ ہے ہون کوئی سچ اتے سچ دی لڑائی ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
سچ نے میدان وچ شیر وانگ گجناں سچ دا میدان وچ ڈنکہ ڈنکہ بجناں
حق دا نقارہ حق حق وجناں کوڑ دی جہان وچ ہوئی رسوائی ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
تن سوہنا مکھ کالاواں تن تسی کھالو سچ اتے جھوٹھ دا مقابلہ کرا لو
قادیانیت دا نتیجہ آزما لو ویکھو کیہڑے حق ہوندا فیصلہ ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
جھوٹھیاں تے لعنت تمام اولیاء دی جھوٹھیاں تے لعنت تمام انبیاء دی
جھوٹھیاں تے لعنت محمد مصطفیٰ دی جھوٹھیاں دے اتے ہووے لعنت خدائی
ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
دیکھ لو شیشہ مرزائی اخلاق دا آپو وچ ایہا عمدے سلوک اتفاق دا
شور ہے جہان اتے شہرہ آفاق دا ترا گھراں تری صفت دی دہائی ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
پہلے دیکھ شیشہ پھیر دوربین دیکھنا سے محمود سے نور دین دیکھنا
قادیانی سیتاں سانا پیرجین دیکھنا انگریز عیسائی تے ڈاکٹر بھی عیسائی ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
ہن اخلاق پھیر تعلیم دساں گا تشریح دساں گا تسی ترجمہ دساں گا
تھوڑی جئی گل میں جراثیم دساں گا جنہاں نے جہان اتے طاعون پائی ہے
ہن توڑ چھڈیا ٹھیکہ مرزائی ہے
مرزے دے دعوے کوئی پھیر میں سناواں گا انشاءاللہ روشنی میں ڈاہڈی سوہنی پاواں گا
پورا پورا حق تبلیغ دا اداواں گا زندگی جے میری اللہ پاک نے دوھائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

مرزائی بھائیاں نوں بھنڈارہ ورتاواں گا　عشق دائی بھٹی چھولے بھن کے چباواں گا
ہر دم دم دا ڈنکا میں بجاواں گا　دم دم وانگ میں بھی کھسلا سودائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

عندلیب محصور دل سوز فریاد ہے　گھات لائی بیٹھا کوئی ظالم صیاد ہے
ات جنم ظلم صیاد ہے　ٹل کن حریت دی او دی اکھا دہائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

دیس دی صلاح تساں بلبلاں نوں پھڑندی　گلشن محمدی نوں برباد کرن دی
تساں دی دلیل ہے جناب موتے مرزے دی　بچیں جاؤ ظالم صیاد پھڑن لائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

تساں نوں پتا اے ہے کون کدی دا تگی　کہن ہے تہاڈوں ہو جاؤ احمدی بھرا تگی
ٹھوک کے جواب دیو اگیوں سنا تگی　اگے اسی احمدی تسیں اجیوں سودائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

اسیں سب محمدی ہے آسیں ہے گے احمدی　جھوٹھیاں تہمتاں توں حسد ساڈی کم دی
ساڈے اگے چوہدری نگاہ رکھو رحم دی　اسی مسلمان ساڈا سلطان مصطفائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

بچیں تاہیں جاؤ عشق دیکھ کے بھرا تگی　لیلی وانگوں رکھدے ہے جو شدران چھپا تگی
کھوہ سب دھجے توڑ وچ لگے جیدوں والتگی　اتوں اخلاق وچوں پھرے پھرے دائی
ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

سوا خلق لمیاں واعظ فن توں تیار نہیں　تیری تیغ میرے کے درکار نہیں
ذوب دے ہے جیڑا لایا کسے نوں دیں پیار
نہیں　وچ نہیں ہے جو گھوڑی جہد دی صفائی ہے

بھن توڑ چھڈیا ٹھیہ مرزائی سے

جیہڑے سدے وی نبی پاک والی شان گھٹدے   جیہڑے سدے وی حق نا کہیا قرآن گھٹدے
بچی والی مائی نوں نہیں ای جان گھٹدے   اللہ جانے اوہدے کولوں ہوئی کی بھائی
ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
وڈے وڈے لیڈراں نوں نادان گھٹدے   حاجیاں نمازیاں نوں بے ایمان گھٹدے
مسلمان تاکیں نہیں بے مسلمان گھٹدے   اوہو مسلمان جیہڑا پکا مرزائی ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
ہووے مرزائی بھاویں زانی تے شرابی   داڑھی تے حد تیک والے اصحابی ہے
ہے
سچیاں اصحابیاں دا نہیں وی چنبالی ہے   عربی رسول والوں کیتی کنڑائی ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
پڑھدی نماز جہاں مسلماناں نال نہیں   پڑھنا جنازہ مسلمان دا سوال نہیں
دیندا نکاح مسلمان نوں حلال نہیں   وکھری مسیت اُچ امت دی بنائی ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
کوئی میتوں لاوے تے کوئی سیتوں جمع نہیں   نال نہیں لے جانا کجھ کر جانا جمع نہیں
شمع محمدی بغیر کوئی شمع نہیں   جھڑ پروانے ایسے شمع تے جلائی ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
جھوٹیاں نبیاں نوں منی نہیں ہے منا   سب دا پجاری ہاں تے ہتھاں نوں ہے بھنا
طالب دیدار ہاں محمد سوہنے تن دا   زمین آسمان اسے جدی روشنائی ہے
بھن توڑ جھنڈا لگیا مرزائی ہے
سچا دربار ہے محمد رسول دا   نانا جو حسین دا تے بابا ہے بتول دا
رہے گا ہمیش ہی رسولی جھنڈا جھولدا   ایسے جھنڈے ہیٹھ ہوئی سب دی رہائی
ہے

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

[illegible]

مرزا غلام احمد
کی
تصویر کے دو رخ

غلام نبی جانباز مرزا

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے
کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں

آج بھی کچھ لوگ اس ملک میں ایسے ملتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو اس کے اصل رنگ میں نہیں دیکھ سکے۔

کالج کی تعلیم سے فارغ نوجوان سے تو کوئی ایسا گلہ نہیں۔ اس لئے کہ والدین نے اسے مذہب کی تعلیم سے کورا رکھا۔ آگے چل کر جن ملاؤں سے ان کے رسم و راہ بڑھے۔ بدقسمتی سے وہ لوگ صحیح معنوں میں مذہب کے پیشوا نہیں تھے۔ ان کی باگ ڈور اجنبی حکومت کے ہاتھوں میں تھی۔ رائج الوقت سلطنت نے ایسے لوگوں کو اپنی درسگاہوں میں بظاہر بطور معلم کے چھوڑ رکھا تھا۔ دراصل وہ برطانوی سلطنت کے جاسوس تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مسلمان نوجوان کو مذہب کی کسی ایسی راہ سے آشنا نہیں کرا سکتے تھے۔ جس پر چلنے سے اسلام کا صحیح پیرو نوجوانوں کے مستقبل کو روشن اور واضح کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گذشتہ ربع صدی میں جس قدر مذہبی تحریکیں ہندوستان میں چلیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان ان میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی جہاں کہیں دو مختلف الخیال علماء باہم مذہبی گفتگو کرتے ہوں۔ ان اجتماعوں میں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اول وہ جنہیں مذہب سے نہ صرف لگاؤ ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک مذہب انسانی زندگی کا کماحقہ رہنما ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو مذہب سے محبت رکھتے ہیں۔ خواہ انہوں نے اسلام کا ابتدائی قاعدہ پڑھا ہو یا نہ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ نوجوانوں کو مذہب سے نفرت ہے۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو اس بحث کے قابل نہیں پاتے۔ ان کی تعلیم کی ابتداء مذہب سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک ایسی تعلیم سے ہوئی ہے۔ جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو مذہب کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ اس لئے مذہب سے بیگانہ نوجوان ان علماء کی باتیں سننے سے دور رہا۔ جو شروع میں تردید مرزائیت کے لئے میدان میں آ گئے۔

اگر ہم لوگوں میں یا قدیمی حکمرانوں میں اسلام کی تعلیم کا رواج عام ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو اس قدر فروغ ہوتا۔ جس قدر انگریزی عملداری میں اس کو ہوا۔

قریباً تیس برس کی جدوجہد سے مرزائیت دنیا بھر میں اس قدر ننگی ہو چکی ہے کہ اس کے جسم کی تمام بیماریاں ایک ایک کر کے گنی جا سکتی ہیں۔ گو اس نے اسلام کا ایک عضو ہی نہیں بلکہ خود اسلام بننے کی کوشش کی۔ لیکن اسلام کے محافظ ڈاکٹروں نے اس گندے جسم سے اسلام ایسے پاک اور ستھرے مذہب کو ہمیشہ [illegible] رکھا۔

باوجود اس کے کہ ارض و سماوات کے درمیان کی ہر شے آج مرزائیت کو اسلام کے لئے انسانیت کے لئے، شرافت کے لئے اور پاکستان کے لئے ضرر رساں خیال کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو وقت کی اس آواز کو نہ خود سنتے ہیں اور نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔

مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ مرزائیوں میں بھی نوے فیصدی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آج تک مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ وہ سفید چادریں ہیں۔ ان کے والدین چونکہ مذہباً مرزائی ہیں۔ لہٰذا جو رنگ ان پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اسی رنگ میں رنگے گئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک آدمی دہریہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مرزائی نہیں رہ سکتا۔

زیر نظر کتاب کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ اس کے چال چلن کی رنگین اور گندی تصویر ہے۔ جسے اس کے متعلقین اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح اور صاف لفظوں میں اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ جس کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے بھی اسی راہ پر چلے۔

دوسرا رخ اس کے دعویٰ سے متعلق ہے۔ دونوں رخ دیکھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد آدمی کس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ اس کے لئے راستہ بند نہیں کیا گیا۔

میں نے یہ کتاب اسی اصول کے تحت ترتیب دی ہے۔ میں ہر آدمی کو دعوت دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھ کو جواب دے کہ واقعی مرزائیت کوئی مذہب ہے؟

جانباز مرزا!

تصویر کا پہلا رخ

” مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے

ایک دوست نے علاج دریافت کیا کہ ذیابیطس کے لئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کردی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانی شروع کردوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کرکے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔"

(نسیم دعوت ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۴۳۴)

حامد علی قادیانی کا بیان

حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو ایک عرصہ تک تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے اپنے قوی میں ضعف محسوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ زد جام عشق کے نام سے مشہور ہے۔ بنوا کر استعمال کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ نہایت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اوّل بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو بھی کھلایا تھا۔ تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ جس پر اس نے ہیرے کے کڑے ہمیں نذر کئے۔

نسخہ زد جام عشق

زعفران، دارچینی، جائفل، افیون، مشک، عاقرقرحا، قرنفل، لونگ۔

ان سب کو ہم وزن کوٹ کر گولیاں بناتے ہیں اور روغن صندل تار میں چپ کر کے رکھتے اور روزانہ ایک گولی استعمال کرتے ہیں۔ اس نسخے کے استعمال کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی (تریاق القلوب ص ۴۸) پر لکھتا ہے کہ: "یہ نسخہ فرشتے نے میرے منہ میں ڈال دیا۔"

نیز آگے چل کر اسی کتاب کے اسی صفحہ پر کہتا ہے کہ: "پھر میں نے اپنے تئیں خداداد طاقت میں پچاس مردوں کے قائم مقام دیکھا۔" (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۵۰، ۵۵، روایت نمبر ۵۹۹)

"ایک مرض مجھے نہایت خطرناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ (یعنی انتشار) بکلی جاتا رہتا تھا۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔" (مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۱۴، ۲۱)

"چونکہ حضرت مرزا صاحب نبی ہیں۔ اس لئے ان کو (موسم سرما کی اندھیری راتوں میں) غیر محرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبوانا اور ان سے اختلاط و مس کرنا منع نہیں ہے۔ بلکہ کار

ثواب اور موجب رحمت و برکات ہے۔" (اخبار الفضل مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۲۸ء)

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(درثمین اردو ص ۹۳، براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۷)

"دو مرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسری بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر اور نیچے کے حصہ میں کثرت پیشاب اور دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں۔ جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے۔" (حقیقۃ الوحی ص ۳۰۶، ۳۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۰)

"کچھ عرصہ ہوا کہ ڈاکٹر اللہ بخش لاہوری احمدی اور مولوی آفتاب الدین مسلم مشنری دوکنگ قادیان گئے تھے۔ انہوں نے وہاں آپ (مرزا محمود قادیانی) سے ملاقات کا انتظام کیا۔ آپ نے ان کو دو تین گھنٹے کے وقفہ سے ملاقات کا موقع دیا۔ مجھے اس ملاقات کے متعلق میرے دفتر میں پہلے چوہدری محمد سعید صاحب بٹ اور دوسرے پھر مولوی آفتاب الدین نے سنایا۔ بلکہ ڈاکٹر اللہ بخش نے اپنی ڈاکٹری کے باعث دوران ملاقات میں یقینی طور پر اندازہ لگایا کہ آپ نے شراب پی ہوئی ہے۔ اس لئے آپ نے دو تین گھنٹے کا وقفہ لیا اور پھر آپ نے جو خوشبوئیں لگا کر ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کے منہ سے شراب کی بو کو بہرحال محسوس کر لیا ہے۔"

(شیخ غلام محمد قادیانی کا مکتوب رسالہ تحقیقات احمدیہ جلد ۲ نمبر ۱ ص ۹)

عدالت کے تبصرے کا اقتباس

"مرزا (غلام احمد قادیانی) ایک ٹانک استعمال کرتا تھا۔ جس کا نام پلومر کی شراب، پھر دوسرے خطوط میں یاقوتی کا تذکرہ ہے۔ مرزا محمود نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی شراب دوائی استعمال کی۔" (مسٹر جی ڈی کھوسلہ سیشن جج گورداسپور مورخہ ۶ جون ۱۹۳۵ء)

ڈاکٹر شاہنواز مرزائی کا بیان

"جب خاندان سے اس کی ابتداء (مراق) ہو چکی ہو تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ

مرض منتقل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔" (رسالہ ریویو آف ریلیجنز ج ۲۵ ش ۸، بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ئ)

ڈاکٹر محمد اسماعیل کا بیان

"حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بھانو تھی۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی۔ حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی۔ اس لئے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ بلکہ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھانو آج بڑی سردی ہے؟ بھانو کہنے لگی۔ ہاں جی! تدے تے تہاڈی لتاں لکڑی وانگر ہویاں نے۔ (جبھی تو آج آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں)"

(سیرت المہدی ص ۲۱۰، روایت ۷۸۰)

"حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی زنا کر لیتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے۔ ہمیں اعتراض تو موجودہ خلیفہ پر ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۳۸ئ)

عبدالرحمن مصری کی کورٹ میں درخواست

"موجودہ خلیفہ (بشیر الدین محمود) سخت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے پردے میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں۔" (عبدالرحمن مصری کی درخواست مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۸ئ)

مہاشا محمد عمر کا بیان

میں خدا کی قسم کھا کر یہ بھی لکھتا ہوں کہ " انہوں نے (میاں فخر الدین ملتانی قادیانی) ایک دن اپنے مکان کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ تحریک جدید کے بورڈنگ کا ایک قاعدہ

ضرور ہوا ہے کہ پہلے تو لڑکیوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا اور اب لڑکے جمع شدہ مل جاتے ہیں۔''

(خم فاروق مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۳۳ء)

میں نے (بشیر الدین محمود) رویا دیکھی کہ: ''ایک بڑا ہجوم ہے۔ میں اس میں بیٹھا ہوں اور ایک دو غیر احمدی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو سامنے کی طرف بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرا آزار بند پکڑ کر گرہ کھولنی چاہی۔ میں نے سمجھا کہ اس کا ہاتھ اتفاقاً لگا ہے اور میں نے آزار بند پکڑ کر اپنی جگہ پر اٹکا لیا۔ پھر دوبارہ اس نے ویسی ہی حرکت کی اور میں نے پھر بھی سمجھا کہ اتفاقیہ ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے ایسا ہی کیا تب مجھے اس کی بدنیتی پر شبہ ہوا اور میں نے روکا نہیں جب تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ برا ارادہ کر رہا ہے۔''

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۳۳ء)

''جب میں (بشیر الدین محمود) ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں۔ مگر قیام انگلستان کے دوران میں مجھے موقعہ نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چوہدری سر ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے۔ کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں کہ جہاں یورپین سوسائٹی عریانی سے نظر آئے۔

چوہدری ظفر اللہ خان صاحب بھی فرانس سے واقف نہ تھے۔ مگر مجھے اوپرا میں لے گئے۔ جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اوپرا اسٹیج کو کہتے ہیں۔ چوہدری صاحب نے بتایا کہ یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے۔ جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے۔ اس لئے دور کی چیز اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چوہدری صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا۔ یہ ننگی نہیں ہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی تھیں۔''

(الفضل مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۳۴ء)

بشیر الدین کی والدہ کا بیان

''ہماری دادی ایمہ ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھی۔ حضرت صاحب (غلام احمد قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایمہ گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ چاقو نہیں ملتا تھا تو سر

لے

کنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چند بوڑھی عورتیں ملنے آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی (مرزا غلام احمد قادیانی کا بچپن کا نام ہے) ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۳۵، روایت نمبر ۵۱)

ڈاکٹر محمد اسماعیل کا بیان

"ایک دفعہ میاں یعنی خلیفۃ المسیح الثانی دالان کا دروازہ بند کر کے چڑیاں پکڑ رہے تھے کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے جب کہ نماز کے لئے باہر جاتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا۔ میاں! گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔"

(سیرت المہدی حصہ اول ص ۱۱۴، روایت نمبر ۱۴۸)

والدہ بشیر الدین محمود کا بیان

"حضرت مسیح الموعود ریشمی آزار بند استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشمی آزار بند رکھتے تھے۔ تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور اگر گرہ بھی پڑ جائے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی آزار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۵۵، روایت ۶۵)

بشیر الدین کی والدہ کا بیان

"جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر قادیان لانے کی بجائے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح الموعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۴۳، روایت نمبر ۴۹)

"جیسا کہ حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقعہ پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور خداوند تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔" (ٹریکٹ نمبر ۳۴،)

اسلامی قربانی)

حکیم نورالدین کا بیان

"ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے۔ اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی۔ آپ بیوی کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم جن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ ایک جگہ بٹھا دیا جائے۔ حکیم صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا آپ خود کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں۔ بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ "جاؤ جی! میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔" اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سر نیچا کر کے میری طرف آئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۶۳، روایت نمبر ۷۷)

عبداللہ سنوری کا بیان

"ایک دفعہ پٹیالہ کے ایک شخص نے حضرت (مرزا قادیانی) سے فتویٰ دریافت کیا کہ: "میری ایک بہن کنچنی تھی۔ اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا۔ پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا۔ مگر بعد میں اللہ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانے میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔" (سیرت المہدی حصہ اول ص ۲۶۱، ۲۶۲، روایت نمبر ۲۷۲)

ڈاکٹر محمد اسماعیل کا بیان

"ایک دفعہ لاہور کے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت (غلام احمد قادیانی) کو اطلاع ہوئی۔ آپ معہ کچھ ناشتہ کے ان سے ملنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا ہم سب روزہ سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ ناشتہ کروا کے ان کے روزے تڑوا دیئے۔"

(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۵۹، روایت نمبر ۳۷۹)

مائی رسول بی بی بیوہ کا بیان

"ایک زمانہ میں حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) کے گھر میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پہرہ دیتی تھیں اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر میں سوتے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے ہوئے سنے اور آپ کو جگا دیا۔ اس وقت رات کے بارہ بجے تھے۔ ان ایام میں پہرے پر مائی فجو منشیانی اہلیہ منشی محمد دین گوجرانوالہ اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں۔"

(سیرت المہدی حصہ سوم ص ۲۱۳ روایت نمبر ۷۸۶)

ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کا بیان

"حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی۔" (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۱۱۹ روایت نمبر ۶۷۲)

میاں حامد علی خادم مرزا غلام احمد کا بیان

"ایک دفعہ سفر میں حضرت (مرزا قادیانی) کو احتلام ہوا۔ جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ پھر بعد غور کرنے کے اور طبی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احتلام تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فطرتی، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرا مرض کی وجہ سے ہے۔ انبیاء کو فطرتی اور مرض والا احتلام ہو سکتا ہے۔ مگر شیطانی نہیں ہوتا۔" (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۲۳۲، روایت نمبر ۸۳۳)

پیر عنایت علی شاہ لدھیانوی کا بیان

"سفر میں حضور (مرزا قادیانی) نے لدھیانہ میں ایک لیکچر دیا۔ جس میں ہندو، عیسائی، مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنٹے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔ بوجہ سفر کچھ طبیعت بھی درست نہ تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا...... اس لئے حضور اقدس نے تین گھنٹے تقریر جو فرمائی تو طبیعت پر ضعف سا طاری ہوا۔ مولوی محمد احسن نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ مرزا قادیانی رمضان میں دودھ پیتا ہے اور شور کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا۔ فوراً یہ شور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیئے گئے۔"

(سیرت المہدی حصہ سوم ص ۲۷۰ روایت نمبر ۹۰۹)

حکیم نور دین کا بیان

"میں نے ایک دن حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) سے کہا کہ حضور غلام نبی کو مراق ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراق ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے۔ یہ خبیثوں کی مناسبت ہے۔" (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۳۰۴ روایت ۹۶۱)

"پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہئے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشن پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے۔ غرض ایسے وعظ کر کے کچھ روپیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے۔ لیکن جب ہماری بیبیاں خود قادیان گئیں اور وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کر لیا تو واپس آ کر ہمارے سر پر چڑھ گئیں کہ تم بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں خود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آرام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے اس کا عشر عشیر بھی باہر نہیں۔ حالانکہ ہمارا روپیہ اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو روپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے۔۔۔ پھر بعض زیورات اور بعض کپڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا ہے۔" (کشف الاختلاف ص ۱۳)

مرزا غلام احمد قادیانی کے خسر میر ناصر نواب کا بیان

"عاجز (میر ناصر نواب) نے چند امور کے لئے حضرت مرزا (مرزا قادیانی) سے دعا منگوانے کے لئے خط لکھا۔ جن میں سے ایک امر یہ بھی تحریر کیا دعا کرو۔ مجھے خدا تعالیٰ نیک اور صالح داماد عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں مجھے حضرت (مرزا قادیانی) نے تحریر فرمایا کہ میرا تعلق میری بیوی سے گویا نہ ہونے کے برابر ہے اور میں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ جیسا تمہارا عمدہ خاندان ہے۔ ایسا ہی تم کو سادات کے عالی شان خاندان میں سے زوجہ عطا کروں گا اور اس نکاح میں برکت ہوگی اور اس کا سب سامان میں خود بہم پہنچاؤں گا۔ تمہیں کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ یہ آپ کے خط کا خلاصہ ہے۔ بلفظہ یاد نہیں اور یہ بھی لکھا کہ آپ مجھ پر نیک ظنی کر کے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں اور تصفیہ اس امر کو مخفی رکھیں اور رد کرنے میں جلدی نہ کریں۔" (حیات ناصر ص ۷)

درخواست گورنمنٹ آف انڈیا کے حضور میں تجویز تعطیل جمعہ

"چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو درپردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں اور ایک چھپی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اس اندرونی بیماری کی وجہ سے فرضیت جمعہ سے منکر ہو کر اس کی تعطیل سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا یہ نقشہ اسی غرض کے لئے تجویز کیا گیا ہے تا کہ اس میں ان ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں جو ایسے باغیانہ سرشت کے آدمی ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں۔ .. جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔ اس لئے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی پولیٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہی چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریر لوگوں کے نام ضبط کئے جائیں۔ جو اپنے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریب پر ان لوگوں کو شناخت کرنا ایسا آسان ہے کہ اس کی مانند ہمارے ہاتھوں میں کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ وجہ یہ کہ جو ایک ایسا شخص ہو جو اپنی نادانی اور جہالت سے برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے۔ وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہو گا۔ اور اسی علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ درحقیقت اس عقیدہ کا آدمی ہے۔ لیکن ہم گورنمنٹ میں باادب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے ایک پولیٹیکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی اور بالفعل یہ نقشے جن میں ایسے لوگوں کے نام مندرج ہیں۔ گورنمنٹ میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ صرف اطلاع کے طور پر ان میں سے ایک سادہ نقشہ چھپا ہوا جس پر کوئی نام درج نہیں۔ فقط یہی مضمون درج ہے۔ ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام بمعہ پتہ و نشان لکھے ہیں۔"

نمبر شمار	نام معہ لقب وغیرہ	سکونت	ضلع	کیفیت

{مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۲۷،۲۲۸}

نونہال سنگھ، شیر سنگھ (یہ دونوں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے فوجی جرنیل تھے)

"دربار لاہور کے دورِ دورہ میں غلام مرتضیٰ (مرزا غلام احمد قادیانی کا والد) ہمیشہ فوجی خدمت پر مامور رہا۔ ۱۸۴۱ء میں یہ جرنل ونچورا کے ساتھ منڈی اور کلو کی طرف بھیجا گیا۔ ۱۸۴۳ء میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدہ (یاد رہے کہ حضرت شاہ اسمٰعیل شہیدؒ اور ان کے ساتھیوں سے بالاکوٹ کی لڑائی میں سکھوں کی فوج میں شامل ہو کر ان مجاہدوں سے لڑتا رہا) میں اس نے کارہائے نمایاں کئے اور ۱۸۴۸ء کی بغاوت ہوئی تو وہ اپنی سرکار (سکھوں) کا وفادار رہا۔ اس کی طرف سے لڑا۔ اس موقعہ پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات کیں۔" (سیرت المہدی حصہ اوّل ص ۱۳۲، روایت نمبر ۱۳۲)

"میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کی ان خدمات کو کبھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے (مرزا قادیانی کے باپ اور بھائی) ۱۸۵۷ء کے ایک نازک وقت میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس سوار اپنے عزیزوں اور دوستوں سے مہیا کر کے گورنمنٹ (برطانیہ) کی امداد کے لئے دیئے تھے۔" (سیرت المہدی حصہ اوّل ص ۱۳۲، روایت ۱۳۲)

"اور میرا بھائی مرزا غلام قادر تموں پتن کی لڑائی میں شریک تھا اور بڑی جانفشانی سے مدد دی۔ غرض اس طرح میرے بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنے مال، اپنی جان سے اپنی متواتر خدمات سے اپنی وفاداری کو گورنمنٹ (برطانیہ) کی نظر میں ثابت کیا۔"

{سیرت المہدی حصہ اوّل ص ۱۳۳، روایت نمبر ۱۳۳}

"میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکار

میں مصروف رہا اور جب تموں کے گذر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیں۔ ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں لکھیں اور قرین مصلحت سمجھ کر اس امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھپائی اور اشاعت پر ہزاروں روپے خرچ ہوئے اور وہ کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔ کیا اس قدر بڑی کارروائی اور اس قدر دور دراز مدت تک ایسے انسان سے ممکن ہے؟ جو دل میں بغاوت کا ارادہ رکھتا ہو؟ پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سرکار انگریزی کی امداد اور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا ہے۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں۔ کوئی نظیر ہے؟ اگر میں نے یہ اشاعت گورنمنٹ انگریزی کی سچی خیرخواہی سے نہیں کی تو مجھے ایسی کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم وغیرہ بلاد اسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی توقع تھی؟ یہ سلسلہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ برابر سترہ سال کا ہے۔" (کتاب البریہ ص ۷ تا ۸ خزائن ج ۱۳ ص ایضاً)

"اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے۔ جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے۔ اس لئے تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی عہد سلطنت ایسا نہیں جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو۔ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا اور تاریکی تاریکی کو کھینچتی ہے۔" (ستارہ قیصرہ ص ۶ خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۷)

"سو یہ مسیح موعود جو دنیا میں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور سچی ہمدردی کا ایک نتیجہ ہے۔ خدا نے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے دردمندوں کو یاد کیا اور آسمان سے اپنے مسیح (مرزا قادیانی) کو بھیجا اور وہ تیرے ہی ملک میں اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا۔"

(ستارہ قیصرہ ص ۸ خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۸)

"اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہند خدا تجھے اقبال اور خوشی کے ساتھ عمر میں برکت دے۔ تیرا عہد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسمان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے۔ تیری ہمدردی رعایا اور نیک نیتی کی راہوں کو فرشتے صاف کر رہے ہیں۔"

(ستارہ قیصرہ ص ۸، ۹، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱)

"شریر ہے وہ انسان جو تیرے عہد سلطنت کی قدر نہیں کرتا اور بدذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکرگزار نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔ اس لئے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعائیں آپ کے لئے آب رواں کی طرح جاری ہیں اور ہم نہ سیاست قہری کے نیچے ہو کر آپ کے مطیع ہیں۔ بلکہ آپ کی انواع واقسام کی خوبیوں نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ بابرکت قیصرہ ہند تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے۔ جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔" (ستارہ قیصرہ ص ۱ خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۹، ۱۲۰)

"میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا۔ جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی۔ پچاس سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئیں۔"

(کتاب البریہ ص ۴ خزائن ج ۱۳ ص ایضاً)

"بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ (برطانیہ) سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ان کا نہایت ہی حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی کا کام ہے۔" (شہادت القرآن ص ۸۴ خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)

"جس گورنمنٹ کے زیر سایہ خدا نے ہم کو کر دیا ہے یعنی گورنمنٹ برطانیہ جو ہماری

آبرو اور جان اور مال کی محافظ ہے۔ اس کی سچی خیرخواہی کرنا اور ایسے مخالف امن امور سے دور رہنا جو اس کو تشویش میں ڈالیں۔" (کتاب البریہ ص ۱۰، خزائن ج ۱۳ ص ایضاً)

"خدا کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اس محسن گورنمنٹ کے زیر سایہ ہمیں رکھا۔ اگر ہم کسی اور سلطنت کے زیر سایہ ہوتے تو یہ ظالم مخالف کب ہماری جان و آبرو کو چھوڑنا چاہتے۔"

(کتاب البریہ ص ۲۲، خزائن ج ۱۳ ص ۳۰)

"یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے۔ ایک بڑا امتیازی شان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کا انتظار ہے۔ بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے کہ دین کی اشاعت کیلئے لڑائیاں کی جائیں۔" (تریاق القلوب ص ۳۰۸، خزائن ج ۱۵ ص ۵۱۷)

تصویر کا دوسرا رخ

"میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔"

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

"اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔ گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں۔ تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔" (توضیح المرام ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۶۰)

"اور چونکہ وہ بروزی محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں۔ اس لئے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا ہوئی ہے۔" (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۵)

"میں خدا کی تیس برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴)

* * *

"میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں اور آنحضرت ﷺ کے نام کا مظہر اتم ہوں۔ یعنی ظلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں۔" (حاشیہ حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

"اور میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں...... اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے اور اس حالت میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام اور آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں تو پہلے میں نے آسمان و زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔"

(کتاب البریہ ص ۸۵ خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)

"خدا تعالیٰ نے مجھے مسیح ابن مریم ٹھہرایا۔"

(حقیقت الوحی ص ۷۲ حاشیہ خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)

"اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا۔ وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ۔"

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۸۵ خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۲)

"میں (غلام احمد قادیانی) کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور مصفا مکان ہے اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ حاکم الحاکمین یعنی رب العالمین ہیں اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں۔ جیسے حاکم کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کچھ احکام قضا و قدر کے متعلق لکھے ہیں اور ان پر دستخط کرانے کی غرض سے ان کے پاس لے چلا ہوں۔ جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے نہایت شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اس وقت میری ایسی حالت ہوئی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بچھڑا ہوا سالہا سال کے بعد ملتا ہے اور قدرتاً اس کا دل بھر آتا ہے۔ میرے دل میں اس وقت یہ بھی خیال آیا کہ یہ حاکم الحاکمین یا فرمایا رب العالمین ہیں اور کس محبت اور شفقت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ احکام جو لکھے تھے دستخط کرنے کی غرض سے پیش کئے۔ انہوں نے قلم سرخی کی دوات میں جو پاس پڑی تھی ڈبویا۔ میری طرف جھاڑ کر دستخط کر دیئے۔"

(سیرت المہدی ص ۸۲، ۸۳ حصہ اول روایت نمبر ۱۰۰)

"میں نے (غلام احمد قادیانی نے) خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ سید عبدالقادر صاحب جیلانی آئے ہیں اور آپ نے پانی گرم کرا کر مجھے غسل دیا ہے اور نئی پوشاک پہنائی ہے اور گول کمرے کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ آؤ ہم اور تم برابر برابر کھڑے ہو کر قد ناپیں۔ پھر انہوں نے میرے بائیں طرف کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملایا تو اس وقت دونوں برابر برابر رہے۔" (سیرت المہدی ص ۲۹ حصہ سوم روایت نمبر ۳۸۱)

"حضرت والد صاحب کے زمانہ میں ہی جب کہ ان کا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ (مرزا قادیانی) کو خواب میں دکھائی دیا اور اس نے یہ ذکر کر کے کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لئے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں۔ سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا اور اس قسم کے روزہ کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے۔ وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے۔ اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز اور سرخ ایسے دلکش اور دلستان طور پر نظر آتے تھے۔ جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے۔ ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا۔"

"دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہ ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کئے گئے تھے۔ یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا اور دوسرا وہ نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہوگئی۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کی نظروں سے بہت دور ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔" (تذکرہ ص ۲۲، ۲۳، کتاب البریہ ص ۱۶۹، ۱۸۰، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۷، ۱۹۸ حاشیہ)

"ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(ملفوظات احمدیہ ص ۲۷۶، اخبار بدر ۵، ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

ان سے بہتر غلام احمد ہے

"یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں اور اگر تجربہ کی رو سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔" (دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

"کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کی ہے مگر کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

"جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک ہے۔"
(نزول المسیح ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲)

"جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حرام زادہ کی یہی نشانی ہے۔" (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

مصنف سیرت نصرت جہاں بیگم یوں رقمطراز ہے: "۱۸۶۵ء میں حضرت میر صاحب کی شادی کے تین سال بعد وہ با اقبال لڑکی پیدا ہوئی۔ جس کی پیدائش کی صدیوں سے انتظار تھی اور جس کی پیدائش جس کا فیصلہ روز ازل سے ہی الٰہی پروگرام کے تحت مقدر ہو چکا تھا۔" اللہ نے دنیا کی تخلیق میں اس کی اصلاح کے لئے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے۔ اس نے سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ قائم کیا۔ سلسلہ موسویہ کی اصلاح کے لئے ایک مسیح کو مبعوث فرمایا جو احیائے دین موسوی کے لئے مبعوث ہوا۔ پھر سلسلہ محمدیہ قائم ہوا اور اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کے بالکل متوازی قائم کیا اور اس کے لئے یہ مقدر کیا کہ جب سلسلہ بنی اسرائیل کی طرح بگڑ جائے گا تب ایک مسیح بروز محمدیہ کر کے بھیجا جائے گا۔ جو اتباع محمد اس قدر کرنے والا ہوگا کہ اس میں اور اس متبوع میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ خود پکار اٹھے گا کہ: "من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأی" اس پر محمدیت کی چادر ڈال دی جائے گی اور وہ اس قدر اس میں محو ہوگا کہ وہ زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی رسول کریم ﷺ کی قبر میں ہی مدفون ہوگا۔"

(ماخوذ سیرت نصرت جہاں بیگم ص ۱۰۰، ۱۰۲)

"اے ناظرین! میں (مرزا قادیانی) آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار مورخہ ۸/اپریل ۱۸۸۶ء میں پیشین گوئی کی تھی اور خدا سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے

قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔" (سیرت نصرت جہاں بیگم ص ۳۴۴، ۳۴۵ حصہ اول)

"میرا پہلا لڑکا جس کا نام محمود ہے۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا پایا۔ محمود"

(تذکرہ ص ۱۴۳ ماخوذ سیرت نصرت جہاں بیگم حصہ اول ص ۳۶۸)

"آسمان سے کئی تخت اترے پر میرا (مرزا قادیانی کا) تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ مجھے اس امت کے جملہ اولیاء پر فضیلت حاصل ہے۔" (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۱۴، روایت نمبر ۱۸۱)

"میں نے (مرزا قادیانی نے) اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو۔ یہاں تک کہ کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔

اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کر لیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باقی نہ رہا۔ اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، میری آنکھ اس کی آنکھ، میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔

حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے۔ اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا۔ سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ کوئی تمنا ہی باقی رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہمہ مغز ہو گیا۔ جس میں کوئی پوست نہ تھا اور تیل بن گیا۔ جس میں کوئی میل نہ تھی اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی۔

اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میری رگوں میں اور میرے پٹھوں میں سرایت کر گئی اور میں بالکل اپنے آپ سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ کے اعضاء ہیں اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور کوئی منازع روک کرنے والا نہیں رہا۔ خدا میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اس کا ہو گیا اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا ہوں۔ ہم ایک نیا نظام و نیا آسمان و نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان اور دنیا کو پیدا کیا اور کہا: "انا زینا السماء الدنیا بمصابیح" پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا۔ اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم"

(تذکرہ طبع ۳ ص ۱۹۲، ۱۹۳ آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴ تا ۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

"اس وقت اسلام کی ترقی خدا نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ اپنے دین کی ترقی خلفاء کے ساتھ وابستہ کیا کرتا ہے۔ پس جو میری مانے گا، جیتے گا اور جو میری نہ مانے گا وہ ہارے گا اور جو میرے پیچھے چلے گا خدا کی رحمت کے دروازے اس پر کھولے جائیں گے اور جو میرے راستے سے الگ ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس پر بند کر دیئے جائیں گے۔" (میاں بشیر الدین محمود، اخبار الفضل قادیان ج ۲۷ ۸۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۳۹ء)

"پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ اس کو تم چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔"

(ملفوظات محمدیہ قادیان ص ۱۳۱ اخبار الحکم نومبر ۱۹۱۲ء)

"اس وقت اسلامی دنیا پانچ وقت اللہ کی عظمت، بزرگی اور بڑائی کا اعلان کلمہ اللہ اکبر کے ساتھ کرتی ہے۔ اہل اسلام کا نعرۂ جنگ میں اور صلح میں ہر حال میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے بعد سب سے بڑھ کر ہر زمانہ میں وہ ہے جس کو اللہ برگزیدہ رسول بنا کر مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجے۔ ان رسولوں کے بعد ان کے جانشین خلفاء راشدہ سب سے بڑے انسان حضرت مسیح الموعود مہدی حضرت مرزا غلام احمد گذرے ہیں اور اب سب سے بڑا انسان اس رسول کا جانشین اور خلیفہ برحق ہے۔ جس کی نسبت پہلے سے پیش گوئی ہو چکی ہے اور تورات اور زبور میں بھی جس کا ذکر ہے اور جو حضرت مسیح الموعود کا نہ صرف پسر ہے۔ موعود ہے بلکہ خلیفہ موعود ہے۔" (الفضل خلافت جوبلی نمبر قادیان مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۳۹ء)

"آخر ایک ایسی جگہ میں پہنچا ہوں جہاں ایک میدان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک باغ ہے۔ جس میں میرا مکان ہے۔ میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی پہنچ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لئے آئی ہے۔ وہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ میں اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہتا ہوں کہ کیا تم بھی جنت میں میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری بیویوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ کچھ حیرت ظاہر کرتی ہے۔ (بیویوں کے ساتھ؟) مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ اس وقت ایک دم میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ خوبصورت عورت اللہ ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔"

(خواب بشیر الدین محمود اخبار الفضل قادیان ج ۳۵ نمبر ۲۰۴ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۷ء)

"حضرت مسیح الموعود نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں کسی سفر سے واپس قادیان آ رہا تھا تو میں نے بٹالہ پہنچ کر قادیان کے لئے یکہ کرایہ پر کیا۔ اس یکے پر ایک ہندو سواری بھی بیٹھنے والی تھی۔ جب ہم سوار ہونے لگے تو وہ ہندو جلدی کر کے اس طرف چڑھ گیا جو سورج کے رخ سے دوسری جانب تھی اور مجھے سورج کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ جب ہم شہر سے نکلے تو [illegible] بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا اور میرے اور سورج کے درمیان آ گیا اور ساتھ ساتھ آیا۔"

(سیرت المہدی حصہ اوّل ص ۵، روایت نمبر ۷)

"جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں اس پر کوئی اعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

"قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

"اے میرے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص (مرزا قادیانی) کو تم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔" (اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

"نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔"

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶)

"حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت رسول کریم ﷺ کی بعثت ثانیہ ہے۔ آپ کے صحابہ رسول کریم ﷺ کے صحابہ کے مثیل ہیں اور آپ کے خلفاء رسول کریم ﷺ کے خلفاء کے مثیل ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ رسول کریم ﷺ سے محبت کرتا ہے۔ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے وہ رسول کریم ﷺ کا دشمن ہے۔ جو آپ کے صحابہ اور آپ کے خلفاء اور آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ رسول کریم ﷺ کے صحابہ اور آپ کے خلفاء اور آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے خلفاء کا دشمن ہے وہ یقیناً رسول کریم ﷺ کے خلفاء کا دشمن ہے۔ آنحضرت ﷺ کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکرؓ تھے اور مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا خلیفہ حضرت مولوی حکیم نورالدین تھے۔ کتنی شاندار صداقت ہے کہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا آنا رسول کریم ﷺ کا آنا ہے اور آپ کے بعد خلیفہ اوّل یعنی حضرت مولوی نورالدین کا وجود رسول کریم ﷺ کے بعد خلیفہ اوّل یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ کا وجود ہے۔"

(مضمون اخبار الفضل قادیان نمبر ۲ ج ۱۳ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۲۶ء)

"مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا

مصداق ہے ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ"

(کتاب اعجاز احمدی ص ۷ خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

"مجھے خدا نے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا اور توارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی۔" (تحفہ قیصریہ ص ۲۰ خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۲)

"اسلام میں خدا نے ایک عظیم الشان نبی بھیجا ہے تا کہ وہ اس زندہ خدا کا لوگوں کو پتہ دے۔ جو اسلام نے پیش کیا ہے اور اس کا نام نامی حضرت مرزا غلام احمد ہے۔ جو قادیان پنجاب میں مبعوث ہوا۔" (اخبار الفضل قادیان ج ۲۵ نمبر ۲۹۲ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۳۷ء)

"ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور سوال کیا کہ قرآن کریم سے مرزا (غلام احمد قادیانی) کی صداقت کا ثبوت پیش کریں۔ ایسے لوگ اکثر آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سارا قرآن ہی آپ کی صداقت کا ثبوت ہے۔" (بیان بشیر الدین محمود، الفضل مورخہ ۱۵ فروری ۱۹۳۸ء)

"محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم۔ اس وحی الٰہی میں خدا تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی۔"

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

محمد پھر اتر آئے ہم میں
اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدر قادیان مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

"مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ امام مہدی اور مسیح مانتے ہیں۔ جس کی خبر تمام انبیاء علیہم اجمعین نے اور حضرت محمد رسول خاتم النبیین نے دی۔ ہم بغیر کسی فرق کے بلحاظ نبوت کے انہیں ایسا ہی رسول مانتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے رسول مبعوث ہوتے رہے۔"

(الفضل قادیان ج ۵ نمبر ۳۱، ۳۲ بابت ۱۰ اکتوبر ۱۹۱۷ء)

"لیکن کیا امتی کہلانے سے آپ کی نبوت تامہ کالعدم رہی۔ یا آپ نبوت کے لحاظ سے پہلے نبیوں سے شان میں کم رہے۔ ہرگز نہیں۔ آپ کا کسی پہلے نبی سے نبوت کے لحاظ سے کم رہنا تو الگ رہا۔ آپ تو اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا۔ جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے۔"

(الفضل قادیان ج ۴ نمبر ۲۶ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۱۶ء)

"ایک دن جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو اس وقت نہ مجھ پر نیند طاری تھی اور نہ میں اونگھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بیہوشی کے آثار تھے۔ بلکہ میں بیداری کے عالم میں تھا۔ اچانک سامنے سے ایک آواز آئی۔ آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے جلدی جلدی میرے قریب آرہے ہیں۔ وہ لوگ پنجتن پاک تھے۔ یعنی علی ساتھ اپنے دو بیٹوں کے اور ساتھ اپنی بیوی فاطمہ کے اور سردار مرسلین کے اور دیکھتا کیا ہوں کہ فاطمہ الزہرا نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور میری طرف گھور گھور کر دیکھنا شروع کیا۔"

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۹، ۵۵۰ خزائن ج ۵ ص ایضاً)

زندہ شد ہر نبی بآمدنم
ہر رسولے نہاں بپیراہنم

ترجمہ: میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا۔ ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔

(نزول المسیح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۸)

کربلائیست سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم

ترجمہ: کربلا میرے روز کی سیرگاہ ہے۔ حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہیں۔

(نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

"اے قوم شیعہ! اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ (نجات دینے والا ہے) کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک ہے جو حسین سے بڑھ کر ہے۔"

(دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

"یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے۔

حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

بشیر الدین محمود کی پیدائش کے متعلق مرزا قادیانی کا بیان

"فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ یعنی میرا پیدا ہونے والا بیٹا گرامی و ارجمند ہوگا۔ اول و آخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا آسمان سے اترے گا۔" (تذکرہ ص ۱۳۹)

"دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زائد نہیں۔ بذریعہ الہام اس کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ یعنی مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دردِ زہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی۔"

(کشتی نوح ص ۴۷ خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

"لوگ اخباروں میں مضامین دیا کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ کوئی گاندھی جی کا نام لیتا ہے۔ کوئی اتاترک کا کوئی مسولینی اور ہٹلر کا۔ مگر حقیقت میں بڑا وہ ہے جس پر خدا کا فضل سب سے بڑھ کر ہو اور وہ اللہ کے رسول کا جانشین حضرت فضل عمر مرزا بشیر الدین محمود ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۷ دسمبر ۱۹۳۸ء)

"بعض نادان شیعہ نے جنہوں نے حسین کی پرستش کو اسلام کا مغز سمجھ لیا ہے۔ ہمارے رسالہ دافع البلاء کے دیکھنے سے بہت زہر اگلا ہے اور گالیاں دے کر یہ اعتراض کیا ہے کہ کیونکر ممکن ہے کہ یہ شخص امام حسین سے افضل ہو... افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے امام حسین کے رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا۔ بلکہ نام تک مذکور نہیں ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن میں موجود ہے۔ حق تو یہ ہے کہ "ماکان محمد ابا احد من رجالکم" کی آیات نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آنحضرت ﷺ سے بوجہ پسر دختر ہونے کے تھا۔ نہایت ہی ناچیز کر دیا۔ یعنی میں مسیح موعود نبی اور رسول ہوں۔ اب سوچنے کے لائق ہے کہ امام حسین کو مجھ سے کیا نسبت ہے۔"

(نزول المسیح ص ۴۵ خزائن ج ۱۸ ص ۴۲۳)

"اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد ﷺ سے کوئی بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد ﷺ سے کوئی شخص بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے۔" (الفضل قادیان مورخہ ۱۷/ جون ۱۹۲۲ء ص ۸)

"اب جو سید کہلاتا ہے۔ اس کی سیادت باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہی سید ہوگا۔ جو حضرت مسیح الموعود (مرزا قادیانی) کی اتباع میں داخل ہوگا۔ اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا۔"
(قول الحق ص ۳۲)

"حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روحانیت ان دنوں میں بہ نسبت ان سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ بدر کامل چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے۔"
(خطبہ الہامیہ ص ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۲)

"حضرت مسیح الموعود کا ذہنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے۔ جو حضرت مسیح الموعود کو آنحضرت ﷺ پر حاصل ہے۔" (رسالہ ریویو قادیان بابت ماہ مئی ۱۹۲۹ء)

"ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت مرزا (مرزا قادیانی) ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے تو پھر حضرت مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب یہ ہے..... کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا..... پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔" (کلمۃ الفصل ص ۱۵۷، ۱۵۸)

"حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں.... میری نسبت یہ وحی اللہ ہے.... محمد رسول اللہ اس وحی الٰہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔" (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶)

منم مسیح زماں و منم کلیم خدا
منم محمد و احمد کہ مجتبیٰ باشد

(تریاق القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

"میں ابراہیم ہوں۔ اب میری پیروی میں نجات ہے۔ خدا نے میرا نام ابراہیم رکھا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: "**سلام علیٰ ابراهیم صافیناه ونجیناه من الغم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی**" یعنی سلام ہے ابراہیم پر۔ یعنی (غلام احمد قادیانی) اس عاجز پر ہم نے اس سے خالص دوستی کی اور ہر ایک غم سے اس کو نجات دلائی اور تم پر جو پیروی کرتے ہو تم اپنی نماز گاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ۔ یعنی کامل پیروی کرو۔ تا نجات پاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا۔ تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم (مرزا قادیانی) کا پیرو ہوگا۔"

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۷+۲۸، خزائن ج ۱۷ ص ۶۸،۶۹)

"آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے... عیسائی مشنریوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا... اور اس لئے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا۔ جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔" (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

"جو وحی نبوت کا جام ہر نبی کو ملا۔ وہ جام مجھے بھی ملا ہے۔ بخدا میں اپنی وحی کو مثل قرآن منزہ اور کلام مجید سمجھتا ہوں۔ اگرچہ لاکھوں انبیاء ہوئے ہیں۔ لیکن میں عرفان میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ جو یقین عیسیٰ کو انجیل پر ہے۔ موسیٰ کو توریت پر ہے۔ آنحضرت کو قرآن پر تھا۔ وہی یقین مجھے اپنی وحی میں ہے جو کوئی اس کو ناحق کہے وہ لعین ہے۔"

(نزول المسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

"خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت

جانباز پاکٹ بک

غلام نبی جانباز مرزا

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

بحمد اللہ!

مکرم جانباز پاکٹ بک کی ترتیب کو ایک طرف اگر کالج کے پرنسپل، سکولوں کے چند ماسٹرز، طالب علموں نے پسند فرمایا تو دوسری طرف کاروباری طبقے کے علاوہ شہری اور دیہاتی عوام نے بھی اسے وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیا ہے۔

تیسرے ایڈیشن میں نئے عنوان کے ساتھ مزید اوراق کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں ہر ایڈیشن کے ساتھ نئے عنوان کے زیر تحت اضافہ کرتا رہوں تا کہ یہ مفید سلسلہ جاری اور ساری رہے۔

جانباز!

حرف اوّل

دنیا میں بغیر قوت کے نہ سلطنت چل سکتی ہے نہ مذہب ترقی کر سکتے ہیں۔ عرب جیسی سنگلاخ زمین پر جہاں گناہ کو بھی ثواب کا درجہ حاصل تھا۔ ایک سعید روح نے جب فاران کی چوٹی سے باطل کو للکارا تو کفر مجتمع ہو گیا۔ عرب کے پہاڑوں نے بھی کفر کا ساتھ دیا۔ لوگ ان راستوں سے پتھروں کی جھولیاں بھر کے اور اس ذات گرامی پر راہ چلتے اس طرح پھینکتے جیسے (نعوذ باللہ) کسی مجنوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ عرب کے پھول کانٹے بن کر محسن کائنات کے پاؤں تلے آ کر کفر کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور انہوں نے بیگانوں کا سا روپ بھر لیا ہے۔ آج جو ساتھ تھے کل وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ مکہ کی گلیاں اور بازار نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ وقت عارضی نہیں تھا بلکہ تیرہ برس یہی عمل رہا۔ اس پر آشوب دور میں عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال (جن کا نام ہے محمد جن سے دونوں جگ منور ہوئے صلوٰۃ والسلام) نے آبدیدہ نگاہوں سے آسمان کو دیکھ کر فرمایا ہے

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے

اے خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے کہ تیری مخلوق تیرے مقابل خالق بن گئی ہے اور تیری جگہ پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ میں نے تیرہ برس تیرے پیغام کی منادی کی ہے۔ لیکن کام بنتا نظر نہیں آتا۔ اس لئے اگر تو چاہتا ہے کہ اس بے آب و گیاہ زمین کے خشک پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیرا نام بلند ہو تو پھر عمرو بن ہشام (ابو جہل) میرے ساتھ کر دے یا عمر بن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے۔

یہ دنیا وہ اولوالعزم پیغمبر دیکھ رہا ہے جس کے لئے پروردگار عالم نے ارض و سماوات کے نظام کو قائم کیا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بغیر قوت کے دنیا میں نہ چل سکے۔

آج جب یہ سطور رقم کر رہا ہوں کفر پھر دنیوی قوت سے لیس ہو کر حق سے نبرد آزما ہے۔ لیکن مسلمان قوم ہے کہ اپنے مستقبل سے غافل ہو کر آپس کے باہمی تنازعوں میں اس طرح الجھی ہے کہ اب اس کے سلجھنے کے امکان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آؤ! ہم آگے جانے کی بجائے ماضی کی طرف لوٹ جائیں۔ شاید راستے کی کوئی ٹھوکر ہماری بیداری کا باعث ہو اور ممکن ہے اس گئے گذرے دور میں ہم دین کے کسی کام آ سکیں۔ ورنہ جس ڈگر پر مسلمان آج جا رہا ہے۔ یہ وہ پگڈنڈی ہے۔ جہاں پر کفر حق کا راستہ روکے کھڑا ہے۔

مرزائی پاکستان کی کلیدی اسامیوں پر قابض ہے اور مسلمان نوجوان برسوں کی تعلیم اور ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد جب ملازمت سے مایوس ہوتا ہے تو اس کے لئے دو ہی راہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ خودکشی کر کے موت کی آغوش میں آرام کرے یا ایمان ضائع کرنے کے بعد مرزائیت کا پہلو اپنائے۔ ان دو مقامات کے سوا تیسرا کوئی ٹھکانہ اور نہیں جہاں اس نوجوان کو امان مل سکے۔

اے مملکت خداداد کے ذمہ دار ارکان! سرکاری و غیر سرکاری دفاتر کے کلرک! پولیس کے افسر اور سپاہی، عدالتوں کے مجسٹریٹ ہائی کورٹ کے جج صاحبان! دنیاوی ذمہ داریوں کے علاوہ آپ پر کوئی دینی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور عالم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے تو اس وقت کے لئے سامان فراہم کرو۔

اگر چوہدری سر ظفر اللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے کفر کی تبلیغ سے باز نہیں آتا تو آپ دین حق کی تبلیغ سے کیوں پہلو تہی کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو سنبھالو جو محض دنیاوی ضروریات کے لئے اپنی دنیا اور ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن ان سے کہیں زیادہ مجرم آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ ان کی دنیا اور دین آپ درست کریں۔ خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ یہ ڈائری آپ کے پاس ایک تاریخی دستاویز ہے۔ تاکہ کفر کے متعلق آپ اس سے کام لے سکیں۔ انشاء اللہ بہتر نتائج پیدا ہوں گے۔

جانباز مرزا!

۱۵ر جنوری ۱۹۵۶ء

مرزائی مذہب کی ابتداء

ابھی ہندوستان میں برطانوی سامراج کی بنیادیں پڑ رہی تھیں کہ مغلی حکومت کے

خلاف ۱۸۵۷ء کے وسط میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ قریب تھا کہ انگریزی راج اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ ملک کے بعض عناصر نے اس جلتی ہوئی آگ کو اپنے خون سے ٹھنڈا کرنے میں انگریز قوم کا ساتھ دیا۔ پنجاب کے سکھ اور ضلع گورداسپور (قصبۂ قادیان) کا ایک رئیس مرزا غلام مرتضیٰ اس سلسلے میں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا مرزا غلام احمد قادیانی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ: "میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا جن کو گورنر کے دربار میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھیں۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۵۹)

اس پر ہی نہیں بلکہ آگے چل کر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خاندان کی دیگر غداریوں کا بڑے فخر سے اظہار کرتا ہوا اسی کتاب کے اسی صفحے پر رقمطراز ہے: "میرے والد کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔ جب تموں کے گذر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

(اشتہار واجب الاظہار مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۸۹۴ء ملحقہ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۵۹ ۔ ۱۰۳)

گویا مرزا غلام احمد کا خاندان ایسے وقت میں انگریزی حکومت کا ممد و معاون تھا جب ہندوستان کے افق پر تہذیب مغرب کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اور سلطنت مغلیہ چراغ سحری کی طرح آخری سنبھالا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر وہ منحوس گھڑی آ گئی۔ جب ایسے غداروں کے ہاتھوں ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز کے مقابل ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔

یاد رہے کہ ۱۸۵۷ء کی لڑائی جہاد کے نام سے لڑی گئی تھی۔ دو لاکھ ہندوستانیوں کے علاوہ پانچ سو کے قریب اس وقت کے جلیل القدر علماء انگریزی کے تحت بیک وقت مختلف شہروں میں سر بازار پھانسیوں پر لٹکائے گئے تھے۔

انگریزی نظام حکومت کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا دامن جب سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا اور انگریزی مدبروں کو یقین ہو گیا کہ اس لڑائی میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ

مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ہندوؤں نے بھی اس تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کی تو اپنے مستقبل کے پیش نظر ہندو مسلم اتحاد کی اس عمارت کا منہدم کرنا ان کے لئے ضروری ہو گیا۔ جس کے سائے میں ہندوستان کے لوگوں نے باہم مل کر آزادی وطن کے لئے اپنا خون بہایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جہاں اور بہت سی تجاویز کار آمد ثابت ہوئیں۔ وہاں مرزا غلام مرتضیٰ رئیس قادیان کے خاندان کو بھی سامنے لایا گیا۔

۱۸۸۴ء میں جب ایک طرف عیسائی مشنری عیسائیت کی تبلیغ شروع کر چکی تھی اور عیسائی پادری سروں پر کرسیاں اٹھائے چوک چوک میں اپنے مذہب کی تعریف میں ہندو اور مسلمانوں سے الجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیز ہر مذہب کو عیسائیت کے مقابل چیلنج کرتے پھرتے تھے۔ انہی دنوں مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے دو چار سال بعد ۱۸۸۸ء میں اس نے عام لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب دیکھا کہ میرے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے تو اپنی کتاب ”تبلیغ رسالت“ میں اعلان کیا کہ: ”گورنمنٹ انگریزی سے ہرگز جہاد درست نہیں۔ بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔“

(تبلیغ رسالت ج۱ ص۶۵، مجموعہ اشتہارات ج۲ ص۳۶۶، ۳۶۷)

”۲۷ دسمبر ۱۸۹۲ء میں جو پہلا سالانہ جلسہ قادیان میں ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ آئندہ بھی ہمیشہ ان سالانہ جلسوں کے یہی مقاصد ہوا کریں گے۔ اس گورنمنٹ برطانیہ کا سچا شکر گزار اور قدر دان رہنے کی کوششیں اور تدبیریں کی جائیں گی۔“

(اشتہار ملحقہ آئینہ کمالات اسلام ص۶۱۲، خزائن ج۵ ص۶۱۲)

۱۸۹۱ء میں مرزا غلام احمد اپنے دعویٰ کفر میں اور آگے بڑھا اور اس نے ”مہدی“ اور ”مسیح موعود“ ہونے کا اعلان کیا۔ نیز کتاب شہادت القرآن میں اپنے ماننے والوں کے اس سوال کا کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہوئے اس نے کہا: ”سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت ہی حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بد خواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں۔ یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کریں اور دوسری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“

(شہادت القرآن ص۸۴، خزائن ج۶ ص۳۸۰)

جیسے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے قدم کفر کی جانب بڑھتے گئے۔ وہ اپنے مریدوں کے لئے بھی اسی آگ میں جلنے کا انتظام کرتا گیا۔ جس میں وہ اپنے جلنے کا انتظام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے ۱۹۰۱ء میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور کتاب "ضرورت الامام" میں پہلے سے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے: "اطیعوا اللہ والطیعوا الرسول واولوا الامر منکم (القرآن)" اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولوالامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔

(ضرورت الامام ص ۲۳ خزائن ج ۱۳ ص ۴۹۳)

جو کام انگریز کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کام انگریز کے خود کاشتہ پودا نے انجام دیا۔ ۱۸۵۷ء کے تشدد سے مرعوب ہو کر وقتی طور پر حریت کی آگ دلوں میں دب گئی تھی۔ لیکن انگریز یہ جانتا تھا کہ یہ چنگاری کسی دن بھی پھر سے خرمن حیات کو خاکستر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہندوؤں سے کہیں زیادہ مسلمانوں سے خائف تھا۔ سلطنت مسلمانوں سے چھنی گئی اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا لیڈر بھی مسلمان تھا۔ لہٰذا انگریزی سیاست کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے انگریز کی نفرت اور جہاد کا خیال جیسے کیسے بھی ہو نکال دے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انہی دو باتوں کے لئے اسلام کے پانچ اصولوں کے مقابل اپنے پانچ اصول وضع کئے۔

نمبر شمار	اسلام کے پانچ اصول	نمبر شمار	مرزائیت کے پانچ نکات
۱۔	کلمہ شہادت	۱۔	خدا تعالیٰ کو واحد اور لاشریک سمجھنا۔
۲۔	نماز	۲۔	حضرت محمد ﷺ کو سلسلۂ نبوت کا خاتم اور آخری شریعت والا، نجات حقیقی کی راہ بتانے والا یقین رکھنا۔

۳۔	روزہ	۳۔	دین اسلام کی دعوت محض دلائل عقلیہ اور آسمانی نشانوں سے کرنا اور خلاف غازیانہ اور جہاد و جنگجوئی کے اس زمانہ کے لئے قطعی حرام اور منع سمجھنا اور ایسے مذہب کے پابند کو صریح غلطی پر سمجھنا۔
۴۔	حج	۴۔	اس گورنمنٹ محسنہ کی نسبت کے جس کے ہم زیر سایہ ہیں یعنی کہ گورنمنٹ انگلشیہ کے لئے کوئی مفسدانہ خیال دل میں نہ لانا اور خلوص دل سے اس کی اطاعت میں مشغول رہنا۔
۵۔	زکوٰۃ	۵۔	بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنا اور ہر شخص کی دنیا و آخرت کی بہبودی کی کوشش کرتے رہنا۔

(تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۷، ۱۸، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۹، ۲۰)

ان خیالات کو وہ یوں بھی کہتا ہے: ''لوگ اپنے وقت کو پہچان لیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ اب زمینی جہاد بند کر دیئے گئے ہیں اور آسمان کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے لکھا گیا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ سو آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے تلوار اٹھائے گا اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے نبی کا نافرمان ہے۔'' (خطبہ الہامیہ ص ۷، ۸، خزائن ج ۱۶ ص ۱۷)

یہ خوشخبری اب نظم میں سرکاری نبی کا الہام ملاحظہ ہو:

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے
دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

ے

اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۶، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷)

مختصر یہ کہ سرکار برطانیہ کا یہ خود کاشتہ پودا اپنی زندگی کی لیل و نہار میں گذار کر انگریزی اقتدار کی خوشنودی کے لئے اسلام کے دامن کو داغدار کر کے مئی ۱۹۰۸ء میں اپنے حساب و کتاب کے لئے خدا کے حضور حاضری دینے کے لئے ہیضہ کی بیماری سے چلتا بنا۔

خس کم جہاں پاک

مرزائیت متحدہ ہندوستان سے باہر

بدقسمتی سے مسلمان نوجوانوں نے مذہبی تعلیم کی کمی کے باعث قادیانی ٹولے کو بھی اسلام کا ایک ایسا ہی فرقہ خیال کر لیا ہے۔ جیسے شیعہ، سنی، اہل حدیث یا آج کل دیوبندی اور بریلوی ہیں۔ حالانکہ ان مختلف فرقوں کے باہم جھگڑے اسلام کے بنیادی جھگڑے نہیں اور نہ ہی اس ہنگامہ آرائی سے مذہب کو حقیقی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دراصل آپس کی یہ لڑائیاں ذوقی اور محبت رسولؐ کی لڑائیاں ہیں۔ ہر فرقہ محبت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کھینچا تانی میں کبھی کسی نے اسلامی عمارت کے بنیادی پتھر مسئلہ ختم نبوت کو اپنی جگہ سے اکھیڑنے کی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس کی ٹھان لی ہے۔ لیکن قادیانی ٹولے کو ہمارے تعلیم یافتہ حضرات نے ہمیشہ اسلام کا ایک جز تصور کیے رکھا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اس ٹولے کو نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا اپنا کوئی مذہب ہے۔ انگریز نے اپنی سیاسی ضرورت کے تحت اس ٹولے کی بنیاد ڈالی تھی اور تمام عمر اس ٹولے کا لیڈر مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کے کام آیا اور اس نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا بلکہ بلاد اسلامی میں بھی اپنی شیطنت کے جوہر دکھائے۔

۱۸۵۷ء کے بعد خصوصیت سے جو تشدد انگریز نے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا عہد فرنگی میں اس کی مثال تاریخ کے کسی ورق سے نہیں ملتی۔ اس کے باوجود برطانوی استعمار پرستوں کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا۔ یہ کانٹا ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتا تھا کہ یہ شیر ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی اسلامی ممالک میں انگریز کے خلاف ذرا ہلچل ہوئی۔ فوراً مرزائی جاسوس

وہاں پہنچا اور وہاں کے مسلمانوں کو گے جہاد کے خلاف وعظ کرنے۔

حکومت افغانستان کے وزیر داخلہ کا ایک بیان میرے اس بیان کی تصدیق کرتا ہے۔

''کابل کے دو اشخاص ملا عبدالحلیم اور ملا نور علی قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدے کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکا رہے تھے۔ جمہوریہ نے ان کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم ثابت ہو کر عوام کے ہاتھوں پنجشنبہ ۱۱ رجب کو عدم آباد پہنچا دیئے گئے۔ ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا۔ حکومت افغانیہ کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضہ سے پائے گئے۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمن کے ہاتھ بک چکے ہیں۔''

(اخبار امان افغان، الفضل مورخہ ۳ مارچ ۱۹۲۵ء)

حکومت افغانستان کے وزیر خارجہ کے بیان کی تصدیق میں بشیر الدین محمود کا یہ بیان بھی پڑھئے: ''ہمارے آدمی کابل میں مارے گئے۔ محض اس لئے کہ وہ جہاد کے مخالف تھے۔ اٹلی کے ایک انجینئر نے جو حکومت افغانستان کا ملازم تھا۔ لکھا ہے کہ امیر حبیب اللہ خان نے قادیانیوں کو اس لئے مروا دیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دے کر مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرتے تھے۔ پس ہم نے اپنی جانیں اس لئے قربان کیں کہ انگریزوں کی جانیں بچیں۔''

(بحوالہ الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۵۳ ص ۱۲ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۳۴ء)

یاد رہے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب سیاسی کشمکش کے باعث ایک طرف جرمن افغانستان پہ اپنا اثر ڈال رہا تھا اور دوسری طرف انگریز وہاں اپنا جال بچھا رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی رائے تھی کہ امیر حبیب اللہ خان اگر آج ہندوستان پر حملہ آور ہو تو ہماری غلامی کی زنجیریں کٹ سکتی ہیں۔ یہ زمانہ بین الاقوامی حالات کے تحت بڑا ہی ہنگامی دور تھا۔ انگریز اپنے مستقبل کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا تھا۔ ترکی اپنی آزادی کے لئے یونان سے برسرپیکار تھا۔ انگریز یونان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کے نام پر ایک اور سیاسی کروٹ لی تھی۔ ان دونوں مرزائی جاسوسوں نے کیا پارٹ ادا کیا۔ اس کے لئے بشیر الدین محمود کا ایک اعلان ملاحظہ ہو: ''چونکہ برادرم محمد امین خان کے پاس پاسپورٹ نہ تھا۔ اس لئے وہ روس میں داخل ہوتے ہی روس کے پہلے اسٹیشن قہقہہ پر انگریزی جاسوس قرار دے کر گرفتار کر لئے گئے۔ کپڑے اور کتابیں اور جو کچھ پاس تھا۔ ضبط کر لیا گیا تھا اور ایک مہینہ تک آپ کو قید میں

رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو عشق آباد کے قید خانے میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں سے مسلح روسی پولیس کی حراست سے براستہ سمرقند تاشقند بھیجا گیا اور وہاں دو ماہ تک قید رکھا گیا اور بار بار آپ سے بیان لئے گئے۔ تا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو قسم قسم کے لالچوں اور دھمکیوں سے کام لیا گیا اور فوٹو لئے گئے۔ تا کہ عکس [illegible] رہے اور آئندہ گرفتاری میں آسانی رہے۔ اس کے بعد مغربی سرحد افغانستان پر بھی لے جایا گیا اور وہاں سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا حکم دیا گیا۔ چونکہ یہ مجاہد گھر سے اس امر کا عزم کر کے نکلا تھا کہ میں نے اس علاقہ میں حق کی تبلیغ کرنی ہے۔ (یعنی مسلمانوں کو جہاد سے منع کرنا ہے) اس لئے واپس آنے کو اس نے موت سمجھا اور روسی پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا اور بھاگ کر بخارا جا پہنچا۔ دو ماہ تک وہاں آزاد رہا۔ لیکن دو ماہ کے بعد انگریزی جاسوسی کے شبہ میں گرفتار کر لئے گئے۔ تین ماہ تک نہایت دل ہلا دینے والے مظالم آپ پر کئے گئے اور قید میں رکھا گیا اور بخارا سے روسی مسلح پولیس کی حراست میں سرحد ایران کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی ہمت اور اخلاص اور تقویٰ میں برکت دے۔ کیونکہ ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی تھی...... اس لئے پھر کاکان کی طرف لایا گیا اور وہاں سے سمرقند لایا گیا۔ وہاں سے پھر بھاگ کر بخارا پہنچے۔"

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۱۲ ص ۶ و ۷ مورخہ ۱۴/۱۳ اگست ۱۹۲۳ء)

جس ملک میں بھی مرزائی جاسوس گئے۔ چونکہ یہ گورنمنٹ برطانیہ کی جاسوسی کرتے تھے۔ اسی لئے برطانیہ نے انہیں ہر جگہ امداد دی۔ "گورنمنٹ برطانیہ کے ہم پر بڑے احسان ہیں اور ہم بڑے آرام و اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں...... ہم دوسرے ممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برٹش گورنمنٹ ہماری امداد کرتی ہے۔"

(کتاب برکات خلافت ص ۶۵)

"دنیا ہمیں انگریزوں کا ایجنٹ سمجھتی ہے۔ چنانچہ جب جرمنی میں احمدیہ عمارت کے افتتاح میں ایک جرمنی وزیر نے شمولیت کی تو حکومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم اس جماعت کی تقریب میں شامل ہوئے۔ جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے۔"

(خطبہ محمود احمد مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ یکم نومبر ۱۹۳۴ء)

"خواجہ کمال الدین فرماتے تھے کہ میں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ قادیانی لوگ گورنمنٹ کے خفیہ جاسوس ہیں۔ یہ بات غلط ہو یا صحیح مگر لوگوں کے قلوب پر یہ اثر

کیوں پڑا۔ اس لئے کہ میاں صاحب (بشیر الدین محمود قادیانی) گورنمنٹ کی خاطر خفیہ کاروائیاں کیا کرتے تھے۔ جن کا خود انہوں نے اپنی تقریروں میں اعتراف کیا ہے۔“

(اخبار پیغام صلح مورخہ ۱۵/مئی ۱۹۴۳ء)

نہ صرف مرزائی خود اسلامی ممالک میں گئے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے ذریعے مسلمانانِ عالم کو گمراہ کیا۔ انھیں انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کرنے کی تلقین کی۔ اس طرح سے اس نے جاسوسی کے جراثیم اسلامی ممالک میں پھیلائے۔

”والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ عاجز دنیا کے شغلوں سے علیحدہ ہو کر خدا کی طرف مشغول ہوا اور مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمات ہوئی وہ یہ تھیں کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک میں اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں میں اردو، فارسی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ممالک میں پھیلا دیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایۂ تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصر اور کابل اور افغانستان متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیئے۔ جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان بھی دکھلا نہیں سکے گا۔“ (ستارہ قیصریہ ص ۱۰، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۴)

اس قسم کے لٹریچر کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ایک اور دعویٰ کرتا ہے: ”میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں، نہ روم میں نہ شام میں، نہ ایران میں نہ کابل میں۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔ لہٰذا خدا اس الہام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال و شوکت میں تیرا وجود اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فتوحات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرا منہ ادھر خدا کا منہ۔“ (عریضہ بعالی خدمت گورنمنٹ انگریزی منجانب مرزا قادیانی مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۷۰، ۳۷۱)

اس پولیٹیکل رویے کی ان جاسوسانہ اور خلاف اسلام حرکات کو دیکھ کر تمام اسلامی

ہر ملک تک پہنچا ہوا ہے۔ مضمون کی طوالت کے باعث صرف ترکی کے علماء کے رئیس مولانا نوراللہ آفندی اور غازی مصطفیٰ کمال پاشا مرحوم کے بیانات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

رئیس علماء مولانا نوراللہ آفندی ترکی کا بیان

”مسجد اغتینوی میں ایک عام اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں ملت ترکیہ کے ستر ہزار فرزندوں کے علاوہ پچاس کے قریب قائدین ملت نے بھی شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد رئیس العلماء حافظ نوراللہ آفندی نے ایک بصیرت افروز تقریر کی اور کہا۔ اس وقت دشمنان اسلام ملت کے درمیان افراط و تفریق کا بیج بونے کی ناپاک کوشش میں مصروف ہیں۔ میرے عزیز بھائیو! میں فرقہ مرزائیہ کے دجل کا تار پود بکھیرنا چاہتا ہوں۔ اس فرقے کی ابتداء ہندوستان کے ایک قصبہ قادیان سے ہوئی تھی۔ آج سے چند سال قبل مرزا غلام احمد نامی ایک آدمی نے اپنے نبی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی فریب کاریوں سے اس نے ایسا اثر پیدا کیا کہ معدودے چند احمقوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کی نبوت کو اقرار کر لیا۔

اس وقت حاضرین میں سے کسی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی لیاقت اور اس کے اقتدار کے متعلق سوال کیا۔ مقرر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مرزا مذکور سرکاری دفتر میں معمولی اہل کار تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اپنی شاطرانہ چالوں اور فوق العادت ذکاوت تفرق کی وجہ سے نبی کے رتبہ تک جا پہنچا۔ اس نے اپنے گرد و پیش کاسہ لیسیوں کا ایک حلقہ بھی جمع کر لیا۔ جو اس کی تائید و حمایت میں مضامین لکھتا اور اس کی نبوت کی تعریف میں رطب اللسان رہتا۔ اس نے ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ کی تائید و اعانت کے قائل ہوتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کفر و الحاد کے فتوے چسپاں کرنے شروع کر دیئے۔ میں اور میرے چند رفقاء فرقہ مرزائیہ کی ایمان سوز مذہبی کتابوں کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ترکی مدتوں تک شخصی حکومت کی زنجیروں میں جکڑا رہا اور جب ملوکیت کی نحوست دور ہوئی تو غیر مسلم اقوام نے اسے تباہ کرنے کے لئے اس پر یورش کر دی اور ہمیں آج تک کوئی موقعہ نہ مل سکا کہ ہم عوام کو بذریعہ اس نئے فرقہ باطلہ کے حالات سے مطلع کر سکیں۔ ذرا سوچیں تو سہی کہ اس فرقے نے انگریزی مدد سے شعائر اسلامی میں رخنہ اندازی کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کس قدر کوشش کی ہے۔

میرے عزیز بھائیو! مرزا نے قرآنی آیات کی ترجمانی میں بہت تحریف سے کام لیا ہے اور قرآنی آیات میں اپنے نام کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے جہاد کو منسوخ کر دیا

ہو کر مصطفیٰ کی بجائے حجاز کی حیثیت کا مرکز قادیان کو قرار دیا۔ وہ کلیم اللہ ہونے کا مدعی تھا اور عوام میں ہمیشہ یہ مشہور کرتا تھا کہ رات کو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھ میں مسیح موعود کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے مجھ پر ایمان لاؤ۔

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کے جانشین بدستور اس غلط راہ پر کاربند ہے۔ جو مرزا قادیانی نے ان کے لئے تجویز کیا تھا۔ وہ لوگ ذلیل سے ذلیل حرکت کے ارتکاب سے نہیں جھجکتے۔ پچھلے دنوں تو انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر اور حقوق تلفی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سوا روئے زمین کے مسلمان کافر ہیں۔ مرزا قادیانی کا جانشین بشیر الدین محمود اپنے آپ کو دنیا کا روحانی حکمران تصور کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اپنی بددعاؤں سے تمام عالم پر بیماریاں اور عذاب نازل کروں گا۔

احتجاج

میرے دوستو! یہ وہی ذلیل گروہ ہے جس نے جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست پر خوشی کے شادیانے بجائے اور سقوط بغداد اور عربستان سے ترکوں کے اخراج کے موقع پر حکومت ہند کو ہدیہ تبریک پیش کیا۔ میں ترکوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی قوت کے مطابق اس فتنے کے انسداد کے لئے کوشاں ہوں گے۔ اس تقریر کے بعد آلہ جہیر الصوت پر انگورہ سے جواب دیتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا۔

مصطفیٰ کمال پاشا

میں نے رئیس اجلاس مولانا ظفر احمد آفندی کی تقریر کو سنا ہے اور مجھے سخت رنج ہوا ہے۔ واقعی اغیار نے اسلام کو غلط سمجھ رکھا ہے اور وہ ذلیل اور ناپاک طریقوں سے آئے دن ملت اسلامیہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اغیار اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ ترکوں نے اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے اور اسی لئے ان کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہمارے فلاکت زدہ اور مظلوم بھائیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ مخالفین اسلام نے اسلامی تعلیمات کو تضحیک و استہزاء کا موضوع بنا رکھا ہے۔ اس وقت ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دنیا پر ظاہر کر دیں کہ شوکت اسلام کے احیاء کے لئے ہم آج بھی آمادہ عمل ہیں۔

عزیز بھائیو! جب میں کروڑوں مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک درد اٹھتا ہے۔ کاش مسلمان یہ سمجھتے کہ غلامی ان کے مذہبی احکام کے

خلاف ہے۔ ترکوں کو ملک گیری کی ہوس بالکل نہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غلامی کی قید سے نجات پائیں اور اسلامی مقدسات پر کسی قسم کی آنچ نہ آئے۔ ہمارا فرض ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں شمشیر دی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اتفاق امتی حجة قطعة“ ”تم یہ خیال نہ کرو کہ ہندوستان کہاں اور ہم کہاں۔ بلکہ اس حدیث شریف پر عمل کرو۔ کیونکہ مرد مجاہد کے لئے جغرافیائی حدود کی کوئی حقیقت نہیں۔ تمہارے آباؤ اجداد کبھی دریاؤں، پہاڑوں اور دشوار گذار راستوں سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔

میرے دوستو! اگر کوئی موقع آیا تو تم دیکھو گے کہ تحفظ ناموس اسلام کی راہ میں سر کٹانے کے لئے مجاہدین کی صف اول میں شامل ہوں گا۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم فرقہ ضالہ قادیانیہ کے استیصال کے لئے ہر ممکن اور جائز ذریعہ اختیار کرو۔ میں تمہیں کامیابی کی نوید دیتا ہوں۔“ وکان حقا علینا نصر المؤمنین (الروم:۴۷)“

جلسہ کا اختتام

غازی اعظم اتاترک کی تقریر کے بعد حافظ نور احمد صاحب آفندی نے قوم کی طرف سے غازی اعظم کا شکریہ ادا کیا اور قادیانیت اور دوسرے فتنوں کے استیصال کے لئے ”انجمن محافظ حقوق مقدسیہ اسلامی“ کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس انجمن کی تشکیل کے لئے یکم فروری ۱۹۳۵ء بروز جمعہ مسجد سلطان محمد فاتح میں مسلمانوں کا اجتماع ہوگا۔“

(اخبار احسان مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۳۵ء)

پاکستان میں مرزائیت

یوں تو عہد غلامی کا کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب اجنبی حکومت کے خلاف کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی تحریک ملک میں شروع نہ کی ہو۔ لیکن ۱۹۳۱ء کا سال بڑا عجیب سال تھا۔ اگر ایک طرف کانگریس کی تحریک سول نافرمانی شروع تھی تو دوسری طرف مجلس احرار کشمیر کے بے بس لاکھوں انسانوں کے لئے مہاراجہ ہری سنگھ سے دست و گریبان تھی۔ ہاں البتہ انگریز بظاہر اس زمانے میں بہت حد تک اپنے اندرونی جھگڑوں سے فارغ تھا۔ لیکن آنے والی دوسری جنگ عظیم کے پیش نظر اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے خوف سے کشمیر اور خاص گلگت پر اپنا اقتدار چاہتا تھا۔ جیسے ہی کشمیری عوام نے ریاست کی شخصی حکومت سے گلوخلاصی کا عزم کیا فوراً انگریزی حکمرانوں نے اپنے پرپرزے سنبھالے اور دیکھتے ہی دیکھتے کشمیر کمیٹی کی تشکیل عمل میں آگئی اور

مرزا بشیر الدین قادیانی اس کا صدر بن گیا۔

یہ وقت تھا جب کشمیری مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان ضائع ہو جانے کا خیال تھا۔ کیونکہ مرزائی انگریزی نظام کے سہارے عالم اسلام میں پروپیگنڈہ کر سکتا تھا کہ کشمیر کے بیس لاکھ مسلمانوں نے مجھے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے اور پھر فرنگی کا دامن اس واقعہ کو ہوا دینے کے لئے موجود تھا۔ لہٰذا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ہندوستان سے باہر کے مسلمان اس واقعات سے متاثر ہو کر متاع ایمان نہ کھو بیٹھیں۔ ان حالات کے پیش نظر مجلس احرار نے فوری اقدام کیا۔ جس سے کفر کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مسلمان رؤسا میں سے جو اس کمیٹی کے سربراہ عہدیدار تھے۔ ان واقعات سے آشنائی کے بعد سب سے پہلے مفکر ایشیا ڈاکٹر سر محمد اقبال نے حسب ذیل بیان دیا۔

”بدقسمتی سے کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مذہبی فرقہ کے امیر کے سوا کسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ احمدی وکلاء میں سے ایک صاحب نے جو میرپور کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے۔ حال میں اپنے بیان میں واضح طور پر اس کیفیت کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی کشمیر کمیٹی کو نہیں مانتے اور جو کچھ انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس ضمن میں کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے یہ اندازہ لگایا کہ تمام احمدی حضرات کا یہی خیال ہوگا۔ اس طرح میرے نزدیک کشمیر کمیٹی کا مستقبل مشکوک ہو گیا۔“ (حرف اقبال ص ۲۲۲، ۲۲۳، مورخہ ۲۰ جون ۱۹۳۳ء)

اس بیان کے بعد علامہ اقبال کشمیر کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ انہی دنوں ہندوستان کی تمام ریاستیں کشمیر کی دیکھا دیکھی انقلاب زندہ باد کے نعروں سے شخصی حکمرانوں کو پریشان کر رہی تھیں اور دوسری طرف کانگریس نے سارے ملک کو انگریز کے خلاف شعلہ جوالہ بنا رکھا تھا۔ ایسے حالات میں صرف ریاستی حکمران ہی ایک ایسا طبقہ تھا جو برطانوی شہنشاہیت کو کندھا دے کر بچا سکتا تھا۔ پھر انگریز ان کے خلاف کیونکر بغاوت کے آثار برداشت کرتا۔ اس نے اس تحریک کا رخ پلٹنے کی غرض سے اپنے مہروں اور خوشامدیوں کے ذریعہ اول اول ملک میں فرقہ وارانہ فساد کرائے جس سے ملک کی تمام سیاسی فضا مکدر ہو کر رہ گئی۔ محبت نفرت میں بدل گئی۔ ملک کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ اتنے میں ہٹلر کا کالا سایہ جرمنی کے ایک کونے سے نمودار ہوا۔ جس سے سامراجی قوتیں خوفزدہ ہو گئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔

ہندوستان کا ہندو مستقبل سے غافل نہیں تھا۔ وہ یورپ کے مصائب میں اپنے ملک کی نجات خیال کرتا تھا۔ اسے ہندوستان کے مسلمانوں سے ان کے گذشتہ رویے کے پیش نظر کسی سمجھوتے کی امید نہیں تھی بہرحال اسے مسلمان پر یقین تھا۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لایا اور ہمارے مسلمانوں کے لباس میں مرزائیوں کو اپنے مدعا کے لئے بہتر سمجھا۔ جس کا اندازہ ہندوؤں کے اخبار بندے ماترم میں ڈاکٹر شنکر داس مہرا بی۔ اے۔ بی۔ ایس۔ سی۔ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کے مندرجہ ذیل مضمون سے ہوتا ہے۔

"سب سے اہم سوال جو اس وقت ملک کے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ کبھی ان کے ساتھ سودے معاہدے پیکٹ کئے جاتے ہیں۔ کبھی لالچ دے کر ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی ان کے مذہبی معاملات کو سیاست کا جزو بنا کر پولیٹیکل اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کئے بیٹھے ہیں اور وہ دن رات عرب ہی کے گن گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہندوستان کو عرب کا نام دے دیں۔

اس تاریکی میں اس مایوسی کے عالم میں ہندوستان قوم پرستوں اور محبان وطن کو ایک ہی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک احمدیوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف راغب ہوں گے۔ وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محب ہند اور قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں احمدیہ تحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آؤ ہم احمدیہ تحریک کا قومی نقطہ سے مطالعہ کریں۔

پنجاب کی سرزمین میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے مسلمانو خدا نے قرآن میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ میں ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو خدا تمہیں قیامت کے روز نہیں بخشے گا اور تم دوزخی ہو جاؤ گے۔ میں مرزا قادیانی کے اس اعلان کی صداقت یا بطالت پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے مسلمان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک مرزائی کا عقیدہ ہے کہ:

۱۔۔۔۔۔ خدا سمے پر لوگوں کی رہبری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔

۲۔ خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراوٹ کے زمانہ میں حضرت محمد (ﷺ) کو نبی بنا کر بھیجا۔

۳۔ حضرت محمد (ﷺ) کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے مرزا قادیانی کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں سے ہندوستانی قوم پرستی کا کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہونے پر اس کی شردھا اور عقیدت رام کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویۂ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ سے اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان میں تھی۔ اب وہ خلافت قادیان میں آجاتی ہے اور مکہ مدینہ اس کے لئے روایتی مقامات مقدسہ رہ جاتے ہیں۔ ایک احمدی چاہے عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ میں بیٹھا ہو۔ وہ روحانی تربیت کے لئے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی سرزمین اس کے لئے سرزمین نجات ہے اور اس میں ہندوستان کی فضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہر احمدی کے دل میں ہندوستان کے لئے پریم ہوگا۔ کیونکہ قادیان ہندوستان میں ہے۔ مرزا قادیانی بھی ہندوستانی تھے اور اب جتنے خلیفے اس فرقہ کی رہبری کر رہے ہیں۔ وہ سب ہندوستانی ہیں۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب مرزائی قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں تو وہ اسلام سے الگ کیسے ہوئے؟ اس کا جواب سکھوں کی موجودہ ہندوؤں سے علیحدگی گرو گرنتھ صاحب میں رام کرشن، اندر وشنو سب ہندو دیوی دیوتاؤں کا ذکر آتا ہے۔ مگر کیا سکھوں نے رام، کرشن کی مورتیوں کا کھنڈن نہیں کیا؟ گوردواروں سے رامائن اور گیتا کا پاٹھ نہیں اٹھایا۔ کیا سکھ اب ہندو کہلانے سے انکار نہیں کرتے؟

اسی طرح وہ زمانہ دور نہیں جب کہ احمدی یہ فرمایا کریں گے کہ لو صاحب ہم محمدی مسلمان نہیں ہم تو احمدی مسلمان ہیں۔ کوئی ان سے سوال کرے گا کیا تم حضرت محمد (ﷺ) کی نبوت کو مانتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمدؐ، عیسیٰؑ، رام، کرشن سب کو اپنے اپنے وقت کا نبی تصور کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہندو، عیسائی یا محمدی ہو گئے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمدی تحریک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تہذیب اور اسلام کی دشمن ہے۔ خلافت تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔

کیونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہر وقت پان اسلام ازم و پان عربی سلطنت کے خواب دیکھتے ہیں۔ کتنی ہی مایوس کن ہو مگر ایک قوم پرست (ہندو) کے لئے باعث مسرت ہے۔“

(اخبار بندے ماترم مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۵ء)

اس مضمون کا شائع ہونا تھا کہ ہندوستان کے اکثر ہندو رہنماؤں نے قادیانی مذہب کی حمایت میں کھلم کھلا باتیں کہنا شروع کر دیں اور سب سے پہلے بنگالی ہندو نے اس آواز پر کان دھرا۔ کیونکہ وہاں کی مسلم اکثریت سے ہندو بہت زیادہ خائف تھے۔ ۱۹۳۵ء ایکٹ کی رو سے وہاں کے مسلم وزارت کے سامنے ہندو اپنی تمام ہوشمندیوں کے باوجود ہتھیار ڈال چکا تھا۔ چنانچہ ۶؍مارچ ۱۹۳۸ء کو مرزائی دارالتبلیغ کے سلسلے میں ایک افتتاحی جلسہ البرٹ ہال کلکتہ میں زیر صدارت شیری سنت کمار رائے میر کارپوریشن آف کلکتہ منعقد ہوا۔ جس میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر سرت چندر نے یہ بھی کہا کہ: ”فی الحقیقت جماعت احمدیہ کی تنظیم اپنی نوعیت میں دور حاضرہ کے لئے نہایت ضروری ہے۔“

آگے چل کر انہوں نے کہا: ”جماعت احمدیہ کے لوگ اس کے بانی کو دل سے ایک سچا اور بہت بڑا نبی تصور کرتے ہیں۔ بہرحال خالص دنیوی اور دینی زاویہ نگاہ سے یہ تمام کو تسلیم ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد کی تحریک دور حاضرہ میں اسلام کی ایک بہت بڑی اصلاحی تحریک ہے۔ نیز اتحاد مسلم کے لئے یہ ایک ایسی تحریک ہے۔ جس میں خیر و برکت کی انتہائی قوتیں پنہاں ہیں۔ ہم صدق دل سے اس کی ترقی کے خواہاں ہیں۔“ (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۳؍مارچ ۱۹۳۸ء)

سرت چندر بوس مسٹر سبھاش چندر بوس کے بڑے بھائی تھے۔ سیاسیات ملک سے لگاؤ رکھنے والے جانتے ہیں کہ مسٹر سرت چندر بوس کس قدر ہندو نواز تھے اور فرقہ پرستی ان کے اندر گھر کر چکی تھی۔ ایسے آدمی کا مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق کہنا کہ: ”احمدیہ تحریک دور حاضرہ کی نہایت ہی ضروری تحریک ہے۔“ اپنے اندر کس قدر سیاسی عزائم رکھتا ہے۔

ڈاکٹر شنکر داس کے بیان کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک بیان شائع ہوا۔ جو دراصل ڈاکٹر شنکر داس کے مضمون کی حمایت میں تھا۔ بظاہر اس کا رخ ڈاکٹر اقبال کے اس بیان کی طرف تھا جو انہوں نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں دیا تھا۔

جنوری کے دوسرے ہفتے ڈاکٹر مرحوم نے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہ: ''میں تسلیم کرتا ہوں کہ قادیانیت کے متعلق میں نے جو بیان دیا تھا۔ جدید اصول کے مطابق صرف ایک مذہبی عقیدہ کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس سے پنڈت جواہر لال اور قادیانی دونوں پریشان ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بناء پر دونوں اپنے دل میں مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی وحدت کے امکانات کو بالخصوص ہندوستان میں پسند نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان کے قوم پرست جن کے سیاسی تصورات نے ان کے احساس و حقائق کو مردہ کردیا ہے۔ اس بات کو گوارہ نہیں کرتے کہ شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کے دل میں خود اعتمادی اور خود مختاری کا خیال پیدا ہو۔ اس طرح یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کا سیاسی وقار بڑھ جانے سے ان کا مقصد فوت ہوجائے گا کہ رسول عربی ﷺ کی امت سے قطع و برید کرکے ہندوستانی نبی کے لئے ایک جدید امت تیار کریں۔

حیرت کی بات ہے کہ میری اس کوشش سے کہ مسلمانان ہند کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس وقت جس نازک دور سے وہ گذر رہے ہیں۔ اس میں ان کی اندرونی یکجہتی کس قدر ضروری ہے۔ ان کے افتراق پرور انتشار انگیز قواعد سے محترز رہنا لازمی ہے۔ جو اسلامی تحریکوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پنڈت جی (جواہر لال نہرو) کو یہ موقع ملا کہ وہ اس قسم کی تحریکوں سے ہمدردی فرمائیں۔'' (مضمون اسلام اور احمدیت، رسالہ اسلام لاہور مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۳۶ء)

یاد رہے کہ بشیر الدین محمود نے اپنی ڈائری میں یہ بات تسلیم کرچکا ہے کہ: ''ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھ بھی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں ہی کا بگڑا ہوا فرقہ ہیں۔'' (الفضل قادیان مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۲۲ء)

اگرچہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمانوں کا ماتھا اسی دن ٹھنکا تھا۔ جب ۲۹ مئی ۱۹۳۶ء کو قادیانی رضاکاروں نے پنڈت جواہر لال نہرو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا لاہور میں استقبال کیا تھا۔ لیکن حالات کے اس قدر جلد پلٹا کھا جانے کی امید بہت کم تھی۔ تاہم بعد کے واقعات نے ہوا کے رخ کا پتہ دیا۔ ان واقعات اور حالات سے قادیانیوں کے عزائم کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں سے در پردہ کیا سازش کر رکھی تھی۔ چنانچہ تقسیم ملک سے پہلے ہی

مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے مریدوں کی ایک نجی مجلس میں اپنا ایک الہام بیان کرتے ہوئے کہا:
"ابتداء میں حضور نے اپنا ایک رؤیا بیان فرمایا۔ جس میں ذکر تھا کہ گاندھی جی آئے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر لیٹنا چاہتے ہیں اور ذرا سی دیر لیٹ کر اٹھ بیٹھے اور گفتگو شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں حضور نے گاندھی جی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے اچھی زبان اردو ہے۔ گاندھی جی نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پھر حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پر پنجابی ہے۔ ہمارا سکھوں کی زبان گاندھی جی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور حیران ہوگئے اس کے بعد رؤیا میں نظارہ بدل گیا اور حضور گاندھی جی کے کہنے پر عورتوں میں تقریر کرنے تشریف لے گئے۔ مگر وہ بہت تھوڑی آئی ہوئی تھیں۔ اس لئے حضور نے تقریر نہیں فرمائی۔

اس رؤیا کی تعبیر میں حضور نے فرمایا کہ موجودہ فسادات کے متعلق ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مسلم تعلقات اس حد تک نہیں پہنچے کہ صلح نہ ہو سکتی ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد کوئی صورت نکل آئے۔

آگے چل کر آپ نے اپنا ایک اور الہام ظاہر کیا۔ ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت ہے کہ اس نے احمدیت کے لئے اتنی وسیع بیس مہیا کی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔ تا ملک کے حصے بخرے نہ ہوں۔ بیشک یہ کام بہت مشکل ہے۔ مگر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں۔ تا احمدیت اس وسیع بیس پر ترقی کرے۔ اس رؤیا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ لیکن عارضی طور پر افتراق ہو۔ مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد متحد ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان رہے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔" (الفضل قادیان مورخہ ۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

اسی سلسلے کی ایک اور الہامی کڑی بھی دیکھئے: "کہ ایک جگہ میرا بستر بچھایا جانے والا ہے اور کسی شخص نے آ کے کہا کہ گاندھی جی آپ سے ملنے کے لئے آنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر سوئیں گے۔ پہلے تو مجھے یہ سن کر کچھ نفرت سی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس طرح صلح ہوتی ہو تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا منظور ہے۔ چنانچہ

وہ آ گئے۔ وہ بھی ایک ہی بستر پر لیٹ گئے اور میں بھی لیٹ گیا۔ گاندھی جی کا جسم کچھ موٹا سا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے جسم پر کچھ کپڑا ہے۔ ان کی عادت کے خلاف ایک منٹ یا آدھ منٹ ہی گزرا ہوگا کہ وہ اٹھ بیٹھے۔ اس رؤیا کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی عارضی جدائی جلد ختم ہو جائے گی۔"

(الفضل قادیان مورخہ ۱۲، اپریل ۱۹۴۷ء)

علم و عرفان کی ایک اور مجلس میں مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے: "میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے یہ اور بات ہے۔ ہم ہندوستان کی تقسیم پر اگر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۴۷ء)

جب مرزا بشیر الدین محمود اس قسم کے الہامی بیانات دے کر ہندوستان کے کانگرسی مہاسبھائی اور راشٹریہ سیوک سنگھ جیسے ہندوؤں کی سیاسی مصلحتوں کو پورا کر رہا تھا۔ ان دنوں ہندوستان کے دریاؤں میں بجائے پانی کے مسلمان کا خون بہہ رہا تھا اور شہروں کی سڑکیں بے گناہوں کے خون سے لالہ زار ہو رہی تھیں۔ چونکہ ہندوستان کی تقسیم مسلم اور غیر مسلم کے نام پر ہوئی تھی۔ اس لئے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے بیان کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو غیر مسلم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے: "ہندوؤں کے بھی تیرتھ ہیں اور مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ نہ اپنے مقدس مقامات کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔"

(الفضل قادیان مورخہ ۱۹ اپریل
۱۹۴۷ء)

اس قسم کے الہامات اور بیانات کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب گورداسپور کی تقسیم پر باؤنڈری کمیشن کے سامنے دونوں حکومتوں کے وکیل آمنے سامنے دلائل پیش کر رہے تھے تو مرزائیوں نے اپنا الگ وکیل (شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ صدر جماعت احمدیہ لاہور) پیش کیا۔ حالانکہ مسلم لیگ نے سر ظفر اللہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ لیکن باوجود اس کے مرزائیوں کے وکیل نے کہا کہ ہمارے مرکز قادیان کو ایک بین الاقوامی حیثیت قرار دے دی جائے۔ اس بناء پر جس ضلع میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہ اقلیت میں شمار ہو کر بھارت کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس تمام جدوجہد کے بعد بھی مرزائیوں کو جب پاکستان کی طرف ہانک دیا گیا تو یہاں پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ جماعت احمدیہ چونکہ ایک مذہبی جماعت ہے اور سیاسیات سے بالکل الگ رہتی ہے اور اپنے

اصول کے مطابق جس حکومت کے تحت بھی اس کے افراد ہوں۔ وہ اس کے فرمانبردار ہو کر رہتے ہیں۔ اس لئے ہم نے انڈین یونین کو اپنی پرانی روایات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ قادیان ہمارا مذہبی مرکز ہے۔ ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے اور عہد کرتے ہیں۔ ہم حکومت کے پورے پورے فرمانبردار ہو کر رہیں گے۔

مگر چند لاکھ کی چھوٹی سی مذہبی جماعت کی کون سنتا تھا۔ ہمارے یقین دلانے اور عہد کرنے کے باوجود ملٹری اور پولیس نے قادیان کے قرائی گاؤں پر حملے شروع کر دیئے۔ مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا۔ حکومت کو بار بار توجہ دلائی گئی مگر بے سود۔ یہاں تک کہ حالات اس قدر نازک صورت اختیار کر گئے کہ مشتاق احمد (غلام احمد قادیانی) کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۴۸ئ)

پھر ہر مرزائی نے اپنے لیڈر کے سامنے اس عہد کو دہرایا۔ "میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کو احمدیہ جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس مرکز کو پورا کرنے کے بعد ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد کرتا رہوں گا اور اس مقصد کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا اور اپنے بیوی بچوں کو اور اگر خدا کی مشیت ہوئی تو اولاد کی اولاد کو ہمیشہ اس بات کے لئے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لئے ہر چھوٹی اور بڑی قربانی کے لئے تیار رہیں۔ اے خدا مجھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطاء فرما۔" (مندرجہ بالا تحریر طبع شدہ ہے اور ہر مرزائی کے گھر بطور کیلنڈر کے دیوار پر آویزاں ہے)

مندرجہ بالا تحریروں سے ہر ذی ہوش انسان بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ مرزائی مذہب کے پیرو کس قسم کے کھیل میں مصروف ہیں۔ اگر ہندوستان کے لیڈر اور وہاں کے اخبارات دن رات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کو ایک کر کے رہیں گے تو مرزا بشیر الدین محمود پاکستان میں بیٹھ کر اکھنڈ ہندوستان کی تجویز سوچ رہا ہے اور پھر یہ کوئی معمولی خیال نہیں بلکہ یہ اس کا الہامی عقیدہ ہے اور پھر جب کہ اس کے پیرو اس کو نبی مانتے ہوں تو یہ ممکن نہیں کہ مرزائی اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں ہر کوشش کو بروئے کار نہ لائیں گے۔

مرزائی آج بھی اپنے مذہبی عقیدہ کی بناء پر وہیں کھڑا ہے۔ جہاں کہ وہ تقسیم ملک سے پہلے تھا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۴۹ء قادیان کے سالانہ جلسہ کی روئیداد مختلف اخبارات کی زبانی سنئے:

اخبار [illegible]

قادیان مورخہ ۳۰؍ دسمبر احمدیوں کا سہ روزہ سالانہ جلسہ آج ختم ہوگیا۔ اس میں تقریر کرتے ہوئے شیخ بشیر احمد بیرسٹر جو لاہور سے تشریف لائے اور جو وفد کے لیڈر تھے نے کہا۔

پاکستان کی حکومت جو اسلامی تحریک کا نتیجہ ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت سے قاصر رہی۔ وہاں تین مرزائی قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہندوستان کی حکومت نے بے دین ہونے کے باوجود ہر مذہب کے پیرو اور بالخصوص مرزائیوں کی حفاظت کا خاطر خواہ سامان مہیا کر رکھا ہے۔ پاکستان میں ابوالاعلیٰ مودودی کی جماعت نے اودھم مچا رکھا ہے۔ مگر ہندوستان میں ہمیں ہر قسم کا امن میسر ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہندوستان کی حکومت کو امداد کی حکومت قرار دیا اور اعلان کیا کہ ہم اس حکومت کے وفادار رہیں گے۔

اخبار بندے ماترم

قادیان مورخہ ۲۸؍ دسمبر کل یہاں احمدیوں کا سالانہ سہ روزہ جلسہ شروع ہوگا۔ جس میں پاکستان سے آمدہ ۹ آدمیوں اور ہند کے مختلف حصوں کے ۱۵۲ احمدیوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی بھاری تعداد میں شریک ہوئے۔ جلسہ میں ایک قرارداد پاس کی گئی۔ جس میں ہند سرکار سے درخواست کی گئی کہ قادیان میں موجود احمدیوں کی وہ تمام جائیدادیں واپس کر دی جائیں۔ جو نکاسی قرار دی جا چکی ہیں۔ کیونکہ قادیانی بھارت کے وفادار ہیں۔

ایک اور قرارداد میں پنجاب اور ہند کی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ قادیان کی زیارت کے لئے سہولتیں دی جائیں۔ نیز چونکہ انہیں بھارت کی مٹی سے اتنی محبت ہے۔ اس لئے پاکستان میں مقیم احمدیوں میں جو شخص مر جائے اس کی نعش قادیان میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔

اخبار الفضل ۳؍ دسمبر ۱۹۴۹ء

اوّل تو قادیان جماعت احمدیہ کا مرکز ہے۔ جس کی شاخیں ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ۱۹۴۷ء کے فسادات کی وجہ سے محمود احمدیوں کو قادیان کو مجبوراً چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ واپس یہاں آکر رہنے کے لئے بے قرار ہیں۔

اجیت دہلی

قادیان مورخہ ۳۰؍ دسمبر ۱۹۴۹ء کی ۲۶ تا ۲۸؍ دسمبر قادیان کا سہ روزہ سالانہ جلسہ

کامیابی سے ختم ہو گیا ہے۔ شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ لاہور نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود دوسری مصروفیتوں کے باعث جلسہ کے لئے کوئی پیغام نہ لکھ سکے۔ لیکن وہ ہمیں الوداع کہنے آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے قادیانی قادیان آنے کے لئے بے تاب ہیں اور وہ دن دور نہیں جب دنیا میں خدا کی حکومت ہوگی اور شیطان کا دور ختم ہو جائے گا۔ شیخ محبوب الہی عرفانی جو کہ اسی سال کے بزرگ ہیں اور حیدرآباد سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ: "ہمارے نبی کا حکم ہے کہ وقت کی حکومت کی وفاداری کرو اور یہ حکم ہمارے لئے قدرتی حکم ہے۔ قادیانی ہندوستان کی حکومت کے اتنے ہی وفادار ہیں۔ جتنا کوئی دوسرا آج تک قادیانیوں نے حکومت کے خلاف سازش یا بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔"

مولوی شریف احمد نے ہندو مسلم اتحاد پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ: "قادیانی فرقہ کے بانی نے ۱۹۰۸ء میں سالانہ جلسے کے لئے جو تقریر تیار کر رکھی تھی اور وہ جلسے سے پہلے ہی وفات پا جانے کی وجہ سے کر نہ سکے۔ اس میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے یہ فارمولا پیش کیا کہ ہندو اور سکھ حضرت محمد کا احترام کریں اور مسلمان گاؤ کشی بند کر دیں۔ اگر کوئی فرقہ اس سمجھوتہ کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ تین لاکھ روپیہ ہرجانہ دوسرے فریق کو ادا کرے۔"

تقریر کا آخری حصہ قابل غور ہے کہ بانی تحریک احمدیہ نے ۱۹۰۸ء میں سالانہ جلسے کے لئے جو تقریر تیار کر رکھی تھی۔ اس میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا فارمولا پیش کیا تھا کہ ہندو سکھ پیغمبر اسلام کا احترام کریں اور مسلمان گاؤ کشی بند کر دیں۔ جو اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کرے گا وہ تین لاکھ روپیہ دوسرے فریق کو دے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فارمولا کی حقیقت مذہبی نقطہ نگاہ سے کیا ہے۔ یہ سوال علماء کے جواب دینے کا ہے۔ لیکن اقتصادی نقطہ نظر سے اس تجویز میں مسلمانوں ہی کو پریشان کیا گیا تھا۔ قادیان میں بیٹھ کر ایسا فارمولا پیش کرنا کہ یہاں کا مسلمان اقتصادی طور پر مرزائیوں کے رحم وکرم پر زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ غیر مسلموں سے مل کر وہاں کے غریب مسلمانوں کو ان کی غلامی پر مجبور کرنے کے مترادف تھا۔ وہ تو کون نہیں جانتا کہ مسلمان تین لاکھ روپے والی شرط کا متحمل نہیں ہو سکتا اور پھر وہ قادیان کا مسلمان جس کی ساری پونجی اس کے اپنے وجود کے علاوہ اس کے بیوی بچے تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ فارمولا سارے ہندوستان کے لئے آیا تھا تو ۱۹۱۸ء کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب انگریز کے ایماء پر خود مرزائیوں نے ہندو مسلم کشیدگی کا بیج بویا تھا۔ اس لئے

مرزا غلام احمد قادیانی کا پیغام مولا دیانت پر مبنی نہیں تھا اور بقول حضرت غالب ؎

مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام
ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

تقسیم ملک سے پیشتر سیاسی طور پر بھلے ہی کسی کو قائداعظم سے اختلاف ہو۔ لیکن پاکستان کے وجود میں آجانے کے بعد بلاشبہ وہ اس ملک کے معمار اور کروڑوں مسلمانوں کے محبوب رہنما تھے۔ موت کے بعد تو ویسے ہی کسی سے اختلاف نہیں رہنا چاہئے۔ خواہ دشمن کیوں نہ ہو۔ محلے میں اگر کوئی موت واقع ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شمولیت نہ صرف اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ بلکہ شرعی طور پر ثواب بھی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے صحابی سر ظفر اللہ نے جب کہ قائداعظم کی موت کے دن کراچی میں موجود تھا۔ نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ بلکہ نماز جنازہ کے وقت غیر مسلموں کے ساتھ الگ بیٹھا رہا۔ حالانکہ مسلمانوں کے بعض فرقوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ تاہم اپنے محبوب راہنما کی موت پر کروڑوں مسلمانوں نے آنسو بہائے اور غائبانہ نماز جنازہ میں شمولیت کی۔ لیکن سر ظفر اللہ کو دیکھئے کہ کراچی میں ہوتے ہوئے اس سعادت سے محروم رہا۔ چوہدری سر ظفر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب خود چوہدری صاحب کی زبانی سنئے:

"پچھلے دنوں جب چوہدری سر ظفر اللہ خان ایبٹ آباد آیا تو مولانا محمد اسحاق خطیب جامع مسجد ایبٹ آباد تحقیق واقعہ کے لئے ظفر اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا۔ کیا یہ واقعہ درست ہے کہ تم نے قائداعظم مرحوم و مغفور کا جنازہ کراچی میں موجود ہوتے ہوئے نہیں پڑھا۔

جواب: سر ظفر اللہ نے بے باکی اور جرأت سے کہا: "بیشک میں نے قائداعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔"

مولانا نے پوچھا۔ کیوں؟

ظفر اللہ نے کہا میں صرف ان کو سیاسی لیڈر سمجھتا تھا۔ مولانا نے کہا۔ کیا تم مرزا قادیانی کو پیغمبر نہ ماننے والے سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہو۔ حالانکہ تم اس حکومت کے وزیر بھی ہو۔ ظفر اللہ نے کہا آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ تمہیں ایسا سمجھنے کا حق ہے۔" (اخبار اصلاح مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۴۹ء پشاور)

اس واقعہ کی شہادت میں ایک اور واقعہ نقل کرنا ضروری ہے۔ "آج شہر میں ایک خبر

نے سنسنی پھیلا دی۔ جب مرزائی نے قائد اعظم کو کافر کہا۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ آج صبح لائل پور کو اپ ٹو ڈیٹ سروس کی ایک بس میں جو جڑانوالہ سے لائل پور جا رہی تھی کہ مسافر آپس میں ظفر اللہ وزیر خارجہ پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ جڑانوالہ کے عنایت اللہ نے کہا کہ اس نے کراچی میں ہوتے ہوئے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ایسے آدمی سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ اس پر ایک مرزائی نے کہا کہ مومن کافر کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس پر موٹر میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور ڈرائیور کو موٹر کھڑی کرنی پڑی۔ جب کچھ معاملہ سنبھلا تو موٹر چلی۔ اس خبر نے عوام کو قادیانیوں کے خلاف بہت بھڑکا دیا۔“ (نوائے وقت مورخہ ۵ر جنوری ۱۹۵۰ئ)

ان واقعات کی مزید تصدیق۔

“جناب چوہدری سر ظفر اللہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔

جواب: تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے۔ لہٰذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔“

(پمفلٹ نمبر ۲۲ بعنوان احراری علماء کی راست گوئی، شائع کردہ ربوہ ضلع جھنگ)

اسی سلسلے میں مرزائی خلیفہ بشیر الدین کا فتویٰ: ”ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔“ (انوار خلافت ص ۹۰، بابت ۱۰ اکتوبر ۱۹۱۶ئ)

کشمیر

نہ صرف پاکستان کے لئے کشمیر کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بلکہ اس وقت عالم اسلام کے مسلمان بھی اس ادھیڑبن میں ہیں کہ پاکستان کو دائمی زندگی کیسے نصیب ہو۔ کیونکہ دنیائے اسلام کی یہ سلطنت باقی ماندہ مسلم ممالک کے بقاء کی ضامن ہے۔ لیکن اس کی حیات جاودانی کشمیر کے دامن سے وابستہ ہے۔ وہاں کے بتیس لاکھ انسانوں سے نہ صرف ہمارے خون کا رشتہ ہے۔ بلکہ وہاں کی سرسبز پہاڑیاں ہمارے ملک کی پہرہ دار ہیں۔ وہاں کے دریا ہمارے سرسبز کھیتوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ ان دریاؤں کے رستے گلمرگ اور اننت ناگ کی کیسری ہوائیں فرحت کا پیام لاتی ہیں۔

اس سرزمین پر ہمارا حق اس لئے بھی ہے کہ اس پر جنت کا سا گمان ہوتا ہے اور جنت پر خدا کے وعدہ کے مطابق مومن کا حق ہے۔ آج اس مملکت خداداد کی عمر اللہ کے فضل سے پچیس برس ہونے کو آئی ہے اور مجاہدین بھی تقریباً اتنی ہی مدت سے اس خطۂ پاک کے لئے نہ جانے کس قدر جانیں جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں۔ اور یہ تو درست ہے اگر روز اوّل احتیاط سے کام لیا ہوتا اور مسلم لیگ کے وکیل سر ظفر اللہ کی موجودگی میں شیخ بشیر احمد قادیانی وکیل قادیان کے لئے باؤنڈری کمیشن کے سامنے یہ نہ کہتے کہ ”قادیان کو ایک بین الاقوامی یونٹ قرار دیا جائے۔“

اور اگر وہ غلطی کر ہی چکے تھے تو مسلم لیگ کے وکیل سر ظفر اللہ کو چاہئے تھا کہ وہ وہیں پر انہیں روک دیتے کہ تم کون ہو درمیان میں بولنے والے۔ جب کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی طرف سے وکالت کا حق مجھے سونپا ہے تو خدا گواہ ہے۔ گورداسپور کا ضلع بھارت کے قبضہ میں بھی نہ جاتا۔ جب کہ ۳ر جون ۱۹۴۷ء کے اعلان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس ضلع کو پاکستان کے حوالہ کر چکا ہے۔ اس ایک ضلع کے ضائع ہو جانے سے کشمیر ہم سے جدا کر دیا گیا اور ہاتھوں کی دی ہوئی اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اور ہنوز مرزائی کشمیر کے حصول میں کس قدر رکاوٹ ہیں۔ اس کے لئے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ناظم سردار آفتاب احمد خان صاحب کا بیان مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔

”لاہور ۱۸ اکتوبر خبر شائع ہوئی ہے کہ مسلم کانفرنس برانچ لاہور کے نام نہاد صدر مفتی ضیاء الدین کو شیخ عبداللہ کے ساتھ نامہ و پیام اور پاکستان کے خلاف سازباز کرنے کے سلسلہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

لاہور کے جملہ جرائد سیاسی جماعتیں، خبر رساں ایجنسیاں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مفتی ضیاء الدین کا نہ تو کبھی مسلم کانفرنس سے تعلق رہا ہے اور نہ اب ہے۔ اس کے برعکس سردار محمد عالم خان صدر مسلم کانفرنس برانچ لاہور نے بارہا زبانی اور تحریری متعلقہ حکام کو توجہ دلائی کہ مفتی ضیاء الدین اور ان کے حواریوں نے مسلم کانفرنس کے متوازی جماعت کی تنظیم کر کے بے جا روپیہ ناجائز طریقوں سے فراہم کیا اور مشتبہ عناصر آزاد کشمیر کے نام پر خورد برد کئے اور مسلم کانفرنس کے خلاف شب و روز تخریبی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ایک مدت تک سردار صاحب کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی اور عائد کردہ الزامات کے بارے میں کوئی تحقیق نہ کی گئی۔

مارچ گذشتہ میں قائد ملت (غلام عباس) نے راقم کو لاہور مسلم کانفرنس کی تنظیم جدید

کے سے مامور فرمایا تو مکمل تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ مفتی ضیاء الدین اور اس کے حواری بالخصوص ڈاکٹر اسلام الدین نیازی، عبدالخالق شاہ، مولوی عبدالواحد اور عبدالغفور، وغلام محمد نقاش (یہ سب کے سب مرزائی ہیں) وغیرہم تنظیمی کام میں سخت گراں ثابت ہو رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی مرزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ قادیان کی حمایت اور روپیہ کے بل بوتے پر ان لوگوں نے مسلم کانفرنس کے مقابلہ میں متوازی جماعتوں کی داغ بیل ڈال رکھی ہے اور سادہ لوح مہاجرین جموں و کشمیر کو گمراہ کرنے کے علاوہ دشمن کے ایجنٹ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔

مسلم کانفرنس نے جب ایسے لوگوں کی قلعی کھول کر ارباب تدبیر سے درخواست کی کہ ان کی باز پرس کی جائے تو اس گروہ سے چند افراد بھاگ کر سری نگر چلے گئے۔ وہاں ریڈیو پر سلطنت خداداد پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور باقی ماندہ مفسدین نے اپنی تخریبی کاروائیاں جاری رکھیں۔ ان واقعات کا تذکرہ لاہور تبلیغ کانفرنس میں کیا گیا۔ جس کی تصدیق مجاہد کشمیر جناب اے آر ساغر نے کر دی۔ لیکن اس کے باوجود خود ساختہ فرقان بٹالین کو توڑنے کے علاوہ اسلام اور ملت کے دشمنان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔

جائے فکر ہے کہ اب پولیس کی تحقیقات پر مفتی ضیاء الدین اور اس کے حواریوں کے خلاف مسلم کانفرنس کی جانب سے مذکورہ الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے ہیں اور مرتد مفرورین کو گرفتار کر کے اس کے حواریوں کی تلاش جاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دیانتدارانہ اور غیر جانبدارانہ تفتیش سے مفتی ضیاء الدین کے جملہ شرکاء جرم گرفتار ہو کر کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔

یہ بات قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ مفتی ضیاء الدین کی پشت پناہ جماعت کے خلاف جب تک تادیبی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ یہ لوگ مسلم کانفرنس کے خلاف محاذ جاری رکھیں گے اور تخریبی سرگرمیوں سے باز نہیں آئیں گے۔" (اخبار زمیندار مورخہ ۲ دسمبر ۱۹۵۰ء)

اگر اس بات کے طویل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اس سے متعلق اور بہت سی معلومات بہم پہنچائی جاتیں۔ لیکن ان واقعات و شواہد کے بعد صرف ایک اور حوالہ نقل کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں اور اس کا فیصلہ ملک و ملت پر چھوڑتا ہوں۔

۱۹۵۱ء میں قادیان کے سالانہ جلسے سے واپسی پر شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ (قادیانی) لاہور نے آفاق کے نمائندہ کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ: "ایک بڑے سکھ لیڈر نے مجھ سے ملاقات کر کے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جو تقسیم ملک کے فوراً بعد عمل میں آئے اس

سکھ لیڈر نے مجھ سے التماس کی ہے کہ میں ان کے جذبات کو پاکستانی عوام تک پہنچا دوں۔"
(روزنامہ آفاق مورخہ ۳ جنوری ۱۹۵۲ء)

ایک طرف سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ کے وہ بیانات ہیں۔ جن میں وہ ہر روز بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے اور دوسری طرف ننکانہ صاحب (پاکستان) میں سو سے زائد آکالی سکھ اپنے گوردوارے کی حفاظت میں سیوادار بن کر بیٹھے ہیں۔ تیسری طرف تین سو سے زائد مرزائی درویش بن کر قادیان (بھارت) بیٹھے ہیں اور اکثر ان میں سے جب جی چاہتا ہے پاکستان آ جاتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے بھارت چلے جاتے ہیں اور چوتھی طرف شیخ بشیر احمد وکیل قادیانی سکھوں کے پیغام مسلمانوں کے نام پاکستان میں پہنچا رہے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟

قادیانی مذہب کے اخلاق

مندرجہ بالا عنوان کے تحت نہ لکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہی اب ارادہ ہے۔ لیکن اپنے راستے کی ایک منزل چھوڑ کر یہاں سے گذر رہا ہوں۔ وہ بھی بادل ناخواستہ۔

بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کو نبی کہتا ہے اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ اس کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں: "محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم" اس وحی الٰہی میں خدا تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی۔" (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

ایک مجلس میں جس میں خود مرزا غلام احمد قادیانی موجود تھا۔ اکمل نامی شاعر نے یہ شعر پڑھے۔

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں
اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار البدر مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

کچھ لوگوں نے جب اکمل پر اعتراض کیا تو اس نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا۔ جب میں نے حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کے سامنے یہ نظم پڑھی اور خوش خط لکھ کر آپ کے پیش کی

گئی تو آپ نے کہا بجز اک اللہ اور نظم کو وہ اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ نیز اس نے کہا۔ یہ مضمون میں نے حضرت صاحب کی کتاب خطبہ الہامیہ سے نقل کیا ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۳۲ء)

دعویٰ پیغمبری کی تصدیق کے بعد اب بانی مذہب مرزا غلام احمد قادیانی کے اخلاق کا حال سنئے:

۱..... "حضرت صاحب نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں عورت ہو گیا ہوں اور خدا نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا۔" (اسلامی قربانی ص ۱۲)

۲..... "پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاملہ ہو گیا ہوں۔"

(کشتی نوح ص ۴۷ خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

۳..... "میں نے (مرزا قادیانی نے) ایک بار دیکھا کہ ایک بڑا اجلاس ہے میں اس میں بیٹھا ہوں اور ایک دو غیر احمدی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے دبا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو سامنے کی طرف بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرا آزاربند پکڑ کر کھولنا چاہا۔ میں سمجھا کہ اس کا ہاتھ اتفاقاً لگا ہے اور میں نے آزاربند پکڑ کر اپنی جگہ پر اٹکا لیا۔ پھر دوبارہ اس نے ایسی ہی حرکت کی اور میں نے پھر بھی سمجھا کہ اتفاقیہ ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے ایسا ہی کیا تب مجھے اس کی بدنیتی کا شبہ ہوا اور میں نے اسے روکا نہیں۔ جب تک کہ میں دیکھ نہ لیا کہ وہ ایسا ارادہ کر رہا ہے۔" (الفضل قادیان مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۷ء)

۴..... "ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن بتایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماۃ بھانو تھی۔ وہ ایک رات کو جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی۔ حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ لحاف کے اوپر سے دبا رہی تھی۔ اس لئے اس پر شبہ نہ ہو سکا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں۔ وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو نے کہا ہاں جی تدے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں نے۔" (جبھی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو رہی ہیں)

(سیرت المہدی ج ۳ ص ۲۱۰ روایت نمبر ۷۸۰)

۵..... (بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ) "ایک مجلس

کے متعلق اس نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھار زنا کر لیتے ہیں۔ حضرت مرزا قادیانی ولی اللہ تھے۔ انہوں نے (یعنی مرزا غلام احمد) نے بھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں ہرج کیا ہوا۔ ہمیں اعتراض مسیح موعود پر نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ یعنی (بشیر الدین محمود) پر ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ اس اعتراض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پیغامی ہے۔ (یعنی لاہوری مرزائی) اس لئے کہ ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے۔ مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں۔"

(اخبار الفضل مورخہ ۳۱ راگست ۱۹۳۸ء ص ۲)

مسٹر عبدالرحمن مصری کی لاہور ہائیکورٹ میں درخواست

ہائی کورٹ لاہور کے فیصلہ کے اندر تحریر ہے۔ درخواست کنندہ (عبدالرحمن مصری) نے ایک تحریری بیان دیا ہے۔ جس کے دوران میں اس نے یہ کہا۔

"موجودہ خلیفہ (بشیر الدین محمود قادیانی) سخت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے پردے میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔"

(ماخوذ فیصلہ مسٹر ایف۔ ڈبلیو کیمپ، جج عدالت عالیہ ہائی کورٹ لاہور مورخہ ۲۳ ر ستمبر ۱۹۳۸ء)

درخواست دہندہ مسٹر عبدالرحمن مصری خلیفہ بشیر الدین محمود قادیانی کے نزدیک نہایت ذمہ دار آدمی تھا۔ مرزائی روپے سے یہ تعلیم کے لئے مصر گیا اور واپسی پر قادیان آ کر بی۔ اے تک تعلیم حاصل کی اور بیس برس تک قادیان احمدیہ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رہا۔ نیز ۱۹۳۵ء میں جب مجلس احرار نے مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کو مباہلہ کا چیلنج کیا تو یہی مرزائی جماعت کی طرف سے شرائط مباہلہ طے کرنے مجلس احرار اسلام سے گفتگو کرنے آیا تھا۔

فخر الدین ملتانی کا بیان

"مہاشہ محمد عمر کا کہنا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بھی لکھتا ہوں کہ انہوں نے (میاں فخر الدین قادیانی) ایک دن اپنے مکان کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ تحریک جدید کے بورڈنگ کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے۔ (خلیفہ قادیانی کو) کہ پہلے تو لڑکوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اب

تو کے کچ شروع ہل جاتے ہیں۔" (اخبار فاروق مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۳۷ء)

فخر الدین ملتانی بھی عبدالرحمن مصری کا ساتھی تھا اور اس بیان کے تھوڑے دنوں کے بعد اسے سربازار دن کی روشنی میں کسی مرزائی نے قتل کر دیا تھا۔ اس ضمن میں کتاب "مذہبی آمر" نامی کا مطالعہ کیا جائے۔

حلفیہ شہادت مشاہیر ریاست کے اخلاق کا تذکرہ چل نکلا ہے تو لگے ہاتھوں چند مزید حقائق بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ہمیں ایک نوجوان محمد یوسف کی تحریر موصول ہوئی ہے۔ مسٹر یوسف کا خاندان مشاہیر ریاست کے خاص الخاص مریدوں میں سے ایک ہے اور وہ ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں۔ میں ان کی وہ تحریر من و عن شائع کر رہا ہوں۔

"بسم اللہ الرحمن الرحیم ۰ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ۰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ" میں اقرار کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو بھی برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعاوی پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح موعود مانتا ہوں اور اس اقرار کے بعد میں حلف اٹھاتا ہوں۔

"میں اپنے علم اور مشاہدہ اور رویت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے مجھے اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ میں اس بات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کے لئے بھی تیار ہوں۔"

(دستخط: محمد یوسف معرفت عبدالستار درزی محمد سگھ بے جیلانی روڈ عقب شالیمار ہوٹل کراچی)

ماخوذ از ربوہ کا مذہبی آمر مصنف راحت ملک برادر اصغر ملک عبدالرحمن خادم بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی وکیل قادیان سابق جنرل سیکرٹری، کشمیر کمیٹی۔ (تحفہ نور صداقت طبع دوم)

قادیانی خاتون کا بیان

"میں میاں صاحب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کر دینا

جانتی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ بڑے زانی شخص ہیں۔ مگر اعتبار نہیں آتا تھا۔ کیونکہ ان کی معصومانہ صورت اور نیچی نظر کی آنکھیں ہرگز یہ اجازت نہ دیتی تھیں کہ ان پر ایسا الزام لگایا جا سکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے جو ہر کام کے لئے حضور سے اجازت حاصل کیا کرتے ہیں اور بڑے مخلص احمدی ہیں۔ ایک رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت مانگی تھی۔ میں رقعہ لے کر گئی۔ اس وقت میاں صاحب نئے مکان (قصر خلافت) میں مقیم تھے۔ میں نے اپنے ہمراہ ایک لڑکی لی۔ جو وہاں تک میرے ساتھ گئی اور پھر واپس آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے پھر ایک رقعہ لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ جوں ہی ہم دونوں میاں صاحب کی نشست گاہ میں پہنچیں تو اس لڑکی کو کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے رقعہ پیش کیا اور جواب کے لئے عرض کیا۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب دے دوں گا۔ گھبراؤ مت۔ باہر ایک دو آدمی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے مل آؤں۔ مجھے یہ کہہ کر اس کمرے کے باہر کی طرف چلے گئے اور چند منٹ بعد پیچھے کے تمام کمروں کو قفل لگا کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی جو باہر والا دروازہ بند کر دیا اور چٹخیاں (چٹخنیاں) لگا دیں۔ جس کمرے میں میں تھی وہ اندر کا چوتھا کمرہ تھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر سخت گھبرائی اور طرح طرح خیال دل میں آنے لگے۔ آخر میاں صاحب نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور مجھ سے برا فعل کروانے کو کہا۔ میں نے انکار کیا۔ آخر زبردستی انہوں نے مجھے پلنگ پر گرا کر میری عزت برباد کر دی اور ان کے منہ سے اس قدر بو آ رہی تھی کہ مجھ کو چکر آ گیا اور گفتگو بھی ایسی کرتے تھے کہ بازاری آدمی بھی ایسی نہیں کرتے۔ ممکن ہے جسے لوگ شراب کہتے ہیں انہوں نے پی ہو۔ کیونکہ ان کے ہوش و حواس بھی درست نہیں تھے۔ مجھ کو دھمکایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمہاری بدنامی ہو گی۔ مجھ پر کوئی شک بھی نہ کر سکے گا۔"

(مباہلہ جون ۱۹۲۹ء بحوالہ ربوہ کا مذہبی آمر ص ۹۳،۹۴)

قادیان میں ان دنوں اندرونی خلفشار کے باعث بہت سے مرزائی قادیان کی موجودہ برسراقتدار پارٹی سے کٹ کر لاہوری مرزائی یا دوسرے کسی گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ مجلس احرار اسلام کا دفتر ان دنوں قادیان میں اپنا تبلیغی کام کر رہا تھا اور فخر الدین ملتانی کے قتل کے بعد عبدالرحمن مصری کو مجلس احرار اسلام کے رضاکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔

اگر مرزائیت واقعی کوئی مذہب ہے اور اس کے اخلاق یہ ہیں۔ جن کا آپ نے مطالعہ کیا ہے تو پھر ؎

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا
کار طفلاں تمام خواہد شد

توہین انبیاء

چند اچھے اصولوں کا نام مذہب ہے۔ خواہ وہ مذہب اسلام ہو یا کوئی دوسرا۔ ہر ایک مذہب کے داعی نے جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اخلاق کا دروازہ تھا۔ جہاں سے گزر کر انہوں نے عوام الناس کو خدا کا پیغام دیا۔ سننے اور دیکھنے والوں نے بھی داعی مذہب کو اسی وزن سے جانچا تھا۔ اگر آدمی کے اپنے اخلاق اچھے نہ ہوں تو آدمی آدمی نہیں رہتا۔ بلکہ وہ حیوان کے مترادف ہو جاتا ہے۔

عرب جیسی قوم جس کے دل پتھر اور ریت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ جس نے مخلوق پرستی کا یقین کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوروں سے چوکیدار کیسے بن گئی۔ دختر کش، یتیم پرور کیسے بنا دیئے گئے۔ بھیڑ بکریوں کے چرواہوں سے دنیا بھر کے شہنشاہ لرزہ براندام کیوں رہنے لگے تھے۔ یہ ساری برکت اس ذات گرامی کی تھی۔ جو اخلاق کا اس قدر بلند و روشن مینار تھا کہ جس کی روشنی کفر کی اندھیری راتوں میں اجالا کئے بغیر نہ رہ سکی۔

دنیا کی ہر بات اخلاق کے ترازو میں وزن کی جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا اور پھر راہنما یا لیڈر کے لئے تو اس معیار کو اور بھی اونچا کرنا پڑتا ہے۔ اس اونچائی سے گرنے والے کو تاریخ نے اپنے لئے تو جگہ دی۔ اگر مرزا کسی کو گالیاں دی جائیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے چپ رہے۔ لیکن راہ گیر ضرور محسوس کریں گے کہ یہ عام آدمی کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے کو نبی اور رسول کہتا ہو اور پھر خدا کے پیغمبروں کو کھلم کھلا گالیاں بھی دے۔ انہیں سربازار غلط طور پر رسوا کرے اور پھر یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہو جہاں نیک، پاک اور سعید روحوں کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو پھر کیا ہمیں خدا کے فیصلہ کا انتظار نہیں کرنا چاہئے؟

تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین

”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ

عیسیٰ (علیہ السلام) شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے؟“

(کشتی نوح ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

”مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی حرام کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا۔ (پاک دامن) مگر مسیح کا یہ نام نہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس کے نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“ (دافع البلاء ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰)

یہ الزام جو حضرات عیسیٰ علیہ السلام پر عائد کیا گیا۔ اس کی مزید تشریح خود مرزا قادیانی کرتا ہے۔ ”آپ کے یسوع کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر روئیں۔ کیا یہ مناسب تھا وہ ایک زانیہ عورت کو موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی۔ اگر یسوع کا دل بدخیالات سے پاک ہوتا تو وہ کسی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا۔ مگر ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے۔“

(نور القرآن حصہ ۲ ص ۷۳، خزائن ج ۹ ص ۴۴۸)

قرآن کریم کی گواہی

یہ تو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی کی رائے۔ لیکن قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی پر کیا شہادت دی۔

جب حضرت حنہ (نانی محترمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ مجھے نیک اولاد دیجیو جو خود بھی شیطان کے دخل سے پاک رہے اور پھر اس کی اولاد بھی پاک ہو اور حضرت مریم (والدہ محترمہ عیسیٰ علیہ السلام) پیدا ہوگئیں تو فرمایا حضرت حنہ نے ”وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم (آل عمران)“ {اور تحقیق میں نے پناہ دی اس کو (مریم کو) ساتھ تیرے اور اولاد اس کی کو شیطان راندے ہوئے سے۔}

جب حضرت حنہ کی دعا قبول فرمائی تو جہانوں کے پالنہار نے اعلان کیا۔ ''فتقبلها ربها بقبول حسن (آل عمران)'' {رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو حسن طریق سے قبول فرمایا۔}

اسی طرح باری تعالیٰ کی دوسری دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت مریم (علیہا السلام) کو بشارت دی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی پیدائش کی اور ساتھ ہی بچے کی پاکدامنی کا اعلان بھی کر دیا۔ ''قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا (مریم)'' {کہنے لگا (فرشتہ) سوائے اس کے نہیں کہ میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار تیرے کا کہ بخش دوں تجھ کو لڑکا پاکیزہ۔}

اب کون فیصلہ کرے کہ قرآن کریم کا ارشاد بجا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی بکی۔

خاتم الانبیاء کی توہین

بنیادی پتھر عمارت کی جان ہوتا ہے۔ اگر یہی کمزور ہو تو ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ رہتی ہے۔ اسلام ایک عمارت ہے۔ جس کی بنیاد ختم المرسلین حضرت محمد ﷺ پر ہے اور یہی وہ محور ہے جس کے گرد دین و دولت کے تمام نظام چکر کاٹ رہے ہیں۔ لیل و نہار کی سیاہی و سفیدی ان کے لبوں کی مسکراہٹ اور غصہ بھری نگاہوں کا ایک ہلکا سا پرتو ہیں۔ چاند و ستاروں نے اپنی رعنائیاں انہی کے چہرۂ انور سے مستعار لی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور ؎

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی
وہ ذرا نقاب الٹ دیں تو ابھی بہار آئے

دیگر مذاہب کے پیروؤں نے بھی اس محسن کائنات کو اگر نہ مانا ہو۔ لیکن دلی احترام سے جانا ضرور ہے اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہ ہوگا کہ محمد کے گھرانے کے تمام افراد نے بنی نوع انسان کے لئے ہر مصیبت کو قبول کیا۔ چنانچہ میدان کربلا کا واقعہ اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف نگاہیں بلکہ دل بھی ان کا نام آتے ہی احترام سے جھک جاتے ہیں۔ جس خاندان کے بنی نوع انسان پر اس قدر احسانات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس پاک گھرانے کے متعلق کہتا ہے۔

''ایک دن جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا۔ اس وقت نہ تو مجھ پر نیند طاری تھی اور نہ ہی میں اونگھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بے ہوشی کے آثار تھے۔ بلکہ میں بیداری کے عالم میں تھا۔ اچانک سامنے سے ایک آواز آئی۔ آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں

دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے جلدی جلدی میرے قریب آ رہے ہیں۔ یہ پنجتن پاک تھے۔ یعنی علیؓ ساتھ اپنے دو بیٹوں اور ساتھ اپنی بیوی فاطمہ کے اور سردار مرسلینؐ کے اور دیکھتا کیا ہوں کہ فاطمۃ الزہراؓ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور میری طرف گھور گھور کر دیکھنا شروع کیا۔"

(آئینہ کمالات۔ ص ۵۴۹، ۵۵۰ خزائن ج ۵ ص ایضاً)

یوں تو مندرجہ بالا عبارت میں حضور سرور کائنات ﷺ کے سارے خاندان کی توہین ہے۔ لیکن حضرت فاطمۃ الزہراؓ کے متعلق یہ الفاظ کہ: "اس نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا" خاتون جنت کی توہین کا کس قدر نمایاں پہلو لئے ہوئے ہے۔ زمانہ ماضی میں روایت تھا کہ اگر محلے میں کسی بدمعاش نے کسی کی بہو بیٹی کے متعلق کوئی نازیبا کلمات کہے تو سارا محلہ اس کی جان کا لاگو ہو جاتا تھا۔ لیکن آہ! زمانہ حال کی بدحالی! کیا آج ہم اپنے بڑوں کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کے بعد . .

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں

اس سے آگے کہتا ہے ؎

زندہ شد ہر نبی بآمدنم
ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم

ترجمہ: میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا۔ ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔

(نزول المسیح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۸)

یہ تو تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی عبارت۔ اب ان کے بیٹے بشیر الدین محمود قادیانی کی بات سنئے: "یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔" (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

توہین امام حسینؓ

افسانہ نویس جب افسانہ تحریر کرتا ہے تو زیب داستان کے لئے اس میں مصنوعی رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن داستان کربلا کو حسینؓ نے اپنے خون سے اس قدر حسین بنا دیا ہے

کہ تیرہ سو سال گذر جانے کے بعد بھی ہر روز سر شام آسمان پر شفق کی سرخیاں اس کہانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اتنے عرصے میں جس قدر آنسو امام مظلوم کی یاد میں عالم اسلام نے بہائے ہیں۔ اگر تمام کو جمع کر لیا جائے تو نہ جانے کس قدر دجلہ و فرات اس میں سے بہہ نکلتے اور زمانے کے ہزاروں یزید اور شمر اس میں خاشاک کی طرح بہہ جاتے۔ اگر یقین نہ ہو تو سبز گنبد کی جالی کو پکڑ کر سوال کرو کہ تیرے پر کھینچنے والے سوار نے اسلام کی تصویر میں رنگ بھرنے کے لئے اپنے سارے کنبہ کا خون کیوں بہا دیا تھا۔ ان معصوم شہزادیوں کو جنہیں دیکھنے کو آسمان کے ستارے ترس گئے تھے۔ ننگے سر کربلا سے دمشق کیوں لے جایا گیا تھا۔ جاؤ دریائے فرات سے گواہی لو کہ جب معصوم اصغر کا خون تیرے پانی کے ساحل پر بہنے لگا تھا تو تیرے چہرے کی رنگت سفید کیوں پڑ گئی تھی؟ اگر کربلا کی زمین بول سکتی ہے تو اس سے پوچھو کہ آج بھی تیری خاک سے وہ سانچے ڈھل سکتے ہیں۔ جس سے حسینؓ ابن علیؓ کی سی شکل پیدا ہو؟ اگر یہ سب شاعری نہیں واقعہ ہے۔ پھر حسینؓ کا انسانیت پر احسان کیوں نہ مانتے کہ انہوں نے شجر اسلام اور ملت کے اصولوں کو اپنے خون سے از سر نو جلا بخشی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے ؎

کربلا ایست سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم

ترجمہ: کربلا میری روز کی سیر گاہ ہے۔ حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہیں۔

(نزول مسیح ص ۹۹ خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

اور سنو: ”اے قوم شیعہ! اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ (نجات دینے والا) کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین سے بڑھ کر ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

شہید علم الدین کی توہین

مختصر یہ کہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں قادیانی ٹولے کے لیڈر نے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے بہتر ثابت نہ کیا ہو۔ اس کی تصنیف کردہ کتب جن سے پچاس الماریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ سوائے دو باتوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔

۱... انگریز کی بے جا حمایت۔
۲... انبیاء کرام اور خاص کر حضور سرور کائنات ﷺ کی توہین۔

بلکہ ان لوگوں کو بھی اس ٹولے نے ذلیل کیا جو اس محسن کائنات پر قربان ہو گئے۔ چنانچہ ”رنگیلا رسول“ نامی کتاب شائع ہوئی اور اس میں ختم المرسلین کی توہین کی گئی تو متحدہ ہندوستان کے مسلمان ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھے۔ احرار رہنماؤں نے اسی وقت حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ کتاب ضبط کر لی جائے۔ نیز تعزیرات ہند میں ایک نئے قانون کا اضافہ کیا جائے کہ جو شخص توہین انبیاء کا مرتکب ہو یا کسی مذہب کے رہنما کی توہین کرے۔ اسے قانون قرار واقعی سزا دے۔ اس تحریک کے سلسلہ میں جہاں اور لوگ اسیر فرنگ ہوئے۔ وہاں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، غازی عبدالرحمن بھی کچھ برسوں کے لئے جیل بھیج دیئے گئے۔

انگریز ابھی سوچ ہی رہا تھا۔ کیا فیصلہ کرے کہ لاہور کے لوہار کے ایک بیٹے غازی علم الدین نے کتاب ہذا کے مصنف راجپال کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔

خس کم جہاں پاک

مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی توہین وہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی رائے ہے کہ یا کہنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں۔ تیسرا کوئی فیصلہ نہیں۔

راجپال کا قتل ہونا تھا کہ سارے ملک میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ مسلمانوں نے علم الدین غازی کی ہمت مردانہ پر اس کے خاندان کو مبارک باد دی۔ کفر کو یقین ہو گیا کہ اس کملی پوش آقا کے غلام ہنوز زندہ ہیں۔

مقدمہ شروع ہوا۔ انگریزی قانون اپنی ساری طاقت سے لیس ہو کر سامنے آیا۔ ایک طرف فرنگی آئین کے محافظ مقتول کی پشت پناہی کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ کے سہارے رسول اکرم ﷺ کی عزت کے وارث تھے۔ ایسے وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا کہتا ہے ”قتل راجپال محض مذہبی دیوانگی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ وہ بھی مجرم ہیں اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ وہ بھی قانون کا دشمن ہے۔ جو لیڈر ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں۔ وہ خود بھی مجرم ہیں۔ قاتل ڈاکو ہیں۔

جو لوگ توہین انبیاء کی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے برأت کا اظہار کرنا چاہئے اور ان کو دبانا چاہئے۔ یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی عزت کے لئے قتل کرنا جائز ہے۔

ناروائی ہے۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی سے نہیں ہو سکتی......

...... علم الدین کا سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جائے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں ملے گی۔ لیکن قتل اس کے واسطے، تمہیں چاہئے کہ خدا سے صلح کر لو۔ توبہ کرو۔ گریہ زاری کرو۔ خدا کے حضور گڑگڑاؤ۔ یہ احساس ہے جو اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ خدائی سزا (جہنم) سے بچ سکتا ہے اور اصل سزا وہی ہے۔"

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء)

ایک سال بعد

مولانا عبدالکریم مباہلہ خاندانی مرزائی تھے اور شاید ان کے والد مرحوم مرکزی نبی کے صحابہ میں شامل تھے۔ والد کی زندگی میں مولانا موصوف نے جب ہوش سنبھالا اور واقعات کو بالمشافہ آنکھوں سے دیکھا تو انہیں پارسائی کے پردے میں ریاکاری کا ایک بہت بڑا جال ہر رنگ میں نظر آیا۔ وہ سچے تھے اور انہوں نے قادیان کے مصنوعی نبی اور خلیفہ بشیر الدین محمود قادیانی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس بغاوت کے سائے میں اور نہ جانے کس قدر رازہائے درون پردہ کا انکشاف ہوتا۔ لیکن حسن بن صباح کے اس جانشین نے مولانا موصوف کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ اس غرض کے لئے محمد امین بخارا کی وساطت سے محمد علی پٹھان کو سرحد سے منگوایا گیا اور ایک دن جب کہ مولانا عبدالکریم اور حاجی محمد حسین بٹالوی گورداسپور سے واپس آ رہے تھے۔ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دراصل یہ حملہ مولانا عبدالکریم مباہلہ پر تھا۔ چونکہ قاتل اجنبی تھا۔ تاریکی کے باعث وار ٹھیک نہ کر سکا۔ اس نے عبدالکریم مباہلہ کی بجائے حاجی محمد حسین پر وار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حاجی صاحب شہید ہو گئے اور قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔

حاجی محمد حسین شہید حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے مرید تھے اور یہ واقعہ ۱۹۳۰ء کا ہے۔ جب حاجی محمد حسین کے قاتل کو پھانسی دی گئی تو مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے جنازہ کو کندھا دیا۔ اسے بہشتی مقبرہ میں دفن کیا۔ اس کی مغفرت کے لئے مرزائیوں نے دعائیں کیں۔ بے شک یہ آخری واقعہ کچھ بے تعلق سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ مسلمان کو سمجھایا جا سکے کہ اگر علم الدین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عزت و ناموس کے لئے راجپال کو قتل کرے تو وہ خدا کی سزا کا مستحق یعنی جہنمی ہے اور ایک بے گناہ مسلمان کو شہید کر کے مرزائی اگر پھانسی کی سزا پائے تو وہ جنتی۔

اگر تو مرزائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ؎

بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

تو تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو اور اگر قیامت کے دن پر یقین ہے اور وہاں انسانی اعمال کے حساب وکتاب کا ہونا بھی یقینی امر ہے تو پھر اپنی موجودہ روش پر غور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ عمر رواں کا قافلہ دور نکل جائے اور پھر تم لوٹنا بھی چاہو تو ممکن نہ ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو اور تم دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ۔

زیر نظر ڈائری کا دوسرا حصہ بھی لکھنے کا ارادہ ہے۔ زندگی اور وقت دونوں نے ساتھ دیا تو انشاء اللہ کوشش کروں گا۔

مولانا عبدالرحیم اشعر مبلغ مجلس احرار اسلام لائل پور کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہر مشکل موڑ پر راہنمائی کی۔ (ماہوار مرزا، مورخہ ماہ جنوری ۱۹۵۲ء)

سازش

سازش ایک ایسا لفظ ہے جس کی تفسیر میں اتنا کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے کہ ماضی کے فنکاروں نے مستقبل کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ یہ لفظ اب روزمرہ کی گفتگو میں بطور محاورہ استعمال ہو رہا ہے۔

اگر یہ لفظ سلطنت کے متعلق استعمال کیا جاوے تو اس کے پس منظر انسانی لاشوں کے انبار ہوتے ہیں اور شاہی محلات سے بھڑکتے ہوئے آتش انتقام کے شعلے آسائش عمرانی کو اس طرح جلا کر بے نشان کر دیتے ہیں کہ صدیوں بعد آنے والے سیاح ناخن تدبیر ہی سے اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں۔ ورنہ خاک کے ذرات شاہی سلطنت کو اپنے اندر اس طرح جذب کر چکے ہوتے ہیں کہ ہزار تراش کے بعد وہاں ماضی کا کوئی نقش دکھائی نہیں دیتا۔

اور کبھی سلطنت کے اپنے منہ سے یہ لفظ نکل جائے تو پھر اس کی تشکیل میں جھوٹ کو اس قدر جمع کیا جاتا ہے اور اس پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ رعایا میں سے خاص تعداد کا جھوٹ کے سنگھاسن سے آ کر خون ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی دور کو سیاسی زبان میں پرآشوب دور کہا جاتا ہے۔ ان دنوں ظلم اور انصاف ترازو کے ایک ہی تول تلتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آمریت کے ہاتھوں بے گناہ انسانوں کا خون اپنے ضائع ہونے کی قیمت وصول کرتا ہے۔

اگر یہ لفظ سازش آدمی کی عقل میں بولا جائے تو دوست اور دشمن دونوں کی بھویں تن جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو شبہ کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ پیار چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ محبت کی عبادت نفرت کی پوجا کرنے لگ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آباد گھرانے ویران ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی گھر کی در و دیواریں جاسوس معلوم ہوتی ہیں۔ دوست کی بات بھی دشمن کی طرح سنی جاتی ہے۔ ہواؤں سے خوف آنے لگتا ہے۔ اف کس قدر بھیانک لفظ ہے سازش!

آج یورپ اور ایشیاء میں اسی ایک لفظ کے طفیل ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ ماضی قریب میں ملک شام میں یکے بعد دیگرے جو انقلاب آئے۔ وہ اسی لفظ کی متحرک تصویر تھے۔ ایران اپنے ملک کی معدنیات اگر کسی غیر ملک کو نہ دینا چاہے تو اس پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی شے کا آپ مالک ہے۔ اس پر بزور قوت قبضہ کرنے کی نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ضابطہ حیات کی کوئی اور دفعہ مداخلت کرتی ہے۔ لیکن برطانیہ اور امریکہ پر شاید یہ دونوں آئین لاگو نہیں ہوتے۔ ورنہ وہ روس کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایران کے تیل سے اپنے تاریک مستقبل کو روشن کرنے کی کبھی حرکت نہ کرتے۔

مصر اگر نہر سویز میں کسی سلطنت کا جہاز داخل نہ ہونے دے تو وہ اس پر حق بجانب ہے۔ آسمان و زمین گواہ ہیں کہ نہر سویز کا پانی مصر کی اپنی زمین سے ہو کر گزرتا ہے۔ اپنے وطن کی زمین ہر اہل وطن کو عزیز ہوتی ہے۔ لیکن اقوام یورپ نہ جانے اپنے سوا کیوں کسی دوسری قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتیں۔ وہ اس حق کو اپنے ہی لئے کیوں مخصوص کر رہی ہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر گذشتہ کئی برسوں سے مصر اپنے ظلم کا تختہ مشق کیوں بنایا جا رہا ہے؟

کوریا کی سرزمین انسانی خون سے سرخ کیوں کی گئی۔ محض اس لئے کہ وہاں کی آبادی پر چند دولت مندوں کا اقتدار بحال رہے۔ وہاں کے اچھے بھلے آباد گھرانوں کے بے گھر کر دیا گیا۔ عمارتوں کو خاک کا ڈھیر کر دینے سے ان کے ہاتھ کیا آیا۔ وہاں کے بے خانماں لوگ آج فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ سب ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔

پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا جھگڑا چار سال سے وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا حل طلب قضیہ نہیں تھا کہ جس پر اس قدر وقت ضائع کیا جاتا۔ کتنا صاف سوال ہے۔ جب ہندوستان کی تقسیم وہاں کی آبادی کے لحاظ سے ہوئی ہے تو پھر جس علاقہ کی آبادی میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کیوں پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتی۔ اگر حیدرآباد پر

قبضہ کی دلیل یہی ہے تو پھر کشمیر کے لئے کیوں نہیں؟

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا

چار سال ہونے کو آئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے سیاستدان ہر چھ ماہ کے بعد اپنی سیاسی پٹاری اٹھا کر کشمیر کی طرف چل پڑتے ہیں اور گرمی کا موسم اس خطہ جنت نما میں گزار کر اپنا سا منہ لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کے سیاستدان ہیں۔ ایران کو مرعوب کرنے کی ترکیب ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نہر سویز کے پانی میں تیر کر ایشیاء کی تمام منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لئے منصوبے باندھ سکتے ہیں۔ کوریا کے بے گناہ انسانوں کو اپنے اقتدار کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ تیونس کے مسلمانوں کو آزادی مانگنے کے جرم میں بندوقوں کی سنگینوں اور توپوں کے دہانوں سے باندھ کر ان کے گوشت کا قیمہ کرنے کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ مگر کشمیر کا مسئلہ ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ چار برس سے ان سیاستدانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ سب سازش نہیں؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کیوں جی؟ انگریزی اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی جب مسلمان ممالک نے اپنے آپ کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانی چاہی تو برطانیہ امریکہ اور فرانس تینوں کے ناک سے پسینے کیوں چھوٹنے لگے۔ فرانس، تیونس پر برطانیہ ایران اور مصر پر امریکہ کوریا پر لشکر لے کر چڑھ دوڑے۔ کیوں! آخر آزادی مانگنا جرم کب سے قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ کون سا بین الاقوامی آئین ہے جس کے تحت آدمی آدمی کا غلام رہ سکتا ہے اور پھر یہ جبر مسلمانوں ہی سے کیوں روا رکھا جا رہا ہے۔

ان واقعات کی موجودگی میں پاکستان کے حکمران جو سب سے بڑی اسلامی ریاست کے حکمران ہیں۔ ان کی اسلامی بلاک کی تجویز مضحکہ خیز تجویز نہیں تو اور کیا ہے۔ جب کہ برطانیہ امریکہ اور فرانس جو تمام مسلمان ممالک میں گھس رہے ہیں۔ اس کا چیف اداکار ہمارے ملک کا وزیر خارجہ ہے۔

الاخوان المسلمین کے رہنما السید علی محمود مصری کا بیان میرے مندرجہ بالا واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ کراچی ۷ مئی ۱۹۵۲ء مصری خالص دینی تحریک الاخوان المسلمین کے رہنما السید علی محمود نے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ "پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ خان اینگلو امریکن بلاک کو مضبوط بنا کر دنیائے اسلام کو برطانوی اقتدار کے بے رحم ہاتھوں میں سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا

ہے کہ وہ دنیائے اسلام کی خود مختاری کو ختم کر کے یہاں برطانوی اثر و رسوخ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ چوہدری صاحب کی پالیسی نے بعض اہم مواقع پر اسلامی ممالک کے کاز کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ مصر اور برطانیہ کے مذاکرات کے موقع پر آپ نے دونوں کو قصور وار قرار دے کر ظالم و مظلوم کو ایک ہی لڑی میں پرونے کی سعی کی ہے اور یہ پالیسی مصر کے لئے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ اپنی جنگ آزادی کے لئے مصر کو دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک پاکستان سے جس امداد کی توقع تھی۔ افسوس کہ وہ محض چوہدری صاحب کی برطانیہ نواز پالیسی کے باعث پوری نہ ہوسکی۔" (اخبار آزاد مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۵۲ء)

اسی پر اکتفا نہیں چوہدری صاحب کا اپنا بھائی بند مسٹر مومن (مرزائی) جو کہ امریکہ جماعت شعوب المسلمین کا کارکن ہے۔ کراچی کے مرزائی اور مسلمان ہنگامہ کے بعد کہتا ہے۔

"چوہدری ظفر اللہ خان صاحب صرف پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں بلکہ مشرق وسطی اور بالخصوص مصر اور عرب دنیا کے بھی وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں تیونس، مراکش، ایران اور مصر کی حمایت کر کے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔" (اخبار آزاد مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۵۲ء)

چوہدری سر ظفر اللہ واقعی پاکستان کے علاوہ مصر، ایران، مراکش اور تیونس کے بھی وزیر خارجہ ہیں؟ مرکزی گورنمنٹ کے پاس اس سوال کا جواب کیا ہے؟

اگر مندرجہ بالا دونوں خبریں درست ہیں تو ہماری گورنمنٹ کیوں اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتی۔ چلو ہم مصر کے مسلمان کا بیان غلط تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کا مرزائی مسٹر مومن تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔

دنیا جانتی ہے کہ یہودی اسلام کا کس قدر دیرینہ رقیب ہے۔ آج امریکہ کے اشارے پر عرب دنیا میں یہودیت کا جال جس تیزی کے ساتھ کھلم کھلا پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ رسول کریم کے ارشاد کے خلاف بغاوت نہیں۔

"اخرجوا الیہود والنصاریٰ من جزیرۃ العرب" یہود اور نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔

اگر امریکہ نیک نیت ہوتا تو کیا اس کے اپنے ملک میں یہودیوں کو آباد کرنے کی گنجائش

نہیں؟ فلسطین جیسی پاک سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک قدم سے کیوں ناپاک کیا گیا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ امریکہ اپنی دولت کے زور سے تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے اور اس میں نہ صرف یہودی ہی اس کا پوری طرح معاون ہے۔ بلکہ ہمارے وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ بھی اس جاسوس ٹولے کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ:

”دمشق کا مشہور روزنامہ ”الف باء“ اپنی ۳۰ رجب کی اشاعت میں بیروت کے اخبار العرب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ علامہ یونس البحری جو بیروت کے ذمہ دار حلقوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسے اہم راز کا انکشاف کیا ہے کہ جس کا ممالک عرب اور عالم اسلامی سے گہرا تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ سر ظفر اللہ وزیر خارجہ پاکستان کا چیف سیکرٹری ایک یہودی ہے جس کا نام بولو واٹز ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندہ کا نائب ہے۔

العرب کے نمائندے نے اس خبر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ یہودی سیکرٹری عرب اور اسلامی ممالک کی سیاست سے پوری طرح آگاہ ہے۔ کیونکہ وہ یو۔ این۔ او کی طرف سے ان علاقوں کا دورہ کر چکا ہے۔ چونکہ وہ کچھ عرصہ مصر میں بھی رہ چکا ہے۔ اس لئے وہ حجازی لہجہ میں بخوبی عربی بول سکتا ہے۔ اس کا ایک بھائی اس وقت تل ابیب میں ہے۔ العرب کے مراسلہ نگار کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں مصری سفارت خانہ میں بھی یہودی ملازم ہیں۔ اس سفارت خانہ میں اکثر چست یہودی نوجوان ہیں۔“ (اخبار ہفت روزہ حکومت کراچی مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۵۲ء)

جن لوگوں کو عرب کے کرنل لارنس کے کارناموں کا علم ہے کہ اس نے کس طرح عرب میں رہ کر عربی زبان لہجہ اور عربی لباس پہن کر ترکوں اور عربوں کے درمیان کس قدر خونریز ڈرامہ کھیلا تھا۔ ہمارے وزیر خارجہ کے چیف سیکرٹری بھی ویسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا اس سے مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جاسوس ٹولہ انگریز اور امریکہ کے ایماء پر اسلامی ممالک میں کیا گل کھلائے گا۔

یہودی اور مرزائی کے گٹھ جوڑ سے اسلامی ممالک کس طرح سیخ پا ہو رہے ہیں۔ کاش میرے ملک کے وزیر اعظم عربی اخبارات کے مطالعہ سے اس کا اندازہ کریں اور سمجھیں کہ ان کا لاڈلا وزیر خارجہ یہودیت کے پہلو بہ پہلو کس طرح دنیائے اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے۔

ممکن ہے۔ میری باتوں کو پرانی باتیں کہہ کر ٹال دیا جائے۔ لیکن پرانی نہیں تھا۔ دنیائے اسلام پاکستان کو اپنا سب سے بڑا سہارا خیال کئے بیٹھی ہے۔ اگر یہی سہارا کفر کا سہارا ثابت ہوا تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن جہاں تم سے تمہارے گناہوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وہاں حقوق العباد کی بھی پرسش ہوگی۔ ہمسایہ ممالک کا خیال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت شعاری اسلامی ممالک کو کفر کی آغوش میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دے۔

آؤ! اب اس سلسلہ کی دوسری کڑی پر بحث کریں۔ تقسیم ملک سے پیشتر ہمارا دعویٰ تھا کہ مرزائی مذہبی ٹولہ نہیں بلکہ ایک سیاسی گروہ ہے۔ اس کی پیدائش کی ذمہ داری فرنگی کی گردن پر ہے۔ ہم نے اپنے دعویٰ کی تصدیق میں بہت سی دستاویزات پیش کیں۔ بحمد للہ کہ آج عوام ہمارے مقدمہ کے حق میں ہیں اور خود مرزائی گروہ کا لیڈر مرزا بشیر الدین محمود اپنی اکثر تحریروں سے ہمارے دعویٰ کی تصدیق کر چکا ہے۔ مثلاً: ”سلسلہ کے کاموں کے لئے موزوں افسر نہیں ملتے۔ جو احباب اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اکثر عمر کے ایسے مرحلوں سے گزر رہے ہیں کہ زیادہ عرصہ تک اس کام کو نہیں چلا سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اول تو ایسے نوجوان آگے آئیں جنہیں ذمہ داری کے کاموں پر لگایا جا سکے۔ ان کاموں کو خوبی سے نبھا سکیں اور جب تک ایسے نوجوان تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت تک پنشنر احباب سلسلہ کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تا کہ ایک تو سلسلہ ان کے تجربہ اور قابلیتوں سے فائدہ اٹھائے اور دوسری طرف آخری ایام وہ خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول حاصل کر لیں۔“ (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۲ئ)

اگر بقول مرزائیوں کے یہ تبلیغی جماعت ہے تو پنشنروں کی کیا ضرورت پیش آئی۔ وہ کون سی ایسی خدمات ہیں کہ سلسلہ پنشنروں کے تجربہ اور قابلیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کو پنشنروں کی تلاش نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ وہ تو مبلغ بنانے اور ڈھونڈنے میں مصروف رہتی ہیں۔ لیکن مرزائی جماعت کا لیڈر بار بار کہتا ہے: ”ربوہ ۱۳ اپریل جماعت احمدیہ کی پینتیسویں سالانہ کانفرنس آج یہاں شروع ہوگئی۔ اس کانفرنس میں جو سالانہ بجٹ اور اہم مسائل پر بحث کرے گی۔ جرمنی، سپین، سوڈان، امریکہ اور انڈونیشیا کے نمائندے شرکت کر رہے تھے۔ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی افتتاحیہ تقریر میں کہا کہ اب ہمارا مشن تمام دنیا میں مقبول ہوگیا ہے اور اب وہ دور آگیا ہے۔ جب ہمیں اپنے آئندہ عمل کا منصوبہ تیار کرنا

چاہئے۔" (اخبار تعمیر راولپنڈی مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۲ء)

تبلیغی جماعتوں نے کبھی منصوبے تیار کئے ہیں۔ آئندہ عمل کون سا عمل ہے۔ تبلیغ کرنے والوں کا ماضی اور مستقبل ایک ہوتا ہے۔ ہاں البتہ مبلغوں کے پروگرام ہوتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں شہر قصبہ یا گاؤں میں دین کی تبلیغ کے لئے جانا ہوگا۔ لیکن یہ منصوبہ بندی تو خالص سیاسی زبان کا لفظ ہے۔ اسے کسی لغت سے تبلیغی ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی آج تک کسی تبلیغی جماعت نے اپنے کسی کارکن پر عمر کی قید لگائی۔ کم از کم اتنی عمر ہو تب آپ تبلیغ کریں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس نوجوان نے علوم دینی کی تمام منزلیں طے کر لی ہوں۔ اسے استاد یا مدرس اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو اور نہ ہی کسی کارکن پر شرط کی گنجائش ہوتی ہے۔ مگر مرزا بشیر الدین محمود اپنے سالانہ جلسے کے لئے مرزائی رضاکاروں کو طلب کرتا ہوا یہ شرائط عائد کرتا ہے۔

۱... "کوئی احمدی خادم ایسا نہ ہو جو پانچ سال پہلے کا احمدی نہ ہو۔ کسی احمدی نسل سے نہ ہو اور پھر اس کی سفارش جماعت کا پریذیڈنٹ کرے اور لکھے کہ یہ شخص اعتماد کے قابل ہے۔ اسے حفاظت کے کام پر لگایا جاوے۔

۲.... باہر کی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ فوری طور پر اپنے خدام کی تعداد سے دفتر مرکزیہ کو اطلاع دیں۔ کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ مگر آدمی وہی ہوں جو کم از کم پانچ سالہ احمدی ہوں یا نسلی احمدی ہوں اور جن کے متعلق پریذیڈنٹ سیکرٹری اور زعیم تینوں اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ ہر قسم کی قربانی اور محنت سے کام کریں اور کسی قسم کی غفلت سستی یا غداری کا ارتکاب نہیں کریں گے۔" (الفضل قادیان مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹۵۰ء)

دنیا کی کسی تبلیغی جماعت نے اپنے گھر میں جلسہ کرتے وقت اپنے ہی ساتھیوں پر بداعتمادی کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ سوائے سیاسی جماعتوں کے اس گروہ کے جس نے سازش کر کے حکومت وقت کا تختہ الٹنا ہو۔ ورنہ تبلیغ اسلام کے لئے اس قدر شدید پابندیوں کی ضرورت کیوں ہے۔ ۱۱ جنوری ۱۹۵۲ء کے الفضل میں مرزا بشیر الدین محمود کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو: "ہمارا تناسب فوج میں دوسرے محکموں سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے حقوق کی حفاظت

پوری طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے باقی محکمہ جات (پولیس، ریلوے، فنانس، اکاؤنٹس، کسٹمز، انجینئرنگ) وغیرہ تمام محکموں میں ہمارے آدمیوں کو جانا چاہئے۔"

کیا یہ تبلیغ اسلام کا سبق دیا جا رہا ہے؟ یا سیاسی اقتدار کے حصول کا؟

پھر بقول مرزائی لیڈر کے فوج میں ہمارا تناسب دوسرے محکمہ جات سے زیادہ ہے۔ ملاحظہ ہو فوج میں مرزائی افسروں کی فہرست: "دفتر میں آمدہ اکثر خطوط میں تقاضا کیا گیا ہے کہ کانفرنس نمبر میں شائع شدہ پاکستانی فوج میں قادیانی افسروں کی فہرست کے متعلق کچھ مفصل لکھا جائے۔ چونکہ یہ خالص فوجی معاملہ ہے۔ اس لئے ہم اس پر اپنی رائے کا [illegible] رکھتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ فہرست ہے جو کہ ۱۹۴۷ء میں مرزائیوں نے شائع کر کے خود باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ فیصلہ اس زمانے کی ہے۔ جب کہ انگریز فوج میں کسی گروہ کو مجتمع ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں جب قادیانی افسروں کی تعداد کا یہ عالم تھا تو اس کے بعد حالات کی برہمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیوں نے اس فہرست کو جس قدر بڑھا لیا ہوگا۔ قارئین اب خود ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔" (آزاد لاہور مورخہ ۹ مئی ۱۹۵۰ء)

۱۔۔۔۔۔	بریگیڈیئر نذیر احمد ملک	(میجر جنرل)
۲۔۔۔۔۔	کرنل بی ڈی احمد	(بریگیڈیئر)
۳۔۔۔۔۔	محمد عطاء اللہ کرنل	(بریگیڈیئر)
۴۔۔۔۔۔	کرنل احیاء الدین	(میجر جنرل)
۵۔۔۔۔۔	لیفٹیننٹ کرنل منظور احمد	(بریگیڈیئر)
۶۔۔۔۔۔	میجر اختر حسین ملک	
۷۔۔۔۔۔	میجر حبیب اللہ	
۸۔۔۔۔۔	میجر داؤد احمد مرزا	(بریگیڈیئر)
۹۔۔۔۔۔	میجر شریف احمد باجوہ	
۱۰۔۔۔۔۔	میجر شمیم احمد	
۱۱۔۔۔۔۔	ڈاکٹر سراج الحق	
۱۲۔۔۔۔۔	میجر ظہور الحسن	

۱۳۔۔۔ میجر عبدالحق ملک
۱۴۔ میجر غلام احمد (آئی۔ اے۔ ایس)
۱۵۔۔ میجر فیروز الدین
۱۶۔۔۔۔۔ میجر قاضی محمد احمد (آئی۔ اے۔ ایس)
۱۷۔۔۔۔ میجر محمد اشرف
۱۸۔۔ میجر محمد رمضان
۱۹۔۔۔۔ میجر عطاء اللہ (آئی۔ اے۔ ایس)
۲۰۔۔۔ کیپٹن اقبال احمد شمیم
۲۱۔۔۔ کیپٹن افتخار احمد جنجوعہ
۲۲۔۔۔۔ کیپٹن احمد خان
۲۳۔۔۔ کیپٹن عزیز احمد چوہدری
۲۴۔۔۔۔ کیپٹن سید افتخار حسین
۲۵۔۔۔۔۔ کیپٹن احمد خان ایاز
۲۶۔۔۔۔ کیپٹن اختر محمود (آئی۔ اے۔ سی)
۲۷۔۔۔۔ کیپٹن آفتاب احمد
۲۸۔۔۔۔ کیپٹن احمد محی الدین
۲۹۔۔۔۔ کیپٹن مرزا احمد بیگ
۳۰۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد بھگواب
۳۱۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد آف ڈسیال
۳۲۔۔۔۔ میجر سلطان محمود خان ملک
۳۳۔۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد بٹ
۳۴۔۔۔۔ کیپٹن بدرالدین (آئی۔ اے۔ ایم۔ سی)
۳۵۔۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد
۳۶۔۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد چوہدری
۳۷۔۔۔۔ کیپٹن بشیر احمد

۳۸.. کیپٹن بشیر احمد شیخ (آف بھیرہ)
۳۹.. کیپٹن حبیب خان
۴۰. کیپٹن خورشید احمد
۴۱.... کیپٹن حمید احمد حکیم
۴۲.... کیپٹن شیر محمد خان (ڈی۔ پی۔ آئی)
۴۳.. کیپٹن شیر ولی خان (ڈی۔ پی۔ آئی)
۴۴.... کیپٹن ظہور الحق
۴۵.... کیپٹن سید ضیاء الحسن
۴۶.. کیپٹن غلام احمد چوہدری
۴۷... کیپٹن عزیز اللہ چوہدری
۴۸.... کیپٹن عبدالحمید
۴۹... کیپٹن عبدالحق ملک
۵۰.... کیپٹن عطاء اللہ چوہدری
۵۱.... کیپٹن عمر حیات خان
۵۲.... کیپٹن غلام محمد کھوکھر
۵۳.... کیپٹن عبدالعزیز بشیری
۵۴.... ڈاکٹر عمر دین
۵۵. کیپٹن عطاء اللہ
۵۶.. کیپٹن عنایت اللہ
۵۷.... کیپٹن گل کبیر شاہ
۵۸.... کیپٹن ایف۔ یو خان
۵۹.... کیپٹن محمد یوسف
۶۰.... کیپٹن ظفر اللہ خان
۶۱.... کیپٹن محمد طفیل
۶۲.. کیپٹن محمد مسعود احمد

۶۳۔ کیپٹن ڈاکٹر محمد شریف
۶۴۔ کیپٹن محمد عبداللہ باجوہ
۶۵۔ کیپٹن محمد حیات کسرانی
۶۶۔ کیپٹن چوہدری مظفر علی
۶۷۔ کیپٹن محمد طفیل چوہدری
۶۸۔ کیپٹن ڈاکٹر محمد (جی۔ آئی۔ ایم۔ ایس)
۶۹۔ کیپٹن محمود احمد پھولپوری
۷۰۔ کیپٹن محمد صادق ملک
۷۱۔ کیپٹن محمد اسماعیل
۷۲۔ کیپٹن محمد عمر مہر
۷۳۔ کیپٹن مرزا محمد شفیع
۷۴۔ کیپٹن محمود احمد
۷۵۔ کیپٹن محمد عبدالرحمن
۷۶۔ کیپٹن محمد شریف احمد
۷۷۔ کیپٹن منظور احمد
۷۸۔ کیپٹن محمد اسلم
۷۹۔ کیپٹن چوہدری نصراللہ خان
۸۰۔ کیپٹن نورالدین (آئی۔ جے۔ ایس)
۸۱۔ کیپٹن حشمت اللہ خان
۸۲۔ کیپٹن نظام الدین
۸۳۔ کیپٹن نذیر احمد
۸۴۔ کیپٹن شیخ نواب دین
۸۵۔ کیپٹن محمد اقبال
۸۶۔ کیپٹن محمد نذیر
۸۷۔ کیپٹن ڈاکٹر محمد شاہ

۸۸..... .. کیپٹن منیر احمد خالد

۸۹.. .. کیپٹن محمد علی ملک

۹۰ .. . کیپٹن محمد محسن

۹۱..... کیپٹن محمد امانت (آئی۔ اے۔ این۔ سی)

۹۲.. ... کیپٹن محمد حسن

۹۳.... کیپٹن ایس۔ ایم۔ احمد ممتاز احمد سید

۹۴.. ـ کیپٹن محمد ابراہیم

۹۵.. .. کیپٹن محمد امین درانی

۹۶ .. . کیپٹن رفیع الزمان

۹۷. کیپٹن وہاب الدین

۹۸... .. کیپٹن خورشید احمد چشتی

۹۹. .. لیفٹیننٹ اقبال احمد

۱۰۰..... لیفٹیننٹ ابوالخیر باجوہ

۱۰۱.. ... لیفٹیننٹ آفتاب احمد

۱۰۲ ..... لیفٹیننٹ انور احمد

۱۰۳ . .. لیفٹیننٹ اکرام اللہ

۱۰۴.. .. لیفٹیننٹ بشیر احمد طالب پوری

۱۰۵ . . لیفٹیننٹ او۔ پی۔ آر گرد

۱۰۶...... لیفٹیننٹ سید بشیر احمد

۱۰۷...... لیفٹیننٹ حمید اللہ چوہدری

۱۰۸... .. لیفٹیننٹ رحمت اللہ باجوہ

۱۰۹... .. لیفٹیننٹ سید سعید حسن

۱۱۰.. ... لیفٹیننٹ ستار بخش ملک

۱۱۱. .. لیفٹیننٹ مرزا شریف احمد

۱۱۲.. .. لیفٹیننٹ سید احمد (آئی۔ اے۔ ایم۔ سی)

۱۱۳۔ لیفٹیننٹ صاحب الدین
۱۱۴۔ لیفٹیننٹ شیخ صادق
۱۱۵۔ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ظفر اقبال
۱۱۶ لیفٹیننٹ عزیز احمد چوہدری
۱۱۷۔ لیفٹیننٹ عارف زمان
۱۱۸۔ لیفٹیننٹ عبدالحق
۱۱۹ لیفٹیننٹ عزیز الرحمن
۱۲۰ لیفٹیننٹ عبداللطیف مرزا
۱۲۱ لیفٹیننٹ عبدالکریم
۱۲۲۔ لیفٹیننٹ قاضی عطاء الرحمن
۱۲۳ لیفٹیننٹ عبدالحئی خان
۱۲۴ لیفٹیننٹ غلام محمد اقبال
۱۲۵ لیفٹیننٹ سید عبدالحمید
۱۲۶ لیفٹیننٹ عبدالمنان
۱۲۷ لیفٹیننٹ عبدالحفیظ
۱۲۸۔ لیفٹیننٹ عبدالرحمن
۱۲۹۔ لیفٹیننٹ گل حسن
۱۳۰ لیفٹیننٹ کمال مصطفیٰ
۱۳۱۔ لیفٹیننٹ محمد یوسف خان
۱۳۲ لیفٹیننٹ محمد نواز
۱۳۳۔ لیفٹیننٹ قاضی منظور الحق
۱۳۴ میجر کیپٹن سید مقبول احمد
۱۳۵۔ میجر کیپٹن محمد احمد زاہد
۱۳۶ میجر کیپٹن محمد صفدر راجہ
۱۳۷ میجر کیپٹن مبارک احمد

۱۲۸ میجر کیپٹن سید محمود احمد

۱۲۹ میجر کیپٹن ایم۔ اے سید

۱۳۰ میجر کیپٹن محمد یوسف شاہ

۱۳۱ میجر کیپٹن نذیر احمد

۱۳۲ لیفٹیننٹ سید نصیر محمد شاہ

۱۳۳ لیفٹیننٹ چودھری نصیر احمد

۱۳۴ لیفٹیننٹ نصر اللہ خان

۱۳۵ لیفٹیننٹ محمد یعقوب

۱۳۶ لیفٹیننٹ محمد اسلم چودھری

۱۳۷ لیفٹیننٹ محمد اسحاق

۱۳۸ لیفٹیننٹ نوابزادہ محمد ہاشم

۱۳۹ لیفٹیننٹ منصور احمد

۱۵۰ لیفٹیننٹ ممتاز احمد (آف گجرات)

۱۵۱ لیفٹیننٹ نثار احمد

۱۵۲ لیفٹیننٹ ممتاز احمد

۱۵۳ لیفٹیننٹ ایم۔ این رزاق

۱۵۴ لیفٹیننٹ سید مسعود احمد

۱۵۵ لیفٹیننٹ منظور حسین

۱۵۶ لیفٹیننٹ مظفر احمد

۱۵۷ لیفٹیننٹ محمد عبدالرحمن

۱۵۸ سیکنڈ لیفٹیننٹ اعجاز احمد

۱۵۹ سیکنڈ لیفٹیننٹ بشیر احمد

۱۶۰ سیکنڈ لیفٹیننٹ خان ہمایوں

۱۶۱ سیکنڈ لیفٹیننٹ خلیل الرحمن

۱۶۲ سیکنڈ لیفٹیننٹ طالب حسین

۱۶۳..... سیکنڈ لیفٹیننٹ

۱۶۴..... سیکنڈ لیفٹیننٹ تیمور خان

۱۶۵..... لیفٹیننٹ عبدالسلام

۱۶۶..... فلائٹ لیفٹیننٹ بشیر احمد ملک

۱۶۷..... فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار خان

۱۶۸..... فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالحق

۱۶۹..... فلائٹ لیفٹیننٹ ایم۔ اے لطیف

۱۷۰..... فلائٹ لیفٹیننٹ ایم۔ ایچ اختر (ونگ کمانڈر)

۱۷۱..... فلائٹ لیفٹیننٹ عبداللہ بخش

۱۷۲..... انور ملک (فلائنگ آفیسر)

۱۷۳..... صلاح الدین شیخ (فلائنگ آفیسر، ونگ کمانڈر)

۱۷۴..... محمد سعید (فلائنگ آفیسر)

۱۷۵..... غلام علی (فلائنگ آفیسر)

۱۷۶..... ظفر احمد چوہدری (فلائنگ آفیسر، ونگ کمانڈر)

۱۷۷..... ایم۔ ایم احمد (فلائنگ آفیسر)

۱۷۸..... منصور احمد (فلائنگ آفیسر)

۱۷۹..... سعیداللہ خان (فلائنگ آفیسر)

۱۸۰..... لیفٹیننٹ نواب علی (فلائنگ آفیسر)

۱۸۱..... محمود شفقت (کیپٹن)

۱۸۲..... عصمت اللہ خان (کیپٹن)

اس طویل فہرست کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کا ایک الہام پڑھئے: ”میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں صوبے کے افسر سے چارج لے لیا ہے۔ میں دونوں آدمیوں کو جانتا ہوں۔ لیکن صوبے کا آفیسر تو مجھے یاد رہ گیا ہے اور دوسرے آدمی کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ مگر مصلحتاً میں اس صوبے کے افسر کا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ خواب میں میں حیران ہوں کہ ابھی تو ان کے چارج دینے کا وقت نہیں آیا تھا۔ انہوں نے چارج کیوں دے دیا اور میں سوچتا

ہوں کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو کہیں دفن دیا گیا ہے۔ یا انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ یا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ فوت ہونے کا لفظ تو کسی طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن سارے خیالات کے نتیجے میں اس کا بھی طبیعت پر اثر ہے اور میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سی وجہ ہے جو ان کے عہدے سے قبل از وقت ہٹنے کا باعث ہو سکتی ہے۔"

یہ مورخہ ۲۷ رجنوری ۱۹۵۱ء کا الہام ہے۔ جسے یکم فروری ۱۹۵۱ء کے الفضل نے شائع کیا۔ اس الہامی تحریر کے نشیب و فراز پر اگر سیاسی نقطۂ نظر سے غور کریں تو بہت سی سازشوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس قدر کہوں گا کہ اس الہام کے اکتالیس روز بعد ۹ رمارچ ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی کی مشہور سازش پکڑی گئی۔ جس میں مرزائی اور کمیونزم کا اتحاد تھا۔ اگر حکومت پاکستان تھوڑی سی ہمت کرے اور بشیر الدین محمود کا صحیح تعاقب کرے تو شاید ان بے گناہ انسانوں کے خون جن سے مرزائی لیڈر کا دامن داغدار ہے۔ شہید ملت خان لیاقت علی خان کا خون بھی مسکراتا ہوا نظر آئے۔

اس موقعہ پر ایک مرزائی آفیسر فضل محمد خان ڈپٹی اسسٹنٹ ٹیکنیکل ایڈوائزر آرمی ڈپو راولپنڈی کا ایک خط اپنے لیڈر مرزا بشیر الدین محمود کے نام نقل کرنا خالی از معلومات نہ ہوگا۔

عالی جناب سیدنا مخدومی قبلہ گاہی حضرت خلیفۃ المسیح   السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

التماس ہے کہ میں چار پانچ ماہ سے وارد راولپنڈی ہوا ہوں۔ جس قدر تبلیغی جمود اس شہر میں ہے۔ وہ شاید کہیں نہ ہو۔ اس لئے درخواست ہے کہ شہر راولپنڈی جب کہ یہ آرمی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اس میں تبلیغی ہیڈ کوارٹر بھی ہونا چاہئے۔ حضور کی توجہ کا محتاج ہے۔ اس پر قبضہ ساری آرمی پر قبضہ کے مترادف ہے۔ حضور نے اس شہر کو بار بار ملاحظہ فرمایا ہے۔ معلوم نہیں اس کو کیوں توجہ کے ناقابل سمجھا گیا ہے۔ اول تو میں خود روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے پر ہوں۔ لیکن ماحول سے متاثر ہوتا ہوں۔ حالات یہ چاہتے ہیں کہ ہر احمدی پہلے سے زیادہ چست ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہر احمدی پہلے سے سست ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مجھ پر بھی اثر ہے۔ میں ایک عام آدمی کی طرح جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے کرتا رہتا ہوں اور ہر ماہ سال رواں میں اوسطاً ایک بیعت بھی کروا دیتا ہوں۔ لیکن مالی طور پر خوش الحال نہیں ہوں۔ تالیف و تربیت نو مبائعین بے حد ضروری ہے۔ جس کے نا قابل ہونے کی وجہ سے کوشش معطل ہو جاتی ہے۔ بے حد ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ آدھی درجن سے زیادہ ممبر ٹیچر، کلرک وغیرہ ہیں۔ سب

کے سب ماشاءاللہ ہوش مند ہیں۔ لیکن تنگی کی گزران نہیں ہے۔ میں دفتر میں پرانا ملازم تھا اور خدا کے فضل و رحم کے ماتحت گزیٹڈ آفیسر ہو گیا ہوں۔ اس لئے غیر آدمی حکام کا ایک بڑا حصہ میرے خلاف ریشہ دوانیاں کرتا رہتا ہے۔ پارٹی بازی اور گورنمنٹ پارٹی میں جھگڑا ہے۔ اب اگر میں پختہ ہو جاؤں تو پنشن میں کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن خدا [illegible] رکھے اگر لپیٹ میں آ گیا تو بے حد پریشانی ہوگی۔ حضور سے التجاء ہے کہ میرے لئے دعا فرما دیں کہ مولا کریم مجھے ہر قسم کے آفات و حادثات سے [illegible] رکھے۔ میری سب روحانی جسمانی کمزوریوں کو دور فرما دے اور مجھ پر اپنی رضا کی راہیں کھول دے اور ہر قسم کی قربانی کی توفیق عطا فرما دے۔

حضور کا ادنیٰ خادم: فضل محمد خان: شملوی

راولپنڈی مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۳۹ء

مندرجہ بالا خط نے میرے براہین کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ کس طرح مرزائی تبلیغ کے نام پر در پردہ اسلام اور مملکت خداداد کے خلاف ایک سیاسی محاذ مضبوط کر رہے ہیں۔ اس خط کی ہر سطر سے شرارت کی آگ دور سے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف مسلمان آفیسروں کو حکام بالا کی نظروں میں رسوا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کس بے باکی سے اظہار ہو رہا ہے۔ پھر یہ خط ایک ایسے دفتر سے تحریر کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ہمارے ملک کے بڑے نوجوان شب و روز زندگی اور موت کے نقشے تیار کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ وہ بارود ہے اگر خدانخواستہ یہاں کفر کے شعلے بھڑک اٹھے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔

ان حالات کے پیش نظر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹرز میں انگریز اور امریکہ کے جاسوس کام کر رہے ہیں جن کی رہنمائی مرزا بشیر الدین محمود کر رہا ہے تو حقیقت سے بعید نہیں۔ آئیے اس سلسلے کی تیسری کڑی کے چند واقعات پر غور کریں۔ غالباً ۱۹۵۰ء میں بشیر الدین محمود پر ایک مرزائی نے سوال کیا:

ہم قادیان کب واپس جا سکیں گے۔

جواب میں بشیر الدین محمود نے کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ قادیان کب واپس جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ابھی کوئی یہاں رہنے بھی دے گا کہ نہیں۔ اس لئے میں کہتا ہوں ہمیں اپنی لڑکیوں کے رشتے باہر کے ملکوں میں کرنے چاہئیں۔ تاکہ اگر ہم یہاں سے نکال دیئے گئے

تو ہمارے لئے وہاں پناہ کی جگہ تو ہو۔

اس سوال اور جواب سے بظاہر ایسا معلوم محسوس ہوتا تھا کہ مرزائیت دم توڑ رہی ہے اور اب دم دبا کر بھاگنے والی ہے۔ لیکن یکا یک مولانا احتشام الحق کے بیان نے کایا پلٹ دی۔ وہ فرماتے ہیں۔

رمضان کے دن تھے۔ میں روزے کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں آئے اور مجھ سے کہا آپ نے ہماری جماعت کا لٹریچر پڑھا ہے۔ میں نے پوچھا کون سی جماعت؟ انہوں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ۔ میں نے کہا قادیانی جماعت کا لٹریچر نہ میں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بڑے متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا۔ آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ [ہفت روزہ حکومت سعودیہ ۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء)

مولانا کے اس بیان کے کچھ عرصہ بعد قادیانی امت کا لیڈر مرزا بشیر الدین محمود اپنے سالانہ جلسے کے موقعہ پر ربوہ میں وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ کی موجودگی میں کہتا ہے: "جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اقلیت کو اکثریت پر کوئی حق نہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ان کی دلیل وہی نہیں جو ابوجہل کے حامیوں کی تھی۔ ابوجہل کے حامی بھی یہی کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ چونکہ تعداد میں اقلیت ہیں۔ انہیں اکثریت پر اپنی رائے نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں ان اخبار نویسوں کو اس دلیل کے نتائج سے متنبہ کرتا ہوں اور انہیں فتح مکہ یاد دلانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری حکومت مجھے پکڑ سکتی ہے مار سکتی ہے۔ مگر میرے عقیدہ کو نہیں دبایا جا سکتا۔ میرا عقیدہ فتح پانے والا عقیدہ ہے۔ اور دلیل وہی ہے جیسا کہ فتح مکہ کے بعد ابوجہل کے حامیوں نے رسول کریم ﷺ کے استفسار پر اسی سلوک کی خواہش کی تھی۔ جو حضرت یوسف نے درگذر سے کام لیتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ جب یہ لوگ (مسلمان) مجرموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ میں ان اخبار نویسوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تم بھی میرے یا میرے قائم مقام کے سامنے آکر یہی کہو گے کہ آپ یوسف ہیں اور ہمارے ساتھ یوسف کے بھائیوں کا سا سلوک کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر جو جی میں آئے کہو اور کرو۔ اس موقع پر میں یا میرا قائم مقام تمہارے ساتھ یوسف والا سلوک ہی کریں گے۔"

آخر میں کہا: ”آج ہماری جماعت کو جو قوت حاصل ہے۔ وہ پچھلے سال نہیں تھی اور جو آئندہ سال حاصل ہوگی وہ اس سال نہیں۔“ (اخبار آفاق مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۵۱ئ)

(یاد رہے کہ یہ تقریر تین سو تیرہ (۳۱۳) مرزائیوں کو جن میں پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ بھی شامل تھے۔ سامنے بٹھا کر کی گئی تھی)

مرزا بشیر الدین محمود کی ایک اور تقریر

”اگر ہم محنت کریں اور تنظیم کے ساتھ کام کریں تو ۱۹۵۲ء میں ہم ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہر خادم کو اس عزم سے اس سال تبلیغ کرنی چاہئے کہ اس سال احمدیت کی ترقی نمایاں طور پر دشمن (مسلمان) بھی محسوس کرنے لگے۔ آپ اگر اپنے کاموں پر فریضہ تبلیغ کو مقدم کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھولے ہوئے مسلمان کو ہدایت پر نہ لائیں۔ اپنے ارادوں کو بلند کیجئے کہ خدا کے فرشتے آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کے لئے بے تاب کھڑے ہیں۔ دیر آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گزرنے نہ دیجئے۔ جب احمدیت کا رعب دشمن (مسلمان) اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مٹائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آ گرے۔“ (الفضل مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ئ)

ان تقاریر کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ان پر مزید تبصرہ کیا جائے۔ جب کہ مقرر صاف طور پر اپنے مخالفوں کو آئندہ انقلاب کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ حضور سرور کائنات نے مکہ طاقت سے فتح کیا تھا۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ بن کر پاکستان کو ویسے ہی سلوک کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے کفر کے ساتھ روا رکھا تھا۔

کیا بشیر الدین محمود نے اپنے آپ کو یوسف کہہ کر حضور سرور کائنات ﷺ کے جد امجد کی توہین نہیں کی؟ اور اپنے سیاسی عزائم کا اظہار نہیں کیا۔ اب پہلی، دوسری اور تیسری کڑی کو ملا کر اندازہ کریں کہ ملک کے باہر اور اندرون ملک یہودیوں کے ساتھ مل کر مرزائی کیا نقشہ تجویز کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کو یورپ کے قبضے میں داخل کرنے کے اس سے زیادہ واضح دلائل اور

کیا ہو سکتے ہیں۔

لیکن میرے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین اپنے لاڈلے وزیر خارجہ کی ان حرکات کے بعد بھی اسے سر پہ چڑھا رہے ہیں اور وہ استعفیٰ دینا چاہتا بھی ہے تو منظور نہیں کیا جاتا۔ کراچی ۲۱ مئی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کیبنٹ سے اپنا استعفیٰ وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کے حوالے کر دیا ہے اور وزیراعظم اور گورنر جنرل غلام محمد کو مطلع کر دیا ہے کہ اگر پاکستان میں قادیانیوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا تو وہ پاکستان سے نکل جانے پر مجبور ہوں گے۔" (ویر بھارت مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۵۱ء)

اس سے پیشتر روزنامہ آزاد لاہور اپنی ۱۶ مئی ۱۹۵۲ء کی اشاعت میں بمبئی کے ایک انگریزی اخبار کے حوالے سے اس راز کا انکشاف کر چکا ہے کہ دوسرے ممالک کے وزیراعظم کی کانفرنس کی ناکامی کے بعد سر ظفر اللہ کشمیر کے متعلق پھر سے زیادہ تیز اور سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسے پاکستان کیبنٹ نے پسند نہیں کیا۔ اس کشمکش کے بعد چوہدری صاحب نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی تو اس پر گورنر جنرل وزیراعظم کو مشورہ دیا کہ چوہدری صاحب کا استعفیٰ منظور کر لینا چاہیے۔ لیکن خواجہ ناظم الدین نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔

نوٹ: دونوں اخبارات کی تحریروں کو شائع ہوئے تادم تحریر ۱۴ دن ہو چکے ہیں لیکن سرکاری طور پر ان کی کوئی تردید نہیں ہوئی۔ ایک طرف خواجہ صاحب کی شرافت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف بقول اخبار زمیندار وزیر خارجہ کھیل کھیل رہے ہیں۔

"کراچی ۲۳ مئی۔ نامہ نگار زمیندار کو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جہانگیر پارک کراچی میں جماعت احمدیہ کے پہلے دن کے اجلاس میں ہنگامہ کے بعد پاکستان کے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین اور وزیر صنعت سردار عبدالرب نشتر نے وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اگلے روز مرزائیوں کے جلسے میں شرکت اور تقریر نہ کریں۔ مگر ان دونوں حضرات کے مشورے کو نظر انداز کر کے اگلے دن نہ صرف شرکت ہی کی بلکہ تقریر بھی کی۔ جس پر اور ہنگامہ ہوا۔" (زمیندار مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۵۲ء)

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

سر ظفر اللہ

اور دیگر مرزائیوں کے خطوط

غلام نبی جانباز مرزا

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

گئے وہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں
یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں

سیاسیات میں میری عمر تقریباً تیس برس ہوگی۔ جب مجلس احرار نے استیصال مرزائیت کا عملی بیڑا اٹھایا۔ یہ واقعہ ۱۹۳۱ء کا ہے۔ ان دنوں مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کشمیر کمیٹی کے صدر اور عبدالرحیم درد جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے۔ ان دنوں مرزائیوں کا کشمیری مسلمانوں کے ایمان اور وطن کا لیڈر بن جانے کے دوسرے معنی یہ تھے کہ پنجاب کے مسلمانوں نے کشمیری مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کفر کی آغوش میں پھینک دیا تھا۔

ایک طرف اگر قادیانی وہاں کے سادہ مزاج کشمیریوں کے ایمان پر قبضہ جمانے کی سعی میں کامیاب ہو جاتے تو دوسری طرف انگریز کا گلگت پر بلا شرکت غیرے قابض ہو جانا یقینی تھا۔ چنانچہ یہی وہ سکیم تھی جس کو بروئے کار لانے کے لئے انگریز شاطر نے پنجاب کے ٹوڈی مسلمان کو بطور مہرے کے آگے بڑھایا اور پیچھے ہی کشمیر کی گلپوش وادیوں سے ڈوگرہ شاہی کی سنگینوں سے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے تڑپنے اور کراہنے کی آواز بلند ہوئی۔ پنجاب کا جوش پسند طبقہ آگے بڑھا اور انہوں نے انگریز کے اشارے پر قادیان کے خلیفہ بشیر الدین محمود قادیانی کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنا دیا۔

رہنمایان احرار کی دور رس نگاہوں نے اس مہرے کے نقشے کو دیکھتے اور سمجھتے ہی ڈاکٹر اقبال مرحوم سے ملاقات کی۔ اقبال مشرق و مغرب کے علوم سے آراستہ تھے۔ وہ چوہدری افضل حق کی بات کو سمجھ گئے۔ ان دنوں حضرت انور شاہ صاحبؒ دیوبند سے پنجاب تشریف لائے ہوئے تھے۔ اقبال مرحوم کو ان سے عقیدت تھی۔ حضرت کے سمجھانے پر اقبال مرحوم نے بشیر الدین محمود قادیانی کو تار کے ذریعہ کشمیر کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کا حکم دیا۔

یہ پہلی فتح تھی جو مسئلہ ختم نبوت کے سلسلہ میں مجلس احرار کو نصیب ہوئی۔ پھر اس تحریک کو جو فروغ ہوا۔ ڈاکٹر اقبالؒ نے جس تندہی کے ساتھ مرزائیت کے خلاف قلمی جہاد کیا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی انہیں اپنے دامن میں لئے بیٹھے ہیں۔

تحریک شہید گنج

۱۹۳۵ء کے وسط میں بعض سیاسی ضرورتوں کے تحت پنجاب کی بساط سیاست پر پھر کچھ مہرے نمودار ہوئے اور یکایک لاہور لنڈا بازار کی سو سال پرانی عمارت کو سرکاری کارندوں سے گرا دیا گیا۔ یہ عمارت عہد مغلیہ میں مسجد کے طور پر بنائی گئی تھی اور آج تک مسجد تھی۔ گو سرکاری کرینوں پر کام کرنے والے مزدور سکھ قوم کے دو فرد تھے۔ لیکن ان دو آدمیوں کا بوجھ ساری سکھ قوم پر آ پڑا اور بظاہر مسلمان عوام کی نظر میں سکھ قوم مجرم قرار دی گئی۔ چلو ٹھیک ہے سکھ ہی مجرم تھے۔ مگر جب آگ بھڑک اٹھی تو سرکاری دامن نے اس آگ کا رخ سکھوں کی بجائے مجلس احرار کی طرف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو کل تک دامن مرزائیت کی دھجیاں نوچ رہے تھے۔ مجلس احرار سے برسرپیکار نظر آنے لگے۔

مرزا بشیر الدین محمود قادیانی جو اس سے پیشتر پنجاب چھوڑ کر صوبہ سندھ کو اپنا مرکز بنا رہا تھا اور سادہ لوح مرزائیوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی جمع شدہ روپیہ سے خریدی ہوئی جائیداد نئے مرکز میں تبدیل کر رہا تھا۔ اس ہماہمی میں اس کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سے جم گئے اور اس نے مسلمانوں کے قلعہ میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کا لباس پہن کر مجلس احرار پر پتھراؤ شروع کر دیا۔

مستقبل کی تحریک گواہی دے گی کہ ان دنوں مسلمان نے اس قدر مجلس احرار پر تشدد نہیں کیا۔ جس قدر مرزائیوں نے مسلمان بن کر کیا۔ چنانچہ خود مرزا محمود قادیانی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تحریک شہید گنج میں مجلس احرار کے خلاف ہزاروں روپے کے اشتہار تقسیم کئے گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو قتل کرنے کے لئے ایک سکھ کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اس واقعہ کی تفصیل کے لئے میری دوسری کتاب "تین کردار" کا انتظار کریں۔ آخر وقت آیا کہ غلط فہمیوں کے تمام بادل چھٹ گئے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہا۔ گو اقتدار پرست لوگ وقتی طور پر اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن مرزائیت کو پھر بھی منہ کی کھانی پڑی۔

قادیان میں دفعہ ۱۴۴

اسی سال کے اختتام پر انگریزی نبی کے دارالخلافہ قادیان میں مسلمانوں پر نماز جمعہ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ انگریز اپنے نبی کی حفاظت کے لئے کیل کانٹے سے لیس ہو کر سامنے آ گیا۔ ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور جیل خانہ کی تمام صعوبتوں کو مد نظر رکھ کر مجلس احرار کے رہنما انگریز کے عسکری نظام سے برسر پیکار ہو گئے۔ ایک ماہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اپنے اقدام کی آپ ہی مذمت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کو قادیان میں نماز جمعہ پڑھنے کی عام اجازت ہو گئی۔ یہ مرزائیت پر مجلس احرار کی دوسری فتح تھی۔

تقسیم ملک کے بعد

آدمی جب آدمیت سے عاری ہو جاتا ہے تو پھر اسے عقل و خرد کی کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ ایسے میں وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر جو راستہ اپنے مستقبل کے لئے تجویز کرتا ہے۔ وہ راستہ نیکی کا راستہ نہیں ہوتا۔ بلکہ معصیت اور برائی کی تمام خوبصورتی ان راہوں پر بکھری پڑی ہوتی ہے۔ جس سے گذرتے وقت وہ خوشی اور مسرت سے پاگل ہو جاتا ہے۔

۱۹۴۷ء کا سال انسانوں کے لئے ایسا ہی سال تھا۔ اس میں انسانوں نے سب کچھ کھو دیا۔ یہاں تک کہ انسانیت بھی ضائع کر دی۔ اس سال جو دولت ضائع ہوئی تھی۔ وہ دوسرے سالوں میں پھر حاصل ہو جائے گی۔ عمارات جو راکھ کا ڈھیر ہو گئی ہیں۔ پھر سے استوار کر دی جائے گی۔ افراد جنہیں موت نے اٹھا لیا ان کا نعم البدل قدرت کے ہاں سے مل سکتا ہے۔ لیکن جو چیز کھو کر نہیں مل سکتی۔ وہ عورت کی عصمت ہے۔ ۱۹۴۷ء کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔

اس پر آشوب دور سے جب ذرا فرصت ملی اور آنکھوں کے سامنے سے لہو اور کانوں میں مظلوم خون کی صدا کم ہوئی تو زمانے نے احرار نے مملکت خداداد کو ایسے لوگوں کے نرغے میں گھرا ہوا پایا جس کا حصار تنگ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ سلطنت جس کی بنیادوں میں ساٹھ ہزار عورتوں کی آبرو اور دس لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون دیا گیا تھا۔ کفر کے اقتدار میں آ جاتی۔ چنانچہ چار برس کی مسلسل چیخ و پکار کے بعد ملک اس سازش سے آشنا ہو گیا۔ جس سے پاکستان کے استحکام کی تمام دیواریں منہدم ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس کا سرغنہ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی اور ربوہ

اس خوفناک سازش کا مرکز تھا۔

ایک زمانہ تھا جب مسلمان مرزائیوں کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن احرار رہنماؤں نے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دی اور ایک ایک کان میں کہا کہ مرزائی پاکستان کے اندر بھارت اور انگلستان کا جاسوس ہے۔ یہ درست ہے کہ اکثر اوقات ہماری آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی اور اس سے بھی انکار نہیں کہ اس راہ میں چلتے چلتے ہمارے کانوں نے ایسی آوازیں بھی سنیں کہ جن آوازوں میں دشنام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر ہم سمجھتے تھے کہ ان آوازوں میں اکثر آوازیں مرزائیوں کی ہیں۔ جنھوں نے مسلمانوں کا سا میک اپ کیا ہوا ہے۔ مگر عزم بلند اور ارادے کی پختگی ہمیں ان راہوں سے ہٹا نہ سکی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے سامنے دنیا کی عزت نہیں بلکہ آخرت کا سودا ہے اور یہ سودا جان دے کر خریدنا پڑتا ہے۔

آج پاکستان کے در و بام سے ہم آہنگ ہیں۔ قوم کا ایک ایک فرد ہماری سر سے سر ملا کر وہی گیت گا رہا ہے۔ جسے کل تک بے وقت کی راگنی کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی جارہی تھی۔ ہماری آواز تو فقیروں کی آواز تھی۔ شاید اس کا گذر کاخ امراء تک ہوتا کہ نہ ہوتا۔ لیکن اب تو وزیر بھی کہنے لگے ہیں: ”دوسری چیز جس میں آج ایک غصہ ایک رنج اور ایک شورش محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا باعث مسلمان نہیں بلکہ احمدیوں کی روش ہے۔ اس لئے اس قرارداد کے دوسرے حصے سے جدا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اس خرابی چپقلش، بے اطمینانی کی تمام تر ذمہ داری احمدیوں کے غلط عقائد پر جاتی ہے۔“

یہ الفاظ میاں ممتاز دولتانہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ۲۷ جولائی ۱۹۵۲ء کو پنجاب لیگ کونسل کے اجلاس میں کہے۔ آج سے پانچ برس پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی وہی کچھ کہے گا جو پنجاب کا امیر شریعت کہہ رہا ہے۔ بلکہ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر محمد منیر اور جسٹس عطاء محمد جان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ”احمدیوں کا وجود مسلمانوں کے لئے مسلسل اشتعال انگیزی کا باعث ہے اور مرزائیت کی تبلیغ مسلمانوں کے اشتعال دلانے کے لئے کافی ہے۔“

(اخبار مجاہد مورخہ ۲۱ مارچ ۱۹۵۲ء)

(یاد رہے کہ ملکوال میں ایک مرزائی غلام محمد کو ایک مسلمان محمد اشرف نے قتل کر دیا

تھا۔ سیشن کورٹ نے محمد اشرف کو حبس دوام کی سزا دی تھی۔ لیکن اس سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں غلام محمد مرزائی کی بیوی نے درخواست دی تھی کہ محمد اشرف کو سزائے موت ملنی چاہئے۔ اس پر ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے فیصلے کے دوران میں مندرجہ بالا الفاظ کہے تھے)

پھر ایک سو چوالیس

جون ۱۹۵۲ء کے شروع میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا کہ صوبے میں بعض حالات کی بناء پر دفعہ ۱۴۴ کا نفاذ کیا جاتا ہے اور جولائی ۱۹۵۲ء کو آخر میں یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ اس عرصہ میں پنجاب بھر میں گرفتاریاں ہوئیں۔ لاٹھی چارج کیا گیا۔ اشک آور گیس سے کام لینا پڑا۔ یہاں تک کہ گولیاں بھی چلیں۔ یہ تمام حادثات ہوئے اور ہو کر ختم ہو گئے۔ لیکن ان کی یاد کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ شاید قیدی اپنے ایام اسیری بھول جائیں۔ گجرات پولیس کی لاٹھیوں کے زخم مندمل ہو جائیں۔ لیکن ان ماؤں کے زخم کون اچھے کر سکتا ہے جن کے لال ملتان میں شہید کر دیئے گئے۔ ان بہنوں کے آنسو کون پونچھ سکتا ہے جن کے بھائی لوٹ کر انہیں نہیں مل سکیں گے۔ وہ باپ کیسے چپ رہ سکتے ہیں جن کا عصائے حیات ملتان کے بازاروں میں ٹوٹ کر رہ گیا ہو۔ ان معصوم بچوں کا داغ یتیمی کون دھو سکتا ہے۔ جن کے باپ اچھے بھلے بازار گئے لیکن واپس نہ آ سکے۔

لاریب

یہ مسئلہ اتنی ہی بڑی قربانی کا تقاضا کرتا تھا اور یہ اسی خون کا اثر تھا کہ ۲۷ جولائی کو پنجاب لیگ کونسل کے اجلاس میں ہر کونسلر کہہ اٹھا کہ: "ربوہ کا جائزہ لینے سے محسوس ہونے لگا ہے کہ مرزائیوں نے پاکستان میں ایک الگ حکومت قائم کر دی ہے۔ ربوہ دراصل ایک سازشی مرکز ہے۔ حکومت نے مرزائیوں کو چناب کے کنارے ایک علیحدہ مرکز دے کر انہیں خلاف ملک و ملت سازشوں کا موقعہ دیا ہے۔" (حضرت مفتی قریشی لائل پور)

"مرزائی پاکستان میں جدا حکومت کر رہے ہیں۔ مرزائی مبلغ تبلیغ کے بہانے دنیا میں کفر اور ارتداد پھیلا رہے ہیں اور آپ نے حکومت پر زور دیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے۔ ورنہ ملک میں آج جو اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس کا دور ہونا ناممکن ہے۔"

(محمد صادق ایم۔ ایل۔ اے لائل پور)

"اگر حکومت عبدالغفار خان کو محض اس بناء پر گرفتار کر سکتی ہے کہ انہوں نے پٹھانستان کے نام پر ایک نئی حکومت بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو پھر حکومت مرزا محمود کو گرفتار کیوں نہیں کرتی۔ جس نے پاکستان میں ایک نئی حکومت قائم کر رکھی ہے اور جو اس کا سربراہ بنا بیٹھا ہے۔ ان کے اپنے محکمے اور اپنی وزارتیں ہیں۔ یہ وزارت خارجہ پاکستان کی نہیں یہ مرزا محمود قادیانی کی وزارت خارجہ ہے۔" (میاں محمد حسین ایم۔ ایل۔ اے گوجرانوالہ)

غرض ہر طبقہ اور رنگ جہاں سے یہی راگ گایا جا رہا ہے کہ مرزائیت کو الگ اقلیت قرار دیا جائے اور خود ربوہ کا ڈکٹیٹر مرزا بشیر الدین محمود بھی مسلمانوں کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے: "میں نے اپنے ایک نمائندے کی معرفت ایک بڑے ذمہ دار انگریز آفیسر کو کہلا بھیجا ہے کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں۔ جس پر اس آفیسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں۔ تم ایک مذہبی فرقہ ہو۔ اس پر میں نے کہا کہ پارسی اور عیسائی بھی تو مذہبی فرقے ہیں۔ جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی کئے جائیں۔ تم ایک پارسی پیش کرو اس کے مقابلے میں میں دو دو احمدی (مرزائی) پیش کرتا جاؤں گا۔" (الفضل مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء)

اور سنو اخبار ڈیلی میل کے نامہ نگار کو جولائی ۱۹۵۲ء میں ایک بیان دیتے ہوئے بشیر الدین محمود قادیانی کہتا ہے: "اگر میری جماعت کو اقلیت قرار دے دیا گیا تو میں فوراً اپنے پیروؤں کو حکم دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہلانے کی بجائے مسلم کہلانا شروع کر دیں۔ ہم احمدی اس لئے کہلاتے ہیں کہ ہمارے بانی نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا کہ ہم مردم شماری میں اپنے آپ کو احمدی لکھوائیں۔"

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ اگر حکومت انہیں اقلیت قرار دے تب وہ مسلمان کہلانا شروع کر دیں گے۔ اس سے زیادہ واضح اور صاف سوال کیا ہو سکتا ہے۔ اس لئے گورنمنٹ پاکستان کو چاہئے کہ مسلمانوں کی نہیں تو مرزا بشیر الدین محمود کی ہی بات مان لے۔

تشدد کا الزام

ایک سو چوالیس کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک بیان میں یہ الزام عائد کیا کہ احراریوں اور احمدیوں کے درمیان تصادم بڑھتا جا رہا ہے۔ نیز ہوم سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ احراری رہنماؤں کی تقریروں سے تشدد کا پرچار ہوتا ہے۔ لہٰذا صوبہ کے امن کی بحالی کے لئے مندرجہ بالا دفعہ ضروری سمجھی گئی ہے۔

یہ ایک الزام تھا جو گورنمنٹ پنجاب نے مجلس احرار کے دامن پر لگایا تھا۔ حالانکہ وہ تین برس کے اندر اندر جس قدر مرزائی پنجاب میں مارے گئے۔ ان تمام کے مقدمات کی اگر تحقیق کی جائے تو یقیناً احرار کا دامن اس سلسلے میں کورا نظر آئے گا۔ اگر وہ مذہب کے سوال پر قتل ہوئے ہیں یا خانگی جھگڑوں کی بناء پر تو دونوں صورتوں میں مجلس احرار کیوں مجرم ہے؟ کیا اچھا ہوتا کہ پنجاب گورنمنٹ مجلس احرار پر تشدد کا الزام لگانے سے پہلے ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیتی۔ انہیں یقین ہو جاتا کہ احرار رہنما ایسے نہیں ہیں جیسے کہ انہیں خیال کر لیا گیا ہے۔ میاں ممتاز دولتانہ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے انگریز سے دریافت کرتے تو باوجودیکہ احرار انگریز کے آج بھی ویسے ہی دشمن ہیں۔ جیسے کل تھے۔ یقیناً فرنگی کی رائے الگ نہ ہوتی جیسی پنجاب گورنمنٹ کی ہے۔

احرار اپنی پشت پر ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ اس تاریخ کے ایک ایک ورق پر ہمارے خون کے چھینٹے ہنوز اسی طرح ابھر رہے ہیں جیسے کہ ان کی رنگت روز اول میں تھی۔ لیکن تیس برس کی ساری تاریخ میں ایک نشان ایسا نہیں جو اجنبی کے خون کا ہو یا وہ خون ہمارے ہاتھوں سے گرا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر ڈگلس ینگ، بخاری کو اپنی عدالت سے رہا کرنے کی بجائے پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتے۔ باوجود اس کے اس کیس میں پنجاب کا فرعون مزاج وزیر اعظم سر سکندر حیات ایک فریق کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے برعکس ربوہ کے ”گرو“ بشیر الدین محمود کے جسم پر ایسے بے گناہ لوگوں کے خون کے داغ چمک رہے ہیں۔ جو راز ہائے درون پردہ سے آشنا ہو چکے تھے۔ ایسے مجرموں کی فہرست اس قدر طویل ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس گرہ کو کھولنا چاہے تو اسے کوئی دقت محسوس نہ ہوگی۔ ہاں! حسن تدبیر کو ذرا سی حرکت دینی پڑے گی۔ فخر الدین ملتانی اور مولوی محمد حسین بٹالوی کا خون تو ابھی کل کی بات ہے۔ شاید قادیان کے بازاروں سے یہ خون ابھی خشک نہ ہوا ہو۔

ممکن ہے اسے داستان سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن بشیر الدین محمود تو اب بھی کہہ

رہا ہے۔" ہاں! آخری وقت آ پہنچا۔ ان تمام علماء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جنہیں شروع سے لے کر آج تک بے خوفی سے قتل کرواتے آئے ہیں۔ ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔

۱..... عطاء اللہ شاہ بخاری سے۔

۲..... ملا بدایونی سے۔

۳..... ملا احتشام الحق سے۔

۴..... ملا محمد شفیع سے۔

۵..... ملا مودودی (پانچویں سوار سے)" (الفضل قادیان مورخہ ۱۵/ جولائی ۱۹۵۲ء)

پھر فرزندان قادیان کے نام سے مرزائیوں کی ایک انقلابی پارٹی کا ظہور میں آنا اور ساتھ ہی پنجاب کے مقتدر علماء کرام مولانا احمد علی، مولانا ابوالحسنات و دیگر رہنمایان ملت کو قتل کی دھمکیاں دینا۔ کیونکہ مرزائیوں میں اتنی جسارت نہیں، کفر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سی۔ آئی۔ ڈی کہاں ہے؟ جو مرزا بشیرالدین محمود کو گرفتار نہیں کرتی۔ وہ لوگوں کو قتل پر ابھار رہا ہے۔ پھر یہ کوئی خفیہ سازش نہیں۔ بلکہ واضح طور پر ۱۵/ جولائی کے الفضل اور ۳/ اگست کے اخبار میں یہ تحریریں موجود ہیں۔ نہ جانے ہماری گورنمنٹ کی نظر سے ایسی خونی تحریریں کیوں اوجھل رہتی ہیں۔ اگر نہیں تو کیا وہ ایسی تحریروں کو امن پسند خیال کرتی ہے؟ حالانکہ تشدد کی واضح اور کھلم کھلا تبلیغ ہو رہی ہے۔ پنجاب پولیس کیوں غافل ہے۔ اگر کسی مرزائی کو مسلمانوں کے ہاتھوں پھول کا کانٹا بھی چبھ جائے تو پاکستان گورنمنٹ کی ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن بشیرالدین محمود ربوہ میں بیٹھ کر اشتعال انگیز تقاریر کر رہا ہے۔ انقلابی پارٹیاں بن رہی ہیں۔ لوگوں کو قتل پر ابھارا جا رہا ہے اور پھر مرزا بشیرالدین محمود کی زندگی کا آئینہ اس قدر روشن ہے کہ اس میں سے اس کے گذشتہ کردار کے خدوخال واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ باوجود اس کے پنجاب پولیس خاموش ہے۔ کوئی تحقیق نہیں۔ کوئی گرفتاری نہیں۔ سارا ملک چیخ رہا ہے ؎

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

وزیر خارجہ

چوہدری سرظفر اللہ پر تمام پاکستان عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے اور خود پاکستان گورنمنٹ کے ذمہ دار افراد وزیر خارجہ کی گذشتہ کارگذاریوں سے خوش نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسے کام تو یکسوئی کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر ذہن متوجہ ہو تو کوئی کام سرانجام نہیں دیا جا سکتا۔ چوہدری سرظفر اللہ کو اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ مرزائی ہیں اور قادیان ان کا مقدس مقام ہے۔ وہ ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ ان کے نبی (غلام احمد قادیانی) کی قبر ابھی تک تو وہاں ہے۔ لازمی ان کے ذہن پر اس کا بوجھ ہونا چاہئے۔ چنانچہ وہ اپنے اکثر نجی خطوں میں اس ذہنی پریشانی کا اظہار کر چکے ہیں۔ حالانکہ جن دنوں یہ خط تحریر کئے گئے۔ ان دنوں پاکستان کے مسلمان واہگہ کے اس پار بیٹھے خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ایسے میں ظفر اللہ کو اگر کچھ فکر تھی تو تو وہاں کی، اور ہونی بھی چاہئے۔ ایسے آدمی کو فوراً اپنے عہدے سے یا استعفیٰ دے دینا چاہئے۔ یا پھر گورنمنٹ کو انہیں الگ کر دینا چاہئے۔ کیونکہ ان کو رات دن اپنے مقدس مقام کی فکر رہتی ہے۔ وہ امور سلطنت میں کیسے دلچسپی لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ کشمیر کے مقدمے میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے۔ مندرجہ ذیل خطوط اخبار زمیندار اور آزاد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان سب کا اصل موجود ہے۔

جانباز مرزا

مورخہ ۲ اگست ۱۹۵۲ء، لائل

پھر

سرظفر اللہ کے خطوط

پہلا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیارے بشیر!   السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

میں بفضل اللہ ۱۲ کو یہاں پہنچ گیا تھا۔ ۱۳ کی صبح کو ناشتہ دمشق کیا۔ دوپہر کا کھانا استنبول کھایا۔ شام کا کھانا لندن چوہدری محمد اشرف صاحب کے یہاں۔ اسی موقع پر مسجد والوں کو حالات سے آگاہ کیا۔ رات ہوٹل میں بسر کی۔ ۱۵ کی دوپہر کو لندن سے روانہ ہوئے۔ شام کو Iceland پہنچے۔ شام کا کھانا یہاں کھایا۔ انجن میں نقص ہونے کی وجہ سے ۵ گھنٹے یہاں ٹھہرنا

پڑا۔ نصف شب یہاں سے روانہ ہو کر دوسرے دن قبل دوپہر نیو یارک پہنچ گئے۔ ۱۹ کو میں اپنے معائنہ کے لئے بوسٹن گیا اور ۲۲ کو یہاں واپس آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ بحمد اللہ تسلی بخش ہے۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے خلیل احمد ناصر کو فون کیا تھا۔ انہیں ان دنوں تعطیل تھی۔ وہ ۲۱ کی صبح کو یہاں پہنچ گئے۔ پرسوں شام واپس شکاگو گئے ہیں۔ U.N.O کی کارروائی میں ابھی تک ہم واقعتاً کوئی حصہ نہیں لے سکے۔ کیونکہ ابھی ہمارے داخلہ کی رسوم مکمل نہیں ہو سکیں۔ کل انشاء اللہ ہمارا داخلہ ہو گا۔

موسم یہاں بہت خوشگوار ہے اور باقی حالات بھی اچھے ہیں۔ لیکن قادیان کے حالات کی وجہ سے ہر وقت سخت پریشانی رہتی ہے اور تمام وقت بے کلی میں گذرتا ہے۔ ابھی تک گھر سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے یہاں کا پتہ دوسری طرف لکھ دیا ہے۔ آپ فوراً تفصیلی خط لکھیں اور متواتر دو تین دن کے وقفہ پر لکھتے یا لکھواتے رہیں۔ تاکہ جماعت اور قادیان اور اپنے عزیزوں کے متعلق مجھے پوری اطلاع ملتی رہے۔ عام Air letter پر دو آنے کا ڈاک ٹکٹ لگا دیا جائے تو یہاں خط مل جاتا ہے۔

اعجاز کو پیار اور احمد، نصیر اور عطاء اللہ کو سلام اور زینب احمد کو سلام، عزیزاں کو پیار۔ اللہ تعالیٰ تم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین!

والسلام!

خاکسار ظفر اللہ خان!

(روزنامہ الفضل لاہور مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۵۲ئ)

دوسرا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیارے بشیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تمہارا محبت نامہ ۲ اکتوبر کا لکھا ہوا ملا۔ جزاکم اللہ۔ اس اثناء میں تین چار خط بھوپال سے لکھے ہوئے بھی مل گئے ہیں۔ وہاں تو بفضل اللہ خیریت ہے۔ قادیان کی خبروں سے دل بہت بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگذر فرما کر پھر امن اور اطمینان عطا فرمائے۔ آمین!

عزیز رشید احمد کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملنے کے متعلق بہت تشویش ہے۔ امید ہے اب تک عزیز واپس آ چکا ہو گا۔ اس کی خیریت سے اطلاع دیں۔ میں انشاء اللہ پرسوں ایک ہفتہ

کے لئے پٹس برگ، کلیولینڈ، شکاگو جماعتوں سے ملنے کے لئے جاؤں گا۔

اسمبلی کا کام تو ابھی لمبا چلے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں نومبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اس لئے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً جواب لکھ دینا۔ میں شاید رستے میں دمشق دو تین دن ٹھہروں۔ تاکہ وہاں کی جماعت سے ملاقات ہو سکے۔ آگے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ احمدہ کو سلام، عزیزہ ال کو پیار۔ اعجاز کو پیار اور سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین۔ والسلام

خاکسار: ظفر اللہ خان

(روزنامہ سفینہ لاہور مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۵۲ء)

تیسرا خط

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم!

پیارے بشیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تمہارا محبت نامہ مورخہ ۱۴ / اکتوبر کو ملا۔ جزاکم اللہ۔ میں یہاں سے ۱۸ / اکتوبر کی شام کو روانہ ہو کر جماعتوں کے دورہ کے لئے گیا تھا۔ رات واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سفر کے دوران میں پٹس برگ، کلیولینڈ اور شکاگو کی جماعتوں کو اصلاح، قربانی اور تبلیغ کے متعلق تلقین کرنے کا بہت عمدہ موقعہ مل گیا۔

یہاں اسمبلی کا کام تو ابھی بہت لحاظ سے ابتدائی مراحل میں ہے۔ ایک فلسطین کے قضیہ کے متعلق ہی کچھ طے ہونے میں نہیں آتا۔ لیکن کچھ تو میری طبیعت بھی اکتائی ہوئی اور اداس ہے اور پھر حضرت صاحب کا ارشاد موصول ہوا ہے کہ میں کام ختم ہوتے ہی فوراً واپس پہنچ جاؤں۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ واپسی کے سفر کے دوران میں دمشق بھی ٹھہروں۔ لیکن اب یہ ارادہ ترک کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ وسط نومبر تک واپس کراچی پہنچ جاؤں گا۔ آگے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ پروگرام طے ہو جانے پر شعبان صاحب کے پتہ پر تار دے دوں گا۔ آپ ان سے یہ انتظام کر لیں کہ وہ اطلاع ملتے ہی آپ کو اطلاع کر دیں۔

آخری اطلاعیں جو قادیان کے متعلق ملی ہیں۔ ان سے مترشح ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے فضل سے حالات سدھرنے کی توقع ہوسکتی ہے۔ وہ اپنے فضل و رحم سے ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں سے درگذر فرماتے ہوئے امن اور اطمینان کی صورت پیدا کردے۔ آمین!

یہاں موسم ابھی تک بہت خوشگوار ہے۔ بلکہ اس وقت کے لحاظ سے کسی قدر گرمی ہے۔

ہمارے بلجیت کا خط دہلی سے آیا ہے کہ میرا مکان وغیرہ سیالکوٹ میں سب جلا دیا گیا ہے۔ اب بالکل مفلس و بیکار ہوں۔ اگر روزی کمانے میں کوئی مدد ہوسکتی ہو تو کرو۔ اعجاز اور رحم اگر پسند کریں تو اسے ہمدردی کا خط لکھ دو۔ اس کا پتہ "11 Court Rd Delhi" ہے۔

شاہنواز سے کہہ دیں اس کا خط مل گیا ہے۔ جزاہ اللہ۔ اب میں خود بھی واپس آنے والا ہوں۔ احمد کو سلام۔ عزیزہ ان کو پیار۔ اعجاز کو سلام۔ امید ہے عزیز رشید احمد بفضل اللہ بخیریت واپس پہنچ گیا ہوگا۔ نصیر اور عطاء اللہ کو سلام اور پیار اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین!

والسلام!

خاکسار: ظفر اللہ خان

[روزنامہ الفضل لاہور مورخہ ۲۱ جولائی ۱۹۵۲ء]

چوتھا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیارے بشیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تمہارا ۵ نومبر کا لکھا ہوا محبت نامہ چند روز ہوئے ملا۔ جزاکم اللہ! اس اثناء میں تمہیں میرا بھی ۶ نومبر کا لکھا ہوا خط مل چکا ہوگا۔ آج یہاں اسمبلی میں باقی کام تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی فلسطین کا قضیہ باقی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید ۲۶، ۲۷ تک یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے۔ اس صورت میں میں ان شاء اللہ ۲۹ کو یہاں سے روانہ ہوکر ۳۰ کو دمشق پہنچوں گا اور ۳ کو وہاں سے روانہ ہوکر ۵ کی صبح کو کراچی پہنچوں گا۔ اگر مزید کوئی اور اطلاع آپ کو نہ ملے تو آپ بھی

اندازہ رکھیں کہ میں انشاء اللہ ۵ر ستمبر کی صبح کو Pan Amarican Service Flight پر کراچی پہنچوں گا۔ مجھے چند دن ہوئے پاکستان کی حکومت کا تار ملا تھا کہ وزیر مال عنقریب امریکہ پہنچنے والے ہیں۔ تمہارے متعلق بہت ضروری کام ہے۔ تم ان سے ملنے کے بعد امریکہ سے روانہ ہونا۔ میں نے جواباً تار دے دیا تھا کہ میرا ارادہ یہاں سے ۲۹ کو چلنے کا ہے۔ مزید ٹھہرنا میرے لئے مشکل ہے۔ اس کا کوئی جواب وصول نہیں ہوا۔ سو امید ہے انشاء اللہ اس پروگرام کے مطابق روانہ ہو سکوں گا۔ اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو بروقت اطلاع دینے کی کوشش کروں گا۔

احمد کو سلام، عزیزاں کو پیار، اعجاز نصیر، عطاء اللہ کو پیار، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین!

والسلام!

خاکسار: ظفر اللہ خان

(روزنامہ الفضل ربوہ مورخہ ۲۲ر جولائی ۱۹۵۲ء)

مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان کا ایک خط

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی عبدہ المسیح الموعود

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

ربوہ دارالہجرت خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ہوالناصر ۱۹ر جولائی ۱۹۵۲ء

برادران! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ نے ربوہ میں زمین خریدی اور سمجھ لیا کہ اپنے اخلاص کا ثبوت دے دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ سے سخت دشمنی کی ہے۔ اتنے عرصہ سے آپ نے زمین خریدی ہوئی ہے۔ لیکن نہ نقشہ پاس کروایا ہے۔ نہ چاردیواری بنوائی ہے۔ نہ کوئی کمرہ بنوایا ہے۔ حالانکہ ایک دو نوکروں کے کمرے یا باورچی خانہ، غسل خانہ کے کمرے بنوا لیتے۔ تب بھی ربوہ کی حفاظت کی صورت ہوتی۔ اب یہ حالت ہے کہ اس قدر مخالفت میں ربوہ ننگا پڑا ہے۔ جو لوگ مکان بنوانا چاہتے ہیں۔ ان کے راستہ میں آپ کھڑے ہیں اور دشمن کو ربوہ پر حملہ کرنے کی دعوت

دے رہے ہیں۔ اگر باورچی خانہ کا کمرہ ہی آپ بنا لیتے تو کم سے کم کوئی احمدی اس میں کرایہ پر رہتا اور ربوہ کی حفاظت کا موجب ہوتا۔ مگر آپ نے یہ نہیں کیا۔ بلکہ دشمن کو شرارت کرنے کی دعوت دی اور اس پر مطمئن رہے کہ آپ نے سستے داموں زمین خرید لی ہے۔ مگر ربوہ ہی نہ رہا تو آپ کے مکان کہاں رہیں گے۔ آخر سلسلہ کی کچھ تو غیرت آپ کے دل میں چاہئے تھی۔

اب میں نے حکم دیا ہے کہ آپ کی دی ہوئی قیمت آپ کو واپس کر دی جائے اور کسی ایسے شخص کو زمین دے دی جائے جو فوراً مکان بنانے پر تیار ہو۔ سوائے ایسے لوگوں کے جو دو تین ہفتوں میں کمیٹی سے نقشہ منظور کروا کے کچھ نہ کچھ حصہ خواہ باورچی خانہ اور چاردیواری تعمیر کروا لیں۔ اس کے بعد آپ کی شکایت قابل قبول ہوگی۔ کیونکہ سلسلہ کا فائدہ بہرحال آپ کے فائدہ سے مقدم ہے۔

والسلام!

خاکسار: مرزا محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی

(روزنامہ الفضل ربوہ مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۵۳ء)

مرزائی دجل وفریب کا تازہ شاہکار

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

مخلصی مکرمی! شیخ محمد احمد صاحب امیر جماعت ہائے احمدیہ ضلع لائل پور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

ایک مسودہ مطبوعہ دو کارڈ آپ کی خدمت میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ احرار کے پوسٹر کے جواب میں ہیں۔ احرار نے تین مطالبات کئے ہیں۔ جو پاکستان کے لئے سخت مضر اور فتنہ وفساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان مطبوعہ کارڈوں پر پاکستان کے ہمدرد لوگوں کے دستخط حاصل کئے جائیں۔ دستخط حاصل کرنے کے بعد یہ سب کارڈ فوراً ڈاک میں بھیج دیں۔ یہ کارڈ عزت مآب وزیر اعظم پاکستان اور عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر ہیں۔ اس لئے ہر دو پر دستخط حاصل کرنے ہوں گے۔

اس بارہ میں چونکہ فوری تگ ودو کی ضرورت ہے۔ اس لئے براہ مہربانی تمام جماعتوں

میں اس مطبوعہ مسودہ کو پھیلا کر ان کارڈوں پر احمدی اور غیر احمدی دوستوں کے دستخط حاصل کریں۔ غیر احمدی دوستوں کے دستخط زیادہ تعداد میں حاصل کئے جائیں۔ احتیاط سے بھیجیں ایسا نہ ہو کہ راستہ میں گم ہو جائیں۔

نوٹ: ہر کارڈ پر دس دستخط کروائے جائیں۔ والسلام

800+600+600 ٹریکٹ فقط: عبدالرحیم درد ناظر امور عامہ (ربوہ)

(روزنامہ آزاد لاہور مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۵۲ء)

ایک مرزائی کا خط لاہوری جماعت کے صدر کے نام

چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

مکرمی معظمی حضرت صاحب صدر صاحب احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عیدالفطر کے موقع پر مری میں بندہ نے آپ کی خدمت میں علماء سو کی شرارت کا ذکر کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں اقلیت قرار دیا جائے تو ہمیں کچھ فکر نہیں ہے۔ اس بارے میں بندہ اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت چاہتا ہے کہ اقلیت قرار دیئے جانے پر ہماری پوزیشن پاکستان میں ایک اچھوت کی ہو جاوے گی۔ جس طرح قبل تقسیم ہندو اکثریت کے سامنے مسلمانوں کی کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ اسی طرح مسلم اکثریت کے سامنے ہماری پوزیشن بالکل گر جاوے گی۔ دفتروں، بازاروں اور پبلک اجتماعات میں ہماری کوئی عزت نہ رہے گی۔ دین کی خاطر ہم تو یہ بے عزتی برداشت کر لیں گے۔ مگر ہماری اولاد یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ سکولوں میں لڑکوں کی نظر میں ہمارے بچے حقیر سمجھے جاویں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو احمدی کہلانے سے انکار کر دیں اور اس طرح ہماری آئندہ نسل بھی احمدیت سے خارج ہو جاوے۔

علاوہ ازیں علماء سو جب دیکھیں گے کہ حکومت نے ہماری ایک بات مان لی تو پھر نئے پر پرزے نکالیں گے۔ ہمارے مردوں کو قبرستان میں دفن نہ کرنے، ہماری دکانوں پر پکٹنگ کرنے غرضیکہ ہر قسم کے حربے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے استعمال کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ذمی قرار دیں۔ یا ہم سے عام مسلمانوں کا بائیکاٹ کرا دیں۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ جماعت کے بزرگوں کو اس موقع پر سوچنا چاہئے کہ ہم قانونی طور

[illegible]

وزیر خارجہ

غلام نبی جانباز مرزا

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

ہوئے تم دوست جس کے
دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

گورنمنٹ پاکستان کے نام

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟

گذشتہ کئی برسوں سے زعمائے احرار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قادیانی ٹولہ پاکستان کی سالمیت کے لئے وجۂ انتشار ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سرکاری فوج کی موجودگی میں مرزائیوں کی فرقان بٹالین اور ہر مرزائی کا تین ماہ کے لئے بطور رنگروٹ اس میں شامل ہو کر ٹریننگ حاصل کرنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر بشیر الدین محمود قادیانی کے وہ الہامی بیانات جن کا راقم نے اپنی کتاب جانباز پاکٹ بک میں وضاحت سے ذکر کیا ہے۔ ان واقعات کو مزید تقویت دیتے ہیں۔

الحمد للہ! مجلس احرار کی مسلسل مساعی جمیلہ سے قوم کا برسر اقتدار طبقہ آج سیاست کے اس موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ جہاں سے قادیانی تصویر کے تمام خدوخال واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ چار سال کی پیہم جدوجہد نے مرزائیت کے سیاسی عزائم کو اس حد تک عریاں کر دیا ہے کہ اب لاکھ پردوں میں بھی اس سنڈاس کی بو رک نہیں سکتی۔ آج ہر صاحب فکر پاکستانی مرزائیت کے نشیب و فراز سے آشنا ہو چکا ہے۔ چنانچہ پاک پارلیمان کے حالیہ اجلاس میں ہمارے ملک کے وزیر خارجہ (چوہدری سر ظفر اللہ قادیانی) پر بہت کی لے دے ہوئی ہے۔ چوہدری صاحب پانچ برس سے اس ملک کے وزیر خارجہ چلے آ رہے ہیں۔ اس عرصہ میں ان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ امریکہ یا لندن میں گذرا۔ لیکن پاکستان کی بہتری کے لئے انہوں نے کیا کیا؟

جہاں تک سوال کی نوعیت کا تعلق ہے اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پارلیمان کے ممبروں کا ہی حق نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے وزیر خارجہ سے یہی سوال کرے۔ سیاسی اعتبار سے آج پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے۔ بین الاقوامی صورتحال سے آشنا لوگ اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ باوجودیکہ برطانوی اقتدار کا سایہ ہنوز ہم پر پرچھائیاں ڈال رہا ہے۔ ہر ملک ہماری موت کے دن گن رہا ہے۔ اگر ایک طرف امریکہ اپنے ڈالروں سے ہمارے گرداگرد معاشرتی جال بن رہا ہے تو دوسری طرف افغانستان کے سیاہ پہاڑ آنکھیں بری

نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پتھر جیسے دلوں سے خوفناک ارادوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر کشمیر کے برفانی پہاڑوں سے سرد ہواؤں کے جھونکوں کی کبھی کبھار توقع تھی بھی تو ان کا رخ بھی آج بھارت کی طرف ہے۔ باقی رہا روس تو بحیثیت اسلامی ریاست کے ہمیں ایسے ملک سے ہمدردی کی کبھی توقع نہیں ہونی چاہئے جس کے لیڈر کہہ رہے ہوں کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے پاؤں کی ٹھوکر سے نکال دیا۔ (معاذ اللہ)

جب ہمسایہ ملکوں کا یہ حال ہو تو ہر آنکھ اپنے ملک کے وزیر خارجہ کی طرف اٹھے گی اور ہونا بھی چاہئے۔ جب کہ ملک کی حکومت نے یہ بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا ہو۔ لیکن وہ ہیں کہ انہیں کفر کی تبلیغ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ شاید میری گورنمنٹ کو یاد ہو کہ جب ۱۹۴۷ء میں چوہدری سر ظفر اللہ لیک سکس گئے ہیں تو ان دنوں عرب ڈیلی گیشن کا ایک تار مرزا بشیر الدین محمود کے نام آیا تھا۔ بقول اخبار الفضل لیک سکس" مورخہ ۶ نومبر عرب ڈیلی گیشن نے امریکہ سے بذریعہ تار حضرت امام جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان ڈیلی گیشن کے لیڈر چوہدری سر محمد ظفر اللہ خان کو مسئلہ فلسطین کے تصفیہ تک یہیں ٹھہرے رہنے کی اجازت دی۔

عرب ڈیلی گیشن کا جو تار انجمن احمدیہ لاہور کے دفتر میں موصول ہوا۔ اس میں لکھا ہے۔ "اس سے ہمیں بے حد اطمینان ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے عربوں کے مطالبہ کو بے حد تقویت حاصل ہوگی۔" (اخبار الفضل مورخہ ۱۸ نومبر ۱۹۴۷ء)

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چوہدری سر ظفر اللہ حکومت پاکستان کی طرف سے لیک سکس گئے تھے تو پھر عرب ڈیلی گیشن کا تار حکومت پاکستان کے نام آنا چاہئے تھا نہ کہ مرزا بشیر الدین محمود کے نام۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ چوہدری سر ظفر اللہ نے عرب ڈیلی گیشن کو یقین دلایا ہوگا کہ میں تو اپنے لیڈر مرزا بشیر الدین محمود کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ نیز انہی کے حکم سے یہاں مزید دنوں کے لئے ٹھہر سکتا ہوں۔ ورنہ عرب ڈیلی گیشن کو پاکستان گورنمنٹ سے اجازت لینی چاہئے تھی۔ نہ کہ قادیانی خلیفہ سے۔

اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد "الفضل" میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ چوہدری سر ظفر اللہ نے واشنگٹن سے تار دیا ہے کہ مسٹر ٹرومین کے محل کے قریب احمدیہ جماعت کے دفتر کے لئے ایک بلڈنگ خرید لی گئی ہے۔ اگر مندرجہ بالا واقعات کی صحت سے انکار نہیں تو پھر اپنے ملک کے

وزیر اعظم سے سوال کیا جاسکتا ہے۔

آپ کو ان حالات کا علم ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا اسلامی ریاست کے ایک وزیر کو بیرونی دنیا میں اپنے ملک کی نگرانی کے لئے مقرر کیا جاتا ہے یا کفر کی تبلیغ کے لئے؟

جب وزیر خارجہ اپنے فرض سے غافل ہو کر دوسرے ملکوں میں یہ کھیل کھیل رہے ہوں تو کل کلاں کو اگر پاکستان کو کسی بیرونی حملے کا احتمال ہو یا اس کے استحکام کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو خواجہ ناظم الدین کو بحیثیت وزیر دفاع کے چوہدری سر ظفر اللہ سے یہ توقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ صاحب بیا بجواز آزی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ انہوں نے ڈالمیا کے ایک اخبار جس کا ایڈیٹر مرزائی ہے کے حوالے سے پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ہمارے وزیر خارجہ کی بڑی تعریف کر رہا ہے۔

محترم خواجہ صاحب! اگر بھارت کے اخبارات یا بھارت کے لوگوں کی رائے ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟

"بمبئی ۱۵ر جنوری بلٹز کے نامہ نگار کا بیان ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ خان نے ۲ر جنوری کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا۔ ابھی تک یہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ مسٹر لیاقت علی اسے منظور کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کی مداخلت پر یہ طے ہوا کہ لندن سے واپسی پر مصالحت کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ مسٹر لیاقت علی اور چوہدری ظفر اللہ میں کشمیر کے سوال پر شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔"

(دقیم دیو بھارت سورتی ۱۷ر جنوری ۱۹۵۱ئ)

انہی دنوں اخبار زمیندار نے اپنے نامہ نگار نور الامین مقیم کراچی کے حوالے سے یہ خبر شائع کی تھی کہ: "مسٹر لیاقت علی خان کی واپسی پر وزارت خارجہ میں کوئی اہم تبدیلی ہونے والی ہے۔"

گو مجھے دشمن کی ایسی باتوں پر اعتماد نہیں۔ تاہم دیو بھارت کی مندرجہ بالا خبر پر ہماری گورنمنٹ نے کوئی تردیدی بیان پبلک کو نہیں دیا۔ پبلک خواہ اندھا ہو یا بہرا یا۔ اس کی قوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قوم اور گورنمنٹ دونوں کو ان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور پھر آج کل تو جمہوریت کا دور دورہ ہے۔ اس میں تو عوام پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ گورنمنٹ ہی چل سکتی ہے اور نہ ملک کا امن ہی قائم رہ سکتا ہے۔ پبلک قوم کا دوسرا نام ہے۔

مارچ کے آخری ہفتہ میں پاک پارلیمان کے حالیہ اجلاس میں وزیر خارجہ چوہدری سر ظفر اللہ پر جو نکتہ چینی ہوئی اور اس پر پاکستان کے پریس نے جو کچھ لکھا ہو سکتا ہے مصروفیت کی بناء پر گورنمنٹ پاکستان کی نظروں سے وہ اخبار غیر ارادی طور پر اوجھل رہے ہوں۔ چنانچہ میں ان مضامین کو ایک کتابچہ کی صورت میں شائع کر رہا ہوں۔ تاکہ انہیں دیکھنے اور پڑھنے کے بعد پاکستان گورنمنٹ کسی اچھے نتیجہ پر پہنچ سکے۔

جانباز مرزا
مورخہ ۳ اپریل ۱۹۵۲ء لائل
پور

مٹ تو سکتی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا
کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا

چوہدری ظفر اللہ برطانوی اثر و اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں

کراچی ۲ مارچ۔ مصری خاص نامہ نگار۔ دینی تحریک الاخوان المسلمون کے رہنما السید علی الحمود مصری نے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان اینگلو امریکی بلاک کو مضبوط بنا کر دنیائے اسلام کو برطانوی اقتدار کے بے رحم ہاتھوں میں سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیائے اسلام کی خود مختاری کو ختم کر کے یہاں برطانوی اثر و رسوخ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ چوہدری صاحب کی پالیسی نے بعض اہم مواقع پر اسلامی ممالک کے کاز کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ مصر و برطانیہ کے تنازع کے موقع پر آپ نے دونوں کو قصور وار قرار دے کر ظالم و مظلوم کو ایک ہی لڑی میں پرونے کی سعی کی ہے اور یہ پالیسی مصر کے لئے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اپنی جنگ آزادی کے لئے مصر کو دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک پاکستان سے جس امداد کی توقع تھی۔ افسوس کہ وہ محض چوہدری صاحب کی برطانیہ نواز پالیسی کے باعث پوری نہ ہو سکی۔ (اخبار آزاد لاہور مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۵۲ء)

آل پارٹیز مسلم کنونشن میں محمد ہاشم گزدر رکن مجلس دستور ساز پاکستان کی

تقریر

جہانگیر پارک میں قادیانیوں کی کانفرنس سے پیدا شدہ صورتحال پر غور وخوض کے لئے اسلامیان کراچی کی آل مسلم پارٹیز کنونشن مورخہ ۲ رجون جیمو سائیکل ہال میں منعقد ہوئی۔ جس میں کراچی کے تمام مسلم فرقوں کے معتمد علماء شہر کی تمام اسلامی انجمنوں اور اداروں کے ذمہ دار عہدہ داروں نے شرکت فرمائی۔ اس کنونشن میں شریک ہونے والے ۷۵ علماء کرام اور اکابرین ملت میں حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونیؒ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ دیوبندی، حضرت مولانا محمد یوسف کلکتوی، حضرت مولانا قاضی احسان احمدؒ، حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ، حضرت مولانا مفتی صاحبدادؒ، حضرت مولانا ظفر احمد انصاریؒ، حضرت مولانا لال حسین اخترؒ، حضرت مولانا بشیر احمد حجازیؒ، جناب سلطان احمد امیر جماعت اسلامی، جناب محمد ہاشم گزدر ممبر دستور ساز اسمبلی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس اجتماع میں پیش شدہ قرار دادوں پر مختلف علماء کے اظہار خیال کے بعد جناب محمد ہاشم صاحب گزدر ممبر مجلس دستور ساز پاکستان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تمام قرار دادوں اور حضرات علمائے کرام کے خیالات سے کلی اتفاق کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا: "جب چوہدری سر ظفر اللہ خان کشمیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لئے لیک سکس گئے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں لابی حلقوں میں مشہور تھا کہ سر ظفر اللہ خان وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی روز تمام احوال سے حکومت پاکستان کے ایک منسٹر کو مطلع کر دیا کہ یہاں کے لابی حلقوں میں ایسی خبریں مشہور ہیں۔

اس کے بعد میں نے تمام ممالک کا دورہ کیا اور محسوس کیا کہ اکثر ممالک میں ہمارے خارجہ دفاتر مرزائیت کی تبلیغ کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا چوہدری سر ظفر اللہ کے انگریزوں اور ہندوؤں سے گہرے مراسم ہیں اور ان کے امیر خلیفہ محمود کے بھی اسی نوعیت کے الہامات ہیں۔ سر ظفر اللہ قادیانی پاکستان سے زیادہ اپنے امام مرزا بشیر الدین محمود کے وفادار ہیں اور اپنے امام کی ہدایات کے مقابلہ میں حکومت پاکستان کے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس لئے مرزائی افسران اور سر ظفر اللہ پر ایک لمحہ کے لئے بھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا اور اس لئے مرزائی افسروں کو کلیدی آسامیوں سے

فوراً علیحدہ کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا۔ مرزائی افسروں کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان مرتد نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اسے ملازمت نہیں دی جاتی اور کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ملازم ہو بھی جائے تو پھر اس کی ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میرے کئی دوست محض معمولی دنیاوی فوائد کے لئے مجبوراً قادیانی ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پاکستان میں جو شخص اکھنڈ ہندوستان کے نعرے لگاتا ہے۔ وہ ملک کا دشمن ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت اکھنڈ ہندوستان کا عقیدہ رکھنے والے مرزائی ملک کے ۷۰ فیصدی کلیدی اسامیوں پر قابض ہیں اور خدانخواستہ اگر کسی وقت جنگ ہو گئی تو نہ معلوم پھر ہمارا کیا حال ہو گا اور ان افسروں کی پوزیشن کیا ہو گی۔

آپ نے فرمایا۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ مگر پاکستان کی مجلس دستور ساز میں جب بھی کوئی اسلامی بل پیش ہوتا ہے۔ سر ظفر اللہ اس بل کی مخالفت کرتا ہے۔ چنانچہ جب مسٹر اشتیاق حسین قریشی نے جمعے کے روز تمام ملک میں ایک خطبہ ہونے کا بل پیش کیا تو چوہدری سر ظفر اللہ نے ڈیڑھ گھنٹہ اس کی مخالفت میں تقریر کی اور وہ بل محض اس لئے نہ پیش ہو سکا کہ احمدیوں کو اس سے اختلاف ہے اور وہ اپنی مرضی کا خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بل آئندہ اجلاس کے لئے ملتوی کر دیا گیا اور آج تک پھر پیش نہ ہو سکا۔ اس طرح ہمارے کئی اسلامی قانون محض سر ظفر اللہ کی وجہ سے مسترد ہو گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا میں جمہور المسلمین کی طرح مرزائیوں کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ کیونکہ مرزائی ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہ ملک ہم مسلمانوں نے اسلام کے لئے اور اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے تو پھر مرزائیوں کو اس ملک میں اسلام کش حرکات کی اجازت کیونکر دی جا سکتی ہے اور ان کی سرگرمیاں کس طرح برداشت کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: پاکستان میں فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اشد ضروری ہے اور آپس کے اتحاد کے بغیر اس فتنہ کو کسی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اپنے مسلم وزراء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

آپ لوگوں نے یہ کرسیاں اسلام کے نام پر حاصل کی ہیں اور اگر آپ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کی حفاظت وخدمت کرنی ہو گی۔”

(روزنامہ آزاد مورخہ ۱۲ رجون ۱۹۵۲ء)

وزارت خارجہ اور کشمیر

"پاکستان کے وزیر خارجہ نے اگر پارلیمان میں یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کو جلد سے جلد حل کرانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرے گی۔ لیکن وہ اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے کہ اگر پر امن ذرائع ناکام رہے تو قضیہ کشمیر کو نپٹانے کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس مرحلہ پر کشمیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ یہ سوال ابھی ڈاکٹر گراہم کے زیر غور ہے۔ تاہم میں ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس مسئلہ کو پر امن ذرائع سے حل کرانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ اگر پر امن ذرائع ناکام رہے تو حکومت پاکستان کیا راستہ اختیار کرے گی؟ اس کے جواب کا انحصار حالات پر ہے۔"

لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان پر امن ذرائع کو ناکام کب خیال کرے گی؟ کیا اس وقت جب تمام کشمیر کا نام نہاد دستور ساز اسمبلی الحاق کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر چکی ہوگی؟ جب بھارت پورے کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہوگا؟ جب پاکستان کو اچانک ایک دن یہ محسوس ہوگا کہ وہ بین الاقوامی سیاست کے میدان میں بے یار و مددگار رہ گیا ہے اور پوری اقوام متحدہ میں اس کا ایک بھی ہمنوا نہیں رہا؟ اگر نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسے معلوم ہے کہ:

١..... اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلہ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اول تو جب بھارت نے ڈیونڈ پلان کو مسترد کر دیا تو ڈاکٹر گراہم نے کوئی قابل عمل فارمولا پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے جن اقوام کا U.N.O پر قبضہ ہے ان کی دلچسپی کا مرکز جنوب مشرقی ایشیاء سے بدل کر اب شرق الاوسط اور یورپ قرار پا چکا ہے۔ اس لئے وہ کشمیر کے مسئلہ کو تیسری جنگ کے آغاز تک بآسانی ٹال سکتے ہیں۔

٢..... بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ریاست جموں و کشمیر میں اپنے پاؤں پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمانا شروع کر دیئے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبداللہ کی نام نہاد دستور ساز اسمبلی اسی مقصد کے تحت مصروف عمل ہے۔ مانا کہ اب تک پوزیشن یہ ہے کہ تمام کشمیر کی نام نہاد دستوریہ کا یہ فیصلہ سیکورٹی کونسل کی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں یکدم تغیر رونما ہو جائے۔ جس کے بعد U.N.O کے لئے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ نام نہاد دستوریہ کے فیصلہ کو مسترد کر سکے۔

۳... کراچی کے سیاسی حلقوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ ڈاکٹر گراہم کے مشن کی ناکامی میں کوئی پراسرار ہاتھ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اب یہ خیال عام ہو چکا ہے کہ بھارت اور امریکہ میں کوئی خفیہ معاہدہ طے پایا ہے۔ جس کے نتیجہ میں امریکہ بھارتی موقف کی تائید کرنے پر مجبور ہے۔ ممکن ہے اس خیال کی تردید بھی ہو جائے۔ تاہم اگر اس نوازش پیہم کو دیکھا جائے۔ جس کی بارش امریکہ کی جانب سے بھارت پر ہو رہی ہے تو یہ قیاس آرائی بلاوجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی تصدیق اس مکتوب سے بھی ہوتی ہے جو نیویارک ٹائمز کے نامہ نگار مقیم کراچی نے اپنے اخبار میں درج کرایا ہے اور جس کا حوالہ ڈان کے سیاسی نامہ نگار نے بھی دیا ہے۔ اس مکتوب میں نامہ نگار لکھتا ہے: ”امریکہ نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے لئے پاکستان کے مقابلہ میں بھارت کو مستحکم کرنا اور اپنے ساتھ ملانا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔“

اگر حکومت پاکستان کو ان تمام حقائق و واقعات کا علم ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں کب تک مبتلا رہے گی کہ مسئلہ کشمیر کو اب بھی پر امن ذرائع سے حل کرنا ممکن ہے؟

جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ پاکستان کے اکابر ایک سے زائد مرتبہ اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے سیکورٹی کونسل کا وہ اجلاس جو گذشتہ جنوری میں منعقد ہوا آخری ہے۔ اس کے بعد پاکستان اگلا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لیکن کیا تین مہینے کا تجربہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کشمیر کے معاملہ میں اقوام متحدہ پر تکیہ لگانا بیکار ہے۔

آخر حکومت پاکستان عوام سے یہ کب تک توقع رکھے گی کہ وہ کشمیر ایسے اہم اور قومی معاملہ کے سلسلہ میں برابر صبر و تحمل کا ثبوت دیتے رہیں؟ پاک پارلیمان میں بعض ارکان نے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کی ذات کو بھی مسئلہ کشمیر کے تصفیے میں تاخیر و تعویق کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ہمارے نزدیک یہ الزام بے بنیاد نہیں ہے۔ میاں افتخار الدین نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو موضوع تنقید بناتے ہوئے کہا ہے: ”دوسرے وزراء سے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ حکومت کی پالیسی کو غلط سمجھتے ہیں تو اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں۔ لیکن سر ظفر اللہ کے معاملے میں جنہوں نے تیس برس تک اپنے برطانوی آقاؤں کی وفادارانہ طور پر خدمت کی ہے۔ میں حکومت اور عوام سے مطالبہ کروں گا کہ انہیں سبکدوش کر دیا جائے۔ وہ برطانوی حکومت کے دیرینہ کاسہ لیس ہیں اور خوشامد و تملق ان کا ہمیشہ نصب العین رہا ہے۔“

میاں افتخار الدین اگر پاکستان کی موجودہ حکومت کو انگریز کا پٹھو قرار دیتے رہتے ہیں تو

اس کا سبب ان کی غیر معمولی مروت نوازی ہے۔ تاہم چوہدری ظفر اللہ خان کے متعلق انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ مبالغہ آمیز نہیں ہو سکتا۔ چوہدری ظفر اللہ خان اپنے مذہبی عقائد کی بناء پر بھی انگریز کو اپنا آقا و مولا کہنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ہے کہ ڈپلومیسی کے میدان میں وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ والا جاہ خواجہ ناظم الدین نے ان کی سیاسی فتوحات کے ثبوت میں بھارت کے ایک انگریزی اخبار کا حوالہ دیا ہے۔ اوّل تو جس شخص کی تعریف میں ڈالمیا کا اخبار رطب اللسان ہے۔ اس کا سیاسی کردار غیر مشکوک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اگر عرب ممالک کے نمائندوں نے چوہدری ظفر اللہ کی تعریف کی ہے تو اس کی وجہ ان کے ممدوح کی ذاتی صلاحیت نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ پاکستان دنیائے اسلام میں ایک نئی قوت بن کر ابھرا ہے۔ اس لئے وہ قدرتی طور پر دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی نمائندگی کے فرائض چونکہ چوہدری ظفر اللہ کو سونپ دیئے گئے ہیں۔ اس لئے جو خراج تحسین دراصل پاکستان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے مستحق چوہدری ظفر اللہ خان بن جاتے ہیں۔ بہر حال یہ واقعہ ہے کہ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ابھی تک مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکی تو اس کا حقیقی سبب ظفر اللہ خان کی ذات ہے۔ جس کی خوش عقیدگی کا دامن برطانیہ سے بندھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک اگر پاکستان کشمیر کے مسئلہ کو پر امن ذرائع سے حل کرنے کا متمنی ہے تو اسے اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہو گی۔ لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس وقت تک نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ جب تک چوہدری ظفر اللہ خان کو موجودہ عہدے سے سبکدوش نہیں کیا جاتا۔“

(ایڈیٹوریل زمیندار مورخہ ۳۱؍ مارچ ۱۹۵۲ء)

کوتاہیاں اور سہل انگاریاں

”معاصر محترم زمیندار نے پاکستان کی قومی پالیسی اور اس کے آئین پر اپنے افتتاحیہ میں آج تبصرہ کیا ہے۔ معاصر نے لکھا ہے کہ: ”اگرچہ پاک پارلیمان نے برسراقتدار پارٹی کے غیر نمائندہ ارکان کی اکثریت کے بل بوتے پر اس معاشی اور مالی لائحہ عمل پر مہر ثبت کر دی ہے جس کا خاکہ بجٹ کی تقریر میں کھینچا گیا تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ اگر ان تمام نکتہ چینیوں کا عمل غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے جن کا تختہ مشق حکومت پاکستان کی حکمت عملی کو بنایا گیا تو ایک ہی نتیجہ پر پہنچا جاتا ہے کہ جہاں تک قومی پالیسی کا تعلق ہے۔ اس کی بنیاد ہی دکھائی نہیں دیتی۔“

بے شک ہمیں معاصر کی اس رائے سے پورا اتفاق ہے کہ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے۔ حکومت پاکستان کے ہاں قومی پالیسی کی بظاہر کوئی بنیاد دکھائی نہیں دیتی اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اس کا داخلی اور خارجی نظام کار پہلے کے کسی سوچے سمجھے ہوئے لائحہ عمل پر نہیں چل رہا۔ باقی رہا یہ سوال کہ چونکہ پاک پارلیمنٹ میں برسراقتدار پارٹی کے ارکان غیر نمائندہ ہیں۔ اس لئے ان کی اکثریت کے بل بوتے پر جو معاشی اور مالی لائحہ عمل منظور ہوتا ہے۔ وہ قومی پالیسی کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسی بات ہے جو میاں افتخار الدین آئے دن پاک پارلیمنٹ میں کہتے رہتے ہیں اور اسی بناء پر وہ اپنے کو پاکستان کے ۹۰ فیصد عوام کا نمائندہ کہتے نہیں تھکتے۔

معاصر محترم نے سب سے پہلے پاکستان کی خارجی پالیسی پر تنقید فرمائی ہے۔ معاصر کے الفاظ میں: "خارجہ حکمت عملی کی مدافعت میں وزیر موصوف نے جو تقریر کی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جن ہدایات کو عملی جامہ پہنایا وہ کسی اصول یا ضابطے پر مبنی نہیں ہیں۔"

بلکہ معاصر کے نزدیک "چونکہ تقسیم سے پہلے بھی ان کو وزارت خارجہ کی گدی پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس لئے وہ اب بھی اس پر قابض رہنے کے حق دار ہیں اور خارجہ مسائل کے تصفیہ کے لئے انہوں نے جو راہ اختیار کی ہے۔ وہ چونکہ ان کی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بہتر ہے۔ اس لئے پاکستان کے عوام کو بھی اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔"

معاصر موصوف کے ان الفاظ سے ممکن ہے خود وزیر خارجہ پاکستان تو شاید اختلاف کریں۔ لیکن جہاں تک پاکستان کے سنجیدہ طبقوں کا تعلق ہے۔ ان کا ایک فرد بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کی خارجی پالیسی ہر لحاظ سے ناکام ہو گئی ہے۔ ہم نے اینگلو امریکی بلاک سے ضرورت سے زیادہ دوستی کے تعلقات بڑھائے۔ لیکن اس دوستی سے ہمیں فائدہ کے بجائے الٹا نقصان ہوا۔ کیونکہ اس سے بھارت کی سیاسی اہمیت بڑھ گئی اور اسے اس بلاک نے منہ مانگی قیمت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور جیسا کہ ڈان نے پچھلے دنوں لکھا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں بھی اینگلو امریکی بلاک اب بھارت کی طرف جھک رہا ہے۔

ہم نے اسلامی بلاک بنانے کا نعرہ لگایا اور گذشتہ چار سالوں میں لاکھوں روپیہ پھونکا جو اسلامی ملکوں کے نمائندوں کو کراچی کی کانفرنسوں میں بلانے پر صرف کر دیا۔ لیکن اس سے بھی کوئی

نتیجہ نکلا اور تو اور زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ہمارے وزیر خارجہ یورپ سے واپسی پر انقرہ، بیروت، دمشق اور قاہرہ تشریف لے گئے اور قاہرہ میں اسلامی ملکوں کو متحد کرنے کے متعلق انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا۔ اس کے بعد کراچی میں آکر اسلامی ملکوں کی ایک مشاورتی کونسل کی تشکیل کا اعلان بھی کیا اور اس ضمن میں یہ خبر بھی چھپی کہ اپریل میں تمام اسلامی ملکوں کی حکومتوں کے نمائندے کراچی میں آ رہے ہیں۔ لیکن تین چار دن ہوئے ڈان میں ترکی کے ایک مشہور اخبار وطن کے ایڈیٹر کا ایک خط چھپا ہے۔ جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سخت اعتراضات کئے گئے ہیں۔ بلکہ ترکی اخبار نویسوں کا ایک وفد جو آج کل بھارت میں گھوم رہا ہے۔ اس کے بعض ارکان نے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پر نکتہ چینی کی ہے اور یہ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ اسلامی ملکوں میں سے ترکی ہماری خارجہ پالیسی سے متفق نہیں ہے اور ظاہر ہے ترکی کے بغیر اسلامی ملکوں کے اتحاد کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔

قاہرہ کی تازہ خبر ہے کہ عرب لیگ کے ارکان نے بھی چوہدری ظفر اللہ خان کی تجویز کردہ اسلامی ملکوں کی مشاورتی کونسل کے متعلق زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ ان میں سے بعض اس اقدام کو کچھ اور معنی پہنا رہے ہیں اور مصر وشام ولبنان تو خاص طور پر اس قسم کی مشاورتی کونسل کے خلاف ہیں۔

یہ تو ہوا ہمارے وزیر خارجہ کی گذشتہ چار سال کی سیاسی سرگرمیوں کا انجام۔ جو ظاہر ہے اچھا خاصا حسرت ناک ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں معاصر محترم زمیندار کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ: "پاکستان کی خارجہ حکمت عملی کسی اصول یا ضابطے پر مبنی نہیں ہے۔"

اس کے بعد قومی زبان کا مسئلہ آتا ہے۔ اس معاملے میں ایک طرف مسٹر نور الامین نے جس عدم تدبر، بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ کچھ کم قابل افسوس نہیں اور دوسری طرف پاکستان کی مرکزی حکومت جس تذبذب میں مبتلا ہے۔ وہ اچھا خاصا تکلیف دہ ہے۔

ایک اور مسئلہ شہری آزادی کا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک صوبے میں اخبار تک نکالنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور جو کوئی زبان اعتراض کھولے اسے سیفٹی ایکٹ میں دھر لیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے میں تقریر کی بھی آزادی ہے اور تحریر کی بھی۔ حالانکہ دونوں صوبوں میں مسلم لیگ کی وزارتیں ہیں۔ جو قانوناً اور عملاً مرکزی مسلم لیگ کے سامنے جوابدہ ہیں۔ اب اگر پاکستان ایک وحدت ہے اور اس پر ایک ہی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی حکومت ہے تو ضروری ہے

کہ جہاں تک نظم و نسق کے بنیادی اصول ہیں۔ ان میں تمام صوبائی حکومتیں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہوں اور یہ نہ ہو کہ ایک صوبے میں تو نادر شاہی ہو اور دوسرے صوبے میں جمہوریت پر تقریریں کی جائیں۔ اس سلسلے میں معاصر زمیندار کا یہ کہنا بالکل بجا ہے۔

"ابھی تک اتنا بھی طے نہیں ہو سکا کہ ہمارا ملک کس حد تک آزاد ہے اور اسے تحریر و تقریر کے معاملے میں اپنے عوام کو کس حد چھوڑ دینا ہے۔"

اور سب سے بڑا معاملہ آئین کا ہے۔ چار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ لیکن اب تک پاکستان کا آئین نہیں بنا۔ حالانکہ استحکام پاکستان کے لئے سب سے ضروری چیز آئین کا بننا تھا۔ بقول معاصر زمیندار کے: "اگر آئین موجود ہوتا تو افتراق و تشتت کی گنجائش ہی کہاں تھی۔"

آئین کی تشکیل کے سلسلے میں بار بار وعدے کئے گئے۔ لیکن اب تک ایک وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور آئین کا معاملہ ہے کہ برابر ٹلتا جا رہا ہے۔ ایک نیا ملک جس نے بڑی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی ہو۔ چار سال سے زیادہ عرصہ ہو جائے اور اس کا آئین نہ بنے اور یہ اسی پرانے آئین کے مطابق حکومت ہو جو انگریزی تسلط کی یادگار ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

خارجہ پالیسی کا کسی واضح اصول پر مبنی نہ ہونا، قومی زبان کے معاملے میں مرکزی حکومت کا کوئی مثبت اقدام نہ کرنا، شہری آزادی کے معاملے میں کسی ضابطے کا عدم تعین اور سب سے زیادہ یہ کہ آئین کا نہ بنانا ایسی چیزیں ہیں۔ جن کی وجہ سے پاکستان کی قومی پالیسی کا تعین نہیں ہو رہا اور پاکستان کے مختلف حصوں میں ایک عام افراتفری پھیل رہی ہے۔ ضرورت ہے جیسا کہ معاصر زمیندار نے لکھا ہے کہ: "اس معاملے میں پنجاب اس شکل آزادی کو افتراق و انتشار کی ہولناک آندھیوں سے [illegible] رکھنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے اور قومی پالیسی کو وضع کرنے میں نمایاں حصہ لے۔"

پنجاب پاکستان کا صرف بازوئے شمشیر زن ہی نہیں بلکہ وہ اس کا دل اور دماغ بھی ہے اور خوش قسمتی سے پنجاب میں نہ قومی زبان کا جھگڑا ہے نہ فتنہ پختونستان کا اور پاکستان کے اصول و مقاصد سے پنجاب کو سب سے زیادہ دلچسپی بھی ہے۔ پنجاب کا بحیثیت پاکستان کے ایک اہم حصہ ہونے کا فرض ہے کہ وہ مرکز کو اس اہم ضرورت کی طرف متوجہ کرے اور اسے ایک واضح اور مثبت قومی پالیسی بنانے پر مجبور کرے۔" (ملاحظہ آفاق مورخہ ۳ اپریل

۱۹۵۲ء)

ڈاکٹر گراہم پھر ناکام ہو گئے

''ڈاکٹر گراہم ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئے اور ان کو ناکام ہونا ہی تھا۔ یہ بات پہلے روز سے معلوم تھی۔ مگر ہمارے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کے جنہوں نے ڈاکٹر گراہم کے تقرر کی اطلاع سنتے ہی پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس مرتبہ ڈاکٹر گراہم کامیاب ہوں گے۔ قادیانی الہامات کی طرح چوہدری صاحب کی یہ پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوا۔ چوہدری صاحب ان لوگوں میں ہیں جو ہر دورے کو لیفٹیننٹ گورنر کہتے ہیں اور اس کی مافوق الفطرت صلاحیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

لیکن جو لوگ ''الہامات'' پر نہیں بلکہ حقائق پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ پہلے روز سے جانتے تھے کہ ڈاکٹر گراہم کی کامیابی مشتبہ ہے۔

سلامتی کونسل نے ڈاکٹر گراہم کو دوبارہ اس لئے پاکستان اور بھارت کا سفر اختیار کرنے پر مقرر کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین استصواب کشمیر کے سلسلے میں دو قابل حل مسائل پر گفتگو کریں۔ اول یہ کہ غیر جانبدارانہ استصواب کا ماحول تیار کرنے کے لئے متارکہ جنگ کی سرحدوں کے دونوں طرف دونوں ملکوں کی فوجوں کا تناسب کیا ہو۔ وہ چاہتے تھے۔ بھارت اس پر رضامند ہو جائے کہ یہ تناسب ۱۲ اور ۱۰ کا ہو اور دوسرے یہ کہ بھارت ناظم استصواب کے تقرر کو منظور کر لے۔ لیکن بھارت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے دونوں تجویزوں کو نامنظور کر دیا۔ اور حالات کی گاڑی اسی جگہ کھڑی ہے۔ جہاں ڈاکٹر گراہم کی تشریف آوری سے پہلے تھی۔ تنازع کے وجود کی تلاش کے لئے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کے ارباب اختیار جانتے ہیں کہ استصواب میں ان کے مقاصد کی موت ہے۔ اس لئے وہ کوئی ایسی شرط قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جس سے استصواب کے انعقاد کی نوبت آ سکے۔ ان کو سلامتی کونسل کے طرز عمل سے بھی شہ ملتی ہے۔ جو اس مسئلے کو ٹالتی چلی آ رہی ہے اور اس کو عدل و انصاف کے نقطہ نگاہ سے حل نہیں کرتی۔ بلکہ سیاسی و قومی اغراض کو پیش نظر رکھتی ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے۔ مگر ہمارے چوہدری ظفر اللہ خان کے بھارت کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ جتنا ملتوی ہوتا رہے۔ اتنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ کشمیر کا بیشتر حصہ اس کے قبضے میں ہے۔ اگر موجودہ صورتحال بھی برقرار رہے تو اسی کی جیت ہے اور یہ صورتحال انکار مصالحت ہی سے برقرار رہ سکتی ہے۔

ہمارے وزیر خارجہ کا حسن عقیدت بھی جو وہ سلامتی کونسل کے تمام ممدوحوں کے [illegible]

نیت، صلاحیت، کار اور کامیابی کے بارے میں ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں حصہ دار ہے اور جب تک اس مسئلے کو سلجھانے کے لئے وہ مامور رہیں گے۔ حالات بگڑتے ہی جائیں گے۔

جب تک پاکستان کی طرف سے سلامتی کونسل اور اس کے نمائندوں کو کھلی سند اعتبار اور بیجا تقویت ملتا رہے گا۔ مجلس اقوام متحدہ ہندوستان کی ناز برداری میں مشغول رہے گی۔ یہ وہی صورتحال ہے جس پر برہم ہو کر مسٹر لیاقت علی خان مرحوم نے از راہ طعن کہا تھا کہ برطانیہ ہم کو گھڑے کی مچھلی اور گھر کی مرغی سمجھتا ہے۔ جب ہم ہر حال میں سلامتی کونسل اور اس کے نمائندوں سے خوش ہیں تو وہ بھارت کو ناراض کرنے والا کوئی قدم کیوں اٹھائیں۔"

(روزنامہ تسنیم لاہور مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۵۲ء)

خارجہ حکمت عملی

"پارلیمنٹری طرز حکومت میں عجائب انوکھی بات یہ ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ کے اراکین کو تین سال تک وزیر خارجہ کے خیالات سننے اور ان کی موجودگی میں خارجہ حکمت عملی پر بحث کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ نائب یا قائم مقام وزیر خارجہ ان کی طرف سے وکالت کرتے رہے اور خود وزیر خارجہ یورپ یا امریکہ میں مقیم رہے۔ دوسرے ممالک میں پاکستان کی ترجمانی اور اس کی تشہیر کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن تقریباً ہر ملک میں پاکستانی سفیر اور اتحادی قوموں میں پاکستان کے مستقل اور متبادل مندوب موجود ہے۔ جن کے تقرر کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پاکستانی موقف کی ترجمانی ہو سکے۔ ان کے ذریعے وزیر خارجہ پاکستان میں رہ کر بھی وہی کام سرانجام دے سکتے ہیں۔ جن کے لئے وہ طویل مسافت کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ ملک میں ان کی موجودگی اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اراکین اور عوام کے خیالات وجذبات سے براہ راست آگاہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ملک سے دوری کی صورت میں وہ اس رعایت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ خارجہ حکمت عملی بین الاقوامی صورت حال کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے۔ لیکن کسی جمہوری ملک کا وزیر خارجہ اس معاملے میں اپنے عوام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وزیر خارجہ کسی مسئلے پر ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے الفاظ پوری قوم کے نظریات کہلاتے ہیں۔ اس لئے عوام اور وزیر خارجہ کے درمیان براہ راست تعلق انتہائی ضروری ہے۔ شاید اسی قرب کا فیضان ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے اینگلو مصری تنازعہ کے بارے پہلی بار ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان اینگلو مصری تنازعہ میں ایسے سمجھوتے کا حامی ہے جو مصری عوام کے

سے تسلی بخش ہو۔ درحقیقت اس سے پہلے وہ اسی تنازعہ کے بارے میں ہمیشہ پاکستان کی غیر جانبداری پر زور دیتے رہے۔ اس پر پاکستان کے عوام اور بیشتر اخبارات زبردست احتجاج کر چکے ہیں۔ کیونکہ ظالم و مظلوم کے درمیان غیر جانبداری ہمیشہ ظالم کے حق میں مفید رہتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایران کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ''ہم نے ایران کے اس حق کو منوانے کی کوشش کی کہ وہ تیل کی صنعت کو قومی ملکیت قرار دے سکتا ہے۔'' وزیر خارجہ کے نظریات میں یہ تبدیلی بیحد امید افزاء ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے انگلو ایرانی تنازعہ میں عالمی بنک کی ثالثی کی تجویز پیش کر کے اپنے تازہ ارشاد کی ترجمانی نہیں کی۔ کیونکہ قومی ملکیت کا حق تسلیم کرنے کے بعد ثالثی کی گنجائش نہیں رہتی اور پھر عالمی بنک کی ثالثی جو بالواسطہ امریکہ اور برطانیہ کی ثالثی کا درجہ رکھتی۔ کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکومت اس ثالثی کو مسترد کر چکی ہے۔ وزیر خارجہ کے تازہ بیان کی روشنی میں پاکستانی سفیر متعینہ ایران کے فرائض میں تبدیلی ہونا چاہئے۔ انہوں نے پچھلے دنوں فرمایا تھا کہ تیل کے مذاکرات میں میں صرف قاصد کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جو طرفین کی تجاویز دیکھے بھالے بغیر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستانی سفیر کو اب یہ کام ایران کے کسی ڈاک گھر یا برطانیہ اور ایران کے اپنے اپنے قاصدوں کے سپرد کر دینا چاہئے اور اس کی بجائے ایران کے مطالبات منوانے کے لئے انہیں کوئی موثر اور مفید ذمہ داری اپنے سر لینا چاہئے۔

وزیر خارجہ نے فرمایا ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک کی آزادی کے لئے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے لیبیا کی بھی مثال پیش کی ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے وزیر خارجہ نے لیبیا میں گورا فوج کے قیام کی ہرگز مخالفت نہیں کی۔ حالانکہ غیر ملکی فوج کی موجودگی میں لیبیا کی آزادی ادھوری رہ جاتی ہے۔ مسلم ممالک کے مسائل سے قطع نظر چوہدری صاحب نے دوسرے بین الاقوامی معاملات میں بھی لائق تحسین روش اختیار نہیں کی۔ انہوں نے صلح نامہ جاپان پر دستخط کر کے جاپان میں امریکی فوج کا قیام تسلیم کر لیا۔

حالانکہ ہم کشمیر سے غیر ملکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوریا کے معاملے میں بلا کسی وجہ امریکی عزائم کی حمایت کر دی۔ قائد اعظم کے واضح ارشاد کے باوجود ویٹ نام کی عوامی حکومت کو نظر انداز کیا۔ اسپین کے جمہوریت کش آمر فرانکو سے راہ و رسم بڑھائی اور امن کے دشمن ہتھیار ایٹم بم کو خلاف قانون قرار دینے کی تجویز کی حمایت نہ کی اور سب سے

بڑھ کر یہ کہ وہ پاکستان کو آج تک تاج برطانیہ سے وابستہ رکھنے کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے سفیر برطانیہ اور پاکستان کے بیشتر تصورات کو ہم آہنگ بتاتے ہیں۔ حالانکہ قرارداد لاہور کی رو سے قیام پاکستان کے ساتھ تاج برطانیہ سے قطع تعلق لازمی تھا۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے مسائل کے بارے میں آزاد مملکت کے وزیر خارجہ کو اپنی حکمت عملی پر نظرثانی کرنی چاہئے۔"

(روزنامہ امروز لاہور مورخہ ۳۰ مارچ ۱۹۵۲ء)

ہماری وزارت خارجہ برطانوی سامراج کی آلۂ کار ہے

"کراچی۔ گزشتہ ہفتہ پاک پارلیمنٹ میں محکمہ امور خارجہ اور رابطہ دولت مشترکہ کے مطالبات پر بحث کے دوران میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سخت مذمت کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملک کی خارجہ پالیسی غیر ملکی اثر سے آزاد کی جائے اور امریکہ اور برطانیہ کو اپنا مائی باپ نہ سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی شرمناک ہے۔ جس سے غیر ملکوں کی نظر میں پاکستان کا وقار گر گیا ہے۔ آج تقریباً تمام مقررین نے مسئلہ کشمیر کے تصفیہ میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر اب اس تصفیہ میں مزید دیر لگائی جائے تو پاکستان اقوام متحدہ کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے۔

میاں افتخار الدین نے اپنی تقریر میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کی خارجی پالیسی کس طرح سامراجی طاقتوں کے اشارہ اور ان کے مفاد کے مطابق چل رہی ہے۔ چوہدری ظفر اللہ کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ انہیں اپنے عہدہ سے برخواست کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو نااہل اور چالاک وزیر خارجہ کی نگرانی میں برطانوی سامراج کی آلۂ کار بن گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے نام سے پکارنا اس لفظ کی توہین ہے۔

میاں صاحب نے کہا کہ مسلم گزشتہ پانچ چھ سو سال سے قعر مذلت میں گرے ہوئے تھے۔ برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور دوسری نوآبادیاتی طاقتوں نے اقتصادی، سیاسی اور سماجی ہر اعتبار سے ان کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اتنے طویل عرصہ تک خواب غفلت میں پڑے رہنے کے بعد اب جب ان کے اندر بیداری کی ذرا سی لہر پیدا ہوئی ہے اور وہ مصر، ایران، تیونس، مراکش اور دوسرے علاقوں میں اپنے حقوق کی حفاظت میں سامراجی طاقتوں کے پنجے سے نجات پانے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ان

ممالک کو اپنے مسلم دشمنوں سے سمجھوتہ کر لینے کا مشورہ دے رہے ہیں ہم سے اچھی تو ان ممالک کی وہ غیر مسلم آبادی ہے جو کسی نسلی مذہبی یا ثقافتی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اپنے وطنی بھائیوں کی آزادی کی جدوجہد میں نہ صرف ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ بلکہ اسے سراہ بھی رہی ہے۔ شرم کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان ممالک کی مدد کرتے۔ ہمارے وزیر خارجہ برطانیہ کی مدد کر رہے ہیں اور وہ بھی چوری چھپے نہیں علانیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مصر اور برطانیہ میں غیر جانبدار رہے۔ لیکن فریقین میں باعزت سمجھوتہ کرانے کی کوشش کرے گا۔ میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا غلامی اور آزادی سچائی اور جھوٹ نیک اور برے مقصد میں کوئی سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کیا وزیر خارجہ کے کہنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ مصر سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جائز حقوق سے برطانیہ کی خاطر دستبردار ہو جائے۔

میاں صاحب نے آگے چل کر کہا کہ گذشتہ چھ ماہ میں چوہدری ظفر اللہ نے ایران، مصر اور برطانیہ کے درمیان جو پارٹ ادا کیا ہے۔ وہ قابل مذمت ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس دعویٰ کا قدرتی تقاضہ یہ تھا کہ یہ ممالک اپنی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ان کی مدد کرتے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدد تو کیا ہم اپنے موجودہ رویے سے ان ممالک کو الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔

سلسلۂ بیان جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران اور مصر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو ضرور کیا ہے۔ لیکن یہ ہمدردی کا اظہار جس طریقے پر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی برطانیہ اور امریکہ کا اشارہ ہی کام کر رہا ہے۔

میاں صاحب نے کہا کہ میں وزیر خارجہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر برما کو ہتھیار بھیجے جا سکتے ہیں تو مصر کو کیوں نہیں بھیجے جا سکتے؟ آخر میں میاں صاحب نے کہا کہ وزیر خارجہ کا گذشتہ تیس سال کا ریکارڈ یہی ہے کہ وہ برطانوی سامراج کے ساتھ چمٹے رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمات سے ایک وکیل کی حیثیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ پیسے دے کر ان سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جس طرح پیسے لے کر وہ ساری عمر برطانیہ کی خدمت کرتے رہے ہیں اسی طرح پاکستان کا کام کرنے سے بھی انکار نہیں کریں گے۔"

(ہفت روزہ شکوہ کراچی مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۵۲ء)

ہماری خارجہ پالیسی

”پاک پارلیمان میں جب ہماری خارجہ پالیسی ہدف تنقید بنائی گئی اور اس پر کڑی نکتہ چینی کی گئی تو پارلیمان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے وزیر خارجہ چوہدری ظفراللہ خان نے ان اعتراضات کا اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا اور اس امر کی تردید فرمانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اینگلو امریکی بلاک کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ چوہدری صاحب نے اپنی تقریر میں یہ ثابت کرنے کی سعی فرمائی کہ ہماری خارجہ پالیسی بالکل آزاد ہے۔

ہم اس تحسین آفرینی کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ہماری بھی تمنا یہ ہے کہ پاکستان حقیقتاً اپنی پالیسی میں آزاد رہے کہ ایک آزاد مملکت کے یہی شایان شان ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مصر، ایران اور تیونس کے تعلق سے پاکستان کی پالیسی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ لیکن پالیسی وہی کامیاب ہے۔ جس کے نتائج بھی کامیاب برآمد ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جاپان سے معاہدے کے سلسلے میں ہم نے اینگلو امریکی بلاک کی خیمہ برداری کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لیبیا سے بیرونی افواج کے نکلنے کی ہم نے مخالفت کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم نے روس سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔

درآنحالیکہ ہمارا یہ ادعا ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات استوار کریں گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوریا میں ہم نے ۳۸ ویں عرض بلد کو عبور کرنے کی سفارش کی تھی؟ اور کیا یہ ساری باتیں اس امر کی غمازی نہیں کرتیں کہ اس پالیسی کے اختیار کرنے میں امریکہ و برطانیہ کا فائدہ تھا؟ اور اینگلو امریکی بلاک کی رضا جوئی جو ہم نے حاصل کی آخر کس قیمت پر؟

ہمارا حریف آج بھارت ہے جس کا کشمیر، مانا ودر اور جونا گڑھ پر قبضۂ غاصبانہ ہے۔ مگر امریکہ و برطانیہ اسی بھارت کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اس کی جمہوریت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ اسے اربوں روپوں کی امداد دی جا رہی ہے۔ درآنحالیکہ بھارت جاپان کے معاہدے میں اینگلو امریکی بلاک کا شریک نہیں۔ چین کے بارے میں اس کی پالیسی امریکی پالیسی کے خلاف ہے۔ کوریا کے تعلق سے وہ امریکی حکمت عملی کے خلاف جا چکا ہے اور کئی امور

میں وہ علانیہ روس کی طرف مائل ہے۔

اب آیئے مسلم ممالک کے تعلق سے ہم اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ڈالیں۔ ہم نے اسلامی ممالک کو اپنانے کی کوشش کی۔ مگر ہمارا پڑوسی اسلامی ملک افغانستان ہم سے خفا ہے اور یہاں بھی بھارت ہی کی پالیسی کامیاب رہی۔ ہم نے اسلامی بلاک کی تشکیل اور مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کو اپنا ہمنوا بنانے کے لئے بین الاقوامی اسلامی اقتصادی کانفرنس منعقد کی۔ جس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں دکھائی دیتے۔ اس کے بعد موتمر عالم اسلامی کا انعقاد ہوا۔ لیکن یہ موتمر بھی صرف قرار دادیں منظور کرنے تک ہی محدود رہی۔ پھر اجتماع علمائے اسلام کا اجلاس ہوا۔ جس کا حشر بھی ممکن ہے گذشتہ کانفرنسوں کا سا ہو اور اب مسلم ممالک کی مشاورتی کونسل کی تشکیل کے سلسلے میں ایران، افغانستان، مصر، سعودی عرب، مشرقی اردن، یمن، لبنان، شام، عراق، ترکی وغیرہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان میں سے ترکی، ایران اور افغانستان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کے متعلق عبدالرحمن عزام پاشا سیکرٹری جنرل عرب لیگ نے کوئی اچھے تاثرات ظاہر نہیں کئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے اسلامی ممالک اپنے نمائندے بھیجیں اور پھر اس مشاورتی کونسل کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عرب لیگ کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ شاید مصر اسے شبہ کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا حشر بھی پچھلی کانفرنسوں کا سا نہ ہو۔ یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے سارے عرب ممالک اینگلو امریکی بلاک کے استعمار سے بیزار ہیں اور اس کے چنگل سے نکلنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی حال تیونس، مراکش اور الجیریا کا ہے۔ یہ تمام ممالک آزادی چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کی امداد کے بھی متمنی ہیں۔

لیکن انہیں اس کا احساس ہے کہ پاکستان ابھی تک اینگلو امریکی بلاک کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہے۔ اس لئے کھل کر میدان میں نہیں آ سکتا۔ اس کی ہمدردیاں یا تو زبانی رہیں گی یا قرار دادوں تک۔ عملی طور پر پاکستان کچھ نہیں کرتا اور اگر کچھ کرتا ہے تو انہیں اس کا شبہ ہے کہ اینگلو امریکی بلاک کا طرفدار ہونے کی وجہ سے اس کا ہر بیان اور ہر منصوبہ بہت ممکن ہے امریکہ و برطانیہ کے اشارے پر ہو اور اس طرح کہیں وہ امریکی سامراج کے بچھائے ہوئے دام ہمرنگ زمین میں گرفتار نہ ہو جائیں۔

مصر ہماری ہمدردی کا شکریہ تو ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ شکریہ رسمی معلوم ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کی طرح مصر بھی بھارت ہی کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے۔ ابھی چند ہفتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے اتحاد کی بابت ایک بیان قاہرہ میں دیا تھا۔ جس پر اسلامی ممالک میں بڑی لے دے ہوئی۔ ان حالات میں مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کی حد تک ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ جب تک ہم اسلامی ممالک کے اتحاد کے لئے محض مذہب کو وسیلہ بناتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی کے ساتھ ساتھ اقتصادی اساس پر بھی اتحاد ہو۔ ان ممالک کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ عوام کو ساتھ لیا جائے۔ اینگلو امریکی بلاک کے حلقہ اثر سے آزاد ہو کر ان ممالک کی قیادت کی جائے۔ ہمارے لئے سب سے اہم مسئلہ کشمیر کا ہے۔ کشمیر کے سلسلہ میں ہم نے برطانیہ امریکہ اور ان کی مصلحتوں کا دوسرا نام U.N.O پر بھروسہ کر کے دیکھ لیا ایک دو نہیں پورے پانچ سال سے ہم ان کی روش کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور U.N.O نے اپنی روش سے اس امر کا پورا پورا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور ان حالات میں مسیو جیکب ملک کا یہ الزام ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ و برطانیہ اپنے خصوصی سامراجی مقاصد کے لئے کشمیر کے بارے میں ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا محض امریکہ و برطانیہ کی دوستی کی خاطر ہم کشمیر قربان کر دیں گے؟

دفتر خارجہ کی طرف سے کشمیر کے بارے میں ہمیشہ یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دنیا کی رائے عامہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جو رائے عامہ ہمیں کشمیر دلا نہ سکے۔ اسے لے کر ہم کیا کریں؟

کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ہر دو بلاکوں سے اپنے تعلقات مساوی طور پر قائم کریں؟ اس کے لئے ابتدائی اقدام کے طور پر ضرورت اس امر کی ہے کہ روس سے تجارتی تعلقات قائم کئے جائیں۔ ہمارے ثقافتی وفد روس جائیں۔ تو ہم روس کے ثقافتی وفد کو مدعو کریں۔ اس کے بعد بین الاقوامی امور میں ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے پالیسی کا جھکاؤ محض امریکہ اور برطانیہ ہی کی طرف نہ ہو۔" (روزنامہ احسان لاہور مورخہ ۳ مارچ ۱۹۵۲ء)

ہماری خارجہ پالیسی

"کل ہم نے اپنی موجودہ خارجہ پالیسی کے مضمرات اور نتائج پر بحث کرتے ہوئے یہاں یہ واضح کی تھی کہ ہمیں ایک تو اینگلو امریکی بلاک کے حلقۂ اثر سے آزاد ہونا چاہئے اور دوسرے یہ کہ تدریجی طور پر دوسرے بلاک سے بھی تعلقات قائم کرنے چاہئیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اینگلو امریکی بلاک کے چنگل سے نکل کر روسی بلاک کے چنگل میں جا پھنسیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم بالکل اس طرح آزاد ہو جائیں کہ ان دو بلاکوں کے تعلق سے اپنی غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے بھی ان سے دوستانہ مراسم قائم رکھیں۔

آج اگر ہم دنیا کی صورت حال کا بین الاقوامی حالات کی روشنی میں مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جہاں تک مشرق بالخصوص مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کا تعلق ہے۔ اس وقت امریکہ اور روس دونوں اس سے دوستی کے خواہشمند ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایشیاء اور مشرق وسطیٰ کو اپنے حلقہ اثر میں لے آئے۔ امریکہ اور روس ہر دو کی یہ خواہش ہے کہ اس خطہ ارض کے ممالک سے تجارتی و ثقافتی تعلقات قائم کریں۔ بلکہ امریکہ تو اس معاملہ میں ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ مارشل امداد، چہار نقطی پروگرام اور اسی طرح پسماندہ ممالک کی معاشی امداد کے بہانے ان ممالک میں اپنے قدم جما رہا ہے اور جو لوگ امریکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جب کبھی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی امداد کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس کا اخلاقی دباؤ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے پاس ڈالروں کا خزانہ تو ہے نہیں، کہ وہ یونہی لٹاتا پھرے۔ نہ اس کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے ڈالر کو نچھاور کرے۔ نہ اتنا بے وقوف ہے کہ کسی مقصد کے بغیر یہ دولت خرچ کرے۔ ترکیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترکیہ حلق تک ڈالر نگل چکا ہے اور اب ترکیہ کے تمام ہوائی اڈے وغیرہ امریکہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اسی طرح مختلف نوع کے علاقائی معاہدوں کی تجاویز کا مقصد بھی یہی ہے کہ روس کے خلاف ان ممالک کو اپنے تحت لایا جائے۔ اس نوع کی امداد در اصل ایک تمہید ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک اس شکنجہ میں اینگلو امریکی بلاک کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا اور بڑے سستے داموں اس احساس کے بعد کہ پاکستان تو بہرحال ہمارا بندہ بے دام ہے۔ امریکہ نے ہمارے پڑوسی مملکت کے ساتھ دوستی کی پینگیں

بڑھا گیں اور ایک ہوشیار و مکار حسینہ کی طرح بھارت نے جو بیک وقت دو رقیبوں کی دلداری کر رہا تھا، اپنے سودے باز عاشق سے بڑے اونچے داموں سودا طے کیا اور امریکہ نے اس احساس کے ساتھ یہ سودا طے کیا کہ بھارت کی دوستی جنوبی مشرقی ایشیاء کے استحکام کے لئے از حد ضروری ہے۔

ان حالات میں ہمارا قطعاً یہ مشورہ نہیں ہے کہ ہم بھی بھارت کی تقلید کریں۔ ہماری قیمت و وقعت اس وقت تک ہی ہے جب تک ہم دونوں بلاکوں کے اثر سے آزاد ہیں۔ جب تک ہم بین الاقوامی سیاست میں ایک آزاد و غیر جانبدار طاقت کی حیثیت سے نہ ابھریں گے۔ ہمیں امریکہ پتلی کا ناچ نچاتا رہے گا اور روس ہم پر امریکہ کے غاشیہ برداری کی پھبتی کستا رہے گا۔ اس لئے اول تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یک بارگی اینگلو امریکی بلاک کے دفاعی معاہدوں کو توڑ کر اور ان سے قطع تعلق کر کے الگ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم یا ہمارے ایسے ساتھ جو کسی بلاک سے تعلق رکھے بغیر آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کیا کریں؟

U.N.O کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جہاں اب تک تو دو پاور بلاکوں میں رسہ کشی جاری رہتی تھی۔ لیکن وہاں چھوٹی قوموں کا ایک اور بلاک ابھرا ہے۔ جو عرب ایشیاء اور افریقہ کی چھوٹی اقوام پر مشتمل ہے۔ حالات نے ان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ان کی تاریخ ایک سی رہی ہے۔ یہ تمام ممالک یا تو کسی نہ کسی مغربی طاقت کے زیر اثر ہیں یا رہے ہیں۔

یہ سب کے سب محکوم یا نیم آزاد ہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے ہمدردی ہونا قدرتی تھا۔ بالخصوص اس لئے بھی کہ یہ سب پسماندہ ہیں اور انہیں اس کا احساس ہے کہ کل اگر روس اور امریکہ میں خوفناک تصادم ہو جائے تو یہ ان دو چکی کے پاٹوں کے درمیان بری طرح پس جائیں گے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ممالک انہیں للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں اپنے پنجے میں پکڑ کر رکھے۔ اور ان کا آخری قطرۂ خون تک پی جائے۔ امریکہ ہو یا برطانیہ، فرانس ہو یا روس یہ جمہوریت کے لاکھ دعوے کریں۔ آزادی، مساوات اور اخوت کے نعرے لگائیں۔ لیکن ان سفید فام بھائیوں کے دماغ میں سودا سمایا ہوا ہے کہ انہیں سیاہ فام اقوام پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس مقصد کے لئے امریکہ برطانیہ اور فرانس ان ممالک کے کٹھ پتلی حکمرانوں کو بساط سیاست کا مہرہ بنا کر عوام کے خلاف انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ مصر میں یہی ہوا۔ ایران میں اس کی ناکام کوشش کی گئی اور تیونس میں بھی ہو رہا ہے۔ مگر ان ممالک میں اپنے

حکمرانوں کے برخلاف آزادی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مصر میں انگریزوں سے نفرت مصریوں کا دوسرا مذہب ہے۔ تیونس و مراکش میں مجاہدین اپنے خون سے نئی تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ فرانس، برطانیہ، ہالینڈ کو اس کا احساس ہے کہ ان ممالک کے عوام کی مرضی کے بغیر ان پر آسانی سے نہ حکومت کی جا سکتی ہے۔ نہ کوئی دفاعی منصوبہ ان کے سر زبردستی تھوپا جا سکتا ہے۔

مشترکہ خطرے نے ان سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے اور سب کو اس کا احساس ہو چلا ہے کہ اگر ان میں اتحاد ہو تو وہ دونوں بلاکوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن اگر یہ بکھرے رہے تو پھر انہیں ہر طاقت بڑی آسانی سے کچل دے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت کوئی قیادت کے فرائض انجام دے۔ بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹے، تسبیح کے ان بکھرے دانوں کو رشتۂ اخوت میں پرو دے۔ باہمی مالی، سیاسی و اقتصادی امداد کا باقاعدہ پروگرام بنائے۔ اس طرح اگر یہ تمام ممالک ایک بلاک کی شکل بنا لیں تو یہ بلاک عالمی سیاست میں توازن قوت قائم رکھ سکے گا۔

اس قیادت کے فرائض پاکستان کو انجام دینے چاہئیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اینگلو امریکی بلاک کے اثر سے بالکل آزاد ہو جائیں اور ہمارے ساتھی ہمیں اس شبہ کی نظروں سے نہ دیکھیں کہ ہمارا ہر اقدام دراصل کسی بڑی طاقت کے اشارے پر ہے۔ اسی میں چھوٹی اقوام کی فلاح ہے۔ اسی طرح پاکستان طاقتور رہ سکتا ہے اور اس طرح امن عالم برقرار رکھا جا سکتا ہے۔"

(روزنامہ احسان لاہور مورخہ ۳ اپریل ۱۹۵۲ء)

"خارجہ پالیسی کے مسئلہ پر ہم ایک سے زائد بار توجہ دلا چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معین خارجہ پالیسی ترتیب ہی نہیں دی گئی۔ حالانکہ جب کوئی پالیسی ناکام ہوتی ہے تو فوراً اس پر نظرثانی کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسلسل ناکامی کے باوجود اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے اور طرفہ یہ کہ جب اس پر نکتہ چینی کی جائے تو اس کے جواز میں نئے نئے استدلال پیش کئے جاتے ہیں۔ قومی پالیسی کی تشکیل کے لئے دستور کی موجودگی ضروری ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ ابھی تک ہم قومی قرارداد بنا نہیں پائے۔ آئین و دستور تو ابھی دور کی بات ہے۔"

(روزنامہ احسان لاہور مورخہ ۳ اپریل ۱۹۵۲ء)

چوہدری ظفر اللہ خاں کی سرگرمیاں

"پیرس میں ان دنوں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ جس میں ہمارے وزیر خارجہ

چوہدری ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھے۔ چند ہی روز ہوئے کہ نہر سویز کے سوال پر موصوف نے ایک ایسا بیان دیا جسے سن کر پاکستان کی رائے عامہ بھونچکا رہ گئی۔ تمام لوگوں نے اس بیان کو عوام پاکستان کے موقف کی غلط ترجمانی سے تعبیر کیا۔ ظفر اللہ خان صاحب کا خیال ہے کہ نہر سویز کے معاملے میں مصر بھی اسی طرح قصوروار ہے جس طرح برطانیہ۔ حالانکہ پاکستان کے عوام صرف برطانیہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ اس نے زبردستی مصر کے سر پر گورا فوج مسلط کر رکھی ہے۔ اگر یہ بیرونی فوج وہاں سے ہٹ جائے اور سوڈان کو برطانیہ خالی کر دے تو یہ تنازعہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ظفر اللہ خان صاحب نے اپنے بیان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس میں سویز سے گورا فوج کے انخلاء اور سوڈان میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کی تائید ہوتی ہو۔ حالانکہ ہم خود کشمیر سے بیرونی فوج کے انخلاء اور وہاں غیر جانبدارانہ رائے شماری کرانے کا مطالبہ پیش کرتے رہے ہیں۔

اب خود کشمیر کی بابت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے ایک ایسا عجیب بیان دیا ہے۔ جس سے پاکستان کی رائے عامہ چونک اٹھی ہے اور ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ آخر ظفر اللہ خان صاحب کا منصب کیا ہے۔ پیرس کے اخبار کمیونسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایسوسی ایٹڈ پریس نے ظفر اللہ خان صاحب سے ذیل کے بیانات منسوب کئے ہیں۔ ڈاکٹر گراہم کی کوششوں کے بارے میں رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ ہندوستان کو چاہئے کہ کشمیر کی افسوسناک صورتحال کو ختم کرنے کے لئے ڈاکٹر گراہم کی تجویز منظور کر لے۔

واضح رہے کہ جب خان لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے فوراً ہی بعد ڈاکٹر گراہم کی رپورٹ منظر عام پر آئی تو پاکستان کے تمام اخبارات نے جن میں مرکزی حکومت کا نیم سرکاری ترجمان ڈان بھی شامل تھا۔ اس رپورٹ کو زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر گراہم کی رپورٹ حد درجہ غیر اطمینان بخش ہے۔ دوسری طرف اتحادی انجمن میں ہندوستان کے مستقل مندوب مسٹر بی۔ این۔ راؤ نے اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر گراہم کی رپورٹ منصفانہ ہے۔ ہندوستانی اخبارات نے بھی اس رپورٹ کی تعریف کی تھی۔ اب ظفر اللہ خان صاحب ہندوستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر گراہم کی تجویز کو منظور کر کے قضیہ کشمیر کو ختم کر دے۔ گویا موصوف کو ڈاکٹر گراہم کے

کارناموں سے اتفاق ہے۔ ہم حیران ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے اور سر ظفر اللہ خان کا مقصد کیا ہے؟

موصوف نے سویز اور سوڈان کی بابت عوام پاکستان کے موقف پر ضرب کاری رسید کی ہے اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اب تک مصر کے اس مطالبے کی تائید نہیں کی کہ سویز اور سوڈان سے گورا فوج ہٹ جائے اور سوڈان میں غیر جانبدارانہ رائے شماری ہو۔ حالانکہ عوامی رائے عامہ کے سامنے کشمیر کی بابت اس ملک کے موقف کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لئے مصر کے مذکورہ بالا موقف کی تائید بہت ضروری تھی۔ کیونکہ کشمیر اور سویز و سوڈان دونوں جگہ مطالبے کی نوعیت سو فیصدی ایک ہے۔ اب موصوف کشمیر کے مسئلے پر ڈاکٹر گراہم کی مساعی جمیلہ کی تعریف کر چکے ہیں۔ جسے ہندوستانی نمائندے بی۔ این۔ راؤ کو بھی اتفاق ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آخر سر ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کی خارجہ حکمت عملی کو کدھر لئے جا رہے ہیں۔ خان لیاقت علی خان کی شہادت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اہم بین الاقوامی معاملات پر ہمارے موقف اور ہماری حکمت عملی میں یہ خطرناک جھول کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں ایک ایسے سوال پر بحث کرنے سے اراکین کو کیوں روک دیا جاتا ہے۔ جس سے برطانیہ کے مفادات وابستہ ہوں؟

ایک اور اطلاع ہے جس کا تعلق مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال سے ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ کی پراسرار مشتبہ مشکوک قسم کی سرگرمیوں پر خاص روشنی پڑتی ہے۔ مصر مشرق وسطیٰ کے اینگلو امریکی دفاع کی تجویز کو اس بناء پر ٹھکرا چکا ہے کہ اس تجویز کے مطابق مصر کو اپنے علاقے میں ایک چھوڑ کئی ممالک کی افواج کے قیام و طعام کا بندوبست کرنا پڑتا۔ لیکن برطانیہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے خصوصی پٹھو وزیر اعظم عراق نوری السعید پاشا کے توسط سے اسی قسم کی ایک اور تجویز مصر کے سر پر دے ماری ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ مصر اسے ٹھکرا چکا ہے۔ لیکن سر ظفر اللہ خان نے اپنے تازہ بیان میں اس تجویز کی حمایت فرمائی ہے اور نوری السعید پاشا اور ظفر اللہ خان صاحب کے درمیان دو بار ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت مصر اور ایران میں پٹ چکنے کے بعد انگریز مشرق وسطیٰ کی بساط سیاست پر نوری السعید پاشا کو بطور مہرہ استعمال کر رہا ہے۔ نوری السعید پاشا اور چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے درمیان جس قدر گاڑھی چھن رہی ہے۔ اس سے لازماً شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تو مصر اور مسلمانان مشرق وسطیٰ کی

جدوجہد آزادی کے خلاف بطور مہرہ استعمال نہیں ہو رہے۔ کیا دنیا کے مسلم ممالک اور مسلم عوام کی رہنمائی کے فرائض اسی طرح برطانوی نگر خارجہ کے ذریعہ انجام دیئے جائیں گے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمانان پاکستان کے اس مطالبے کو کہ ہم کامن ویلتھ چھوڑ دیں۔ اسی طرح جواب دیا جائے گا کہ ہم اپنی خارجہ حکمت عملی کو برطانوی خواہشات و مفادات کا اور بھی پابند بنالیں؟ برطانوی خارجہ حکمت عملی جس کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آج کشمیر کے چالیس لاکھ عوام ہندوستان میں شامل ہیں۔ اس خارجہ حکمت عملی کی اطاعت وقربا چوہدری سر ظفر اللہ خان صاحب کس حساب سے ضروری قرار دے رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اسے ایک لمحے کے لئے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔“ (روزنامہ امروز لاہور مورخہ ۲۹ نومبر ۱۹۵۱ء)

یورپ کے بے گھر مسلمان اور سر ظفر اللہ قادیانی

”پچھلے دنوں آنریبل سر ظفر اللہ وزیر امور خارجہ حکومت پاکستان نے پارلیمنٹ میں مسٹر نور احمد کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے مہاجرین کے عظیم مسئلہ کے باوجود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یورپ کے ایسے بے گھر مسلمانوں کو پاکستان میں آباد کرنے کے متعلق غور وخوض کرے گی۔ جو اس ملک کے لئے مفید ثابت ہوں گے۔ چنانچہ مہاجرین کے بین الاقوامی ادارہ کے ڈائریکٹر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایسے بے گھر مسلمانوں کی فہرست دیں۔

ہم وزیر خارجہ سر ظفر اللہ سے آج یہ دریافت کرنے کی جرأت کرتے ہیں کہ جنہیں یورپ کے بے گھر مسلمان کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ یا آپ کی جماعت قادیانیہ جس جماعت کے پادری یورپ میں ۳۰ سال سے متواتر مرزائی مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ان پادریوں کے اغوا کئے ہوئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا واقعی مذہب اسلام ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپؐ کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ آئے گا؟ اگر ان کا عقیدہ مسلمانوں جیسا ہے تو بے شک انہیں آباد کیا جائے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر یورپ کے ان لوگوں کا جماعت قادیانی یعنی احمدی جماعت سے تعلق ہے کہ جس جماعت کو عالم اسلام کے مفتیان کرام کافر قرار دے چکے ہیں تو وہ

لوگ اس قابل نہیں کہ انہیں پاک خطہ میں آباد کیا جائے۔ کیونکہ ان کی آبادکاری جماعت مرزائیہ اور سر ظفر اللہ کو تو مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر پاکستان اور پاکستان کے کروڑ مسلمانوں کو ان کی آبادکاری سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہم حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں۔ مہاجرین بین الاقوامی ادارہ کے ڈائریکٹر سے لسٹ منگوانے سے پیشتر اس چیز پر غور کیا جائے اور پوری پوری تحقیقات کی جائے۔ آیا یورپ کے یہ بے گھر جنہیں مسلمان کہا جا رہا ہے۔ واقعی مسلمان ہیں یا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے وزیراعظم الحاج خواجہ ناظم الدین مدظلہ اس طرف پوری توجہ فرمائیں گے۔

کیونکہ مملکت پاکستان اسلام ہی کے نام سے حاصل کی گئی ہے۔ اس لئے اس مملکت اسلامیہ میں سب سے پہلے حق ان مہاجرین کی آبادکاری کا ہے جو کہ مسلمان ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کی خاطر گھر بار لٹایا اور عزیز و اقارب کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ جو آج بے سروسامانی کی حالت میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔

ہم اس سوال کو بھی نہ اٹھاتے۔ مگر چونکہ سر ظفر اللہ کا جس جماعت سے تعلق ہے۔ اسلام کی دشمن اور مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہے۔ یہ جماعت جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ممالک اسلامیہ کے علاوہ تمام یورپ میں شاخیں قائم ہیں اور وہاں ان کے پادری موجود ہیں۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور اس کے لڑکے مرزا بشیر کو پاکستان کا امیر المومنین بتلا کر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے اپنی جماعت میں شامل کیا گیا ہے؟

ممکن ہے کہ یہ یورپ کے بے گھر لوگ جنہیں میاں سر ظفر اللہ مسلمان کہہ کر پاکستان میں آباد کرنا چاہتے ہیں۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ آخر میں ہم دوبارہ اپنے پر اعتماد وزیراعظم خواجہ ناظم الدین سے پر زور اپیل کرتے ہیں کہ وہ سر ظفر اللہ اور ان کی جماعت کی اس کھلی دھوکے بازی پر توجہ مبذول فرما کر مرزا بشیر الدین محمود کو اس باطل مذہب کے استعمال سے دغا قاور کافرنا باز رکھنے کے لئے کوئی ٹھوس قدم اٹھا کر خدمت اسلام سرانجام دیں۔“

[ہفت روزہ حکومت کراچی مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۲ ق)

کافر حکومت کا مسلمان ملازم

”تمام دنیا کی مسلمان قوموں کی ایک کانفرنس عنقریب کراچی میں منعقد ہونے والی

ہے۔ مصر کی تمام جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس خیر مقدم میں ہمارے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کے متعلق چند الفاظ زیر غور ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ بادی النظر میں تو بے ضرر سے ہیں لیکن اس کے نتائج بہت اہم اور دور رس ہو سکتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: "چوہدری ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ جو ایک ہوشیار سیاستدان ہیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اسلامی اجتماع کو ایک حقیقت بنانے کے لئے ہمیں انتہائی کوشش کرنی چاہئے۔"

کیا اس قسم کے بیانات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عالم اسلام چوہدری صاحب کو ایک صحیح مسلمان سمجھتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم ﷺ کو آخری نبی نہ مانتے ہوئے ان کے صحیح مسلمان ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کیا غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کا اہم ترین شعبہ ان کے سپرد کیا ہے۔ کیا ہماری اس سہل انگاری اور غفلت سے چوہدری صاحب اور ان کے حواریوں کو عالم اسلام میں اور خصوصاً چوٹی کے لوگوں میں قادیانیت کا پروپیگنڈا کرنے کا زریں موقع مل گیا ہے۔ کیا ہم اس طرح پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی قادیانیت کا زہر پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم حکومت کی اس پالیسی اور حکمت عملی سے یہ نتیجہ نکالیں کہ حکومت چوہدری صاحب اور قادیانیوں کو اچھا مسلمان سمجھتی ہے۔ حالانکہ چوہدری صاحب خود ایک مرتبہ فرما چکے کہ وہ ایک کافر حکومت کے مسلمان ملازم ہیں۔

چوہدری ظفر اللہ کافر حکومت کے مسلمان وزیر ہیں یا مسلمان حکومت کے کافر وزیر۔ لیکن ان کی حق گوئی قوت ایمانی اور راسخ العقیدگی ہمارے وزراء اور عوام کے لئے قابل نمونہ ہے۔" تسنیم! (ہفت روزہ حکومت کراچی مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۵۲ء)

ہماری خارجہ پالیسی

"جس طرح ہمارے غیر ملکی سفارتخانے ہمارے ملک کے حق میں آج تک کوئی مفید خدمات انجام نہیں دے سکے ہیں۔ اسی طرح ہماری وزارت خارجہ بھی اپنی پالیسی میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے اور اس کی سزا ہمیں کشمیر کی صورت میں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کے کمزور پہلوؤں سے آج ایک دنیا واقف ہو چکی ہے اور اس طرح ہمارا وہ وقار بھی مجروح ہو چکا ہے جو کہ آزاد قوم کا متاع حیات ہے۔

خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ ہی سے عالمی سیاست میں پاکستان کو ایک ایسا مہرہ تصور کر لیا گیا ہے۔ جس کا نہ تو کوئی بنیادی نصب العین ہے اور نہ اپنی کوئی مضبوط روش۔ ہماری کمزور خارجہ پالیسی کے دور رس اثرات ملک کو اجتماعی حیثیت سے جو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری تاریخ کا عنوان کہیں ہماری کمزور خارجہ پالیسی سے شروع نہ ہو۔" (پندرہ روزہ عزم بطلعوا الجوبہ مورخہ

۲۵ مارچ ۱۹۵۲ء)

وزیر خارجہ کا ربوہ کا طواف

"ہمارے وزیر خارجہ چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب خیر سے آج کل ربوہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کے بھائی بندوں میں آپ کے لئے بے حد عقیدت اور احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار خصوصی کا بیان ہے کہ چوہدری صاحب کی اس پراسرار آمد پر عقیدت کے شوالے سے لے کر لائل پور کی جامع مسجد کے میناروں تک چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں۔

جب چوہدری صاحب ربوہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے چند احباب نے چوہدری صاحب سے سیاسی چھیڑ خانی کرنا چاہی۔ مگر آپ چپ سادھے رہے اور سلامتی کونسل یا مسئلہ کشمیر کے متعلق کچھ کہنے سے احتراز کرتے رہے۔ یہ تو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے چشم بددور اپنی دھواں دھار تقریروں سے بھارت کو ساری دنیا میں ننگا کر دیا ہے۔ مگر بھارت کا مہادیو اب بھی اپنی جٹاؤں کو سہلاتا ہوا بھیانک قہقہے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تمہارا جمنا گڑھ، یہ رہا تمہارا مانگرول، یہ رہا تمہارا حیدرآباد اور ادھر دیکھو میری مٹھی میں تمہارا کشمیر اور بھارت کی بھیروں دیوی کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے کشمیر کا پانی گنگا جل کا پورا دودھ سمجھ کر غٹا غٹ چڑھا رہی ہوں اور بھارت کا سیہ رو دیوتا دہلی کے جنگل کی ٹھونٹھ پر بیٹھا ہوا تمہیں ٹھینگا دکھا رہا ہے کہ جاؤ جاؤ شہد کی کر سلامتی کونسل کی تجاویز کو، گراہم رپورٹ کو سنبھالو، اپنی وزارت خارجہ کے طاق پر رکھا را آتو تقریروں کے چٹخارے، اب تو دو تہائی کشمیر پر میرا اور میرے باپ کا حق ہے۔

دراصل یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی تجویزوں کے پٹاخے چھوڑنے کے علاوہ آج تک سلامتی کونسل نے کیا ہی کیا ہے؟ اور کرے گی کیا؟ بہت زوروں پر آئے گی تو ایک کمیشن کی ناکامی پر دوسرا کمیشن بھیج دے گی۔ ڈاکٹر گراہم کے بعد کسی ڈاکٹر پٹاہم کو بھیج دے گی یا کوئی نمائندہ کشمیر